

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم)

اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ چیز پر مبنی

# شَمَائِيلٌ تَرْمِذِيٌّ

تألیف

امام المحدثین الحافظ الحجۃ محمد بن عیسیٰ بن سورة الترمذی رَحْمَةُ اللہِ

۲۷۹ - ۲۰۰ھ

مع اردو ترجمہ و شرح

# خَصَائِئِ نَبُوِيٍّ

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نہجا بصری نقشبندی

۱۴۰۲ - ۱۳۱۵ھ



شعبہ دشمنو اشاعت

مہروہی مغلی بہری شیل شریعت (ریڈیو ایکسپریس) پاکستان

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلما)

اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیانہ پر ہیں۔

# شَهَادَاتُ تَرْمِدِيٍّ

تألیف

إمام الحدیث الحافظ الحجۃ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ

۲۷۹-۲۰۰ھ

مع اردو ترجمہ و شرح

# حَصَائِلُ نِبْوَیٍ

از

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب جیرمن

۱۴۰۲-۱۳۱۵ھ

تصحیح شدہ، جدید رنگین طباعت



الطبعة الأولى: ١٤٣٠ - ٢٠٠٩ م

٥٦ عدد الصفحات:

السعر: -٢٦٥ روبيه



للطباعة والنشر والتوزيع

**AL-BUSHRA Publishers**  
Choudhri Mohammad Ali Charitable  
Trust (Regd.)

# Z-3 Overseas Bungalows Gulistan-e-Jouhar Karachi - Pakistan

هاتف +92-21-7740738

+92-21-4023113 فاکس

[www.ibnabbasaisha.edu.pk](http://www.ibnabbasaisha.edu.pk)

البريد الإلكتروني: al-bushra@cyber.net.pk

يطلب من

+92-321-2196170، کراتشی مکتبہ البشیری

+92-321-4399313 مکتبہ الحرمین، اردو یا زاد لاہور

المصباح، 16 اردو بازار لاہور 042-7124656 - 7223210  
بک لینڈ، سوی پلازا، کالج روڈ، اوالنڈی 051-5773341 - 5557926

د. الاخلاص، نزد قصه خواون یازاد بشوار ۰۹۱-۲۵۶۷۵۳۹

ويطلب من جميع المكتبات المشهورة

بسم الله الرحمن الرحيم

## عرض ناشر

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

”خصال نبوی“ شامل ترمنی کی شرح ہے جو حضرت شیخ الحدیث قطب العالم مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدینی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ایک بزرگ کی فرمائش پر تحریر فرمائی۔ جب حضرت شیخ کی عمر مبارک ۲۹ برس تھی۔ اس شرح میں جن باتوں کا اہتمام کیا گیا ہے ان کی تفصیل حضرت نے تمہید کے زیر عنوان درج فرمائی ہے۔

آنحضرت سید المرسلین، وختام النبیین وامام المتّقین، ومحبوب رب العالمین ﷺ کی ذات قدسی صفات محبوبیت کبریٰ کی حامل ہے، روئے زمین پر آپ ﷺ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں ہوا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بڑھ کر کوئی عاشق جاندار چشم فلک نے نہیں دیکھا، آپ ﷺ کے اخلاق و عادات اور خصال و شماں، حسن و محبوبیت کا پیکر ہیں اور آپ ﷺ کی ہر ایک ادا سے شانِ محبوبیت جلوہ گر ہے۔

حضرت نور اللہ مرقدہ کی یہ کتاب ”درس محبت“ ہے جس میں محبوب رب العالمین ﷺ کی شانِ محبوبیت کو اس طرح نمایاں کیا گیا ہے کہ قارئین کے قلب سے بے ساختہ محبت جھلنکنے لگتی ہے۔ بقول حضرت عارف نور اللہ مرقدہ:

یہاں تک بڑھ گئی وار قُلی شوقِ نظارہ جہات نظر سے پھوٹ نکلا حسن جانتاں

بہادر حسن کو یوں جذب کر لوں دیدہ و دل میں محبت پر مرا ذوقِ نظر معیار ہو جائے

اس کتاب میں آنحضرت ﷺ کی شانِ محبوبیت کا مشاہدہ قارئین کرام ہر جگہ ملاحظہ کریں گے۔ اس لئے حضرت نور اللہ مرقدہ اپنے احباب کو اس کتاب کے مطالعہ کی بار بار تاکید فرماتے رہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ عام مسلمان بھی اسے اپنے مطالعہ میں رکھے تاکہ آنحضرت ﷺ کی محبت اس کے دل میں جاگزیں ہو۔

”خصال نبوی“ ہندو پاک کے بہت سے مطابع سے شائع ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے بہت سے ناشرین نے کتاب کے عربی حواشی کو جو نہایت بیش قیمت علمی فوائد پر مشتمل تھے، حذف کر دیا جو کہ اہل علم کا بڑا نقصان تھا۔ مکتبۃ البشیری نے اس کتاب کو از سر نود رنگوں میں کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ، مراجعت و تحقیق کے بعد شائع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اس نئی طباعت میں جن امور کا لحاظ کیا گیا وہ حسب ذیل ہیں:

☆  
عربی و اردو عنوانات کو سرخ رکھا گیا ہے۔

☆  
متن و حاشیہ میں احادیث کے ارقام کو جو کہ ایک باب کے ذیل میں ہیں اور لفظ حد ثنا، عن وغیرہ کو بھی سرخ کیا گیا ہے۔

☆  
کتاب کے ہیڈر میں عنوان اور ذیلی عنوان کا اضافہ کیا گیا ہے۔

☆  
بقدر ضرورت وضاحت کے لئے شرح المواہب اللدنیہ للشیخ ابراہیم الباجوری سے انتخاب کیا گیا ہے جس کے لئے [ ] کی علامت اختیار کی گئی ہے۔

(ادارة البشری)

## فہرست مضمایں خصائص نبوی اردو

### شرح شمائل ترمذی مع عربی حواشی

|   |  |
|---|--|
| حضور اقدس ﷺ کی توارکا بیان ..... ۱۱۵                    | تمہید ..... ۷  |
| حضور اقدس ﷺ کی زرہ کا بیان ..... ۱۱۸                    | حضور اقدس کے حلیہ مبارک کا بیان ..... ۹                |
| حضور اقدس ﷺ کی خود کا ذکر ..... ۱۲۱                     | حضور اقدس ﷺ مہر نبوت کا بیان ..... ۳۰                  |
| حضور اقدس ﷺ کے عمامہ کا ذکر ..... ۱۲۳                   | حضور اکرم ﷺ کے سر مبارک کے<br>بالوں کا بیان ..... ۲۳   |
| حضور اقدس ﷺ کی لگنی کا ذکر ..... ۱۲۹                    | حضور اقدس ﷺ کا بالوں میں<br>لکھا کرنے کا بیان ..... ۳۸ |
| حضور اقدس ﷺ کی رفتار کا ذکر ..... ۱۳۲                   | حضور اقدس ﷺ کے سفید بال آ جانے کا ذکر ..... ۵۱         |
| حضور اقدس ﷺ کے قیاع کا ذکر ..... ۱۳۶                    | حضور اقدس ﷺ کے خباب فرمانے کا ذکر ..... ۵۷             |
| حضور اقدس ﷺ کی نشت کا ذکر ..... ۱۳۸                     | حضور اقدس ﷺ کے سُرمه کا بیان ..... ۶۱                  |
| حضور اقدس ﷺ کے تکیہ کا ذکر ..... ۱۴۲                    | حضور اقدس ﷺ کے لباس کا ذکر ..... ۶۳                    |
| حضور اقدس ﷺ کا کسی چیز پر<br>ٹیک لگانا ..... ۱۴۸        | حضور اقدس ﷺ کے گزارہ کے پیان میں ..... ۷۷              |
| حضور اقدس ﷺ کے کھانا تناول فرمانے<br>کا طریقہ ..... ۱۵۳ | حضور اقدس ﷺ کے موزہ کے بیان میں ..... ۸۱               |
| حضور اقدس ﷺ کی روٹی کا ذکر ..... ۱۵۷                    | حضور اقدس ﷺ کے<br>نعلین (جوتا) شریف کا ذکر ..... ۸۳    |
| حضور اقدس ﷺ کے سالن کا ذکر ..... ۱۶۳                    | حضور اقدس ﷺ کی انگوٹھی کا ذکر ..... ۹۱                 |
| حضور اقدس ﷺ کے کھانے کے<br>وقت وضو کا ذکر ..... ۱۹۳     | حضور اقدس ﷺ کے انگوٹھی پہننے کی کیفیت ..... ۱۰۶        |

|   |           |
|---|-----------|
| حضرور اقدس ﷺ کے نوافل گھر میں                       | ..... ۳۲۷ |
| پڑھنے کا ذکر .....                                  | ۱۹۶       |
| حضرور اقدس ﷺ کے روزوں کا ذکر .....                  | ۲۰۱       |
| حضرور اقدس ﷺ کی قراءت کا ذکر .....                  | ۲۰۳       |
| حضرور اقدس ﷺ کی گریہ وزاری کا ذکر .....             | ۳۵۶       |
| حضرور اقدس ﷺ کے بسترے کا بیان .....                 | ۳۶۶       |
| حضرور اقدس ﷺ کی کثرت تواضع فرمانے کے بارے میں ..... | ۳۶۹       |
| حضرور اقدس ﷺ کے اخلاق و عادات میں .....             | ۳۹۰       |
| حضرور اقدس ﷺ کی حیا کا ذکر .....                    | ۴۱۶       |
| حضرور اقدس ﷺ کے سینگی پچھنے لگوانے کا ذکر .....     | ۴۱۹       |
| حضرور اقدس ﷺ کے بعض نام اور بعض القاب کا ذکر .....  | ۴۲۶       |
| حضرور اقدس ﷺ کے گذر اوقات کا ذکر .....              | ۴۳۱       |
| حضرور اقدس ﷺ کی عمر شریف کا ذکر .....               | ۴۵۳       |
| حضرور اقدس ﷺ کے وصال کا ذکر .....                   | ۴۵۷       |
| حضرور اقدس ﷺ کی میراث کا ذکر .....                  | ۴۷۹       |
| حضرور اقدس ﷺ کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ ...        | ۴۹۱       |

|   |     |
|---|-----|
| ان کلمات کا ذکر جو حضور اقدس ﷺ کھانے سے قبل اور بعد فرمایا کرتے تھے ..... | ۱۹۶ |
| حضرور اقدس ﷺ کے پیالہ کا ذکر .....  | ۲۰۱ |
| حضرور اقدس ﷺ کے بچلوں کا ذکر .....  | ۲۰۳ |
| حضرور اقدس ﷺ کے پینے کی چیزوں کے احوال .....                              | ۲۰۸ |
| حضرور اقدس ﷺ کے پینے کا طرز .....   | ۲۱۲ |
| حضرور اقدس ﷺ کے خوبیوں کا ذکر .....                                       | ۲۲۰ |
| حضرور اقدس ﷺ کی گفتگو کا ذکر .....  | ۲۲۷ |
| حضرور اقدس ﷺ کے ہنسنے کا ذکر .....  | ۲۳۲ |
| حضرور اقدس ﷺ کے مزاح اور دلگی کے بیان میں .....                           | ۲۳۲ |
| حضرور اقدس ﷺ کے ارشادات در باب اشعار ..                                   | ۲۵۰ |
| حضرور اقدس ﷺ کا رات کو قصہ گوئی فرمانا .....                              | ۲۶۵ |
| حضرور اقدس ﷺ کے سونے کا ذکر .....   | ۲۸۰ |
| حضرور اقدس ﷺ کی عبادت کا ذکر .....  | ۲۸۷ |
| چاشت کی نماز کا ذکر .....   | ۳۱۹ |

## شماں ترمذی

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

حامدًا و مصلیاً و مسلماً۔ بندہ ناقچیز کو اواخر سن ۱۳۲۳ھ میں باقبال حکم حضرت اقدس آقا تی و مولائی حضرت الحاج مولانا خلیل احمد صاحب دو شیخ و بڑو مضجعہ بذل المجدود فی حل ابی داؤد کی طباعت کے لئے متفرق طور پر چند روز شہر دہلی رہنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میرے ایک کرم فرماجناب محترم محمد عثمان خاں صاحب زاد مجدد ہم نے شماں ترمذی کے مختصر سے ترجمہ کا حکم کیا۔ میں اپنی نا اہلیت کا معرف ہرگز بھی اس کا اہل نہیں تھا اور اسی وجہ سے اس سے قبل کسی تحریر یا تقریر کی کبھی نوبت بھی نہیں آئی تھی، لیکن ممدوح نے اپنے حسن نظر کی بنا پر میری کسی مغدرت کو بھی قول نہ کیا۔ میں اپنے عجز و قصور کی وجہ سے ہرگز بھی انتقال نہ کرتا۔ مگر چون کہ موصوف کے میرے والد ماجد صاحب تو راللہ مرقدہ و بڑو مضجعہ سے خصوصی مراسم تھے اور بمقتضائے حدیث

(إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. رواه مسلم)

ترجمہ: ”بہترین صلد رحمی والد کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔“

اس لئے مجھے اس کے بغیر چارہ کار ہی نہ ہوا کہ اپنی حیثیت کے موافق مختصر ساترجمہ لکھ کر پیش کروں اور ناظرین سے اپنے اقرارِ عجز کے بعد عرض کروں کہ ان اور اق کی پریشانی، عبارت اور الفاظ کی غرابت، مضامین کے تشتت سے تاسع فرماتے ہوئے اصل مقصد اور آقاۓ عالم سید البشر نبی اکرم علیہ الف الف صلوات و تحيات کے اخلاق، اوصاف، عادات، معمولات کی طرف توجہ فرمائیں کہ خلائق شخص بد نما بر قعہ کی وجہ سے حسین چہرہ سے بے تو جنی نہیں کرتا اور سمجھدار آدمی بد مزہ چکلے کی وجہ سے لذیذ گوئے کو نہیں پھینکتا۔

اس ترجمہ میں چند امور کا خاص طور سے اہتمام کیا گیا ہے۔

نمبر۱: اکثر مضامین اکابر قدماء کے کلام سے لئے گئے ہیں اور خود رائی وغیرہ سے احتراز کیا گیا۔

نمبر۲: جمع الوسائل ملا علی قاری حنفی کی، مناوی شیخ عبد الرؤوف مصری کی، مواہب لدنیہ شیخ ابراہیم نجوری کی، تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر عسقلانی کی، اس رسالہ کا زیادہ تر ماذد رہی ہیں۔

نمبر ۳: ترجمہ چونکہ عوام کے لئے کیا گیا اس لئے مطلب خیز ترجمہ کیا گیا، لفظی ترجمہ کی پابندی نہیں کی گئی۔

نمبر ۴: ترجمہ سے زائد امور بطور فائدہ کے ذکر کئے گئے اور ان کے شروع میں ”فائده“ کا لفظ بھی لکھ دیا۔

نمبر ۵: اکثر جگہ ترجمہ سے زائد امور جو ربط کے لئے بڑھائے گئے وہ (قوس) میں لکھے گئے۔

نمبر ۶: احادیث کا اگر بظاہر آپس میں تعارض معلوم ہوا تو اس کو مختصر طور سے رفع کیا گیا۔

نمبر ۷: اختلاف مذاہب کا بھی مختصر طور پر کہیں کہیں ذکر کیا گیا، مگر مذہب حفیہ کو اکثر جگہ خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ قرب و جوار کے باشندے اکثر حنفی ہیں۔

نمبر ۸: حفیہ کے قول کی دلیل بھی کہیں کہیں حسب ضرورت مختصر طریقہ سے بیان کی گئی۔

نمبر ۹: جس جگہ حدیث میں کسی غزوہ یا قصہ کی طرف اشارہ تھا فائدہ میں اس قصہ کو مختصر طور سے ذکر کر دیا گیا۔

نمبر ۱۰: جس حدیث کی باب سے مناسبت خنفی تھی اس کو بھی واضح کیا گیا۔

نمبر ۱۱: جو مضامین خاص طلبہ کے لئے مفید تھے اور عوام کو کارآمد نہیں تھے ان کو عربی حاشیہ میں لکھا گیا، بالخصوص سندرِ حدیث کے متعلق اگر راوی کا نام ضبط کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی یا عربی عبارت میں کسی نحوی ترکیب کے ذکر کی ضرورت سمجھی گئی۔

نمبر ۱۲: جو مضامین اختصار کی وجہ سے یہاں ذکر نہیں کئے گئے، اکثر جگہ ان کتب کا حوالہ لکھ دیا جہاں وہ مفصل مل سکتے ہیں تاکہ شاً لقین کو تلاش میں سہولت رہے۔

نمبر ۱۳: ان سب امور میں اختصار کو نہایت مد نظر رکھا گیا کہ پڑھنے والوں کی طبائع طول سے اُتنا نہ جائیں۔  
وما توفیقی إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

زکر یا عفی عنہ کاندھلوی۔ مقیم مدرسہ مظاہر علوم سہارپور۔ وارد حال دہلی ۸ جمادی الاولی سن ۱۴۳۲ھ جمع

بسم الله الرحمن الرحيم

## باب ما جاء في خلق رسول الله ﷺ

فتح فسكون

**الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى:**

أي الثناء الحسن صفة عباده برگریده مثلث النساء

### باب - حضور اقدس ﷺ کے حلیہ مبارک کا بیان

فائدہ: مصنف رسانی نے اس باب میں وہ احادیث ذکر فرمائی ہیں جو حضور اقدس ﷺ کے حلیہ مبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضور اقدس ﷺ کے جمال مبارک کو کماحہ تعبیر کر دینا ممکن ہے، نور جسم کی تصویر کشی قابو سے باہر ہے،

باب: [باب الأحاديث التي جاءت في خلق رسول الله ﷺ، أي ما ورد فيه من الأحاديث. والباب لغة: ما يتوصل منه إلى المقصود، وأصطلاحاً: الألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعانى المخصوصة؛ لأنها توصل إلى المقصود].

خلق: [الصورة والشكل، المراد هنا صورة الإنسان الظاهرة] بفتح فسكون، يستعمل في الإيجاد والمخلوق، والمراد هنا صورة الإنسان الظاهرة المدركة بالبصر، كالبياض والطول. والخلق بضمتين: صورة الإنسان الباطنة المدركة بال بصيرة كالعلم والحلم. وإنما قدم المصنف الكلام على الأول مع أن الثاني أشرف؛ لأن الصفات الظاهرة أول ما يدرك من صفات الكمال، ولأنها كالدليل على الباطنة، فإن الظاهر عنوان الباطن، ورعاية للترقي من غير الأشرف إلى الأشرف، وللترتيب الوجودي؛ إذ الظاهر مقدم في الوجود على الباطن، وإنما كانت الصفات الباطنة أشرف من الظاهرة؛ لأن مناط الكمال إنما هو الباطن.

الحمد: اختفت النسخ في وجود هذه الخطبة، فتوجد في بعضها ولا توجد في بعض، والأولى إيقاؤها لما يوجد في بعض النسخ، فلا يقى إذا حاجة الجواب عن الإشكال المشهور، إلا أنه يورد على هذه الخطبة بعض الإيرادات، مثل: انفراد السلام عن الصلوة على مذهب من كره ذلك، واستقلال السلام على غير الأنبياء إن أريد العموم بعباده الذين اصطفى، وهذا المختصر لا يتحملها.

الشيخ: من كان أستاذًا كاملاً في فن يصح أن يقتدى به ولو كان شاباً، ولا يختص بسن دون سن، هو مصدر شاخ يشيخ، حمل عليه مبالغة، أو صفة على زنة "سيد" فخفف، قاله المناوي. والحافظ في أصطلاحهم: من أحاط علمه بمائة ألف حديث متنا وسندًا، وهو أحد المراتب الخمسة للمحدثين: أو لها الطالب، وهو المبتدى، ثم المحدث، وهو: من تحمل روایته، ثم الحافظ، وقد ذكر، ثم المحقق، وهو: من أحاط بثلاثمائة ألف حديث، ثم الحكم، وهو: من أحاط بجميع الأحاديث المروية.

أبو عيسى: وقد ورد النهي عن التكثير به فيحمل على أنه لم يبلغه، أو لم يصححه، أو رجع الجواز؛ لما ورد أن المغيرة بن شعبة رض كناه بذلك النبي ﷺ. الترمذى: قال النووي: فيه ثلاثة أوجه: كسر النساء واليم و هو الأشهر، وضمهمما، وفتح النساء و كسر الميم، وقال المناوى: في الراجح من هذه اللغات خلاف، نسبة إلى بلدة قديمة بطرف هر بلخ المسمى بجيحون.

أَخْبَرَنَا أَبُو رِجَاءُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي الْرَّحْمَنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ضَيْفَهُ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُسْ بِالظَّوْلِيْلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ،

حرکان [زاده الطول]

لیکن اپنی ہمت و سمعت کے موافق حضرات صحابہ کرام ﷺ نے اس کو ضبط فرمایا جس کا کچھ بیان یہ ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ آدمی حضور ﷺ کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے:

آنچہ خوبی ہے دارند تو تھاداری

حضرات صحابہ کرام ﷺ نے امت پر نہایت ہی بڑا احسان ہے کہ حضور ﷺ کے کمالاتِ معنوی علوم و معارف کے ساتھ ساتھ کمالاتِ ظاہری حسن و جمال کی بھی امت تک تبلیغ فرمائی کہ یہ ”نم و خیالِ یارے“ کے لئے معین و مددگار ہوتا ہے۔ نامرد عاشق جب وصال سے محروم ہوتا ہے تو محبوب کے گھر بار غذہ و خال کو یاد کر کے اپنے کو تسلی دیا کرتا ہے اور عادات و حالات ہی سے دل بہلایا کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے چار سو احادیث لے کر اس رسالہ کو مرتب فرمایا اور ان چار سو احادیث کو چھپنے والوں پر تقسیم فرمایا کہ اس بابِ اول میں چودہ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نہ بہت لمبے قد کے تھے نہ پستہ قد (جس کو ٹھگنا کہتے ہیں، بلکہ آپ کا قدم مبارک درمیانہ تھا) اور نیز رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے چونہ کی طرح، نہ بالکل گندم گوں کے سانوں پر آجائے (بلکہ چودہ ہویں رات کے چاند سے زیادہ روشن پر نور اور کچھ ملاحت لئے ہوئے تھے) حضور اقدس ﷺ کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل پیچدار (بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھونگری والہ پن تھا) چالیس برس کی عمر ہو جانے پر حق تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو نبی بنایا اور پھر دس برس مکرہ میں رہے (اس میں کلام ہے جیسا کہ فوائد میں آتا ہے۔ اس مدت کے درمیان میں حضور اقدس ﷺ پر وحی بھی نازل ہوتی رہی) اس کے بعد دس سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور پھر ساٹھ سال کی عمر میں حضور ﷺ نے وصال فرمایا۔

أنه سمعه: أي: سمع ربیعة أنساً. والغرض أن ربیعةأخذ هذا الحديث بطريق التحدیث لا بالإعبار قاله القاري، قيل: ويحتمل أن الصميرين مالك و قتيبة قاله المناوي. قلت: ولكن فيه بعد.

البائن: [الظاهر طوله، فهو بمعنى: البعيد عن حد الاعتدال] البائن بالمحنة دون الياء من باء بمعنى: ظهر، أو بمعنى: بعد. وفي تحصيص الطول بالبائن دون القصر بمقابلة إشارة إلى أنه عليه كان ربعة لكنه إلى الطول أقرب. ولا: عطف على قوله: بالطويل، و "لا" زائدة لتأكيد النفي.

وَلَا بِالْأَيْضِ الْأَمْهَقِ، وَلَا بِالْآدَمِ، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطْطِ، وَلَا بِالسَّبْطِ، بَعْثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِعَكَّةٍ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحِيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً يَيْضَاءً.

شديد المعدودة  
رسولاً بعد المجرة

اس وقت آپ کے سر اور آپ کی دلاری میں بیس بال بھی سفید نہ تھے (اس کا مفصل بیان "باب فی شیب رسول اللہ ﷺ" میں آیا گا)۔ فائدہ: حضور اقدس ﷺ کا قد مبارک درمیانہ تھا لیکن میانہ پن کے ساتھ کسی قدر طول کی طرف کو مائل۔ چنانچہ ہند بن ابی ہالہ وغیرہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ ان دونوں روایتوں پر اس حدیث سے اشکال ہوتا ہے جس میں آیا ہے کہ حضور ﷺ جب کسی جماعت میں کھڑے ہوتے تو سب سے زیادہ بلند نظر آتے، لیکن یہ درازی تد کی وجہ سے نہ تھا بلکہ مجذہ کے طور پر تھا تاکہ حضور اکرم ﷺ سے جیسا کمالاتِ معنویہ میں کوئی بلند مرتبہ نہیں ہے، اسی طرح صورت ظاہری میں بھی کوئی بلند محسوس نہ ہو۔ نیز حضور اقدس ﷺ کا نبوت کے بعد تک مکرمہ میں قیام دس برس اس حدیث میں ذکر ہوا ہے اور اسی بنا پر حضور ﷺ کی عمر سائٹھ سال کی ذکر کی گئی ہے لیکن یہ روایت اُن سب روایات کے خلاف ہے جن میں حضور ﷺ کا قیام تیرہ برس بتلایا گیا ہے، اور تریسٹھ سال کی عمر ذکر کی گئی۔ بعض روایات میں پنیسٹھ سال کی عمر آتی ہے، چنانچہ اواخر کتاب میں تینوں روایتیں آنے والی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تریسٹھ سال کی روایتیں زیادہ ہیں۔

وَلَا بِالْأَيْضِ: [أي: الشديد البياض بمحبت يكون حاليا عن الحمرة والنور، فلا ينافي أنه أَيْضَ مشرب بحمرة] الأَمْهَقُ أَي: شديد البياض، فالنبي راجع إلى القيد فقط، ورواية المصنف في جامعه "أمهق ليس بأيض" مقلوبة كما ذهب إليه الحافظ، أو وهم كما قاله عياض، أو مؤول بأن المهة قد يطلق على الحمرة أيضاً. **بالآدم:** [الأسر أَي: ليس بشديد السمرة] أصله "آدم" بمعتbin على وزن أفعل، أبدلت الثانية ألفا، أى شديد الأدمة أى السمرة، فالمغني الشدة فلا ينافي إثبات السمرة في الخبر الآتي، وما يؤيد ذلك رواية البهقي: كان أَيْضَ ياضه إلى السمرة.

وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطْطِ: [الشعر المتنوي المقبط] هذا وصف له ﷺ باعتبار شعره، والجعد بفتح فسكون. والقطط بفتحتين على الأشهر شديد المعدودة، وفي التهذيب: القطط: شعر الزنوج، قال الرمخري: الغالب على العرب جعودة الشعر وعلى العجم سبوطته، وقد أحسن الله لرسوله الشمائل، وجمع فيه ما تفرق في غيره من الفضائل. **بالسبطِ:** [الشعر المنبسط المسترسل] ستين: وفي رواية: توفي وهو ابن حمس وستين سنة، وفي أخرى: ثلاثة وستين وهي أصحها وأشهرها كما سيأتي في باب مستقل في آخر الكتاب.

حدثنا حمید بن مساعدة البصري، حدثنا عبد الوهاب التقفي، عن حميد، عن أنس بن مالك صغيراً  
الطويل  
قال: كان رسول الله ﷺ ربعة، وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس  
بجعد ولا سبط، أسمرا اللون، إذا مشى يتكتفاً.

علماء نے ان احادیث میں دو طرح جمع فرمایا ہے: اول یہ کہ حضور ﷺ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اور تین سال بعد رسالت ملی۔ اس کے بعد دس سال تک مکرمه قیام ہوا، اس بنا پر اس حدیث میں ان تین سال کا ذکر چھوٹ گیا جو نبوت اور رسالت کے درمیان تھے۔ دوسری توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ عموماً اعداد میں کسر کو شمار نہیں کیا جایا کرتا، اسی بنا پر حضرت انس رض کی روایت میں دونوں جگہ دہائیاں ذکر کر دیں اور کسر کو چھوڑ دیا، اور پنیسھ سال والی روایات میں سن ولادت اور سن وفات کو مستقل شمار کیا گیا۔ غرض سب روایات کا حاصل ایک ہی ہے اور چونکہ حضور ﷺ کی عمر شریف اصح قول کے موافق تریسھ سال کی ہوئی اس لئے باقی روایات کو بھی اسی طرف راجع کیا جائے گا۔

(۲) دوسری روایت بھی حضرت انس رض سے مردی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد تھے، نہ زیادہ طویل نہ کچھ ممکنے، نہایت خوبصورت معتدل بدن والے۔ حضور ﷺ کے بارے بالکل پیچیدہ تھے نہ بالکل سید ہے (بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی اور گھنکری بالہ پن تھا)

مرکر کسی کی زلف پر معلوم ہو جئے  
فرقت کی رات کئی ہے کس پچ وتاب میں  
نیز آپ گندی رنگ تھے۔ جب حضور ﷺ راستہ چلتے تو آگے کو جھکتے ہوئے چلتے۔

ربعة: بفتح الراء وسكون الموحدة، ويجوز فتحها، المتوسط بين الطويل والقصير، والتأنيث باعتبار النفس يقال: رجل ربعة،  
وامرأة ربعة. حسن الجسم: [معدل الخلق، متناسب الأعضاء، لا تغليه السمنة أو المزال] تعليم بعد تخصيص، أو المراد  
بحسن نفي غلبة السمن والمزال، قال بعضهم: الحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه حسأً أو عقلأً. مناوي  
إذا مشى يتكتفاً: إذا ظرفية لا شرطية، والعامل فيها الفعل بعدها، ويكتفاً بتشديد الفاء بعده همز، وقد يترك همزه تحفيقاً  
أي: يتمايل إلى قدماء، وفسره بعضهم بكونه يسرع في مشيه، والأول أظهر، ويؤيد ما في الخبر الآتي كأنما ينحطّ من  
صبيب، فهو من قوله: كفأت الإناء إذا قلبته، وفي بعض النسخ: إذا مشى يتوكأً أي: يعتمد على رجليه.

حدثنا محمد بن بشّار، يعني العبدی، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال:

سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً مربوعاً  
بضم الجيم وكسرها منكسر الشين

فائدہ: اس حدیث میں خود حضرت انس بن مالک حضور ﷺ کے رنگ مبارک کو گندی فرماتے ہیں۔ پہلی روایت بھی حضرت انس بن مالک کی تھی، اس میں اس کی نفی کی گئی تھی، وہاں ترجمہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا۔ دونوں میں کچھ تعارض نہیں، حاصل دونوں روایتوں کا یہ ہے کہ حضور ﷺ کا رنگ بالکل گندی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے روشنی اور حسن میں کچھ کمی آئے، بلکہ وہ چمک دمک اور خوبروئی تھی کہ اپنے ساتھ تھوڑی سی گندیت بھی ملائے ہوئے تھی۔ نیز اس حدیث میں حضور ﷺ کی رفتار کے بارے میں یتکفار کا لفظ واقع ہوا ہے، اس کے ترجمہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں: بعض لوگ جلدی چلتے کا ترجمہ فرماتے ہیں، اور بعض لوگ آگے کو جھکنے کا ترجمہ کرتے ہیں، اور بعض شرائح قوت سے قدم اٹھانے کا ترجمہ کرتے ہیں، تینوں ترجمہ صحیح ہیں، اس لئے کہ حضور اقدس ﷺ کی رفتار تینوں صفت کے ساتھ متصف ہوتی تھی، اور لفظ بھی تینوں معنی کو محتمل ہے۔ حضور والا تیز رفتاری کے ساتھ چلتے تھے، مجوہین زمانہ کی طرح عورتوں کی چال نہیں چلتے تھے۔ نیز حضور کی عادت جھک کر چلنے کی تھی، مثکر انہ رفتار سینہ نکال کر نہیں چلتے تھے۔ نیز مردانہ رفتار پاؤں زمین سے اٹھا کر چلتے تھے نہ یہ کہ زمین پر پاؤں گھینٹتے ہوئے چلیں۔

(۳) حضرت براء بن عازب رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ایک مرد میانہ قد تھے (قد رے درازی مائل، جیسا کہ

العبدی: نسبة إلى عبد قيس، قبيلة مشهورة من ربيعة. رجلًا: قال البيحوري: بضم الجيم في جميع الروايات، خبر صورة توطنية لما هو خبر حقيقة؛ إذ هو المقصود بالإفادة، كقوله تعالى: **هُذِّلُكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَقْهَرُوهُنَّ** (الحشر: ۱۳) وهذا مبني على أن المراد بالرجل المعنى المبادر، وهو الذكر البالغ، وفيه أنه لا يليق بصحابي أن يصفه بذلك ولم يسمع من أحد منهم وصفه به، فالأخسن كما قاله بعضهم: أن المراد وصف شعره بالرجولة، وهي: التكستر القليل، يقال: شعر رجل بضم الجيم، كما يقال بفتحها وكسرها وسكونها، أي: فيه تكسير قليل. وضبطه القاري بفتح الراء وكسر الجيم، ثم قال: وقع في الروايات المعتمدة بضم الجيم، فيحتمل أن يكون المراد منه المعنى المبادر وهو المقابل للمرأة، ويحتمل أن يراد به شعره الأطهر، إذ الرجل بكسر الجيم وفتحها وضمنها وسكونها معنی واحد، وهو: الذي في شعره تكسير يسير، كما يفهم من كلام الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، ويؤیده ما صح في بعض النسخ بكسر الجيم، وكان هذا المعنی أصوب؛ إذ لا يليق بحال الصحابي وصفه **رجلًا** بالرجل.

**بُعْدَ مَا بَيْنَ الْمُنْكِبَيْنَ، عَظِيمُ الْجُمْهَةِ إِلَى شَحْمَةِ أَذْنِيهِ، عَلَيْهِ حُلْلَةُ حَمْرَاءٍ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.** حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْلَانَ قَالَ: حَدَثَنَا وَكِيعٌ، حَدَثَنَا سَفِيَّانَ،  
بِفَتْحِ فَسْكُونِ التُورِي

پہلے گزر چکا) آپ کے دونوں مونڈھوں (کندھوں) کے درمیان قدرے اوروں سے زیادہ فاصلہ تھا (جس سے سینہ مبارک کا چوڑا ہونا بھی معلوم ہو گیا) گنجان بالوں والے تھے جو کان کی لوٹک آتے تھے، آپ پر ایک سُرخ دھاری کا جوڑا یعنی لنگی اور چادر تھی۔ میں نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ فائدہ: اس حدیث میں دجالاً مربوعاً کا لفظ ہے جس کا ترجمہ جیم کے پیش کے ساتھ مرد کا کیا گیا، یہ صحیح ہو سکتا ہے، اس قسم کے الفاظ کلام عرب میں ربط کے واسطے آجائتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں کوئی خاص صفت نہیں ظاہر ہوتی اس لئے بعض محدثین کی رائے ہے کہ یہ لفظ جیم کے زیر کے ساتھ ہے جس کے معنی سیدھے پن اور ٹیڑھے پن کے درمیان کے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں یہ صفت حضور اقدس ﷺ کے بالوں کی ہو گی جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ حضور ﷺ کے بال مبارک کچھ تھوڑی سی پچیدگی لئے ہوئے تھے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے سُرخ کپڑے کا مرد کے لئے مطلقاً پہننا جائز قرار دیا ہے۔ حفیہ کے نزدیک اس میں تفصیل ہے، جو کپڑے کی تعین کے بعد علماء سے تحقیق کی جاسکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابی نے اس حدیث میں ”کسی چیز کو آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا“ اس لئے کہا تاکہ انسان کے علاوہ چاند سورج وغیرہ ہر چیز کو شامل ہو جائے۔

**بعد ما بين المكبين:** [عريض أعلى الظهر، ويلزمه أنه عريض الصدر]. **الجملة:** [ما سقط من شعر الرأس و وصل إلى المكبين] بضم الجيم وتشديد الميم، ما وصل من شعر الرأس إلى المكبين، وعلى هذا يشكل قوله: إلى شحمة أذنيه، فقيل: المراد بالجملة: الوفرة بمحاز، وقيل: الجار والمحور متعلق بعظيم لا بجمة، والمعنى: العظيم من جمته يصل إلى شحمة أذنيه، وما نزل عنها إلى المكبين يكون حفيها على العادة من أن الشعر كلما نزل خف.

**حَلَّةُ حَمْرَاءٍ:** [ثوب له ظهارة وبطانة، وقيل: الحلة هي إزار ورداء] قال البيحوري: أخرج ابن الجوزي من طريق ابن حبان وغيره أن النبي ﷺ اشتري حلة بسبعين وعشرين ناقة فلبسها. شيئاً قال شيئاً دون إنساناً؛ ليشمل غير البشر كالشمس والقمر، وعبر بـ”قط“ إشارة إلى أنه كان كذلك من المهد إلى اللحد؛ لأن معنى ”قط“ الزمن الماضي، ولا يستعمل إلا في النفي، وهو بفتح القاف وضم الطاء المشددة، وقد تخفف الطاء المضمومة، وقد تضم القاف اتياً لضمة الطاء المشددة أو المحففة، وجاءت ساكنة الطاء، فهذه حمس لغات أشهرها الأولى، وقد صرّحوا بأن من كمال الإيمان اعتقاد أنه لم يجمع في بدن إنسان من المحسن الظاهر ما اجتمع في بدنه ﷺ، ومع ذلك فلم يظهر ثمام الحسن وإلا لما طاقت الأعين رؤيته ﷺ. قلت: أو غيره منه تبارك وتعالى كما حكاه الشاه ولی الله الدھلوي في الدر الثمين عن منام والده.

عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لِمَةٍ في حُلُّ حمراء أحسنَ من رسول الله ﷺ، له شعر يَضْرِب مَنْكِبَيْهِ، بُعْدَ ما بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا المسعودي، عن عثمان بن مسلم بن هُرْمُز، عن نافع بن جُبَير بن مطعم، عن <sup>الإمام البخاري</sup><sup>(٤)</sup> عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي ﷺ بالطويل ولا بالقصير،

(٢) حضرت براءٰ ہی سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے کسی پنٹھوں والے کو سرخ جوڑے میں حضور اقدس ﷺ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حضور ﷺ کے بال مونڈھوں تک آرہے تھے۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کا حجمہ ذرا زیادہ چوڑا تھا اور آپ نے زیادہ لمبے تھے نہ مٹکنے۔ فائدہ: حضور ﷺ کے بالوں کے بارے میں یہ روایت پہلی روایت سے مختلف ہو گئی، اس لئے کہ اس میں کان کی لوٹک ذکر کیا تھا۔ لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ بال ایک حالت پر نہیں رہا کرتے، کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی زائد ہو جاتے ہیں، اور قصداً کبھی کم کرنے جاتے ہیں، کبھی بڑھائے جاتے ہیں۔

(٣) حضرت عليؑ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے زیادہ لمبے تھے نہ کوتاہ قد، ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں پر گوشت تھے (یہ صفات مردوں کے لئے محمود ہیں، اس لئے کہ قوت اور شجاعت کی علامت ہیں، عورتوں کے لئے مذموم ہیں) حضور ﷺ کا سر مبارک بھی بڑا تھا اور اعضا کے جوڑ کی ہڈیاں بھی بڑی تھیں۔ سینہ سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری تھی۔

لمَّةٌ: [فَهِيَ مَا جَاءَ شَحْمَةُ الْأَذْنِ، سَوَاءً وَصَلَ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ أَوْلًا، وَقَلِيلٌ: إِنَّمَا بَيْنَ الْجُمْهَةِ وَالْوَفْرَةِ، فَهِيَ مَا نَزَلَ عَنِ الْوَفْرَةِ وَلَمْ يَصُلْ إِلَى الْجُمْهَةِ] بكسر اللام وتشديد الميم. قال القاري: الوفرة: الشعر إلى شحمتي الأذن، واللمة دون الجمحة، سقيت بذلك؛ لأنها ألت بالمنكبين، والجمحة: بضم الجيم وتشديد الميم من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. وسيأتي في باب شعره ﷺ من البسط. وقال البيحوري: هذه الثلاثة قد اضطرب أهل اللغة في تفسيرها، وأقرب ما وفق به أن فيها لغات، وكل كتاب اقتصر على شيء منها كما يشير إليه كلام القاموس في مواضع.

نعم: بضم نون وفتح عين مهملة فضل بن دكين مصغراً. المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عقبة بن عبد الله بن مسعود، ولذلك نسب إليه. هُرْمُز: بضم أوله وثالثه وسكون ثانية وبالزاء المعجمة، يصرف ولا يصرف.

شَنُونَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، ضَحْمُ الرَّأْسِ، ضَحْمُ الْكَرَادِيسِ، طَوْبِيلُ الْمَسْرُبَةِ، إِذَا مَشَى تَكَفُّوا  
[مشي بقوه وصلابه]  
 كائناً مَا يَنْحَطُ مِنْ صَبَبٍ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ  
 الْمَسْعُودِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِيِّ الْبَصْرِيِّ وَعَلَيْهِ بْنُ حُجْرَةٍ  
 وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسِينِ - وَهُوَ أَبِي حَلِيمَةَ - وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ

جب حضور القدس ﷺ چلت تھے گویا کہ کسی اوپنی جگہ سے یچھے کو اتر رہے ہیں۔ حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور  
 اقدس ﷺ جیسا نہ حضور ﷺ سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ فائدہ: اس قسم کی عبارت سے کہ ”میں نے فلاں جیسا کبھی  
 نہیں دیکھا“ مبالغہ مقصود ہوا کرتا ہے اس کے مثل نہ ہونے میں، لیکن حضور کے اوصاف میں مبالغہ نہیں، اس لئے کہ وہاں  
 کمالِ جہاں تعبیر سے باہر ہے۔ مناوی نے لکھا ہے کہ ہر شخص یہ اعتماد رکھنے کا مکلف ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا جسم مبارک  
 جن اوصافِ جیلہ کے ساتھ متصف ہے، کوئی دوسرا ان اوصاف میں حضور ﷺ جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ محض اعتمادی چیز  
 نہیں ہے، سیر، احادیث و تواریخ کی کتابیں اس سے لبریز ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے کمالاتِ باطنیہ کے ساتھ جہاں ظاہری بھی  
 علی الوجه الامم عطا فرمایا تھا۔ حضرت عائشہؓ سے دو شعر نقل کئے گئے ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ زیخاری سہیلیاں اگر حضور  
 اقدس ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھ لیتیں تو ہاتھوں کے بجائے دلوں کو کاث دیتیں۔ بالکل حق فرمایا۔ صحابہؓ ہم مرد و عورت  
 حضور ﷺ کے عشق میں جس قدر غرق تھے اس کا کچھ شائبہ دیکھنا ہو تو میرے رسالہ ”حکایاتِ صحابہؓ“ کا باب ۸ دیکھو۔

شُنُونُ: بالرفع خير مبتدأ محنوف، والشنن بالمثلثة كما في الشروح، وضبطه السيوطي بالمثلثة الفوقية، وفسره الأصمعي كما  
 سیأتی عند المصنف بغلظ الأصابع من الكفين والقدمين، وفسره ابن حجر: بغلظ الأصابع والراحة، وهو المتادر قاله  
 البيحوري. الکرادیس: [هي رؤوس العظام، وقيل: جمع العظام كالركبة والمنكب] جمع كردوس كعصفور: رأس العظم، وقيل:  
 جمع العظام كالركبة والمنكب. المسربة: [الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي إلى السرة]. تكَفُّوا: إما بالهز فيهما فيقرأ  
 المصدر بضم الفاء كقدمًا، أو بلا همز فيقرأ بكسرها كسمى تسميا، وعلى كل فهو مصدر مؤكدة، وقوله: كائنا إلخ مبالغة في  
 التكفو. وهو: الضمير للحسين أو ابنه محمد مختلف عند الشراح، وكتب الرجال يؤيد الأول وكذا يؤيد ما في جامع  
 المصنف بلفظ: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي حليمة، وصفه به؛ لأن محمد بن الحسين أبو جعفر رجل آخر  
 أيضاً في الرواية، كما يظهر من كتب الرجال، وهو أيضاً من هذه الطبقه، فنبه المصنف ليتميز عنه.

عن عمر بن عبد الله مولی غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد - من ولد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه -  
 أخت بلال الموزن  
 قال: كان عليّ إذا وصف رسول الله ﷺ قال: لم يكن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه بالطويل الممْغَطُ، ولا بالقصير  
 المتردِّدُ، وكان رَبْعَةً من القوم، ولم يكن بالجعد القاطط، ولا بالسبط، كان جداً رِجْلاً، ولم  
[المشافي في الفصر]  
 يكن **بالمطهم** ولا **بالمكشم**، وكان في وجهه تدويرٌ، **أيضاً مشربٌ**، **أذعج العينين**، **أهدب**  
[منور الوجه] بلغظ المفعول فقط  
أي شيء منه غير مخدوف شديد سعادها  
**الأشفار**، **حَلَيل المشاش والكتيد**،  
[طوبيل شعر الأحقاف]

(٦) ابراهيم بن محمد جو حضرت على صلوات الله عليه کی اولاد میں سے ہیں (یعنی پوتے ہیں) وہ فرماتے ہیں کہ حضرت على صلوات الله عليه جب حضور صلوات الله عليه کے حلیہ مبارک کا بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلوات الله عليه زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد، بلکہ میانہ قد لوگوں میں تھے۔ حضور صلوات الله عليه کے بال نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سید ہے، بلکہ تھوڑی سے پیچیدگی لئے ہوئے تھے، نہ آپ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرہ کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرہ میں تھی (یعنی چہرہ انور نہ بالکل گول تھا بلکہ لبا بلکہ دونوں کے درمیان تھا) حضور کارنگ سفید سرخی مائل تھا، آپ کی آنکھیں نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی بڑیاں موٹی تھیں (مثلاً کمیناں اور گھٹنے) ایسے ہی دونوں موندھوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پُر گوشت تھی، آپ کے بدن مبارک پر (معمولی طور سے زائد) بال نہیں تھے (یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے

ابراهيم بن محمد: هو ابن محمد ابن الحنفية - وهي أمة لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه من سبى بنى حنيفة - وإبراهيم هذا لم يسمع من عليّ بظاهره، ولذا قال المصنف في جامعه بعد إيراد الحديث: إسناده ليس بمتصل. الممْغَطُ: [البيان الظاهر] بضم الميم وفتح الثانية مشددة وبكسر الغين المعجمة بعدها طاء مهملة، وأصله المتمغط، قلب التون مينا وأدغمت في الميم، والمغط: مدّ شيء لين كذا في القاموس. وفي جامع الأصول: المحدثون يشدّدون الغين، أي مع تحفيف الميم الثانية، فهو اسم مفعول من التمعيغط. رِجْلاً: بكسر الجيم وقد يضمّ كما مرسّابقاً.

**بالمطهم**: [البادن كثير اللحم أي: كثير البدن متفاوح السمن] الرواية فيه بلفظ اسم المفعول فقط. **مشرب**: أي: بحمرة كما في رواية، هو بالتحفيف من الإشراب، وهو: خلط لون بلون، وفي نسخة بالتشديد من التشريب، وهو مبالغة في الإشراب. **أذعج العينين**: [شديد سواد العينين، وقيل: شديد بياض البياض وسواد السواد]. المشاش: بالضم. معجمتين بينهما ألف، جمع مشاشة بالضم والتحفيف، وهي روؤس العظام. والكتيد: مشاشة فوقية تفتح وتكسر، مجتمع الكتفين، قاله المناوي.

أَجْرَدَ، ذُو مَسْرَبَةَ، شَنَّ الْكَفَّيْنَ وَالْقَدْمَيْنَ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأْنَما يَنْحَطِطُ فِي صَبَبَ، وَإِذَا التَّفَتَ عَلَيْهِ  
 التَّفَتَ مَعًا، بَيْنَ كَفَيْهِ خَاتَمُ الْبُوْبَةِ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، أَجْوَدُ النَّاسِ صَدَرًا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ  
 لِهَجَةً، وَأَلْيُهُمْ عَرَيْكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، مِنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابِهَ، وَمِنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهَ، يَقُولُ طَبِيعَةً  
 نَاعِتَهُ: لَمْ أَرْقِلْهُ وَلَا بَعْدَهُ مُثْلِهِ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسِينِ يَقُولُ شِيخَ الْمَرْكُورَ  
 سَمِعْتُ الْأَصْمَعِيَّ يَقُولُ فِي تَفْسِيرِ صَفَةِ النَّبِيِّ ﷺ: الْمُمَغْطُ: الْذَّاهِبُ طُولاً، إِيمَامَ أَهْلِ الْلُّغَةِ  
 بِالظَّاءِ الْمَهْمَلَةِ

بدن پر بال زیادہ ہو جاتے ہیں، حضور اقدس ﷺ کے بدن پر خاص خاص حصوں کے علاوہ جیسے بازو پنڈلیاں وغیرہ، ان کے علاوہ اور کہیں بال نہیں تھے) آپ کے سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، آپ کے ہاتھ اور قدم مبارک پر گوشت تھے۔ جب آپ تشریف لے چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے (یعنی یہ کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس لئے کہ اس طرح دوسرے کے ساتھ لا پرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہو جاتی ہے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس طرف توجہ فرماتے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آپ توجہ فرماتے تو تمام چہرہ سے فرماتے، کن انکھیوں سے نہیں ملاحظہ فرماتے تھے، مگر یہ مطلب اچھا نہیں) آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ ختم کرنے والے تھے نبیوں کے، آپ سب سے زیادہ سخن دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے۔

أَجْرَدَ: [قليل الشعـر حيث لم يعمـ الشعـر جـمـيع جـسـدـه] أي: غير أـشعـر، وهو من يعمـ الشـعـر سـائـر بـدـنه فالـأـجـرد خـلافـه، وليس المعنى أنه لم يكن على بـدـنه شـعـر؛ لأنـه كـثـر اللـحـيـةـ، طـوـيلـ الـمـسـرـبةـ، وـكـانـ الشـعـر عـلـى مـوـاضـعـ مـنـ بـدـنهـ كـمـاـ تـرـىـ، فالـأـجـردـيةـ باـعـتـارـ أـغـلـبـ المـواـضـعـ. التـفـتـ مـعـاـ: [بـجـمـيعـ أـجزـائـهـ حـيـثـ لـاـ يـلوـيـ عـنـقـهـ يـمـنـةـ أـوـ يـسـرـةـ إـذـاـ نـظـرـ إـلـىـ الشـيـءـ].

لِهَجَةً: [اللسان ومراده الكلام] عَشِيرَةً: عَشِيرَةٌ عَلَى وَزْنِ قَبْيلَةٍ وَمَعْنَاهُ، وَفِي بَعْضِ النَّسْخَ: عَشْرَةُ بَكْسَرٍ أَوْلَاهَا وَسَكُونٌ ثَانِيَاهَا أي: صحبة، وَيُؤَيَّدُهُ مَا سَيَقَلَهُ الْمَصْنُوفُ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ، وَكَلَا الْمَعْنِينَ صَحِيحٌ فِي حَقِّهِ ﷺ؛ لِأَنَّ قَبْيلَتَهُ أَشْرَفُ وَمَخَالَطَتَهُ أَكْرَمٌ. نَاعِتَهُ: [أَيْ: وَاصِفَهُ] النَّاعِتُ اسْمَ فَاعِلٍ مِنْ نَعْتٍ: إِذَا وَاصِفَهُ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى: النَّعْتُ وَصَفُ الشَّيْءَ بِمَا فِيهِ مِنْ حَسْنٍ مَالِهِ الْجَلِيلِ، وَلَا يَقَالُ فِي الْمَنْعُومِ إِلَّا بِتَكْلِفٍ مَتَكْلَفٍ، فَيَقُولُ نَعْتُ سَوْءٍ، فَمَا الْوَصْفُ فِي قَالٍ فِيهِمَا، أَيْ: فِي الْحَمْدِ وَالْمَذْمُومِ.

قال: وسمعت أعرابيا يقول في كلامه: تَمَغْطَّ في نُشَائِتِه أي: مدّها مددًا شديداً. والتردد: الداخل بعضه في بعض قصراً. وأمّا القَطِطُ: فالشديد الجعوده. والرَّجْلُ: الذي في شعره حُجُونَة، أي: ثَنَّ قليلاً.  
بضم الحاء المهملة والجيم أي انعطاف  
وأمّا المطَهَّمُ: فالبادن الكثير اللحم. والمكْلَمُ: المدور الوجه. والمُشَرَّبُ: الذي في يَاضِه حُمْرَة. والأدْعَجُ: الشديد سَوَاد العين. والأهْدَابُ: الطويل الأشفار. والكَبِيدُ: مجتمعة الكَفَيْنِ، وهو الكاهل. والمسْرُبةُ: هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيبٌ من الصدر إلى السرة. والثَّشَنُ: الغليظ الأصابع من الكَفَيْنِ والقدمين. والتَّقْلُعُ: أن يمشي بقوّة.

سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ (غرض آپ دل و زبان، طبیعت، خاندان، اوصاف ذاتی اور نسبی ہر چیز میں سب سے افضل تھے) آپ کو جو شخص یکایک دیکھتا مرغوب ہو جاتا تھا (یعنی آپ کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ اول دہم میں دیکھنے والا رب کی وجہ سے بہت میں آ جاتا تھا) اول توجہاں و خوبصورتی کے لئے بھی رب ہوتا ہے۔

شوق افزوں مانع عرض تمنا دا بِخُن  
بادا دل نے اٹھائے ایسی لذت کے مزے

اس کے ساتھ جب کمالات کا اضافہ ہو تو پھر رب کا کیا پوچھنا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس ﷺ کو جو مخصوص چیزیں عطا ہوئیں، ان میں رب بھی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا) البتہ جو شخص پہچان کر میل جوں کرتا تھا وہ (آپ کے اخلاقِ کریمہ و اوصافِ جمیلہ کا گھائل ہو کر) آپ کو محبوب بنالیتا تھا۔ آپ کا حلیہ بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اکرم ﷺ جیسا باجمال و باکمال نہ حضور سے پہلے دیکھا۔ (اللَّهُ أَعْلَمُ)

قال: أي الأصمعي، و وهم من زعم أن فاعله أبو جعفر، وأبعد من جواز احتمال الرجوع إلى المصنف قاله القاري، وهذا استدلال الأصمعي فيما قاله قبل. كلامه: يعني يقول الأعرابي في أثناء كلامه: تَمَغْطَّ فلان في نشائته، أي: مدّها، والنشائبة بضم النون وتشديد الشين المعجمة وموحدة وبناء التأنيث، ودُونُها: السهم، وإضافة المذكورة إليها مجاز؛ لأنها لا تُمد، وإنما يمد وتر القوس. واعتراض على المصنف: بأنه ليس في الحديث لفظ "المغطط" حتى يتعرض له وإنما فيه لفظ "الانغساط". وأجيب: بأنه من توضيح الشيء بتوضيح نظيره.

والصَّبَبُ: الْحَدُورُ، تقول: انحدرنا في صَبُوبٍ وصَبَبٍ. قوله: جَلِيلُ الْمُشَاشِ: يُرِيدُ رؤوس المناكب. والعشرة: الصُّحْبة، والعشير: الصَّاحِب. والبداهة: المفاجأة، يقال: بَدْهُتُهُ بِأَمْرِ أَيِّ فَجَاهَتُهُ. حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جُمِيعُ بن عَمِيرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِجْلَيِّ إِمَلاً عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ مِّنْ وَلَدِ أَبِي هَالَّةَ زَوْجُ حَدِيجَةِ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ،

عن ابن لأبي هالة، عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سألت خالي هند

(٧) اختلف في اسمه اياً  
رب النبي ﷺ صاحب هند

(٧) حضرت حسن رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے۔ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ ان اوصافِ جمیل میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان کے بیان کو اپنے لئے جست اور سند بناؤں، اور ان اوصافِ جمیلہ کو ذہن نشین کرنے اور ممکن ہو سکے تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں (حضرت حسن رضي الله عنه کی عمر حضور کے وصال کے وقت سات سال کی تھی، اس لئے حضور کے اوصافِ جمیلہ میں اپنی کم سنی کی وجہ سے تامل اور کمال تحفظ کا موقع نہیں ملا تھا) ماموں جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظر و میں بھی بڑے رتبہ والے تھے، آپ کا چہرہ مبارک ماء بدر کی طرح چمکتا تھا،

صَبَبٌ: أَيْ: مَكَانٌ مُنْهَدِرٌ، وَهُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ الْمَهْمَلَةِ وَضَمِّنَهَا أَيْضًا، وَيَقُولُ: بِالضَّمِّ جَمِيعُ صَبَبٍ بِفَتْحِهِنِينِ، وَلَمْ يَدْغُمْ الصَّبَبُ؛ لَمَّا يَشْتَبِه بالصَّبَبِ الَّذِي يَعْنِي الْعَاشِقَ.

عَمِيرٌ: بِالتصْغِيرِ فِيهِمَا عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَمْرَةَ فِي تَقْرِيرِهِ، قَالَ الْقَارِيُّ: وَوَقَعَ فِي نُسُخِ الشَّمَائِلِ مَكْبِرًا، وَكَذَا أُورَدَهُ الْمَزِيِّ فِي تَهْذِيَّهِ، وَالذَّهِبِيُّ فِي مِيزَانِهِ وَكَذَا فِي شَفَاءِ قَاضِيِّ عِيَاضِ عَلَى مَا فِي بَعْضِ الْحَوَاشِيِّ، وَكَتَبَهُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ لِفَظُ "عُمَرٌ" بِلَا وَاوٍ، وَكَذَا فِي أَكْثَرِ نُسُخِ الشَّمَائِلِ، قَالَ الْقَارِيُّ فِي مَوَاضِعِ مِنْ شَرِحِهِ: صَوَابُهُ عَمِيرٌ. إِمَلاءٌ: أَيْ: إِلَقاءُ، وَهُوَ مَصْدُرُ حَدِيثِنَا مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ، أَوْ قَيْزِيزٌ، أَوْ حَالٌ بَعْنَى: مَلِيَا عَلَيْنَا، قَالَهُ الْمَنَاوِيُّ، وَالإِمَلاءُ: إِلَقاءُ الْحَدِيثِ عَلَى الْكَاتِبِ لِيَكْتُبَ، وَالإِمَلاءُ قَدْ يَكُونُ مِنْ حَفْظِهِ وَقَدْ يَكُونُ بِالْكِتَابِ، وَفِيهِ زِيَادَةُ الْاحْتِيَاطِ، فَقِيَدَهُ بِذَلِكَ.

ابن: اسْمُهُ هَنْدٌ كَاسِمٌ أَبِيهِ وَاسْمُ جَدِّهِ، فَهَذَا مِنْ يَوْفَاقِ اسْمِهِ اسْمُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، كَذَا فِي الشَّرِوحِ، لَكِنَّ الْمُحَدِّثِينَ تَكَلَّمُوا عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ.

ابن أبي هالة - و كان وصافا - عن حليلة رسول الله ﷺ، وأنا أشتري أن يصف لي منها شيئاً  
حال من مفعول أتعلق به، فقال: كان رسول الله ﷺ فَخَمَّاً مُفَخَّمَاً، يَتَلَأْلَأُ وَجْهَهُ تَلَائِلُ الْقَمَرِ لِيلَةَ الْبَدْرِ، أَطْوَلُ مِنْ  
الْمَرْبُوعِ، وَأَقْصَرُ مِنَ الْمَشَدَّبِ، عَظِيمُ الْهَامَةِ، رَجُلُ الشِّعْرِ، إِنَّ افْرَقَتْ عَقِيقَتَهُ فَرْقٌ وَإِلَّا فَلَا،  
[الراس] [أي في شعره تكسر وتنز]

آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا، سر مبارک اعتدال  
کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک کسی قدر بدل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے  
ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ (یہ مشہور ترجمہ ہے، اس بنا پر یہ اشکال پیش آتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کا  
قصد آماںگ نکالنا روایات سے ثابت ہے، اس اشکال کے جواب میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ابتدائے زمانہ پر حمل کیا  
جائے کہ اولاً حضور ﷺ کو اہتمام نہیں تھا، لیکن بندہ ناجیز کے نزدیک یہ جواب اس لئے مشکل ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی  
عادتِ شریفہ مشرکین کی مخالفت اور اہل کتاب کی موافقت کی وجہ سے مانگ نہ نکالنے کی تھی، اس کے بعد پھر مانگ نکالنی  
شروع فرمادی، اس لئے اچھا ترجمہ جس کو بعض علماء نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بسولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے  
تھے اور اگر کسی وجہ سے بسولت نہ نکلی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب  
کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے) جس زمانہ میں حضور ﷺ کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے متجاوز  
ہو جاتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار تھا اور پیشانی کشاوہ۔ آپ کے ابر و خمار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابر و جدا  
 جدا تھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے، ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت اُبھر جاتی تھی،

فَخَمَّاً: [عظيم في نفسه]. مفخّمًا: [معظم في صدور الرجال]. أطْوَلُ: من المربوع، أي: الحقيقي، فلا ينافي ما سبق من أنه على  
كان مربوعاً، وهذا دليل على أنه على كأن مائلاً إلى الطول. المشدب: [البان الطويل] على صيغة المفعول من التشذيب،  
أصله: النحلة الطويلة التي شذب عنها جريدها، أي: قطع. عقيقته: [شعر الرأس الذي على الناصية] أي: شعر رأسه،  
وأصل العقيقة الشعر الذي يكون على رأس المولود عند الولادة، وبه سميت الذبيحة عقيقة. قال القاري: العقيقة: الشعر  
الذي يولد عليه المولود قبل أن يخلق في اليوم السابع، فإذا حلق ونبت ثانية فزال عنه اسم العقيقة، وربما سمى الشعر عقيقة  
بعد الحلق أيضاً على الجazar، وهذا جاء هذا الحديث؛ لعله يلزم أن يكون شعره باقياً من حين ولادته؛ فإنه مستبعد جداً، اللهم  
إلا أن يقال: إنه من الكرامات الإلهية؛ لعله يذبح باسم الآلة الصناعية، وقد ورد أنه عق عن نفسه بعد النبوة.

بِحَمْرَةِ شَحْمَةَ أَذْنِيْهِ إِذَا هُوَ وَفَرَهُ، أَزْهَرَ اللَّوْنُ، وَاسْعَ الْجَبَنِ، أَزْجَ الْحَوَاجِبُ، سَوَابِغَ مِنْ غَيْرِ  
 فَرَنَ، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرِّهُ الغَضْبُ، أَقْنَى الْعَرَنِينِ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوُهُ، يَحْسَبُهُ مِنْ لَمْ يَتَأْمِلُهُ أَشْمَّ، كَثَّ  
 طَوْلَ الْأَنْفِ  
 اللَّحِيَّةُ، سَهْلُ الْخَدَّيْنِ،

آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چک اور نور تھا، ابتداءً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، (لیکن غور سے  
 معلوم ہوتا کہ حسن و چک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے ورنہ فی نفس زیادہ بلند نہیں ہے) آپ کی دلاری مبارک بھر پور  
 اور گنجان بالوں کی تھی، آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ تھی، رخسار مبارک ہموار ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے، آپ کا وہ ہن  
 مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا (یعنی نگہ منہ نہ تھا) آپ کے دندان مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں سے سامنے  
 کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی، آپ کی گردن مبارک ایسی  
 خوبصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور  
 خوبصورت تھی، آپ کے سب اعضا نہایت معتمد اور پُر گوشت تھے اور بدن گٹھا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا  
 لیکن سینہ فراخ اور چورا تھا۔ آپ کے دونوں موئیڈھوں کے درمیان قدرے زیادہ فصل تھا، جوزوں کی ہڈیاں قوی اور بڑی  
 تھیں (جو قوت کی دلیل ہوتی ہے) کپڑا اتہانے کی حالت میں آپ کا بدن روشن و چمکدار نظر آتا تھا (یا یہ کہ بدن کا وہ حصہ بھی  
 جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا، روشن اور چمکدار تھا، چہ جائیکہ وہ حصہ جو کپڑوں میں محفوظ ہو۔ بندہ کے نزدیک یہ ترجمہ اچھا ہے)

وَالَا: أي وإن لم تفرق ببنفسها فلا يفرقها بل يترکها على حالها، ثم استأنف بقوله: بجاوز شعره. أزج: [أي: استقواس  
 الحاجبين أو دقة الحاجبين مع سبوغهما] الزرج برأي وجيدين: دقة الحاجبين مع طول كما في القاموس، أو دقة  
 الحاجبين مع سبوغهما كما في الفائق، وإنما قال: "أزج الحواجب" دون مرجع الحواجب؛ لأن الرجع خلقة والتراجيع  
 صنعة، والخلقة أشرف. قرن: [اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرافاهما]. يدره: من الإدرار على الرواية الصحيحة أي:  
 يجعله الغضب ممتلكاً قاله القاري، أي: يصير العرق ممتلكاً غضباً كما يصير الضرع ممتلكاً لينا.

أقنى العرنين: [أي: طويل الأنف مع دقة أربنته، ومع حدب في وسطه] العرنين: قال المناوي: بكسر المهملة وسكون الراء  
 وكسر النون الأولى: ما صلب من عظم الأنف أو كله أو ماحت مجتمع الحاجبين أو أوله.

**ضَلَّيْعُ الْفَمِ، مُفْلِحُ الْأَسْنَانِ، دَقِيقُ الْمَسْرُبَةِ، كَأَنَّ عَنْقَهُ جِيدُ دُمِيَّةٍ فِي صَفَاءِ الْفَضَّةِ، مَعْتَدِلُ الْخَلْقِ.**

الصورة المصورة

**بَادِنُ، مُتَمَاسِكٌ، سَوَاءُ الْبَطْنُ وَالصَّدْرُ، بَعِيدُ مَا يَبْيَنُ الْمُنْكَبَيْنِ، ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ،**

يُمسِكُ بِعَضِهِ بِعَضًا

---

ناف اور سینہ کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی، اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصہ پر بال تھے، آپ کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں فراخ، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز پر گوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدرے گھرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف سترہ اونے اور ان کی ملاست کی وجہ سے ان پر نہشہتا نہیں تھا فوراً داخل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے، قدم زمین پر آہستہ پرستا زور سے نہیں پرتا تھا۔ آپ تیز رفتار تھے اور ذرا کشاوہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ کی نظر پنجی رہتی تھی، آپ کی نگاہ بہ نسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ (اس میں یہ اشکال ہے کہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ حضور ﷺ آسمان کی طرف اکثر دیکھا کرتے تھے، دونوں میں تقطیق یہ ہے کہ عادت شریفہ تو زمین ہی کی طرف نگاہ رکھنے کی تھی لیکن چونکہ وحی کا بھی انتظار رہتا تھا، اس لئے اس کے انتظار میں گاہ بگاہ آسمان کی طرف بھی ملاحظہ فرماتے تھے ورنہ عام اوقات میں عادت شریفہ پنجی نظر رہنے کی تھی۔

**ضَلَّيْعُ الْفَمِ: [أَيْ: عَظِيمُ الْفَمِ وَوَاسِعُهُ؛ لَأَنَّ سُعْتَهُ دَلِيلٌ عَلَى فَصَاحَتِهِ]. مُفْلِحُ الْأَسْنَانِ: [أَيْ: مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ انفِرَاجٌ] مُفْلِحُ  
بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ، وَالْفَلْجُ: انفِرَاجٌ مَا بَيْنَ الشَّنَاعَيْنِ، وَالظَّاهِرُ اخْتِصَاصُ الْانفِرَاجِ بِالشَّنَاعَيْنِ، وَيُؤَيِّدُهُ إِضَافَةُ إِلَيْهِ الشَّنَاعَيْنِ فِي بَعْضِ  
الرَّوَايَاتِ، وَمَا قَالَهُ الْعَصَامُ: إِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْانفِرَاجَ مُطْلَقاً بِرَدْدَهُ أَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ الْمَدْحُ، وَقَدْ صَرَحَ جَمِيعُ مَنْ شَرَّاحُ الشَّفَاءِ أَنَّ  
انفِرَاجَ جَمِيعِ الْأَسْنَانِ عَيْبٌ. الْمَسْرُبَةُ: بَفْحُ الْمَيْمِ وَسَكُونُ السِّينِ الْمَهْمَلَةِ وَضَرُّ الرَّاءِ وَتَفْتَحُ: شِعْرٌ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ وَالسَّرَّةِ.  
مَعْتَدِلُ الْخَلْقِ: [أَيْ: مَعْتَدِلُ الصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ بِحِيثُ أَنَّ أَعْضَاءَهُ مُتَنَاسِبَةٌ غَيْرُ مُتَنَافِرَةٌ]. بَادِنُ: [أَيْ: سَمِينٌ سَمِينًا مَعْتَدِلًا]  
الرَّوَايَةُ إِلَى هُنَّا بِالنَّصْبِ، وَمَنْ هُنَّا إِلَى آخرِ الْحَدِيثِ بِالرَّفْعِ، قَالَهُ الْقَارِيُّ عَنِ الْحَنْفِيِّ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ عَلَيْهِ كَانَ سَمِينًا  
مَعْتَدِلًا، يَعْنِي لَمْ يَكُنْ سَمِينًا جَدًا وَلَا نَحِيفًا جَدًا. قَالَهُ الْبَيْحُورِيُّ. مُتَمَاسِكٌ: [أَيْ: يُمسِكُ بِعَضِهِ بِعَضًا مِنْ غَيْرِ ارْتِعَاشِ  
وَارْتِعَادِ وَإِنْ كَبِيرٌ فِي الْعُمَرِ]. الْبَطْنُ: بِإِضَافَةِ السَّوَاءِ إِلَى الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ وَبِدُونِ الإِضَافَةِ، فَيَكُونُانِ مَرْفُوعَيْنِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ.**

أَنُورُ الْمُتَجَرِّدُ، مَوْصُولُ مَا يَبْلِغُ اللَّبَّةَ وَالسُّرَّةَ بِشِعْرٍ يَجْرِي كَالْخَطِّ، عَارِيَ الثَّدَيْنِ وَالْبَطْنِ مَا سُوِيَ ذَلِكَ، أَشْعَرَ الدَّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَأَعْلَى الصَّدْرَ، طَوِيلُ الزَّئْدَيْنِ، رَحْبُ الرَّاحِةِ، شَنْ عَظِيمُ الْذِرَاعِ وَاسِعُ الْكَفِّ وَالْقَدْمَيْنِ، سَائِلُ الْأَطْرَافِ - أَوْ قَالَ: شَائِلُ الْأَطْرَافِ - حُمْصَانُ الْأَخْمَصَيْنِ، مَسِيحُ الْقَدْمَيْنِ يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ، إِذَا زَالَ زَالَ قَلْعاً، يَخْطُو تَكْفِيَاً، وَيَمْشِي هُونَّا، رَفَقاً

ادھر قاتل کی نظریں شرم سے اوپر نہیں اٹھتیں  
آپ کی عادتِ شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی (یعنی غایت شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے)۔  
چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور آپ پیچھے رہ جاتے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتداء فرماتے۔  
فائدہ: حضور ﷺ کا پیچھے رہ جانا علماء نے اس کو تواضع پر حمل فرمایا ہے۔ لیکن بندہ ناجائز کے نزدیک اگر یہ حالت سفر پر محمول ہو تو انصب ہے، اس لئے کہ حضور ﷺ کی عادتِ شریفہ یہ تھی کہ سفر میں پسمند گان اور ضفاء کی خبر گیری کے لئے آپ پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ حدیث بہت طویل ہے جس میں حضور اکرم ﷺ کا علیہ، اخلاق، عاداتِ جملہ انواعِ مذکور ہیں۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے مضامین کی مناسبوں سے اس کو کئی بابوں میں ذکر کیا ہے، چنانچہ اس کا کچھ حصہ حضور ﷺ کی گفتگو کے باب میں اور کچھ حصہ حضور ﷺ کی تواضع کے ذکر میں آئے گا۔

أَنُورُ الْمُتَجَرِّدُ: [تَبَرِّ العَضُوُ الْمُتَجَرِّدُ عَنِ الشِّعْرِ أَوْ عَنِ التَّوْبَ]. الْلَّبَّةُ: [أَوْسَطُ الصَّدْرِ، النَّقْرَةُ الَّتِي فَوْقَ الصَّدْرِ، أَوْ مَوْضِعُ الْقَلَادَةِ مِنْهُ].  
قَالَ: "أَوْ قَالَ: شَائِلٌ" شَكٌ مِنَ الرَّاوِي، "وَسَائِلُ الْأَطْرَافِ" بِالْهَمْلَةِ، أَيْ: طَوِيلُهَا، "وَشَائِلٌ" بِالْمَعْجمَةِ، قَرِيبُ مِنْهُ، مِنْ شَالَتِ الْمِيزَانِ: ارْتَفَعَتْ، أَيْ: كَانَ مُرْتَفِعًا بِالْأَطْرَافِ بِلَا انْقِبَاضٍ وَلَا احْدِيدَابٍ. شَائِلُ الْأَطْرَافِ: [أَيْ: طَوِيلُهَا طَوْلًا مُعْتَدِلًا].  
حُمْصَانُ الْأَخْمَصَيْنِ: [أَيْ: شَدِيدُ التَّحَافِيَّهَا عَنِ الْأَرْضِ، وَهَذِهِ الشَّدَّةُ لَا تَخْرُجُهُ عَنِ حَدِ الْإِعْدَادِ] الْأَخْمَصُ مِنَ الْقَدْمِ مَوْضِعُ لَيْلَصِقِ الْأَرْضِ مَنْهَا عَنِ الْوَطْيِ، وَالْحُمْصَانُ: الْمَبْلَغُ مِنْهُ، أَيْ: أَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مِنْ أَسْفَلِ قَدْمَيْهِ شَدِيدُ التَّحَافِي عَنِ الْأَرْضِ. بَعْمَلِ الْبَحَارِ. وَقَالَ الْبَيْحُورِيُّ: حُمْصَانُ كَعْثَمَانَ، وَبِضْمَتِينِ، وَبِفَتْحِ فَسْكُونِ.  
مَسِيحُ الْقَدْمَيْنِ: [أَيْ: أَمْلَسُهُمَا وَمَسْتَوِيهِمَا بِلَا تَكْسِرُ وَلَا تَشْقَقُ]. قَلْعاً: [إِنْتَرَاعُ الشَّيْءِ مِنْ أَصْلِهِ، أَوْ تَحْوِيلُهُ عَنِ حَمْلِهِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ عَلَيْهِ إِذَا مَشَى رَفْعٌ رَجْلِهِ بِقَوْةٍ كَأَنَّهُ يَقْلِعُ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ] بِفَتْحِ الْقَافِ وَسَكُونِ الْلَّامِ، أَيْ: رَفْعٌ رَجْلِهِ عَنِ الْأَرْضِ رَفْعًا بِائِنًا بِقَوْةٍ، لَا كَمْنَ بِمَشِيِّ الْخَتِيلَابِ قَالَهُ الْفَارَّاَيِّ، يَعْنِي: إِذَا زَالَ عَنِ مَوْضِعِهِ وَذَهَبَ وَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفْعٌ رَجْلِهِ بِقَوْةٍ. هُونَّا: [الْهُونُونُ: الرَّفْقُ وَاللَّيْنُ، أَيْ: كَانَ يَمْشِي بِرَفْقٍ وَلَيْنٍ وَتَثْبِتُ].

**ذریع المشیة** إذا مشى كأنما ينحطّ من صَبَبْ، وإذا التفتَ التفتَ جمِيعاً، خافِضُ الطرفِ، نظره إلى الأرض أكثرُ من نظره إلى السَّماءِ، جُلُّ نظره المُلَاحَظَةُ، يَسُوقُ أَصْحَابَهُ، ويبدأ من لقى بالسلام.  
[البصر]  
[معظم]

حدثنا أبو موسى محمد بن المشتبه، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سِمَاكِ بن حرب قال:  
 سمعت<sup>(٨)</sup> جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله ﷺ ضَلَّعَ الفم، أَشْكَلَ العَيْنَ، مَنْهُوسَ الْعَقِبِ، قال شعبة: قلت لسماك: ما ضَلَّعَ الفم؟ قال: عظيم الفم، قلت: ما أَشْكَلَ العَيْنَ؟ قال: طوين شَقَّ العَيْنَ. قلت: ما مَنْهُوسَ الْعَقِبِ؟ قال: قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ. حدثنا هناد بن السريّ، حدثنا عَبْرَةَ بْنَ الْقَاسِمِ، عن أَشْعَثَ - يعني ابن سوار - عن أبي إسحاق، عن<sup>(٩)</sup> جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كارب

(٨) جابر بن سمرة رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ فراخ دہن تھے، آپ کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، ایڈی مبارک پر گوشت بہت کم تھا۔ فائدہ: الٰل عرب مرد کے لئے فراخ دہنی پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک اس جگہ فراخ دہنی سے فصاحت مراد ہے۔ آنکھوں کی تعریف میں جو ترجمہ کیا گیا وہ صحیح قول کے موافق لکھا گیا، ورنہ اس حدیث کے ترجمہ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ایک راوی سے فراخ چشم کا ترجمہ نقل کیا ہے، وہ الٰل لغت کے نزدیک غلط ہے۔

خمار آلودہ آنکھوں پر ہزاروں میکدے قربان  
وہ قاتل بے پئے ہی رات دن مخمور رہتا ہے

(٩) حضرت جابر رضي الله عنه سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور اقدس ﷺ کو دیکھ رہا تھا،

ذریع: [واسع الخطوة]. يسوق أصحابه: [أي: يقدمهم بين يديه]. يبدأ: من البداءة، وفي بعض النسخ: يبدأ بضم الدال والراء المهملتين، والمعنى متقارب. طوين: هذا التفسير خلت عنه كتب اللغة المتداولة، ومن ثم جعله القاضي عياض وهما، والصواب ما اتفق عليه العلماء وجميع أصحاب الغريب: أن الشكلة حمرة في بياض العين. هناد: بشدید النون، آخره دال مهملة، و"السري" بفتح السين المهملة المشددة، وكسر الراء المهملة، بعدها ياء مشددة. والحديث - على ما قاله النسائي - خطأ، وإنما هو مستند إلى البراء، ورُدَّ بأن البخاري صاحح إسناده إلى البراء وجابر كليهما.

رأيت رسول الله ﷺ في ليلة إضْحِيَانٍ وعليه حُلَّة حمراء، فجعلتُ أنظر إليه وإلى القمر، فلَهُو عندِي أحسن من القمر. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن زهير، عن <sup>(١٠)</sup> أبي إسحاق قال: سأله رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله ﷺ مثلَ السيف؟ قال: لا، بل مثلَ القمر. حدثنا أبو داود المصافي سليمان بن سلمٌ، حدثنا <sup>فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ كَانَ نُورًا لِّلنَّاسِ</sup> النضر بن شمِيلٍ، عن صالح بن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، <sup>بفتح السين وسكون اللام</sup>  
<sup>فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ كَانَ نُورًا لِّلنَّاسِ</sup>  
<sup>مُحَمَّدٌ بْنُ مُسْلِمٍ</sup>  
<sup>صَدِيقٌ</sup>

حضور ﷺ اس وقت سُرخ جوز ازیب تن فرماتھے، میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ کو، بالآخر میں نے یہ ہی فیصلہ کیا کہ حضور اکرم ﷺ چاند سے کہیں زیادہ جمیل و حسین اور منور ہیں۔

دیر و حرم میں روشنی مش و قمر سے ہو تو کیا

مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں

(١٠) ابو اسحاق کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت براء سے پوچھا کہ کیا حضور اقدس ﷺ کا چہرہ مبارک تکوار کی طرح شفاف تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ بدر کی طرح روشن گولائی لئے ہوئے تھا۔ فائدہ: تکوار کی تشییہ میں یہ نقصان تھا کہ اس سے زیادہ طویل ہونے کا شبہ پیدا ہوتا تھا، نیز اس کی چک میں سفیدی غالب ہوتی ہے نورانیت نہیں۔ اس لئے حضرت براء رض نے تکوار سے انکار کر کے چاند سے تشییہ دی۔ یہ تشییہات سب تقریبی ہیں ورنہ ایک چاند کیا ہزار چاند میں کبھی حضور اقدس ﷺ جیسا نور نہیں ہو سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ اگر تجھے مدوح کو عیب ہی لگانا ہے تو اسے چودھویں رات کے چاند سے تشییہ دے دے، اس کے عیب لگانے کے لئے یہ کافی ہے۔

ليلة إضْحِيَان: [ليلة مقرمة من أو لها إلى آخرها ولا غيم فيها] "ليلة" بالتنوين و "إضْحِيَان" بكسر الهمزة، وسكون الضاد المعجمة، وكسر الحاء المهملة، وتخفيف التحتانية، آخره نون متونة، منصرف وإن كان فيه الألف والنون زائدتين، أي: ليلة مقرمة من أو لها إلى آخرها. الرؤاسي: بضم الراء وفتح الهمزة آخره سين مهملة بعدها ياء منسوب بـ لـ جـ لـ دـ رـ ؤـ اـ سـ، وهو الحارث بن كلاب بن ربيعة. وقيل: منسوب إلى بيع الرؤوس، وهو غلط روایة ودرایة.

مثل السيف: [أي: من الاستنارة والاستطالة]. المصافي: قال البيجوري: بفتح السين وكسر الحاء، نسبة إلى المصافي، لعله لكتابته لها أو بيعه، وكان القياس أن ينسب إلى المفرد، وهو مصحف بتثليث الميم.

عن <sup>(١١)</sup> أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ أَيْضًا صَفِيفًا من فِضَّةِ، رَجُلُ الشَّعْرِ.  
الختلف في اسمه على أربعين قولاً

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه  
محمد بن مسلم<sup>(١٢)</sup>

أن رسول الله ﷺ قال: عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ إِذَا أَقْرَبَ مَنْ رَأَيْتَ بِهِ شَبَهًا عُرُوْةَ بْنَ مُسْعُودَ،  
فِيلَةَ فِي اليمن

(١) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ اس قدر صاف شفاف حسین و خوبصورت تھے گویا کہ چاندی سے آپ کا بدن ڈھالا گیا ہے۔ آپ کے بال مبارک قدرے خمار گنگریا لے تھے۔ فائدہ: سب سے پہلی روایت جو حضرت انس غَنِيَّةً کی گزر چکی ہے، اس میں بالکل سفید رنگ کی نفی کی گئی تھی اس لئے اس حدیث سے یہ مراد نہیں کہ چاندی کی طرح سے بالکل سفید رنگ تھے بلکہ سفیدی سرخی مائل تھی اور چمک و حسن غالب تھا۔

(٢) جابر بن عبد الله رضي الله عنه حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب انبیاء صلی الله علیہ وسلم پیش کئے گئے یعنی مجھے دکھائے گئے، پس حضرت موسی عليه السلام کو میں نے دیکھا تو وہ ذرا پتے ڈبلے بدن کے آدمی ہیں گویا کہ قبیلہ شنوة کے لوگوں میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ عليه السلام کو دیکھا تو ان سب لوگوں میں سے جو میری نظر میں سے ہیں عروہ بن مسعود ان سے زیادہ ملتے جلتے معلوم ہوئے، اور حضرت ابراہیم عليه السلام کو دیکھا تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے میں خود ہی ان کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوں، ایسے ہی جریئل عليه السلام کو دیکھا تو ان کے ساتھ زیادہ مشابہ ان لوگوں میں سے جو میری نظر میں ہیں دیکھے کلی ہیں۔

صیف من فضة: [أي: لأنَّه كَانَ يَلْعُلُ بِيَاضِهِ النُّورُ وَالإِشْرَاقِ]. عرض علي: أي: في ليلة المعراج كما يدلّ عليه روایة البخاري، أو في المنام كما يدلّ عليه روایته الأخرى. ضرب: بفتح الصد الممعجمة وسكون الراء، أي: خفيف اللحم و"من الرجال" صفة ضرب. قاله القاري. شنوة: بفتح المعجمة وضمّ النون، ثم واو ساكنة، ثم همزة مفتوحة بعدها تاء، قبيلة من اليمن أو من قحطان، وهم متقطعون بين الخفنة والسمن. مريم: [بنت عمران، من ذرية سليمان، بينها وبينها أربعة وعشرون أباً].

عروة بن مسعود: [الثقفي لا المزلي، الذي أرسلته قريش يوم الحديبية، فعقد معه الصلح وهو كافر، ثم أسلم سنة تسع من الهجرة] أي: الثقفي لا المزلي كما توهם، ولا يخفى عليك أن "أقرب" مبتدأ، حرره "عروة" و"من" موصولة، عائدًا محنوف، أي: أقرب الذي رأيته، و"به" متعلق بـ "شبها" المنصوب على أنه تميز للنسبة وصلة القرابة معنونة أي إله أو منه.

ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب منْ رأيت به شَبَهًا صاحبكم - يعني نفسه الكريمة - ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شَبَهًا دُخْيَةً. حدثنا محمد بن بشار وسفيان بن وكيع -  
 المعنى واحد - قالا أخبرنا يزيد بن هارون، عن سعيد الجُريري قال: سمعت أبا الطفيلي <sup>الكتابي</sup>  
نسبة بلده جرير مصر يقول: رأيت رسول الله ﷺ وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صِفْهُ لي، قال:  
حقيقة أو في علمه كان أبيض مليحًا مقصداً، صلوات الله وسلامه عليه.

فائدہ: یہ حضور اقدس ﷺ کا انیا کو دیکھنا یا شبِ معراج میں ہوا ہے یا خواب کی حالت میں ہوا ہے۔ بخاری شریف میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں اور اس اختلاف میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں مرتبہ دیکھا ہو، نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ہلکے بدن کا ترجمہ اپنے نزدیک راجح قول پر کیا ورنہ بعض علماء نے اس کے ترجمہ میں اور بھی اقوال فرمائے ہیں۔ ان تین انیا کا ذکر اس لئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اولادہ ازیں کہ حضور ﷺ کے اجداد میں تھے جملہ عرب ان کو مانتے تھے۔

(۱۳) سعید جریری کہتے ہیں کہ میں نے ابوالطفیل رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور اقدس ﷺ کے دیکھنے والوں میں اب روئے زمین پر میرے سوا کوئی نہیں رہا۔ میں نے اُن سے کہا کہ مجھ سے حضور ﷺ کا کچھ حلیہ بیان کیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور ﷺ سفید رنگ تھے ملاحت کے ساتھ یعنی سُرخی مائل اور معتدل جسم والے تھے۔

دحیۃ: کسدرا و قدیفتح أوله، معناه في الأصل: رئيس الجند، صحابي مشهور، وكان جبريل عليه السلام يأتي غالباً على صورته؛ لأن عادة العرب قبل الإسلام إذا أرسلوا رسولاً إلى ملك لا يرسلونه إلا مثل دحیۃ في الجمال أو الفصاحة، فإنه كان بارعاً في الجمال حتى تضرب به الأمثال، قاله البيحوري. أبا الطفيلي: عامر بن وائلة، كان من جماعة عليٍّ ومحبيه، ولد عام الهجرة أو عام أحد، ومات سنة عشر ومائة على الصحيح على ما قاله البيحوري في شرح الشمائل، واختاره الحافظ في تقریبہ فیصح حبیثہ قوله: ما بقی علیٰ وجہ الارض أحد رآه غيری. مليحًا: [أی: أبيض مشرب بحمرة]. مقصداً: بتشدید الصاد المفتوحة على أنه اسم مفعول من باب التفعيل أي: متوسطاً، يقال: رجل مقصد، أي: متوسط، كما يقال: رجل قصد أي: وسط، قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قُصْدُ السَّبِيلِ﴾ (الحل: ٩)

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا إبراهيم بن المنذر **الحزامي**، أخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهرى،  
كذا في النسخ، والصواب عبد العزيز بن أبي ثابت  
حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة، عن كريپ،  
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ نعت ل اسماعيل أَفْلَجَ الشَّيْطَيْنِ، إِذَا تَكَلَّمَ رَئِيْسُ الْكَوْرَيْرِ يَخْرُجُ مِنْ يَنْ شَيْأَاهُ

فائدہ: ابو الطفیل رضي الله عنه نے صحابہ میں سب سے اخیر میں وفات پائی ہے۔ ان کی وفات ایک سو دس ہجری میں ہوئی ہے۔  
اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ اب میرے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں رہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ روئے زمین کی قید اس لئے لگائی کہ  
آسمان پر حضرت ﷺ آپ کے دیکھنے والوں میں موجود تھے۔

(۱۲) ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت کچھ کشادہ تھے، یعنی ان میں کسی قدر ریختیں تھیں  
گنجان نہ تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو ایک نور سا ظاہر ہوتا جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا۔ فائدہ: علماء  
کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ یہ تشبیہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا اس کو نور کے  
ساتھ تشبیہ دی ہے، لیکن علامہ مناوی کی رائے یہ ہے کہ کوئی جسی چیز تھی تشبیہ نہیں جو بطور مجذہ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم  
کے دانتوں کے درمیان سے نکلتی تھی۔

حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بھلی گرادینا

حیا سے سر جھکا لینا ادا سے مسکرا دینا

الغرض خلیل مبارک میں ہر ہر چیز کمال حسن کو پہنچی ہوئی تھی۔

گھپیں بہار توز دامان گلہ دارو

دامان نگہ نگہ و گل حسن تو بسیار

یعنی جیسے آپ جمالِ معنوی میں منتسب ہر تھے، ایسے ہی جمالِ ظاہری میں بھی انتباہ پر تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ بَقْدَرِ حُسْنِي وَجَمَالِي

الحزامي: بحاء مهملة مكسورة وزاي بعدها ألف فميم، نسبة إلى جده حزام، فإنه إبراهيم بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حرام القرشي. أَفْلَج: [فرحة بين الثنائي والرباعيات]. الشيتين: [تشبيه ثانية بشديد الباء]. كالثور: أي: يرى شيء أَيْضَّ لَهُ صَفَاءً، يَلْعَمُ كَالثُورَ، مَعْجَزَةً لِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، هكذا قالت الشراح، ولا مانع من ذلك، ولا يبعد عندي أن يكون هذا من كمال جماله، فمن يبلغ من الحسن أقصاه يظهر في كلامه لمعة، وهو مشاهد.

## بابُ ما جاءَ في خاتم النُّبُوَّة

حدثنا فُتْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَاتَمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ  
 السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبْتُ بِي خَالِتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

كَسَعْدُ رَاوِي الشِّيخِينَ وَغَيْرِهِ  
مُبَدِّلُ اسْمِهِ

---

## باب۔ حضور اقدس ﷺ کی مہر نبوت کا بیان

فائدہ: یہ مضمون حضور اقدس ﷺ کے خلیل شریف کے ذیل میں ہونے کی وجہ سے پہلے باب کا جزو ہونا چاہئے تھا مگر شدتِ اہتمام کی وجہ سے اور نیز اس وجہ سے کہ یہ مجذہ اور علاماتِ نبوت سے بھی ہے، اس کو علیحدہ ذکر کیا جاتا ہے۔ مہر نبوت حضور اقدس ﷺ کے بدن پر ولادت ہی کے وقت سے تھی جیسا کہ فتح الباری نے بواسطہ یعقوب بن حسن حضرت عائشہؓؓ کی حدیث سے نقل کیا ہے اور حضور کی وفات میں جب بعض صحابہ کو شک ہوا تو حضرت امام غوث الشیبانیؓؓ نے مہر نبوت کے نہ ہونے سے وصال پر استدلال کیا کہ اس وقت وہ نہیں رہی تھی، چنانچہ مناوی نے اس قدر کو مفضل نقل کیا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس مہر نبوت پر کچھ لکھا ہوا تھا یا نہیں۔ ابن حبان وغیرہ نے اس کی صحیحیت کی ہے کہ اس پر (محمد رسول اللہ) لکھا ہوا تھا اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر (سرفانت المنصور) لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم جہاں چاہے جاؤ تمہاری مدد کی جائے گی۔ بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ یہ روایتیں ثبوت کے درجہ کو نہیں پہنچی ہیں۔ اس باب میں امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے آٹھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) سائب بن یزید کہتے ہیں کہ مجھ کو میری خالہ حضور اقدس ﷺ کے پاس لے گئیں اور عرض کیا کہ یہ میرا بھانجا بیمار ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے دعاۓ برکت فرمائی (بعض علماء کے نزدیک حضور ﷺ کا سر پر

خاتم: [أي: باب بيان ما ورد في شأنه من الأخبار، وإنما أفرده بباب مع أنه من جملة الخلق اهتماماً بشأنه لتميزه عن غيره بكونه معجزة، وكونه علامة على أنه النبي الموعود به في آخر الزمان، الطابع الذي ختم به جبريل عليه السلام حين شقَ صدره الشريف، فإنه أتى به من الجنة علامه به حينئذ، فظهر لها خاتم النبوة الذي هو قطعة لحم] هو بفتح النساء وكسره، والكسر أشهر، وإضافته للنبيوة؛ لكونه من آياتها.

إِنَّ أَبْنَى أَخْتِي وَجْعَ، فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ رَأْسِي، وَدَعَالِي بِالْبِرَّكَةِ، وَتَوْضَأَ، فَشَرِبَ مِنْ وَضُوءِهِ، وَقَمَتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرَ إِلَى الْخَاتِمِ الَّذِي بَيْنَ كَتْفَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرَّ الْحَجَّلَةِ.

ہاتھ پھیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے سر میں کوئی تکلیف تھی۔ لیکن بندہ ضعیف کے نزدیک اچھا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کا ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا شفقت کے لئے تھا، اس لئے کہ سنہ ۲ ہجری میں ان کی ولادت ہے تو حضور اقدس ﷺ کے وصال کے وقت تک بھی ان کی عمر آٹھ نو سال سے زائد کی نہیں تھی، اس لئے یہ ہاتھ پھیرنا شفقت کا تھا جیسے کہ بزرگوں کا معمول ہوتا ہے، اور علاج کے لئے حضور اقدس ﷺ نے وضو کا پانی پلوایا، جیسا کہ آگے آتا ہے یا کوئی اور تجویز فرمائی، بالخصوص جب کہ بخاری شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں میں کوئی تکلیف تھی) اور حضور اکرم ﷺ نے وضو فرمایا تو میں نے حضور اقدس ﷺ کے وضو کا پانی پیا (حضور اقدس ﷺ کا یہ وضو ممکن ہے کہ اپنی کسی غرض سے ہو لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان کی دوا اور پانی پلانے ہی کی غرض سے حضور ﷺ نے وضو فرمایا) میں اتفاقاً یا قصداً حضور ﷺ کے پس پشت کھڑا ہوا تو میں نے مہربوت دیکھی جو سہری کی گھنڈیوں جیسی تھی (جو کبتر کے بیضہ کی برابر بیضوی شکل میں اس پر دہ میں لگی ہوئی ہوتی ہے جو سہری پر لٹکایا جاتا ہے۔ علماء اس لفظ کے ترجمہ میں مختلف ہوئے ہیں،

وجع: [أي: ذو وجع، وهو يقع على كل مرض] بفتح الواو وكسر الجيم أي: ذو وجع، وكان ذلك الوجع في لحم قدمه؛ بدليل أنه وقع في البخاري في أكثر الروايات "وقع" بالكاف بدل الجيم، والواقع بالتحرير: هو وجع لحم القدم، قيل: يقتضي مسحة بـ رأسه أن مرضه كان برأسه، ودفع بأنه لا مانع من الجمع. قال العسقلاني: وفي بعض الروايات "وقع" بلفظ الماضي، قال ابن بطال: المعروف عندنا بفتح القاف والعين، فيحتمل أن يكون معناه: وقع في الأرض فوصل إلى ما حصل، قاله القاري. رأسي: خص الرأس بالمسح؛ لأنه مدار البقاء والصحة ومناط السلامة يدور على سلامه الدماغ، وبينه وبين الأعضاء الرئيسة ارتباط واشتراك، ولأنه أشرف أعضاء البدن. ومن أثر مسحة أن رأسه لم يزل أسود مع شيء ما سواه.

زر: [واحد الأزرار التي توضع في العرى التي تكون للخيمة] بتقدیم الزاء المكسورة على الراء المهملة المشددة على ماصوبه النووي، وقيل: بتقدیم الراء المهملة. قيل: الأول أوفق بظاهر الحديث لكن الروایة لا تساعدہ، فعلی الأول "الزر" واحد الأزرار، و"الحجلة" بفتحتين، وقيل: بالضم أو بالكسر مع سکون الجيم، قبة صغيرة تعلق على السرير، وعلى الثاني "الرز": البيض، و"الحجلة": الطائر المعروف. الحجلة: [قبة صغيرة تعلق على السرير، وقبل الطائر المعروف (القبحة) وزرها بيضها].

حدثنا سعید بن يعقوب الطالقاني، أخبرنا أیوب ابن جابر، عن سماک بن حرب، عن جابر <sup>(۲)</sup>  
 بن سمرة نقہ من العاشرة، قال: رأيت الخاتم بين كثيفي رسول الله ﷺ غدّة حمراء مثل بيضة الحمامه.  
هذا التشبيه في المقدار لا في اللون

حدثنا أبو مصعب المدنی، أخبرنا يوسف بن الماجشون، عن أبيه، عن عاصم بن عمر بن قنادة،  
نسبة إلى مدينة الرسول مغرب ما يغدو معقب  
 عن جدتہ رُمیثة شيئها قالت: سمعت رسول الله ﷺ

جس کا میں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اور طرح سے ترجمہ فرمایا ہے لیکن امام نووی رسانی نے جو مسلم شریف کے مشہور شارح ہیں، انہوں نے ان ہی معنی کو ترجیح دی ہے) فائدہ: اس حدیث میں اگر وضو کے پانی سے وضو کا بچا ہوا پانی مراد ہے تب تو کوئی اشکال و اختلاف ہی نہیں، اور اگر وضو کا وہ پانی مراد ہے جو بدن سے دھو کر گرتا ہے جس کو ماں مستعمل کہتے ہیں تب بھی کوئی اشکال اس جگہ اس لئے نہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے توفیقات تک بھی پاک ہیں پھر ماں مستعمل کا کیا ذکر  
 (۲) جابر بن سرہ رسانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان دیکھا جو سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے جیسی تھی۔ فائدہ: مہر نبوت کی مقدار اور رنگ میں روایتیں کچھ مختلف ہیں۔ قرطی نے ان میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ وہ کم وزیادہ بھی ہو جاتی تھی اور رنگ میں مختلف ہوتی رہتی تھی۔ بندہ ناجیز کے نزدیک دوسری طرح جمع یہ بھی ممکن ہے کہ حقیقت میں یہ سب تشبیہات ہیں اور تشبیہ ہر شخص کی اپنے ذہن کے موافق ہوتی ہے جو تقریبی حالت ہوتی ہے اور تقریب کے اختلاف میں اشکال نہیں ہوتا۔ بندہ کے نزدیک یہ توجیہ زیادہ مناسب ہے۔  
 (۳) رُمیثة کہتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ سے یہ مضمون سنًا، اور میں اس وقت حضور اقدس ﷺ کے اتنی قریب تھی کہ اگر چاہتی تو مہر نبوت کو چوم لیتی۔ وہ مضمون یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ سعد بن معاذ کے حق میں یہ ارشاد فرمائے تھے کہ ان کی موت کی وجہ سے حق تعالیٰ علی الاز کا عرش بھی ان کی روح کی خوشی میں جھوم گیا۔

الطالقاني: بكسـر اللـام وقد تفتح، نسبة إلى طالقان بلدة من بلاد قزوين. غـدة: [قطعة اللـحم، أي: لـحم يـحدث بين الجـلد والـلـحم يـتحرـك بالـتحـريك، أو كلـ قطـعة لـحم صـلـبة تـحدـث عن دـاء بـين الجـلد وـالـلـحم] بـضمـ المـعـجمـة وـتشـديـد الدـالـ المـهـمـلـة، لـحم يـحدـث بـين الجـلد وـالـلـحم يـتحرـك بالـتحـريك قالـه المـناـويـ، وـكونـه حـمـراء مـعـناـه: مـائـلة إـلـى الـحـمـرـة؛ لـثـلا يـنـافـي روـاـيـة مـسـلـمـ أـنـه كـانـ عـلـى لـوـن جـسـدـه رسانی، قالـه القـاريـ. رـمـيـثـة: بـضمـ الرـاء المـهـمـلـة وـفتحـ المـيمـ وـفتحـ الـيـاء وـسـكـونـ الـيـاءـ، صـحـابـيـةـ لها حـدـيـثـانـ: أحـدـهـما هـذـاـ، وـالـثـانـيـ فـيـ صـلـوةـ الضـحـىـ، روـتـهـ عـنـ عـائـشـةـ، خـرـجـ لـهـ النـسـائـيـ، قالـهـ الـبـيـحـورـيـ وـغـيـرـهـ.

- ولو أَشَاءَ أَنْ أَفْبَلِ الْخَاتَمَ الَّذِي يَنْ كَتْفِيهِ مِنْ قَرْبِهِ لَفَعَلَتْ - يَقُولُ لَسْعَدُ بْنُ مَعَاذَ يَوْمَ مَاتَ:  
 [من أَحْلِ قَرْبَهُ].  
**اَهْتَلَهُ عَرْشَ الرَّحْمَنِ.**  
 اضطراب

فاائدہ: اس میں اختلاف ہے کہ عرش کی حرکت کی کیا وجہ اور کیا معنی۔ مشہور قول یہ ہے جس کے موافق ترجمہ لکھا گیا۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عرش کے جھونمنے سے مراد اہل عرش ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ عرش سے مراد سعد کا اپنا تخت ہے وغیرہ وغیرہ۔ گر راجح قول اول ہی ہے۔ یہ سعد بن معاذ بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہیں اُن کے اور بھی فضائل کتبِ حدیث میں آتے ہیں۔ بہرث سے قبل نبی اکرم ﷺ نے حضرت مصعب بن عمير رضی اللہ عنہ کو تعلیم و تبلیغ کے لئے مدینہ طیبہ بھیجا تھا ان کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہوئے، اپنی برادری کے سردار تھے اس لئے ان کے مسلمان ہوتے ہی تمام خاندان اسی روز مسلمان ہو گیا، سب سے اول جس خاندان نے مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا وہ یہی خاندان ہے۔ سنہ ۵ ہجری میں ان کا وصال یعنی سال کی عمر میں ہوا۔ ستر ہزار فرشتے ان کے جنازہ کی نماز میں شریک ہوئے تھے لیکن باوجود ان سب کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر کی تھوڑی دیر کی تکلیف ان کیلئے بھی پیش آئی۔ بڑی عبرت کی جگہ ہے، آدمی کو عذاب قبر سے کسی طرح غافل نہیں ہونا چاہئے، ہر وقت اس سے توبہ کرتے رہنا چاہئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب کسی قبر پر گزر ہوتا تو اس قدر روتے کہ واڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، کسی نے عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے اُس پر تو آپ نہیں روتے اس پر اس قدر روتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ سے سُنَّا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے جو اس سے نجات پالے اس کے لئے اس کے بعد کی ساری منزلیں سہل ہو جاتی ہیں اور جو اس کے عذاب سے خلاصی نہ پاسکے اس کے لئے اس کے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ دشوار ہوتی ہیں۔

ولو أَشَاءَ: جملة معتبرة بين الحال - وهو جملة يقول إلخ - وبين صاحبها - وهو رسول الله - والغرض منه ﷺ بیان قرها منه جداً تحقيقاً لسماعها، وعبرت بالمضارع إشارة إلى أن تلك الحال كالمشاهدة. ثم الحديث لا يبدل على جواز النظر إلى الأجنبي فلا حاجة إلى الجواب، ولو سلم فيمكن أن يأول بمثل أنه كان مخصوصاً له ﷺ. لسعد بن معاذ: [كان من عظماء الصحابة، شهد بدرًا وثبت مع المصطفى ﷺ يوم أحد، ورمي يوم الخندق في أكْحَلَه فلم يرقَ الدَّم حتى مات، ودفن بالبقاء، وشهد حناته سبعون ألف ملك]. يوم مات: يحتمل أن يكون من قوله عليه السلام، فهو ظرف لقوله: اهتز، والظاهر أنه من كلام رميثة، فظرف لقوتها: يقول. اهتزَه عرش الرحمن: [استبشرًا وسرورًا بقدوم روحه، وقيل: حملة عرش الرحمن].

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، وعليّ بن حُجر، وغير واحد قالوا: أخبرنا عيسى بن يونس، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة <sup>فتح بِعْجَة وَتَشْدِيد مُوَحَّدة</sup> قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب <sup>(٤)</sup> قال: كان علي <sup>نَبِيٌّ</sup> إذا وصف رسول الله ﷺ - فذكر الحديث بِطُوله - وقال: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبئين. حدثنا محمد بن بشّار أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا عَزْرَة بن ثابت، حدثني علباء بن أحمر قال: حدثني <sup>(٥)</sup> عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله ﷺ يا أبا زيد! ادن مني فامسح ظهره، فمسحت ظهره،

نیز میں نے حضور سے یہ بھی سُنا ہے کہ میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر سب سے زیادہ ہولناک پایا۔ (مکونہ) اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ امام ترمذی <sup>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</sup> کی غرض اس جگہ حضرت سعد <sup>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</sup> کے تھرے سے نہیں بلکہ اس حدیث میں مہر نبوت کا ذکر آگیا اس لئے انہوں نے ذکر فرمادیا، اور حضرت ریشہ کی غرض مہر نبوت کے بیان کرنے سے اپنے قریب ہونے کا بیان ہے کہ میں بہت ہی قریب تھی جب کہ میں نے یہ مضمون سُنا، سُننے میں کسی قسم کی غلطی وغیرہ کا احتمال نہیں۔

(۲) ابراهیم بن محمد جو حضرت علی <sup>نَبِيٌّ</sup> کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی <sup>نَبِيٌّ</sup> جب حضور القدس <sup>نَبِيٌّ</sup> کی صفت بیان کیا کرتے تو یہ یہ صفتیں بیان کرتے اور حدیث مذکورہ سابق ذکر کی۔ منجملہ ان کے یہ بھی کہتے کہ حضور کے دونوں مونذھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبئین تھے۔ فائدہ: یہ حدیث پہلے باب میں مفصل گزر چکی ہے اس لئے یہاں مختصر طور سے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور چونکہ اس میں مہر نبوت کا ذکر تھا اس لئے اس کو خاص طور سے ذکر کر دیا۔ یہ وہی حدیث ہے جو باب اول کے آٹھویں نمبر پر گزری ہے۔

بطوله: قال القاري والمناوي: تقدم الحديث بطوله في الباب الأول. علباء: بكسر العين المهملة وسكون اللام بعدها موحدة ومد. يا أبا زيد: هكذا في بعض النسخ بدون الممزة، وفي بعضها بالممزة، قال القاري: يكتب بغير ألف لكن يقرأ بها، قال ميرك: وقد يترك في اللفظ أيضاً تحفيفاً. والحديث أخرجه ابن سعد بهذا السند عن أبي زمعة باللفظ: قال: قال لي رسول الله ﷺ يا أبا زمعة! ادن مني، فامسح ظهره، ثم وضعت أصابعه على خاتم فغمزها، قلنا له: ما الخاتم؟ قال: شعر مجتمع عند كتفه. فقيل: يتحمل أن يكون أحد الطريقين وهما، وقيل: يتحمل أن يكون للحديث طريقان.

فوقعتْ أصابعِي عَلَى الْخَاتَمِ، قَلْتَ: وَمَا الْخَاتَمُ؟ قَالَ: شَعَرَاتُ مُجَمَّعَاتٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارُ الْحَسِينُ  
 بن حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلَيْهِ بْنُ حَسِينٍ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيَّةَ  
 قَالَ: سَعَتْ أَبِي بُرِيَّةَ<sup>(١)</sup> يَقُولُ: جَاءَ سَلْمَانَ الْفَارَسِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِيمِ الْمَدِينَةِ بِمَائِدَةِ  
قالله عليه  
نسمة إلى حرارة القبيلة  
بدل من لفظ أبي

(۵) علیاء ابن احرکتے ہیں کہ مجھ سے عمرو بن اخطب صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ قفسہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے  
 مجھ سے کرنے کے لئے ارشاد فرمایا، میں نے حضور ﷺ کی کرمتی شروع کی تو اتفاقاً میری انگلی مہر نبوت پر لگ گئی۔ علیاء  
 کہتے ہیں کہ میں نے عمرو سے پوچھا کہ مہر نبوت کیا چیز تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ چند بالوں کا مجموعہ تھا۔

فائدہ: یہ پہلی روایات کے خلاف نہیں ہوئی اس لئے کہ اس کے اطراف میں بال بھی تھے، انہوں نے صرف ان کا ذکر کر دیا۔

(۶) بُرِيَّةُ بْنُ الْحَصِيبِ رضي اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ مذکورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضي اللہ عنہ  
 ایک خوان لے کر آئے جس پر تازہ کھجوریں تھیں، اور حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور ﷺ نے دریافت  
 فرمایا کہ سلمان یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر صدقہ ہیں۔ حضور ﷺ نے  
 ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے اس لئے میرے پاس سے اٹھاؤ۔ (اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ "ہم لوگ" سے کیا  
 مراد ہے۔ بعض کے نزدیک حضور اقدس ﷺ کی ذات اور جمع کے لفظ سے تشریفاً تعبیر فرمایا، اور بعض کے نزدیک جماعت  
 انہیا مراد ہے، اور بعض کے نزدیک حضور اور حضور کے وہ اقارب جن کو زکوٰۃ کا مال جائز نہیں، وہ مراد ہیں۔ بندہ ناجیز کے  
 نزدیک یہ تیرا احتمال رائج ہے، اور علامہ مناوی کے اعتراضات جو اس تیسری صورت میں ہیں زیادہ وقوع نہیں) دوسرے  
 دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ سلمان کھجوروں کا طباق لائے اور حضور اقدس ﷺ کے سوال پر سلمان نے عرض کیا  
 رسول اللہ! یہ آپ کے لئے ہدیہ ہے۔ حضور ﷺ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ برداھاؤ۔ (اور حضور اقدس ﷺ نے  
 خود بھی نوش فرمایا، چنانچہ نبھوری نے اس کی تصریح کی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا اس طرح پر دونوں دن لانا یہ حقیقت

= وذكر القاري في جمع الوسائل: حديث ابن سعد هذا بلفظ أبي رمثة، ثم قال: قال ميرك: والظاهر أن إحدى الروايتين  
 وهم، والمرجح رواية الترمذى؛ لأنه أوثق من ابن سعد. وقال المناوي: قال العصام: يظهر أن إحدى الروايتين وهم، ويرجح  
 رواية الترمذى؛ لأن عزرة حميد أبي زيد فهو أعلم بمحدثه.

مجتمعات: [أي ذو شعرات مجتمعات]. بمائدة: هي خوان عليه طعام، ولا فهو خوان لا مائدة، فهي من الأشياء التي  
 تختلف أسماؤها باختلاف الأوصاف كالبستان، فإنه لا يقال له: حديقة إلا إذا كان عليه حائط.

عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله ﷺ فقال: يا سلمان! ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال: ادفعها فإنما لأنأكل الصدقة،

میں حضور اقدس ﷺ کے آقابنے کا امتحان تھا، اس لئے کہ سلمان رضی اللہ عنہ پرانے زمانہ کے علماء میں تھے۔ اڑھائی سو برس اور بعض کے قول پر سارے تین سو برس کی ان کی عمر ہوئی ہے۔ انہوں نے حضور اقدس ﷺ کی علامات میں جو پہلی کتب میں پڑھ رکھی تھیں، یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ صدقہ نوش نہیں فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے ہیں اور آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ پہلی دونوں علامتیں دیکھنے کے بعد پھر حضور اقدس ﷺ کی پشت پر مہر نبوت دیکھی تو مسلمان ہو گئے (سلمان رضی اللہ عنہ اس وقت یہودی بنی قریظہ کے غلام بنے ہوئے تھے) حضور ﷺ نے ان کو خریدا (مجاز آخریدا کے لفظ سے تعبیر کر دیا) ورنہ حقیقت میں انہوں نے سلمان کو مکاتب بنایا تھا۔ مکاتب بنانا اس کو کہتے ہیں کہ آقا غلام سے یہ معاملہ کرے کہ اتنی مقدار جو آپس میں طے ہو جائے، کما کردید و پھر تم آزاد ہو۔ اور بدلت کتابت بہت سے دراهم قرار پائے) اور نیز یہ کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے لئے (تین سو) کھجور کے درخت لگائیں اور ان درختوں کے پھل لانے تک ان کی خبر گیری کریں۔

عليهارطب: لا يخالف ما رواه أحمد والبزار بسنده جيد عن سلمان: فاحطبت حطبا فعنه فصنعت به طعاما، فأتيت به النبي ﷺ، وما رواه الطبراني: فاشترىت لحم جزور بدرهم، ثم طبخته فجعلته قصعة من ثريد فاحتملتها على عاتقي؛ لاحتمال تعدد الواقعه، أو أن المائدة كانت مشتملة على كلها. قلت: إن كان لفظ "فامن به" في جميع الروايات فالظاهر هو الثاني.

عليك: قبل: في التعبير بـ"على" ههنا، و"اللام فيما" سيأتي إشارة إلى الفرق بين الصدقة والمهدية بأن المقصود من الصدقة الترحم، ومن المهدية الإكرام. ادفعها: أي: فرقها بنفسك على مستحقيها، وفي نسخة: "ارفعها" بالراء، وعليها عامه الشرح، قال البيحوري: ظاهره أنه أمره برفعها مطلقا ولم يأكل منها أصحابه، ووجهه بعضهم بأن المتصدق تصدق به عليه وعليهم، وحصته لم تخرج عن ملك المتصدق وهي غير متميزة، لكن المعروف في كتب السير وهو الصحيح كما قاله الولي العراقي أنه قال لأصحابه: كلوا وأمسك. رواه أحمد والطبراني بطرق عديدة، وحمل هذا الحديث على أن المراد: ارفعها يعني لا مطلقا، فلا ينافي أن أصحابه أكلوه، لكن بعد أن جعلها سلمان صدقة عليهم كما قال العصام، وتعقبه المناوي بأنه لا دليل في الحديث على هذه البعدية، فالأولى أن يقال: إن من خصائصه التصرف في مال الغير. وقال القاري: أغرب العصام، ووجه غرابةه لا يخفى؛ لأن فيه وفي أمثاله يكتفي بالعلم بالمرضى. قلت: ولا إشكال على رواية "ادفعها" بالدال، أي قال له: فرقها أنت وقال لأصحابه: كلوا. الصدقة: قال القاري: الصدقة: منحة يمنحها المانح طلباً لثواب الآخرة وتكون من الأعلى على الأدنى، ففيه نوع من رؤية تذلل الأخذ والترحم عليه، والمهدية: منحة يتطلبها التحجب إلى الأخذ والتقرب إليه، فمفهوم الصدقة مشعر بأنه لا يليق بالنبي ﷺ.

قال: فرفعها، فجاء الغد بحثله، فوضعه بين يدي رسول الله ﷺ، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: أبسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله ﷺ

پس حضور اقدس ﷺ نے اپنے دستِ مبارک سے وہ درخت لگائے، حضور کا مجھہ تھا کہ سب درخت اسی سال پھل لے آئے مگر ایک درخت نہ پھلا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا لگایا ہوا تھا حضور اقدس ﷺ کے دستِ مبارک کا نہ تھا، حضور نے اس کو نکالا اور دوبارہ اپنے دستِ مبارک سے لگایا۔ حضور کا دوسرا مجھہ یہ ہوا کہ یہ موسم درخت لگایا بھی اسی سال پھل لے آیا۔ فائدہ: اس حدیث میں علماء نے بہت سی علمی تحقیقات فرمائی ہیں۔ مثلاً یہ کہ جب سلمان غلام تھے تو ان کا صدقہ اور ہدیہ جائز تھا یا نہیں، نیز ہدیہ اور صدقہ میں فرق کیا کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، طویل بحثیں ہونے کی وجہ سے اختصاراً ترک کر دی گئیں، البتہ اس حدیث سے حضور کا ایک خاص معمول معلوم ہوا کہ ہدایا میں خدام و حضار کو شریک فرمایا کرتے تھے اور یہ حضور کا خاص معمول تھا، ہزاروں واقعات حدیث کی کتابوں میں اس معمول کے مذکور ہیں، اس مضمون میں حضور کا ایک ارشاد بھی نقل کیا جاتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے (الہدایا مشترکہ) ہدیے جو دیے جاتے ہیں وہ پاس بیٹھنے والوں میں مشترک ہوتے ہیں۔ محمد ثانہ حیثیت سے اس حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہے اور کلام بھی ہے یعنی ضعیف ہے مگر مضمون کے اعتبار سے واقعات سے تائید ہوتی ہے۔ یہ بات کہ کس قسم کے ہدیے مراد ہیں اور پاس بیٹھنے والوں سے کون مراد ہیں، تفصیل طلب ہے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ایک شخ وقت کے پاس کوئی شخص ہدیہ لا یا کیم پاس بیٹھنے والے نے عرض کیا الہدایا مشترکہ۔ انہوں نے فرمایا کہ شرک کے خواہاں نہیں، ہم تو وحدت پسند کرتے ہیں، یہ سب تمہاری نذر ہے۔

الغد: [المراد من الغد: وقت آخر، وإن لم يكن هو اليوم بعد اليوم الأول]. أبسطوا: [اتسعوا وأعدوا المائدة ليؤكل منها، انفرجوا ليتسع المجلس] قيل: يؤخذ منه أن يستحب للمهدي له أن يعطي الحاضرين عما أهدى إليه، وتأيد بحديث ضعيف: من أهدى له هدية فجلساؤه شركاؤه، والمراد بالشركاء الذين يداومون مجلسه لا كل من حضر، إذ ذاك قاله الترمذى في الأصول. ثم: قيل في تعبيره بـ"ثم" إشارة إلى تراخيه من الأمراء المتقدمين كما هو مصريح في الروايات، وفي جمع الفوائد من حديث سلمان المفضل بعد وصوله إلى المدينة المنورة، قال: فأقمت لها إلى أن هاجر النبي ﷺ فأئته بشيء عندي وهو بقاء، فقلت له: هذه صدقة، فقال ﷺ لأصحابه: كلوا وأمسك يده. فقلت في نفسي: هذه واحدة، ثم انصرفت فجمعت شيئاً وتحوّل ﷺ إلى المدينة فجئتني، فقلت: هذه هدية أكرمتكم بها، فأأكل منها. فقلت في نفسي: هذه ثنان، ثم جنته وهو بالقيع جالس في أصحابه، الحديث.

فَأَمِنَ بِهِ وَكَانَ لِلْيَهُودَ، فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا وَكَذَا دَرَهَمًا، عَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ نَخِيلًا، فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فِيهِ، حَتَّى تُطْعَمَ، فَغَرَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

وہ مقدار میں اتنا تھا کہ ان صاحب سے اٹھ بھی نہ سکا تو اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ یہ ان کے گھر پہنچا دو۔ اس نے پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی مجلس میں واقعہ پیش آیا کہ کچھ نقدی ہدیہ پیش کیا گیا، حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا الہدایا مشترکہ۔ انھوں نے ارشاد فرمایا کہ اس سے خاص قسم کے ہدایا مراد ہیں، اور یہ فرمایا کہ خادم سے ارشاد فرمایا کہ اس کو اٹھا کر رکھ دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں واقعے اپنی اپنی جگہ پر نہایت ہی موزوں ہیں۔ ایک زاہد صوفی کے وہی مناسب تھا جو انھوں نے کیا اور ایک فقیہ کے یہی مناسب تھا۔ اور یہ تجھے ہے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ فقہ کے مشہور امام ہیں، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ایک شرعی مسئلہ بن جاتا کہ ہدایا میں شرکت ضروری ہو جاتی اور امت کو وقت ہوتی۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رضی اللہ عنہ نے ایک کتاب اپنی مبشرات اور منامات میں لکھی، اس میں بہت سے عجیب واقعات ہیں، مسحیہ ان کے اپنے والد صاحب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بھی لکھا کہ ایک مرتبہ ابتدائی زمانہ میں مجھے شوق ہوا کہ ہمیشہ روزہ رکھا کروں، اس کے بعد علماء کے اختلاف کی وجہ سے مجھے تردید ہوا۔ خواب میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت ہوتی، حضور نے ایک روئی مرحمت فرمائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرماتھے، انھوں نے فرمایا: الہدایا مشترکہ میں نے وہ روئی سامنے کر دی انھوں نے ایک لکڑا اس میں سے لے لیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الہدایا مشترکہ میں نے ان کے سامنے بھی پیش کر دی انھوں نے بھی ایک لکڑا اس میں سے لے لیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الہدایا مشترکہ میں نے عرض کیا کہ اگر اس کو آپ ہی حضرات نے تقسیم فرمایا تو اس فقیر کے لئے کیا بچے گا۔

فَأَمِنَ بِهِ: [مفرع على مجموع ما سبق من الآيات الثلاث، فلما ثبتت الآيات وكملت العلامات آمن به].  
وَكَانَ لِلْيَهُودَ: [أي: والحال أنه كان رقيقاً لليهود (يهود بني قريظة) ولعله كان مشتركاً بين جمع منهم، أو كان لواحد منهم]  
فَاشْتَرَاهُ: أي: تسبب في كتابة اليهود لأمره بذلك فتجوز بالشراء، وقصة كتابته مشهورة وكان كتابته على شيئاً: كذا  
وَكَذَا دَرَهَمًا، واحتللت الروايات في تعينها، وعلى غرس النخل المذكور. درهاما: [في بعض الروايات أنهأربعون أوقية، قيل:  
من فضة، وقيل: من ذهب] على أن يغرس: [أي مع أن يغرس، فكتابته على شيئاً: الأولي المذكورة، وغرس  
النخل مع العمل فيه حتى يطلع]. حتى تطعم: [أي حتى يشعر، حتى تؤكل ثمرته].

حضرت سلمان فارسی ﷺ جلیل القدر صحابہ میں ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ جب قرآن شریف کی آیت ﴿وَإِن تَتَوَلُّواْ بِسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَالَكُمْ﴾ (محمد: ۳۸) (سورہ محمد) نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم (ایمان لانے سے) روگردانی کرو گے تو اللہ جل جلالہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئے گا جو تم جیسی نہ ہو گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے جو ہماری جگہ آئیں گے؟ حضور اقدس ﷺ نے حضرت سلمان کے کندھے پر ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا کہ یہ اور اس کی قوم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر ایمان شریا پر معلق ہوتا تو فارس کے کچھ لوگ اُس کو وہاں سے بھی لے لیتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بشارت ہے۔ حضرت سلمان فارسی ﷺ خود اپنے ایمان لانے کا مفضل قبضہ نقل فرماتے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، اور اس میں ان علامات کا بھی ذکر ہے جن کا انہوں نے امتحان لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ: میں صوبہ اصیان میں ایک جگہ کا رہنے والا ہوں جس کا نام "جے" تھا، میرا باپ اس جگہ کا چودھری اور سردار تھا، اور مجھ سے بہت ہی زیادہ اس کو محبت تھی، میں نے اپنے قدیم مذہب جو سیت میں اتنی زیادہ کوشش کی کہ میں آشنا کا محافظ بن گیا، مجھے باپ نے ایک مرتبہ اپنی جائیداد کی طرف بھیجا، راستے میں میرا گزر نصاریٰ کے گرجے پر ہوا، میں سیر کے لئے اس میں چلا گیا، میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو مجھے وہ پسند آگئی اور اس دین کو پسند کرنے لگا، شام تک میں وہیں رہا، ان سے میں نے دریافت کیا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ملک شام میں ہے۔ رات کو میں گھر واپس آیا، گھر والوں نے پوچھا کہ تو تمام دن کہاں رہا؟ میں نے تمام قبضہ سنبھالا، باپ نے کہا کہ بیٹا وہ دین اچھا نہیں ہے، تیر اور تیرے بڑوں کا جو دین ہے وہی بہتر ہے۔

میں نے کہا ہرگز نہیں وہی دین بہتر ہے۔ باپ کو میری طرف سے خدا شہ ہو گیا کہ کہیں چلانے جائے اس لئے میرے پاؤں میں ایک بیڑی ڈال دی اور گھر میں قید کر دیا، میں نے ان عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب شام سے سو داگر لوگ جو اکثر آتے رہتے تھے، آئیں تو مجھے اطلاع کراؤ، چنانچہ کچھ سو داگر آئے اور ان عیسائیوں نے مجھے اطلاع کراؤ، جب وہ سو داگر واپس جانے لگے تو میں نے اپنے پاؤں کی بیڑی کاٹ دی اور بھاگ کر ان کے ساتھ شام چلا گیا، وہاں پہنچ کر میں نے تحقیق کی کہ اس مذہب کا سب سے زیادہ ماہر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ گرجا میں فلاں پشپ ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے تمہارے دین میں داخل ہونے کی رغبت ہے اور تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، اس نے منظور کر لیا۔ میں اس کے پاس رہنے لگا،

لیکن وہ کچھ اچھا آدمی نہ نکلا۔ لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دیتا اور جو کچھ جمع ہوتا اس کو اپنے خزانہ میں رکھ لیتا، غریبوں کو کچھ نہ دیتا۔ وہ مر گیا اس کی جگہ دوسرے شخص کو بھایا گیا وہ اس سے بہتر تھا اور دنیا سے بے رغبت تھا۔ میں اس کی خدمت میں رہنے لگا اور اس سے مجھے محبت ہو گئی۔ بالآخر وہ بھی مرنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کسی کے پاس رہنے کی وصیت کر دو۔ اس نے کہا کہ میرے طریقہ پر صرف ایک شخص دنیا میں ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ ”موصل“ میں رہتا ہے، تو اس کے پاس چلے جاندے میں اس کے مرنے کے بعد موصل چلا گیا اور اس سے جا کر اپنا قصہ سنایا، اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا، وہ بھی بہترین آدمی تھا۔ آخر اس کی بھی وفات ہونے لگی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا فلاں شخص کے پاس ”نصیئین“ میں چلے جاندے۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس سے اپنا قصہ سنایا، اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ بھی اچھا آدمی تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا ”غموریا“ میں فلاں شخص کے پاس چلے جاندے۔ میں وہاں چلا گیا اور اس کے پاس اسی طرح رہنے لگا، وہاں میں نے کچھ کمائی کا دھندا بھی کیا جس سے میرے پاس چند گائیں اور کچھ بکریاں جمع ہو گئیں۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ اب خدا کی قسم! کوئی شخص اس طریقہ کا جس پر ہم لوگ ہیں، عالم نہیں رہا، البتہ نبی آخر الزمان کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب آگیا، جو دین ابراہیمی پر ہو گئے، عرب میں پیدا ہو گئے، اور ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہے جہاں سکھوروں کی پیداوار بکثرت ہے اور اس کے دونوں جانب سکریلی زمین ہے، وہ ہدیہ نوش فرمائیں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے، ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہو گی (یہ ان کی علامات ہیں اسی وجہ سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان علامات کی تحقیق کی تھی) پس اگر مجھ سے ہو سکے تو اس سرزی میں پر بیٹھ جانا۔ اس کے انتقال کے بعد قبیلہ بنو کلب کے چند تاجر و کا وہاں گزر ہوا، میں نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو تو اس کے بدالے میں یہ گائیں اور بکریاں تھہاری نذر ہیں، انہوں نے قبول کر لیا اور مجھے وادی القری (یعنی مکہ مکرمہ) لے آئے اور وہ گائے اور بکریاں میں نے ان کو دیدیں، لیکن انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں اپنا غلام ظاہر کیا اور مجھے نیچ دیا۔ بنو قریظہ کے ایک بیووی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ اپنے وطن مدینہ طیبہ لے آیا۔ مدینہ طیبہ کو دیکھتے ہی میں نے ان علامتوں سے جو مجھے غموریا کے ساتھی (پادری) نے بتائی تھیں، پہچان لیا کہ یہی وہ جگہ ہے۔ میں وہاں رہتا رہا کہ اتنے میں حضور اقدس سرحد علیہ السلام کے سے ہجرت فرمائے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ حضور اس وقت تک قبا ہی میں تشریف فرماتھے۔ میں نے حضور کی خبر سن کر جو کچھ میرے پاس تھا وہ لے جا کر پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ صدقہ کامال ہے۔ حضور نے خود تناول نہیں فرمایا، صحابہ (فقرا)

النَّخْلَةُ إِلَّا نَخْلَةً وَاحِدَةً، غَرَسَهَا عُمَرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَلَتِ النَّخْلَةُ مِنْ عَامِهَا وَلَمْ تَحْمِلْ نَخْلَةً،  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ هَذِهِ النَّخْلَةُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا غَرَسْتُهَا،

سے کہا کہ تم کھالو۔ میں نے اپنے دل میں کہا ایک علامت تو پوری نکلی، پھر میں مدینہ واپس آگیا اور کچھ جمع کیا کہ اس دوران میں حضور بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے، میں نے کچھ (بھجو ریں اور کھانا وغیرہ) پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے۔ حضور نے اس میں سے تناول فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ اُس کے بعد میں ایک مرتبہ حاضرِ خدمت ہوا اس وقت حضور اقدس ﷺ (ایک صحابی کے جنازہ میں شرکت کی وجہ سے) بقیع میں تشریف فرماتھے، میں نے سلام کیا اور پشت کی طرف گھونٹنے لگا، آپ سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، میں جوش میں اس پر جھک گیا، اس کو چوم رہا تھا اور رو رہا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا سامنے آؤ۔ میں سامنے حاضر ہوا اور حاضر ہو کر سارا قصہ سنبھالیا۔ اُس کے بعد میں اپنی غلامی کے مشاغل میں پھنسا رہا۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے مکاتبت کا معاملہ کر لو۔ میں نے اس سے معاملہ کر لیا اس نے دو چیزیں بدلت کتابت قرار دیں: ایک یہ کہ چالیس اویہ نقد سونا (ایک اویہ چالیس درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً تین سے چار ماشہ کا) دوسری یہ کہ تین سو درخت بھجو رکے لگاؤں اور ان کی پرورش کروں یہاں تک کہ کھانے کے قابل ہو جائیں۔ چنانچہ حضور اقدس ﷺ نے اپنے دست مبارک سے لگائے جس کا قصہ شامل میں موجود ہے اور اتفاق سے کسی جگہ سے سونا حضور اقدس ﷺ کے پاس آگیا، حضور نے حضرت سلمان کو مرحمت فرمادیا کہ اس کو جا کر اپنی بدلت کتابت میں دے دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضورا یہ کیا کافی ہو گا وہ بہت زیادہ مقدار ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ ﷺ اسی سے عجب نہیں پورا فرمادیں، چنانچہ میں لے گیا اور اس میں سے وزن کر کے چالیس اویہ سونا اس کو تول دیا (جمع الغواند) اس قصہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شامل کی روایت میں حضور اقدس ﷺ کا حضرت سلمان کو خریدنا اسی لحاظ سے کہا گیا کہ ان کا بدلت کتابت حضور ہی نے ادا فرمایا، اپنے دست مبارک سے درخت لگائے اور خود ہی اپنے پاس سے وہ سونا عطا فرمایا جو بدلت میں قرار پایا تھا۔

عمر: قيل: إن قصّة غرس عمر و عدم حملها من عامها غير منقولة إلا عند الترمذى، وليس فيما سواه من إخبار سلمان.  
فحملت النخلة من عامها: [أي: ألمحت من عامها الذي غُرست فيه على خلاف المعتاد استعمالاً لتخلص سلمان من الرقّ].  
نخلة: [على سنن ما هو المتعارف]. النخلة: [الذي منعها من الحمل مع صوابها].

فَرَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَرَسَهَا، فَحَمِلَتْ مِنْ عَامِهِ. حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا بَشَّارٌ بْنُ سَبْرٍ بْنِ الْوَضَّاحِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَقِيلَ الدُورِقِيُّ، عَنْ أَبِي نُضْرَةِ قَالَ: سَأَلَتْ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي خَاتَمَ النَّبُوَّةِ - فَقَالَ: كَأَنْ فِي ظَهَرِهِ بَضْعَةً نَاسِرَةً<sup>(٧)</sup>. حَدَثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمَقْدَامِ الْعَجْلَيِّ الْبَصْرِيِّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ،

حضرت سلمان رضي الله عنه كہتے ہیں کہ دس سے زیادہ آقاوں کی غلامی میں وہ رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں انھیں کے مشورہ سے خندق کھدوائی کی ورنہ عرب میں اس سے پہلے خندق کا دستور نہ تھا نہ لوگ خندق کو جانتے تھے۔  
(۷) ابو نصرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضي الله عنه سے حضور اکرم ﷺ کی مہر نبوت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کی پشت پر ایک گوشت کا مہرا ہو تکڑا تھا۔

(۸) عبد اللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ میں حضور القدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور ﷺ کے پاس اس وقت مجمع تھا، میں نے اس طرح حضور کے پر پشت چکر لگایا (راوی نے اس جگہ غالباً چکر لگا کر فعلی صورت بیان کی) حضور ﷺ میرا مشا کسھ گئے اور اپنی پشت مبارک سے چادر اٹھا دی۔ میں نے مہر نبوت کی جگہ کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مٹھی کے ہم شکل دیکھا جس کے چاروں طرف تل تھے جو گویا مسوں کے برابر معلوم ہوتے تھے۔ پھر میں حضور ﷺ کے سامنے آیا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے (یا اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرمادی، جیسا کہ سورہ فتح میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے: يَغْفِرُ لِكَ اللَّهُ مَا تَقْدِيمُ مِنْ ذَنْبِكَ) حضور ﷺ نے فرمایا! اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے۔

فرسہا: [في غير الوقت المعلوم لغرس النخل، فهذه معجزة]. أبو عقيل: بفتح العين المهملة وكسر ثانية. والدورقي: نسبة للدورق، بفتح الدال المهملة وسكون الواو، بلدة بفارس. أبي نصرة: بفتح نون وسكون ضاد معجمة على الصحيح، ومن ضبطه موحدة فمهملة ساكنة فقد غلط، واسمه المنذر بن مالك.

بضعة: بالنصب على أنه خبر كان، واسمه ضمير إلى الخاتم. وهو بفتح الباء وقد تكسر، قطعة لحم، و الناشزة: المرتفعة.  
ناشرة: [مرتفعة، والمقصود قطعة لحم مرتفعة في أعلى الظهر]. سرجس: كترحس، وقبل: كحعفر منع عن الصرف؛ للعلمية والعجمة، قاله البيجوري.

فَدُرْتُ هكذا من خَلْفِهِ، فعرفَ الَّذِي أَرِيدُ، فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهِيرَهِ، فرأيتَ موضعَ الخاتَمِ عَلَى [قطفت] لعله إشارة إلى كيفية الدوران

كَتْفِيهِ مثَلَ الْجَمْعِ حَوْلَهَا خِيلَانٌ كَأَهْمَا ثَالِيلٍ، فَرَجَعَتْ حَتَّى اسْتَقْبَلَتْهُ، فَقَلَتْ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: وَلَكَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: اسْتَغْفِرَ لَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَلَكُمْ، ثُمَّ تَلَّا هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (مُحَمَّد: ١٩)

لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضور ﷺ نے تیرے لئے دعائے مغفرت فرمائی؟ میں نے کہا ہاں اور تم سب کے لئے بھی، اس لئے کہ اللہ جل جلالہ نے حکم فرمایا ہے کہ: اے محمد (ﷺ)! مغفرت کی دعا کرو اپنے لئے بھی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے بھی (اس لئے حضور تو سب ہی کے لئے دعائے مغفرت فرمائے چکے ہیں)

مثل الجمع: [مثل جمع الكف، وهذه هيءة الخاتم بعد جمع الأصابع، ويفهم من ذلك أن فيه خطوطاً كما في الأصابع المجموع] مثل الجمع بضم الميم، وجوز الكسائي كسرها، هو: هيءة بعد جمع الأصابع. وخيلان جمع حال؛ هي: نقط تضرب إلى السواد. وثاليل كمصا بيح، جمع ثلول كصفور: خراج صغير نحو الحمصة يظهر على الجسد، له تنوء واستدارة. حوالها خيلان: [أي حول الخاتم فقط، تضرب إلى السواد وتسمى شامات]. يا رسول الله: [شكر للنعمـة التي صنعها النبي ﷺ معه]. القوم: فقيل: المراد بالقوم الصحابة، فسائل هذا القول هو عبد الله وهو الظاهر، وقيل: الذين يحدثهم عبد الله بن سرجس، فسائل هذا الكلام هو عاصم الأحوال، قاله القاري. ثم تلا: يعني امثالاً لهذه الآية؛ لأنـه لا يمكن أنـ الله تعالى أمرـه بشيء ولم يـمثلـه النبي ﷺ، هذا. وأدعـته ﷺ في الاستغفار للأمة مـعروـفة.

## **بابُ ما جاءَ فِي شِعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

حدثنا علي بن حُجر، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن حُميد، عن <sup>(١)</sup>أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الطويل شَعْرُ رسول الله صلوات الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. حدثنا هنّاد بن السّري، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن <sup>(٢)</sup>عائشة رضي الله عنها قالت: كتُ أغتسل أنا ورسول الله صلوات الله عليه وسلم من إناء واحد،

ماب حضور اکرم ﷺ کے سر مبارک کے بالوں کا بیان

فائدہ: حضور اکرم ﷺ کے پنٹھوں کی مقدار میں مختلف روایت وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا اور ان میں کچھ تعارض نہیں، اس لئے کہ بال بڑھنے والی چیز ہے، ایک زمانہ میں اگر کان کی لوٹک تھے تو دوسرے زمانہ میں اس سے زائد، اس لئے کہ حضور ﷺ کا سر منڈانا چند مرتبہ ثابت ہے، تو جس نے قریب کا زمانہ نقل کیا اس نے چھوٹے بال نقل کئے اور جس نے بال منڈے ہوئے عرصہ ہو جانے کے وقت کو نقل کیا اس نے زیادہ بال نقل کئے۔ بعض علماء نے اس طرح پر بھی جمع فرمایا ہے کہ سر مبارک کے اگلے حصہ کے بال نصف کا نوں تک پہنچ جاتے تھے اور وسط سر کے اس سے نیچے تک اور اخیر سر کے مونڈھوں کے قریب تک۔

اس باب میں امام ترمذی رضی اللہ علیہ نے آٹھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کے بال نصف کانوں تک تھے۔

(۲) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں اور حضور ﷺ ایک ہی برتنا میں غسل کیا کرتے، اور حضور اقدس ﷺ کے بال ایسے پنٹھوں سے جو کان کی لوٹک ہوا کرتے ہیں، ان سے زیادہ تھے اور ان سے کم تھے جو مونڈھوں تک ہوتے ہیں،

باب: [أي: باب بيان ما ورد في مقداره طولاً وكثرة، وغير ذلك من الأخبار.] شعر: [هوما ينبع على الجسم، ليس من الصوف ولا وبر.] فيه روایتان، وفتح العين أفضح والسكون أشهر، واحدتها شعرة. حجر: بضم الحاء المهملة وسكون الجيم. نصف أذنيه: أي: في بعض الأحيان. قال البيحوري: وفي شرح المصاييف: لم يخلق النبي ﷺ رأسه في سن المجرة إلا في عام الحديبية وعمره القضاء وحجة الوداع، ولم يقصر شعره إلا مرة واحدة كما في الصحيحين. السري: بتشديد النون، وقوله: "السري" بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية. عن أبيه: [أي: عروة بن الزبير، وهو أحد الفقهاء المدينة السابعة.] كنت أغتسل: أفادت الحكاية الماضية بصيغة المضارع استحضاراً للصورة، وإشارة إلى تكراره واستمراره أي: اغتسلت معه متكرراً.

وكان له شعر فوق الجُمَّة و دون الْوَفْرَة. حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْيَعٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَطْنَ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ،  
 عن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا،

ما يصل إلى شحمة الأذن  
كيدع بفتحين

<sup>(٣)</sup>

لیعنی نہ زیادہ لبے تھے نہ چھوٹے، بلکہ متوسط درجہ کے تھے۔ فائدہ: اس حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہر دو حضرات نگے نہاتے تھے۔ اس لئے کہ حضرت عائشہؓ غیرہا خود ہی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کا محل ستر اور حضور ﷺ نے میرا محل شرم کبھی نہیں دیکھا، نیز برتن کے ایک ہونے سے بھی اس پر محبت نہیں، اس کی کئی صورتیں ایسی ممکن ہیں کہ غسل بھی ہو جائے اور دوسرا کے سامنے نگاہ بھی نہ ہونا پڑے، نیز اس حدیث سے عورت اور مرد کا ایک برتن سے اکٹھے نہاناثابت ہوتا ہے۔ علماء کا امام نووی کے قول کے موافق اس صورت کے جواز پر اجماع ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرد پہلے غسل کرے اس کے پچھے ہوئے پانی سے عورت غسل کر لے، یہ بھی بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے۔ تیسرا صورت اس کا عکس ہے کہ عورت پہلے نہائے مرد اس کے پچھے ہوئے سے نہائے، یہ صورت حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ سب حضرات کے نزدیک جائز ہے، خابلہ اس کو جائز نہیں بتلاتے، البتہ اگر عورت کے غسل کے وقت مرد وہاں موجود ہو تو وہ بھی جائز فرماتے ہیں، ان حضرات کا استدلال اور جھوہر کی طرف سے اس کا جواب علمی بحث ہونے کی وجہ سے یہاں سے ترک کر دیے گئے، مختصرًا عربی حاشیہ میں ذکر کیے گئے۔ لیکن جب ایک معتمد امام کا خلاف ہے اور حدیث میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے تو اس میں اختیاط اولی ہے۔

(٣) حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ متوسط القام (در میان قد) تھے، آپ کے دونوں شانوں کا درمیان

الجملة إن: بضم الجيم وتشديد الميم: ما وصل من شعر الرأس إلى المنكبين. والوفرة: مالم يصل إليهما. واللمة: ما جاوز شحمة الأذن، سواء وصل إلى المنكبين أو لا، وقيل: إنما بين الجمة والوفرة، فعلى هذا ترتيبها "وج" أي: الوفرة، ثم اللمة، ثم الجمة. وهذه الثلاثة قد اضطرب أقوال أهل اللغة في تفسيرها، وأقرب ما وفق به أن فيها لغات، كما يظهر من القاموس والجمع، وأياماً كان فالغرض: أن شعره عليه السلام كان وسطاً، لا أطول ولا أقصر. ثم في الحديث دليل على جواز فضل المرأة كما قال به الثلاثة، خلافاً للحنابلة، إذ قالوا: لا يجوز فضلها إلا أن تستعمل بمحضه؛ لرواية هي عن فضل المرأة، وأحجب عنها: بالضعف، أو أن المراد بالفضل المستعمل، أو غير ذلك، كما بسط في بذل المجهود في حل أبي داود. البراء: تقدم حدیثه مفصلاً في الباب الأول، وأعاده هناك مختصراً للترجمة فيه.

بعيد ما ينكر، وكانت جُمَّته تضرب شَحْمة أذنيه. حدثنا محمد بن بشّارٍ، أخْبَرَنَا وَهْبُّ بن حَرَيْرِ بْن حَازِم، حَدَّثَنِي أَبِي عَوْنَانَ<sup>(٤)</sup> قَتَادَةُ قَالَ: قَلْتُ لِأَنْسٍ: كَيْفَ كَانَ شِعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبْطِ، كَانَ يَبْلُغُ شَعْرَهُ شَحْمةً أذْنِيهِ. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، أخْبَرَنَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيْحٍ، عَنْ مَجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئَ بْنَ طَالِبٍ شَقِيقَةَ عَلَيْهِ الْمُخْلَفُ فِي اسْمِهِ أَسْمَهُ بَشَّارٌ<sup>(٥)</sup> قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا مَكَّةَ قَدْمَةً وَلَهُ أَرْبَعَ عَدَائِرٍ. حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا عبد الله بن العمير: الدُّوَابَةُ، مُوْيَيْ باقْتَهْ بِهِمَلَاتٍ مُصَغَّرًا<sup>(٦)</sup> المبارك، عن مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ شِعْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِلَى أَنْصَافِ أَذْنِيهِ.

و سیع تھا، آپ کے بال کانوں کی لوٹک ہوتے تھے۔ فائدہ: یہ حدیث حمیلہ شریف میں مفضل گذر بھی چکی ہے، بالوں کے ذکر کی وجہ سے یہاں پھر اس کو مختصرًا ذکر کر دیا گیا۔

(۲) قادہ شیخ سے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم ﷺ کے بال مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ بالکل سچے بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی اور گھنگر بالہ میں لئے تھے جو کافی لوٹک پہنچتے تھے۔

(۵) ام ہانیؑ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس اللہ علیہ السلام بھرت کے بعد ایک مرتبہ مکرم تشریف لائے تو آپ کے بال چار حصے منڈھیوں کے طور پر ہو رہے تھے۔ فائدہ: مشہور قول کے متوافق بھرت کے بعد حضور اکرم ﷺ کی مکرمہ میں

تشریف آوری چار مرتبہ ہوئی: اول عمرۃ القضا میں جو سنہ سات ہجری میں تھا، پھر فتح مکہ میں سنہ آٹھ ہجری، پھر اسی سفر میں عمرۃ الحبرانۃ کے لئے، پھر سنہ دس ہجری میں حج کے لئے۔ یہ تشریف آوری جس کا اس حدیث شریف میں ذکر ہے بیحوری کے قول کے موافق فتح مکہ کے وقت ہوئی اور یہی مظاہر حق میں لکھا ہے، بعض علماء نے اور اوقات بھی تحریر فرمائے ہیں۔ مردوں کے لئے عورتوں کی طرح سے مینڈھیاں مکروہ ہیں۔ اس حدیث میں مینڈھیوں سے وہی مرادی جائیں جس میں تشریش نہ ہو کہ تشریہ کی حضور نے خود ہی ممانعت فرمائی ہے۔

(۱۰) حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے بال نصف کانوں تک ہوتے تھے۔

حدثنا سُوئید بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المُبارَك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله، عن<sup>(٧)</sup> ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يَسْدِلُ<sup>عَنْ رَأْسِهِ</sup>  
شعره، وكان المُشْرِكُونَ يُفَرِّقُونَ رُؤُوسَهُمْ، وكان أهل الكتاب يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، وكان يَحِبُّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمن فيه بشيء، ثم فرق رسول الله ﷺ رأسه. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن نافع المكي، عن ابن أبي نجيح، عن مُجاهد، عن<sup>(٨)</sup> أم هانئ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله ﷺ ذا ضفائر أربع.

(٧) حضرت ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اولاً بالوں کو بغیر مانگ نکالے ویسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مانگ نکالا کرتے تھے اور اہل کتاب نہیں نکالتے تھے۔ حضور اقدس ﷺ ابتداءً ان امور میں جن میں کوئی حکم نازل نہیں ہوتا خاہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اس لئے حضور اقدس ﷺ مخالفت اہل کتاب فرمائے گئے۔

(٨) ام ہانئ رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو چار گیسوں والا دیکھا۔ فائدہ: ظاہر یہ حدیث وہی حدیث ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔

یَسْدِلُ: [پرسل شعره حول رأسه، وقيل: على الجبين]. يحب: قيل: كان ذلك لتمسك أولئك ببقايا شرائع الرُّسُلِ، وهو لاءٌ وثنيون لا مستند لهم إلا ما وجدوا عليه آباءهم، وقيل: كان ذلك ابتلافاً لقلوهم كما تألفهم باستقبال قبلتهم لكن غلت عليهم الشفوة؛ فكَلَّما ازداد تأليفاً ازدادوا نفوراً، وقال بعضهم: إن تلك الحبة كانت قبل اشتهر الإسلام وقوته، فلما فتحت مكة واستقر الأمر أحب مخالفتهم وأمر بمخالفتهم، كما في صبغ الشيب، وصوم السبت وعشوراء، وغير ذلك من الأحكام. فرق: [أي: ألقى شعره إلى جانب رأسه] قالوا: الفرق سنة؛ لأنَّ الذي رجع إليه رسول الله ﷺ، والظاهر أنه رجع بوحى؛ لقوله: "ما لم يؤمر" وقال القاضي عياض: نسخ السدل فلا يجوز فعله، قال: ويحمل جواز الفرق لا وجوبه. قال ابن حجر: والذي يتحقق أن حمل جواز السدل حيث لم يقصد به التشبيه بالنساء، وإنما حرم من غير نزاع، ويؤيد جواز السدل ما روی أن من الصحابة من يسدل، ومنهم من يفرق، ولم يُعِب بعضهم على بعض، فلو كان الفرق واجباً لما سدلوا، وقال القرطبي: إنه مستحب، وهو قول مالك والجمهور. قاله القاري.

## باب ما جاء في ترجل رسول الله ﷺ

حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي عنها قالت: كنت أرْجِلُ رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض. حدثنا يوسف بن عيسى، أخبرنا وكيع، أخبرنا الربيع بن صبيح، عن يزيد بن أبىان هو الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يكثُر دهن رأسه وتسرّع لحّيته،

## باب حضور اقدس ﷺ کے بالوں میں کنگھا کرنے کا بیان

فائدہ: بالوں میں کنگھا کرنا مستحب ہے، حضور ﷺ نے اس کی ترغیب بھی فرمائی ہے اور خود بھی اپنے بالوں میں کنگھا کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس باب میں پانچ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدس ﷺ کے بالوں میں کنگھا کرتی تھی حالانکہ میں حائض ہوتی تھی۔ فائدہ: اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ ثابت فرمایا ہے کہ حائضہ کو حالت حیض میں مرد کی خدمت کرنا جائز ہے، حیض سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی، صحبت وغیرہ البتہ ناجائز ہے۔

(۲) حضرت انس بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ اپنے سر مبارک پر اکثر تیل کا استعمال فرماتے تھے، اور اپنی داڑھی مبارک میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے، اور اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا ذال لیا کرتے تھے جو تیل کے کثرت استعمال سے ایسا ہوتا تھا جیسے تیلی کا کپڑا ہو۔

ترجل: الترجل والترحيل: تسریع الشعر وتحسينه كما في النهاية، وفي المشارق: رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن لیلین، ويرسل الشار ويد المنقض. قال الحافظ ابن حجر نقلًا عن ابن بطال: هو من باب النظافة، وقد ندب الشارع إليه بقوله: النظافة من الدين، وقال تعالى: ﴿لَخُلُودًا زِينَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الأعراف: ۳۱) ولأن الظاهر عنوان الباطن. أبیان: بفتح المهمزة وتحفیف الموحدة كسحاب، وقيل: بكسر الأول وتشدید الثاني، غير منصرف عند الأكثر، وصرفه بعضهم حتى قال: من لم يصرف "أبیان" فهو أثان. الرقاشي: بفتح الراء وخففة قاف وشين معجمعه، نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة، كذلك في المغني قاله القاري، وقال المناوي: نسبة إلى بنت قيس بن ثعلبة بن عكابة، أو إلى أولادها. دهن رأسه: [أي: يكثُر دهن رأسه بالزيت].

ويکثر الفناء حتى كان ثوبه ثوب زييات. حدثنا هناد بن السري، أخبرنا أبو الأحوص، عن  
 أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْحَبُّ التَّيْمَنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي اتِّعَالِهِ إِذَا اتَّعَلَّ. حدثنا محمد بن  
ك الرجال  
اسمه سليم  
الابناء باليمين  
 بشّار، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن حسان، عن الحسن البصري،  
الأنصاري

فائدہ: یعنی تیل سے چونکہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں جو حضور انور ﷺ کی نظافت کے خلاف ہے اس لئے اس کی حفاظت  
 کیلئے حضور ﷺ ایک کپڑا سر پر ڈال لیتے تھے تاکہ عمame وغیرہ خراب نہ ہو۔

(۳) حضرت عائشہ رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ اپنے وضو کرنے میں، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں (غرض ہر امر میں)  
 دائیں کو مقدم رکھتے تھے، یعنی پہلے دائیں جانب کنگھا کرتے پھر بائیں جانب۔ فائدہ: ان تین چیزوں کی جو حدیث میں ذکر  
 کی گئی ہیں کچھ قید نہیں، بلکہ حضور القدس ﷺ ہر چیز کو دائیں سے ابتدا کرنا پسند فرماتے تھے اسی وجہ سے ترجمہ میں ہر چیز کا  
 اضافہ کر دیا۔ اور اس کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ: جس چیز کا وجود زینت اور شرافت ہے اس کے پہننے میں دایاں مقدم ہوتا ہے  
 جیسے کپڑا، جوتا اور نکلنے میں بایاں مقدم۔ اور جس چیز کا وجود زینت نہیں اس کے کرنے میں بایاں مقدم کرنا چاہئے جیسے  
 بیت الْخَلَا جانا کہ اس میں جاتے وقت بایاں پاؤں مقدم ہونا چاہئے اور نکلتے وقت دایاں، برخلاف مسجد کے کہ اس کا قیام شرافت  
 اور بزرگی ہے اس لئے مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اول داخل کرنا چاہئے اور نکلتے وقت بایاں پاؤں اول نکالنا چاہئے۔

الفناء: [خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن؛ لتقي العمامه منه]. ثوبه: المراد بذلك الثوب الفناء، لا مطلق الثوب، فلا ينافي نظافته بكلمة. وقال الجزري: الربيع بن صبيح كان عابداً لكنه ضعيف في الحديث، وقال ابن حبان: كان عابداً، ولم يكن الحديث من صناعته، فوقع في حديثه المذاكي، قيل: ومن مناكيره في هذا الحديث: كان ثوبه ثوب زييات، لكن قال القاري والمناوي: له شواهد، وذكرها شواهد بعدة طرق. أبو الأحوص: بباء وصاد مهملتين، قيل: اسمه عون بن مالك، والمشهور سلام بن سليم بتحجيف اللام في الأول والتتصغير في الثاني كما ضبطه القاري، قال المناوي: سلام ككلام. إن كان: مخففة من الثقيلة؛ بدليل اللام الفارقة بين المخففة والنافية، وضمير الشأن بعدها ممحوف. حسان: صيغة مبالغة من الحسن فيصرف؛ لأن نونه حيتنـدـ أصلية، فان كان من الحسن بتشديد السين فلا يصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون، ونظيره ما قبل البعض: انصرف عفان؟ قال: نعم إن هجوـهـ، لا إن مدـحـتهـ، يعني لأنه على الأول من العفونة، وعلى الثاني من العفة.

عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن الترجل إلا غيّباً. حدثنا الحسن بن عَرْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامَ بْنَ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَالَدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْأَوْدِيِّ،  
بعضهات كحسنة  
عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، أن النبي ﷺ كان يتَرَجَّلُ غيّباً.

(٢) عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرور اقدس ﷺ کلگھی کرنے کو منع فرماتے تھے مگر گاہے گا ہے۔  
فائدہ: قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گاہے گا ہے سے مراد تیرادن ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث میں حضرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روزانہ لکھا کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ممانعت جب ہے جب کوئی ضرورت اس کی مقتضی نہ ہو، ورنہ کچھ مضائقہ نہیں ہے۔

(٣) حمید بن عبد الرحمن ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرور صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گا ہے کلگھی کیا کرتے تھے۔

إلا غيّباً: بمعجمة مكسورة وموحدة مشددة، ورود الإبل الماء يوماً وتركه يوماً، ثم استعمل في فعل الشيء حيناً وتركه حيناً، والمراد هي دوام التسريع. قال ابن العربي: موالاته تصنّع، وتركه تدنس، وإنما به سنة.  
عن رجل: لم يسم، وإهم الصحابي لا يضرّ لعدالتهم. وخالف في اسمه فقيل: هو الحكم بن عمرو، وقيل: عبد الله بن سرجس، وقيل: عبد الله بن مغفل.

## باب ما جاء في شب رسول الله ﷺ

حدثنا محمد بن بشّار، أخبرنا أبو داود، أخبرنا همام، عن<sup>(١)</sup> قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خَضَبَ رسول الله ﷺ؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيئاً في صُدْغِيهِ، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خَضَبَ بالحناء والكتم.

بكسر المهملة وتشديد النون

## باب حضور اقدس ﷺ کے سفید بال آجائے کا ذکر

فائدہ: اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آٹھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) قتادة کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اقدس ﷺ خضاب کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور ﷺ کے بالوں کی سفیدی اس مقدار ہی کو نہ پہنچی تھی کہ خضاب کی نوبت آتی۔ سفیدی حضور اقدس ﷺ کے صرف دونوں کنپیوں میں تھوڑی سی تھی البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حنا اور کتم سے خضاب فرمایا کرتے تھے۔ فائدہ: کتم ایک گھاس ہے جس سے خضاب کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف کتم کا خضاب سیاہ ہوتا ہے اور ہندی کے ساتھ ملا کر سُرخ ہوتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف کتم کا خضاب بزر ہوتا ہے اور ہندی کے ساتھ ملا کر مائل سیاہی ہو جاتا ہے۔

شب إلخ: هو ايضاض الشعر المسود كما في الصباح، ويطلق على بياض الشعر والشعر الأبيض أيضًا. قال البيحوري تبعا للمناوي: إنما أخره عن الترجل؛ لأن الترجل عمل يقتدى به فيه بخلاف الشيب، وقدم الشعر عليهم؛ لأنهما من عوارض الشعر. أبو داود: الطيالسي، وهمام هاء مفتوحة ثم ميم مشددة، ابن بجي العوذى. هل خَضَبَ: [أي: هل غير بياض رأسه ولحيته ولوّنه بالحناء ونحوه؟ الخضب كالخضاب بمعنى: تلوين الشعر بحمرة]. صدغى: [ثنية صدغ، وهو ما بين لحاظ العين إلى أصل الأذن، ويسمى الشعر الذي تدلّى على هذا الموضع.

والكتم: قال القاري: بفتحتين، والتاء مخففة، وقال أبو عبيدة: بتشديد التاء، والمشهور التخفيف. واختلفوا في تفسيره: ففي بعض كتب اللغة: هو ورق يشبه ورق الأؤس يصبغ به، وفي المهدب: هو الوسعة، وفي الصحاح: هو نبت يخلط مع الوسعة للخضاب، وفي النهاية: يشبه أن يكون معنى الحديث: خضب بكل منهما منفرداً عن الآخر، فإن الخضاب بهما يجعل الشعر أسود، وقد صح النهي عن السواد، فاللواو بمعنى أو. وقال العسقلاني: الكتم الصرف يوجب سواداً مائلاً إلى الحمرة، والحناء توجب الحمرة، فاستعماهما يوجب ماءين السواد والحرمة، قالوا: وعلى أصله، وفي المغرب عن الأزهرى: الكتم: نبت فيه حرمة، ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه: كان يخضب بالحناء والكتم، وقال الجزري: قد جرب الحنانة والكتم جميعاً فلم يسود، بل يغير صفرة الحنانة وحرتها إلى الحضرة.

حدثنا إسحاق بن منصور و يحيى بن موسى قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن <sup>(٢)</sup> أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عَدَّتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَحْيَتِهِ إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَةً شَعْرَةً بِيَضَاءٍ. حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا أبو داود، أخبرنا شعبة، عن سماك بن حرب إمام تغريب أو مستشرق منه قال: سمعت جابر بن سمرة <sup>(٣)</sup> يسأل عن شب رسول الله ﷺ بناء المهمول

ملا على قارىء الشیعیہ کہتے ہیں کہ غلبہ کا اعتبار ہوتا ہے، اگر غلبہ کتم کا ہوتا ہے تو خضاب سیاہ ہو جاتا ہے اور اگر غلبہ مہندی کا ہوتا ہے تو سرخ۔ الغرض خضاب دونوں سے جائز ہے مگر سیاہ نہیں ہونا چاہئے اس لئے کہ سیاہ خضاب کی ممانعت احادیث سے ثابت ہے۔ (۲) حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں چودہ سے زائد سفید بال نہیں گئے۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال بہت ہی کم تھے لیکن ان کی تعداد میں اختلاف ہے، اس روایت سے چودہ معلوم ہوتے ہیں، بعض روایات سے سترہ، اٹھارہ اور بعض سے تقریباً میں معلوم ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ایسا اختلاف نہیں مختلف زمانوں پر بھی محمول ہو سکتی ہیں اور گنتے کے فرق پر بھی حمل کی جاسکتی ہیں۔ سفید بالوں کی قلت سب میں مقصود ہے۔

(۳) حضرت جابر رضي الله عنه سے کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیل کا استعمال فرماتے تھے تو وہ محسوس نہیں ہوتے تھے ورنہ کچھ سفیدی کہیں کہیں محسوس ہوتی تھی۔ فائدہ: تیل کے استعمال کے وقت میں چونکہ سب بال چکنے لگتے تھے اس لئے بالوں کی سفیدی تیل کی چک میں مخلوط ہو جاتی تھی، یا اس وجہ سے کہ تیل کی وجہ سے بال جنم جاتے تھے تو سفید بال اپنی قلت کی وجہ سے مستور ہو جاتے تھے، اور جب تیل لگا ہوا نہیں ہوتا تھا تو وہ منتشر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہو جاتے تھے۔

أربع عشرة: بفتح الجزرتين للتركيب، والشين ساكنة، قال الحنفي: هذا لا ينافي ما صدر عنه في صدر الكتاب: ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء؛ لأن هذا السلب عام، قال المناوي: ولا ينافي حديث ابن عمر الآتي: إنما كان شبيه نحوا من عشرين؛ لأن الأربع عشرة نحوا من العشرين؛ لكونها أكثر من نصفها، نعم روى البيهقي عن أنس نفسه: ما كان في رأسه ولحيته إلاسبع عشرة أو ثمان عشرة شعرة بيضاء، وجمع باختلاف الأزمان، وبأن الأول إشعار عن عده، والثاني إخبار عن الواقع.

فقال: كان إذا دهن رأسه لم يُورِّ منه شيب، وإذا لم يدهن رُئيَ منه. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد مضارعه بالحركات الثلاث

الكندي الكوفي، أخبرنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر<sup>(٤)</sup>

قال: إنما كان شيب رسول الله ﷺ نحوًا من عشرين شعرةً بيضاء. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، أخبرنا معاوية بن هشام، عن شيبان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس<sup>(٥)</sup>

صدوق مصغراً

(٢) ابن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے سفید بال تقریباً بیس تھے۔ فائدہ: یہ پہلے گذر چکا کہ یہ روایت اوروں کے کچھ خلاف نہیں۔

(٥) ابن عباس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضي الله عنه نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے (اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ آپ کا اعتدال اس کا مقتنعی تھا کہ آپ جوان ہی رہتے، یا آپ کی عمر شریف کا مقتنعی یہ تھا کہ آپ اس وقت تک جوان ہوتے) حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عم یتساء لون، سورہ اذا الشس کورت، ان سورتوں نے بوڑھا بنا دیا۔ فائدہ: ان سورتوں کی قید نہیں، ان کے علاوہ سورہ حاقة، سورہ قارعد، سورہ غاشیہ وغیرہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ مقصود وہ سب سورتیں ہیں جن میں دہشت اثر امور کا ذکر ہے۔ جیسے قیامت، جہنم، صور، شقی لوگوں کا انجام وغیرہ وغیرہ۔ اسی لئے ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو امور میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جاتے توہننا بہت ہی کم کر دیتے اور اکثر اوقات روتے رہا کرتے، حتیٰ کہ بیسیوں کے پاس جانا بھی چھوڑ دیتے۔ (او کما قال)

دهن: قال المناوي عن القسطلاني: كذا وقع في أصل ساعتنا من الثلاثي المجرد، وكذا قوله: لم يدهن، وفي بعض النسخ: ادهن من الافتعال، وعلى التقديرين يكون رأسه مفعولاً، لكن في المغرب: دهن رأسه إذا طلاه بالدهن، وادهن من غير ذكر المفعول، وادهن شاربه خطأ. وأطال الكلام فيه القاري في جمع الوسائل. لم يرمنه: قال القاري والمناوي وغيرهما: لم يرمنه؛ للتباس بياضه بل معان الشعر من الدهن، والأوجه عندي ما قال الطبيسي: إنه عند الادهان كان يجمع شعره، ويضم بعضه إلى بعض، وكانت الشعارات البيض من قلتها لا تبين، فإذا شعث رأسه ظهرت.

الكندي: بكسر الكاف نسبة لكتدة، محلة بالكوفة، لا القبيلة كما توهם، قاله البيحوري تبعاً للمناوي. قلت: قال السمعاني في الأنساب: نسبة إلى كتدة: قبيلة مشهورة باليمن، وعد منها رجالاً ليس هذا منه، وقال القاري: منسوب إلى كتدة: قبيلة من قبائل العرب، ومحللة بالكوفة.

قال: قال أبو بكر: يا رسول الله! قد شبَّتْ، قال: "شَيَّبْتِنِي هُودٌ، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كُورَتْ". حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا محمد بن بشر،  
بكسر الموحدة وسكون المعجمة  
عن عليّ بن صالح، عن أبي إسحاق، عن <sup>(٦)</sup> أبي جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله! نراك  
قد شبَّتْ. قال: شَيَّبْتِنِي هُودٌ وأخواتها. حدثنا عليّ بن حُجر، أبناها شُعيب بن صَفوان،  
أباها <sup>كعثمان</sup>  
عن عبد الملك بن عميرة،  
مصغرًا

شرح سنۃ میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کو حضور ﷺ کی خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! مجھے یہ حدیث کپنچی کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا، کیا بات ہے؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اس میں ایک آیت ہے، **وَإِنْتَمْ كَمَا أُمِرْتُ** (الشوری) یعنی دین پر ایسے مستقیم رہو جیسا کہ حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ حکم کے موافق پوری استقامت بہت ہی مشکل امر ہے۔ اسی لئے صوفیاء نے لکھا ہے کہ استقامت ہزار کرامتوں سے افضل ہے۔

(۶) ابو جحيفه رض فرماتے ہیں، لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر کچھ ضعف وغیرہ اثر برداھا پے کا محسوس ہونے لگ۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود جیسی سورتوں نے ضعیف کر دیا۔ فائدہ: ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ دولت کدہ سے تشریف لارہے تھے اور واڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر رہے تھے، حضرت ابو بکر رض حضرت عمر رض مسجد میں تشریف فرماتھے۔ حضرت ابو بکر رض نے یہ منظر دیکھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس قدر جلدی آپ پر بڑھا پا آگیا اور یہ کہہ کر رونے لگے، آنسو جاری ہو رہے تھے۔

قد شبَّتْ: [أي: قد ظهر فيك الشيب، ومراده: السؤال عن السبب المقتضى للشيب، مع أن مزاجه اعتدل فيه الطبائع، واعتدالها يستلزم عدم الشيب] بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وتأء الخطاب، أي: ظهر فيك آثار الشيب من القتل وضعف البدن قبل أوانه، وهو لا ينافي ما سبق من نفي الشيب؛ لأن القصد به نفي احتياجه إلى الخضاب.  
شيَّبْتِني: النسبة بمحازية؛ لكونها سبباً من باب: أبنت الربيع البقل، والمعنى: ما في هذه السور من أحوال القيمة وأهواها. قال التوربي: يريد أن اهتمامي بما في هذه السور من أحوال يوم القيمة والملفات التوازل بالأمم السابقة أخذ مني ما أخذه حتى شبَّتْ قبل أوان الشيب، قال المناوي: زاد الطيراني في رواية: والحقيقة، وزاد ابن مردويه في أخرى: وهل أتاك حديث الغاشية، زاد ابن سعيد في أخرى: والقارعة، وسأل سائل، وفي أخرى: واقتربت الساعة. أي جحيفة: بضم حيم ثم حاء مهملة مصغرًا هو وهب السواعي يجعّبه على بفتحه وجعله على بيت المال وسماه وهب الخير.

عن إِيَادِ بْنِ لَقِيفِطِ الْعِجْلُونِيِّ، عَنْ أَبِي رَمْثَةَ التِّيمِيِّ - تِيمَ الرِّبَابِ - قَالَ: أَتَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِيْ أَبْنَى لِيْ،

حضور نے فرمایا سورہ ہود جسی سوتون نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ زمخشیر حسنی علیہ کہتے ہیں میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص شام کے وقت بالکل سیاہ بال جوان تھا، ایک ہی رات میں بالکل سفید ہو گیا، لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے رات قیامت کا منظر دیکھا ہے کہ لوگ زنجیروں سے کھینچ کر جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، اس کی دہشت مجھ پر کچھ ایسی غالب ہوئی کہ اس نے ایک ہی رات میں مجھے اس حالت پر پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔

(۷) ابو رمشہ تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لئے ہوئے حضور القدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو۔ لوگوں نے مجھے حضور ﷺ کا بتالیا (کہ یہ تشریف فرمائیں، غالباً یہ پہلے سے پہچانتے نہ ہونگے) میں نے حضور ﷺ کو دیکھا تو مجھے معاہی کہنا پڑا کہ واقعی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس وقت حضور نے دو بزر کپڑے پہن رکھے تھے (یعنی حضور کی لفگی بھی بزر تھی اور چادر بھی بزر) اور آپ کے چند بالوں پر کچھ بڑھاپے کے آثار غالب ہو گئے تھے لیکن وہ بال سرخ تھے۔ فائدہ: چہرہ انور پر جو آثار ہیبت و وقار اور انوار نبوت تھے ان کو دیکھ کر بے اختیار آدمی کی زبان سے اس قسم کے الفاظ نکل جاتے تھے کہ پیش کیا اللہ کے رسول ہیں، بلاشبہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ۔

ایاد: بکسر الهمزة وتحفیف المثناة التحتية ثم دال مهملة، ولقيط بفتح اللام وكسر القاف كبديع، وأخرجه المصنف في جامعه برواية عبيد الله عن إِيَادِ و قال: غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله. تِيمَ الرِّبَابِ: منصوب بتقدير: أعني، وقال القاري: مجرور في أصل سمعتنا، واحتقرز به عن تِيمَ قريش قبيلة من بكر. والرباب: بكسر الراء وتحفيف المحدثين، وضبطه الحافظ في شرح البخاري بفتح الراء، وهم حسن قبائل: ذبة، وثور، وعقل، وتيم، وعدى، غمسوا أيديهم في رب، وهو ثقل السمن، وخالفوا عليها فصاروا يداً واحدة.

ابن لی: اضطررت روایات أبی رمثة فی أن إِتیانه عند النبی ﷺ کان مع ابنه كما في رواية الشماائل، أو مع أبیه كما في روایات أبی داود، إذ روي عنه قال: انطلقت مع أبی نحو النبی ﷺ فإذا هو ذو وفرة، بما ردع حناء، وعليه بردان أحضران، وفي رواية: قال له أبی: أرني هذا الذي بظهرك فإلي رجل طيب، وفي أخرى: قال له ﷺ من هذا؟ قال: أبی قال: لا يحيى عليك ولا تحيى عليه. وبكل السياقين أخرجه أحمد بطرق عديدة، في بعضها: أن الكلام في الطب والولد كله كان مع والد أبی رمثة، وفي أخرى: أنه كان مع أبی رمثة بنفسه، ووجه القاري في جمع الوسائل بالتعدد، إذ قال: والظاهر المغايرة بينهما بأن رواية الترمذی تكون عن الأب ورواية أبی داود والنسائي عن ابن، وحيثند لا تناهى بينهما. ويؤيد ذلك أن في بعض الروایات إِتیانه بمکة، وفي أخرى بالمدینة، لكن يأبه اتحاد ألفاظ الروایتين، فتأمل.

قال: فَأَرِيتَهُ، فَقُلْتَ لَمَّا رَأَيْتَهُ: هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ، وَعَلَيْهِ ثُوبانٌ أَخْضَرَانٌ، وَلَهُ شَعْرٌ، وَقَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ،  
وَشَيْبُهُ أَحْمَرٌ. حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنْعِيٍّ، أَخْبَرَنَا سُرِيعُ بْنُ النَّعْمَانَ، أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ  
أَيْ بَنَادِهِ أَوْ بِالْحَضَابِ (٨) مُصْفَرًا بِالْجَهِيزِ، قَالَ: قَيلَ لِجَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ: أَمَا كَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْبٌ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ فِي  
رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْبٌ إِلَّا شَعَرَاتٌ فِي مُفْرَقِ رَأْسِهِ، إِذَا دَهَنَ وَأَرَاهُنَّ الدَّهْنَ.  
من: العماراة: وهو الاحفاء

متعدد حضرات صحابہ سے اس قسم کے الفاظ ابتدائی نظر میں حدیث کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ حدیث بالا میں حضور اقدس اللہ تعالیٰ کے سرخ بالوں کا بھی ذکر ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضور ﷺ نے خضاب فرمایا یا نہیں۔ بعض خضاب کے قائل ہیں، وہ اس سرخی کو خضاب پر محمول فرماتے ہیں اور بعض لوگ قائل نہیں وہ فرماتے ہیں کہ بال جب سفید ہوتا ہے تو اکثر مرتبہ اول سرخ ہوتا ہے، یہ سرخی اصلی تھی خضاب کی نہیں تھی۔ خضاب کا بیان مستقل دوسرے باب میں آنے والا ہے۔

(۸) حضرت جابر بن زید سے کسی نے پوچھا کہ حضور ﷺ کے سر مبارک میں سفید بال تھے؟ انہوں نے کہا کہ صرف چند بال مانگ پر تھے جو تیل لگانے کی حالت میں ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ فائدہ: یہ روایت بظاہر اس روایت کے کچھ خلاف ہے جو حضرت انس بن مالک سے شروع باب میں گزری ہے۔ لیکن کوئی ایسا اتفاق نہیں اس لئے کہ وہ دو چار بال مانگ میں تھے جو بالوں میں مستور ہو جاتے تھے اور تیل نہ ملنے کے وقت ظاہر ہوتے تھے۔ اس لئے اگر کسی روایت میں ان کا ذکر نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔

فأريته: بالبناء للمجهول أي: أرأي وعرقي بعض الحاضرين رسول الله ﷺ، ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، أي أريت ابني رسول الله ﷺ، والأول أوجهه. وشيه أحمر: [أي: والشعر الأبيض منه مصبوغ بالحمرة بناء على ثبوت المخطب منه ﷺ]. ويحتمل أن المراد: أن شعره الأبيض يخالفه حمرة في أطراقه، لأن العادة أن الشعر إذا قرب شيه أحمر ثم أبيض.

## باب ما جاء في خضاب رسول الله ﷺ

حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا هشيم، أخبرنا عبد الملك بن عمير، عن إياد بن أبي قيط قال: أخبرني أبو رمثة<sup>(١)</sup> قال: أتيت رسول الله ﷺ مع ابن لي فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال: لا يجني عليك، ولا تجني عليه، قال: ورأيت الشيب أحمر.

## باب حضور اقدس ﷺ کے خضاب فرمانے کا ذکر

فائدہ: اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں، امام ترمذی رضی اللہ عنہ علیہ نے ان میں سے چار حدیثیں اس باب میں ذکر فرمائی ہیں۔ ان ہی روایات مختلفہ کی بناء پر علماء میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ حضور ﷺ نے خضاب فرمایا یا نہیں۔ اکثر حضرات کے نزدیک امام ترمذی رضی اللہ عنہ علیہ کا میلان خضاب نہ کرنے کی طرف ہے، حنفیہ بھی اسی طرف مائل ہیں، چنانچہ وزیر مختار میں اس کی تصریح کی ہے کہ حضور ﷺ کا خضاب نہ کرنا زیادہ صحیح ہے اور علامہ شافعی رضی اللہ عنہ علیہ نے اس کی یہی وجہ بتلائی ہے کہ حضور ﷺ کی دائرہ مبارک میں بخاری وغیرہ کی روایت کے موافق سترہ بال سفید تھے۔ اور بنیوری شافعی شارح شماں اس کے قائل ہوئے ہیں کہ حضور ﷺ نے کبھی کبھی خضاب فرمایا اور اکثر نہیں کیا۔

خضاب: مصدر بمعنى التلوين كما في عامة الشروح، وزعم ابن حجر أنه بعيد، واستقرب قول القاموس: الخضاب ككتاب، ما ينضب به، أي: يلوون به، وليس كما زعم؛ إذ الموجب به إنما هو بيان تلوين شعره، لا بيان عن ما يلوونه؛ لأنه ليس فيه إلا حديث واحد ومعظم ما في الباب الأول. اشهد به: قال ميرك: يروى بصيغة الأمر من الثلاثي المجرد، أي: كن شاهداً على اعترافي بأنه ابني، وفي بعض النسخ بصيغة المتكلم من المجرد أيضاً، أي: أعترف بذلك، قال القاري: فقول الحنفي: روی على صيغة المضارع وعلى صيغة الأمر أيضاً بناء على زعمه أو على وهمه من عدم الفرق بين الرواية والنسخة، والعجب أنه قدم النسخة على الرواية. قلت: وعامة من ضبط من شراح الحديث بصيغة الأمر.

لا يجني عليك ولا تجني عليه: [أي: بل جنابته عليه وجنابتك عليك، ولا توأخذ بذنبه ولا يوأخذ هو بذنبك؛ لأن الشرع أبطل قاعدة الجاهلية، قال تعالى: ﴿وَلَا تَرِرُ وَازِرَةً وَزَرْ أَخْرَى﴾ (الأنعام: ١٦٤) ] الشيب أحمر: وفي رواية الحاكم: وشیبہ أحمر، مخصوص بالحناء.

قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء رُوِيَ في هذا الباب وأفسره، لأنّ الروايات الصحيحة أن النبي ﷺ لم يبلغ الشيب.

مسئلہ: علماء حنفیہ کے نزدیک خضاب مستحب ہے، لیکن مشہور قول کے موافق سیاہ خضاب مکروہ ہے، اور علماء شافعیہ کے نزدیک خضاب سنت ہے مگر سیاہ خضاب حرام ہے۔

(۱) ابو رمشہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں اپنے ایک لڑکے کو ساتھ لے کر حاضر ہوا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ کیا تیرا یہ بیٹا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت! یہ میرا بیٹا ہے آپ اس کے گواہ رہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کی جنایت کا بدلہ تجھ پر نہیں اور تیری جنایت کا بدلہ اس پر نہیں (فائدہ میں اس کی وضاحت آئے گی) ابو رمشہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حضور ﷺ کے بعض بالوں کو سرخ دیکھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خضاب کے بارے میں یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح اور واضح ہے۔ فائدہ: زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ بیٹا باپ کے جرم میں ماخوذ ہو جاتا تھا۔ ابو رمشہ نے اسی قاعدہ کی بناء پر یہ عرض کیا تھا کہ اگر کبھی اس امر کی ضرورت پیش آئے تو آپ اس کے گواہ رہیں کہ واقعی یہ میرا بیٹا ہے۔

أحسن: كثيراً ما يقول المصنف في جامعه: هذا أصح شيء في الباب، ولا يلزم من هذه العبارة كما قاله النووي في الأذكار صحة الحديث، فإنهم يقولون: هذا أصح ما في الباب وإن كان ضعيفاً، ومرادهم أنه أرجح ما ورد في الباب.  
وأفسره: [من التفسير. معنى الكشف والإيضاح]. لم يبلغ: أي: لم يصله ولم يظهر البياض في شعره كثيراً بحيث يحتاج إلى الخضاب، فينبغي أن يفسر شيئاً بالحمرة. قال ميرك: وأشار المصنف بهذا الكلام إلى أن الروايات المصرحة بالخضاب في طريق أبي رمثة لم تصح عنده، أو هي مؤوله، قال ابن حجر: كذا قيل، وليس بظاهر؛ لأن الترمذى قائل بالخضاب؛ بدليل سياقه لأحاديثه الآتية، وأن هذا لو كان مراده لم يسع هذا الحديث في هذا الباب أصلاً، بل كان يقتصر على سياقه في الباب الأول؛ لأن كونه أحمر لا يضره؛ لأن مراده حرته الذاتية التي هي مقدمة الشيب، فذكره له بتمامه في الباليين يدل على أن له مناسبة بكل منهما، وهي أن فيها إثبات الشيب، وهو المناسب للباب السابق، وأنه كان أحمر بالخضاب، وهو المناسب لهذا الباب، وأما الروايات الصحيحة: أنه عليه لم يشب، فمعناها: لم يكثر شيئاً مع أنه كان يستره بالحمرة في بعض الأحيان. قال القاري: هو كلام حسن لكن فيه أنه لا دلالة على أن الترمذى قائل بالخضاب؛ لإمكان ترجيح عدم عنده، بل هو ظاهر من قوله هذا. قلت: وبيهيد ابن حجر أن الترمذى ذكر أبا رمثة في جامعه في من روى في باب الخضاب، وهو نص روایة الحاکم المتقدمة قریباً، إلا أن تعلیله بالروايات الصحيحة يدل على أنه لم یترجح عنده خضابه ﷺ.

وأبو رمثة: اسمه رفاعة بن يَشْرِبِيُّ التَّيمِيُّ. حدثنا سفيان بن وكيع، أخربنا أبي، عن شريك، عن عثمان بن موهب<sup>(٢)</sup>، قال: سُئِلَ أَبُو هَرِيرَةَ: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو عَيْسَى رَوَى أَبُو عَوَانَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، فَقَالَ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

حدثنا إبراهيم بن هارون، أَبْنَاءُ النَّضْرِ بْنُ زُرَارَةَ، عن أَبِي جَنَابٍ، عن إِيَادِ بْنِ لَقِيطَةِ، عن <sup>(٣)</sup>الْجَهْدَمَةِ امْرَأَةِ بَشِيرِ بْنِ الْخَاصَّيَةِ، قَالَتْ: أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، يَنْفَضُ رَأْسَهُ، وَقَدْ اغْتَسَلَ، وَبِرَأْسِهِ رَدْعَ،

حضور ﷺ نے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو رد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کا یہ قاعدہ نہیں کہ "کوئی کرے اور کوئی بھرے" <sup>(١)</sup> (ولا تَرْدُ وَازِرَةً وَرَزْ أَخْرَى) (الأنعم: ١٦٤) کوئی شخص دوسرا کے بوجھ کا ذمہ دار نہیں۔

(٢) ابو ہریرہ <sup>رض</sup> سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضور ﷺ نے خضاب کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کیا۔

(٣) جہنمہ جو بشیر بن خاصیہ کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو مکان سے باہر تشریف لاتے ہوئے دیکھا کہ حضور نے غسل فرمائی تھا اس لئے سر مبارک کو جھاڑ رہے تھے، اور آپ کے سر پر حنکا اثر تھا۔

يشريبي: قال القاري: نسبة إلى يثرب، وهو من أسماء الجاهلية للمدينة، والتيمي نسبة إلى قبيلة تم، وانختلف فيه، فقيل: هكذا، وقيل: التيمي بميمين كما في التهذيب وغيره، اختلف في اسمه أيضا على أقوال. عثمان: منسوب إلى جده؛ لأنَّه عثمان بن عبد الله بن موهب بكسر الهاء أو بفتحها قوله للعلماء، ورجح شراح الشمايل فتحها. قال أبو عيسى: يعني أن أبا عوانة جعل الحديث من مسانيد أم سلمة بدل أبي هريرة، والغرض بيان الاختلاف بين شريك وأبي عوانة تلميذ عثمان، وحقق القاري: أن ما وقع فيه من شريك وهم، والصواب رواية أبي عوانة، يعني كونها من مسانيد أم سلمة، فتأمل.

أبو جناب: يحيى مفتوحة فنون كصحاب، هو يحيى بن أبي حية الكلبي، كذا في الشروح وكتب الرجال، فما في النسخ من غيره غلط. الجهدمة: بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الذال المعجمة بعدها ميم، امرأة بشير بفتح أوله كبدفع، وقال المناوي: جهنة صحابية، غير النبي ﷺ اسمها فسمها ليلي، وبشير سماء به النبي ﷺ تغييراً لاسمها زحما. الخصاصية: بفتح المعجمة وبصادين مهمليتين وتحقيق التحتية، والتشديد لحن، كذا نقل عن صاحب القاموس رداً على ابن الأثير، وتعقبه شراح الشمايل: بأن اللحن إذا كان الخصاصية مصدراً، أما إذا كان الخصاصية معنى الفقر والباء للنسبة فلا مانع، لكنهم جزموا بأن الرواية بالتحقيق.

- أو قال: رَدْغٌ - من حناء، شَكٌ في هذا الشيخ. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عمرو بن عاصم، أخبرنا حماد بن سلمة، أخبرنا حميدٌ، عن<sup>(٤)</sup> أنس بن مالك قال: رأيت شَعْرَ رسول الله ﷺ مخصوصاً. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيلٍ قال: رأيت شَعْرَ رسول الله ﷺ عند أنس بن مالك مخصوصاً.

(٢) حضرت أنس بن مالك فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کے بالوں کو خضاب کیا ہوا دیکھا۔ فائدہ: حضور اقدس ﷺ کے خضاب میں مختلف روایتیں ہیں جیسا کہ مفضل گزر چکا ہے، لیکن اس روایت میں ایک خاص اشکال ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے باب کی سب سے پہلی حدیث میں خود حضرت أنس بن مالک سے خضاب کی نفی مذکور ہو چکی ہے لیکن دونوں روایتیں اگر صحیح مان لی جائیں تو مختلف اوقات پر محمول ہو سکتی ہیں۔

أو قال: يعني شك شيخي إبراهيم في هذا اللفظ في أنه أسمعه من شيخه بالعين المهملة أو بالغين المعجمة، لكن قال القسطلاني: اتفق المحققون على أن الردغ بالمعجمة غلط في هذا الموضع؛ لإطلاق أهل اللغة على أنه بالمهملة لطخ من زعفران. قال الحافظ: هو بمهملة: الصبغ، ومعجمة: الطين الكبير، وقال السيوطي: ضبطوه في كتب اللغة بمهملات. ردغ: [الردغ: هو تغيير اللون بالصبغ من حناء أو غيره]. الشيخ: أي: شيخ المصنف، وفي نسخة: الشك هو لإبراهيم بن هارون. مخصوصاً: قال القاري: قد مر في الأحاديث الصحيحة عن أنس أنه ﷺ لم يخضب، فعله أراد بالنفي أكثر أحواله، وبالإثبات إن صح عنه الأقل، ويجوز أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز.

## باب ما جاء في كُحْل رسول الله ﷺ

حدثنا محمد بن حميد الرأزي، أنبأنا أبو داود الطيالسي، عن عبّاد بن منصور، عن عكرمة، عن

ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: إِكْحَلُوا بِالْإِثْمَد، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْتَهِ الشِّعْرَ.  
[بنوی]

## باب حضور اقدس ﷺ کے سرمه کا بیان

فائدہ: سرمہ آنکھ میں ڈالا مستحب ہے، آدمی کو چاہئے کہ ثواب کی نیت سے سرمہ ڈالے کہ اس میں آنکھ کو فائدہ پہنچنے کے علاوہ اتباع کا ثواب بھی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں پانچ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اثمد کا سرمہ آنکھوں میں ڈالا کرو، اس لئے کہ وہ آنکھ کی روشنی کو بھی تیز کرتا ہے اور پلکیں بھی زیادہ اگلتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضي الله عنهما بھی کہتے تھے کہ حضور ﷺ کے پاس ایک سرمہ دافی تھی جس میں سے تین تین سلائی ہر رات آنکھوں میں ڈالا کرتے تھے۔

فائدہ: اثمد ایک خاص سرمہ کا نام ہے جو سیاہ سرخی مائل ہوتا ہے، بلاد مشرقیہ میں پیدا ہوتا ہے، بعض اکابر اس سے اصفہانی سرمہ مراد بتلاتے ہیں اور بعض نے تو تیاتلا یا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تدرست آنکھوں والے اور وہ لوگ ہیں جن کو موافق آجائے ورنہ مريض آنکھ اس سے زیادہ دکھنے لگتی ہے۔ سرمہ کا سوتے وقت ڈالا زیادہ مفید ہے کہ آنکھ میں دیر تک باقی بھی رہتا ہے اور سمات میں سراحت اس وقت زیادہ کرتا ہے۔ سلائی کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں، بعض روایات میں دونوں آنکھ میں تین تین وارد ہوئی ہیں جیسا کہ ابھی گزر اے، اور بعض روایات میں دوائیں آنکھ میں تین اور بائیں میں دووارو ہوئی ہیں۔ یہ مختلف اوقات پر محول ہیں کہ بعض مرتبہ حضور ﷺ ایسا فرماتے تھے اور بعض مرتبہ ایسا۔

الکحل: بالضم: كل ما يوضع في العين للاستشفاء، وبالفتح: جعل الكحل في العين، قال القسطلاني: المسموع من الرواة الضم، وإن كان للفتح وجه بحسب المعنى. الرأزي: نسبة إلى الري، مدينة كبيرة مشهورة من بلاد الدليم، وزادوا الزراي في النسب إليها. بالإثمد: [كحل معدني معروف، ومعدنه بالشرق، وهو أسود يضرب إلى حمرة].

وينبت الشعر: [أي: يقوي طبقات شعر العينين التي هي الأهداب]. الشعير: يفتح العين للازدواج وهو الرواية.

وزعم أن النبي ﷺ كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة، ثلاثة في هذه، وثلاثة في هذه. حدثنا عبد الله بن الصّبّاح الهاشمي البصري، أخبرنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا إسرائيل، عن عباد بن منصور. ح وحدثنا علي بن حُجْر، حدثنا يزيد بن هارون، أبنا عباد بن منصور، عن عِكْرِمَة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ يكتحل قبل أن ينام بالإثم ثلاثة في كل عين.

حافظ ابن حجر اور ملا على قاری رضي الله عنها وغیرہ حضرات نے پہلی صورت کو راجح فرمایا ہے، چنانچہ نبی اکرم ﷺ سے بھی متعدد احادیث میں یہی صورت نقل کی گئی ہے، جیسا آئندہ روایات میں آ رہا ہے۔

(۲) ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ سونے سے قبل ہر آنکھ میں تین سلانی اثر کے سرمه کی ڈالا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ابن عباس رضي الله عنهما ہی سے منقول ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے پاس ایک سرمه وانی تھی جس سے سونے کے وقت تین تین سلانی آنکھ میں ڈالا کرتے تھے۔

وزعم: [المراد بالزعم هنا مجرد القول، وإن كان أكثر ما يستعمل في الشك، وقيل: المراد هنا: القول المحق] أي ابن عباس كما يفهم من روایة ابن ماجه، ويصرح به الروایات الآتية، وقيل: محمد بن حميد. و"الزعم" قد يطلق على القول المحق وإن كان أكثر ما يستعمل فيما يشك فيه، فإن الضمير لابن عباس فالمراد به: القول المحق، وإن كان محمد على ماجوزه بعضهم فالزعم على معناه المبادر، فإشارة إلى ضعفه بإسقاط الوسائل بينه وبين النبي ﷺ، لكن فيه أنه لو كان القائل ابن عباس لقيل: "وإن النبي ﷺ" ، ولم يكن لذكر "زعم" فائدة، إلا أن يقال: إنه أتى لطول الفصل، كما يقع إعادة "قال" في كثير من العبارات، وإثناء إلى أن الأول مرفوع والثانى موقوف، والأول قولي والثانى فعلى، وأما قول العصام: الأوجه نسبة الزعم إلى ابن حميد، وبيهده نسبة هذا القول في الحديث الثانى إلى يزيد بن هارون، فغير صحيح؛ لأن المراد بقول المصنف في الحديث الآتى: قال يزيد في حديثه، أي: حديثه الذى يرويه عن ابن عباس، لا أنه في حديث نفسه، والمقصود المغایرة اللغوية من الرواية قاله القاري، وجزم البيحوري أيضاً: أن فاعل "زعم" ابن عباس، وقال المناوى: زعم، أي: محمد بن حميد كما هو المبادر من لفظ الزعم؛ إذ أكثر إطلاقه على ما يشك، وتطرق الشك هنا من حيث أنه لم يسنده، أو الضمير لا بن عباس كما أفهمته روایة ابن ماجه، فالمراد بالزعم مجرد القول.

مكحولة: [وهي آلة الكحل، وهي: ما يوضع فيه الكحل] بضم الأول والثالث، وكان القياس الكسر؛ إذ هو اسم آلة، فهو من النواذر. ثلاثة في هذه: [أي: ثلاثة متواлиات في اليمني وثلاثة في اليسرى]. الصّبّاح: بفتح الصاد المهملة وتشديد الموحدة. ح: هذه علامة التحويل من سند إلى سند آخر، فإذاً يكتبون عند الانتقال من سند إلى آخر لفظ "ح" روماً للاختصار، وهي في كتب المؤاخرين أكثر من كتب المتقدمين. ثم هي مختصرة من التحويل، أو من الحال، أو من صع، أو من الحديث أقوال للعلماء، وأيضاً هل ينطق بها مفردة ثم يمر في قراءته، أو ينطق بلفظ ما رمز لها، أو لا ينطق بها أصلاً، ثلاثة أقوال لأهل الأصول، والجمهور على الأول. وللتقوى السندين هنا عباد بن منصور.

وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي ﷺ كانت له مكحولة يكتحل منها عند النوم ثلاثة في كل عين. حدثنا أحمد بن منيع، أئبنا محمد بن يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر - هو ابن عبد الله - قال: قال رسول الله ﷺ: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر. حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا بشير بن المفضل، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جعير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: إن خير أكحلا لكم الإثمد، يجلو البصر، وينبت الشعر. حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان بن عبد الملك، عن سالم، عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر.

(٣) حضرت جابر رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اندھہ کا سرمه ضرور ڈالا کرو، وہ نگاہ کو روشن بھی کرتا ہے اور پلکیں بھی خوب اگاتا ہے۔

(٤) ابن عباس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے سب سرموں میں سرمه اندھہ بہترین سرمه ہے، آنکھ کو بھی روشنی پہنچتا ہے اور پلکیں بھی اگاتا ہے۔ فائدہ: اس حدیث کے روایوں میں بشر بن مفضل کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ ان کا معمول چار سورکعات نفل روزانہ پڑھنے کا تھا اور ایک دن افطار اور ایک دن روزہ، یہ دامنی معمول تھا۔

(٥) حضرت عبد اللہ بن عمر رضي الله عنه نے بھی حضور اقدس ﷺ سے یہی نقل کیا کہ اندھہ ضرور ڈالا کرو، وہ نگاہ کو بھی روشن کرتا ہے اور پلکیں بھی اگاتا ہے۔ فائدہ: ان سب روایتوں میں اندھہ کی ترغیب ہے لیکن ان سے وہی آنکھیں مراد ہیں جن کو موافق آجائے ورنہ بعض عوارض کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ سرمه موافق نہیں آتا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ علماء نے ان ارشادات اور معمولات کی وجہ سے لکھا ہے کہ سرمه ڈالنانت ہے اور خاص اندھہ کا سرمه افضل ہے، لہذا اگر اندھہ کے علاوہ کوئی اور سرمه ڈالے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی البتہ فضیلت اس کے لئے ہے۔

قال يزيد أخ: ليس بمعنٰى ولا مرسل كما توهّم، بل هذا بيان اختلاف الرواية في رواية ابن عباس، فهو موصول بالإسناد السابق. وقد أخرج المؤلف في الجامع طريق يزيد بن هارون عن علي بن حجر بالإسناد المذكور، وبهذا تبين بطلان قول عصام فيما سبق من الكلام، قاله القاري. عند النوم: [لأنه حيتندأدخل وأنفع]. خثيم: بناء معجمة فمثلثة مصغرأ، كذا ضبطه المناوي والبيجوري، فما في السخ "خثيم" غلط، وكذا سعيد بن حبيرة بضم بييم مضمومة فموحدة مفتوحة وسكون ياء كما في المغنى. المستمر: بصيغة اسم الفاعل من الاستمرار.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي لِبَاسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ما يلبس به

حدثنا محمد بن حميد الرازي، أربأنا الفضل بن موسى وأبو ثميلة وزيد بن حباب، عن عبد المؤمن ابن خالد، عن عبد الله بن بريدة، عن أم سلمة قالت: كان أحب الشياب إلى رسول الله صلی اللہ علیہ و آله و سلّم القميص. حدثنا علي بن حجر، حدثنا الفضل بن موسى، عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بريدة، عن أم سلمة قالت: كان أحب الشياب إلى رسول الله صلی اللہ علیہ و آله و سلّم القميص.

## بابُ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و آله و سلّم کے لِبَاسِ کا ذکر

فائدہ: اس باب میں مصنف صلی اللہ علیہ و آله و سلّم نے سولہ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ لباس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کا لباس کوئی واجب ہوتا ہے، کوئی مستحب، کوئی حرام، کوئی مکروہ اور کوئی مباح۔ آدمی کو لباس کے وقت اہتمام سے مندوبات کی طرف رغبت اور مکروبات سے احتیاب ہونا چاہئے۔ واجب وہ مقدار لباس ہے جس سے ستر عورت کیا جائے۔ اور مندوب وہ ہے جس کے پہننے کی شریعت میں ترغیب آئی ہو، جیسے عمدہ کپڑا عید، بقر عید کے لئے اور سفید کپڑا جمعہ کے لئے۔ مکروہ وہ ہے جس کے نہ پہننے کی ترغیب آئی ہو، جیسے غنی کے لئے ہمیشہ پہننے کپڑے پہننا۔ حرام وہ ہے جس کے پہننے کی ممانعت آئی ہو، جیسے مرد کے لئے ریشمی کپڑا بلا اذر پہننا۔

(۲۱) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے متفق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و آله و سلّم اسب کپڑوں میں کرتے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔

لباس: [ما يسْتَرُ الْجَسْمُ]. أبو تميلة: بالشاة الفوقانية مصغرًا، ووهم من قال بالمثلثة. هو يحيى بن واضح الأنصاري، أخرج حديثه السنة.  
 حباب: بعهيلة وموحدتين بينهما ألف كtrap، أبو الحسين العكلي الخراساني. عبد المؤمن: يعني أن الفضل وأبا تميلة وزيداً كلهم يرون عن عبد المؤمن، وعبد المؤمن ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث. أحب: [أنه أستر للبدن من غيره وأخف على البدن].  
 القميص: المشهور في الرواية أن لفظ "أحب" اسم لـ"كان" فيكون مرفوعاً، و"القميص" خبره، فيكون منصوباً، وروي عكسه أيضاً. قال البيهوري: القميص: اسم لما يلبس من المحيط الذي له كمان وحجب، يلبس تحت الشياب، ولا يكون من صوف، كما في القاموس، ما حوذ من التقصّم بمعنى التقلّب؛ لتقلّب الإنسان فيه، وقيل: باسم الجلدة التي هي غلاف القلب، فإن اسمها القميص. علي بن حجر: لم يختلف من الرواية في هذه الأحاديث الثلاثة، وإنما كررها؛ لاختلاف السند من مبدأه، وفي الطريق الثالث زيادة لفظ "يلبسه".

حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی، حدثنا أبو تمیلہ، عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بُریدة، عن أمه، عن أم سلمة قالت: كان أحب الشیاب إلى رسول الله ﷺ يلبسه القميص.

فائدہ: حضور اقدس ﷺ کے کرتے کو زیادہ پسند فرمانے کی وجہہ علماء نے مختلف تحریر فرمائی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس سے بدن اچھی طرح ڈھانکا جاتا ہے بخلاف لگنگی وغیرہ کے، اس لئے وہ پسند تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ کم قیمت ہونے اور بدن پر بوجہ نہ ہونے کی وجہ سے بخلاف چادر وغیرہ کے۔ بعض کی رائے ہے کہ اس سے تکبیر نہیں پیدا ہوتا بلکہ بعض اور کپڑوں کے۔ بندہ ناچیز کے نزویک اس کی وجہہ ظاہر یہ ہے کہ کرتے میں ستر عورت بھی اچھی طرح سے ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تجمیل اور زینت بھی اچھی ہو جاتی ہے، برخلاف اور کپڑوں کے کہ اُن سے یا تجمیل میں کمی رہے گی جیسے لگنگی، یا ستر عورت میں جیسے چادر۔ اس باب کی آٹھویں حدیث بظاہر اس حدیث کے خلاف ہے، اس کے ساتھ تطہیق اُسی جگہ ذکر کی جائے گی۔

(۳) ایسے ہی ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے بعض لوگوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ کو پہننے کے لئے سب کپڑوں میں سے کرتا زیادہ پسند تھا۔ فائدہ: ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دمیاطی سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا کرتاسوت کا بنا ہوا تھا جو زیادہ لمبا بھی نہ تھا اور اس کی آستین بھی زیادہ لمبی نہ تھی۔ بیجوری نے لکھا ہے کہ حضور ﷺ کے پاس صرف ایک ہی کرتاسوت۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ کا معمول صبح کے کھانے میں سے شام کے لئے بچا کر رکھنے کا نہ تھا، نہ شام کے کھانے میں سے صبح کے لئے بچانے کا تھا، اور کوئی کپڑا کرتا یا چادر یا لگنگی یا جھوتا دو عدد نہ تھے۔ مناوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضور کا کرتا زیادہ لمبا نہ تھا، نہ اس کی آستینیں لمبی ہوتی تھیں۔ دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضور کا کرتا مخنوں سے اوپنجا ہوتا تھا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نصف پنڈی تک ہونا چاہئے۔

زیاد: بکسر زای فمشناه تختیہ کعماد۔ **البغدادی**: نسبہ إلى البلد المشهور وهو مدينة السلام، قبيل في وجه تسمیته: أن "بغ" اسم لصنم لأهل المشرق، و "داد" بمعنى العطية، أي: عطية صنم بغ، ولذا كره ذلك الاسم بعض العلماء۔ **أمه**: قال الزین العراقي: يحتاج الحال إلى معرفتها، ولم أر من ترجمتها. قال المناوي: وهكذا سكت عن حالها غير واحد من شرّاح الشمائل، ولم يذكرها الحافظ في المهمات ولا الكتب، وذكر في مشائخ ابن بريدة أباه دون أمه.

قال أبو عيسى: هكذا قال زياد بن أبوي في حديثه: عن عبد الله بن بُريدة، عن أم سَلَمة، وهكذا روى غير واحدٍ عن أبي تُمَيِّلَة مثل رواية زياد بن أبوي، وأبو تُمَيِّلَة يزيد في هذا الحديث "عن أمه" وهو أصح. حديثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج،

(۲) حضرت اسماءؓ کے حضور ﷺ کے کرتے کی آسمیں پہنچے تک ہوتی تھی۔ فائدہ: یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آسمیں کا پہنچے سے نیچا ہونا وارد ہوا ہے۔ علامہ نے ان دونوں روایتوں کو چند طریق سے جمع کیا ہے اولاً یہ کہ تعدد اوقات پر حمل کی جائیں کہ کبھی الیکی ہوتی تھیں اور کبھی اس طرح۔ دوم یہ کہ آسمیں جس وقت میں شکری ہوتی تھی تو پہنچے تک اور جس وقت کہ سیدھی ہوتی تھی تو پہنچے سے نیچے تک بھی ہو جاتی تھی۔ بعض لوگوں نے دونوں روایتوں کو تجھیش پر حمل فرمایا ہے اس صورت میں کوئی اشکال ہی نہیں۔ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بذل الجہود میں تحریر فرمایا ہے کہ پہنچے تک کی روایات افضلیت پر محول ہیں اور زیادہ کی روایت بیان جواز پر۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کرتے کی آسمیں میں سنت یہ ہے کہ پہنچے تک ہو اور کرتے کے علاوہ چونھے وغیرہ میں نیچے تک، لیکن انگلیوں سے مجاوز نہ ہو۔

قال أبو عيسى: غرض المصنف بهذا الكلام: أن عبد المؤمن روى عنه الفضل بن موسى وزيد بن حباب فقلالا: عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة، ولم يذكرا واسطة أم بريدة، وروى عنه أبو تميلة أيضاً، لكن اختلف عليه في إسناده، فروى عنه ابن حميد بدون ذكر الواسطة، وروى عنه زياد بن أيوب بواسطة الأم، وتتابع زياداً على هذه الزيادة غير واحد، فالراجح وجود الواسطة في هذه الرواية، وحكم المصنف في جامعه عن البخاري: أن حدث ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، كما سيأتي.

أبو ثمِيلَةَ: قال البيحوري: الذي قررَه العصام أن قوله: "وهو أصح" مفعول "يزيد" فقوله: "عن أمه" ليس مفعول "يزيد" وإنما أتى به تعيناً محل الزيادة، والمعنى على هذا: أن أبا ثمِيلَةَ يزيد في هذا الحديث لفظ "وهو أصح" وجعل هذه الزيادة بعد قوله: "عن أمه"، وقرر بعضهم: أن المزید هو قوله: "عن أمه" وجعل قوله: "وهو أصح" من كلام الترمذى، والمعنى على هذا: أن أبا ثمِيلَةَ يزيد في هذا الإسناد لفظ "عن أمه"، وهذا الإسناد الذي فيه زيادة "عن أمه" أصح من الإسناد الذي فيه إسقاطها، وهذا التقرير هو المتبادر، لكن أورد عليه: أن قوله: "أبو ثمِيلَةَ يزيد" إلخ معلوم مما سبق، فهو زيادة لا فائدة فيها، واعتذر عنه: بأنه تأكيد لما سبق. قلت: واحتار القاري والمناوي أيضاً ما قررَه العصام، والظاهر عندي الثاني، وما أوردوا عليه من: أنه تكرار لا فائدة فيه، غير صحيح؛ لأنه لم يعرف مما سبق أن الزيادة من أبي ثمِيلَةَ، أو من الرواية عنه، ولذا قال المصنف في الجامع: وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي ثمِيلَةَ، عن عبد الله بن بريدة، عن أمه، عن أم سلمة، وسمعت محمد بن إسماعيل قال: حديث ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، وإنما يذكر فيه أبو ثمِيلَةَ مثل قوله: "أبو ثمِيلَةَ يزيد" لا فرق بينهما.

حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن بُدَيْل الْعَقِيلِيِّ، عن شهير بن حوشب، عن<sup>(٤)</sup> أسماء بنت كفليس كمحضر يزيد قال: كان كُمْ قميص رسول الله ﷺ إلى الرسغ. حدثنا أبو عمّار الحسين بن حُريث، مصغراً أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا زهير، عن عروة بن عبد الله بن قُشير، عن معاوية بن قرعة، عن<sup>(٥)</sup> أبيه قال: أتيت رسول الله ﷺ في رهط من مُزِيَّة لنباعه، وإن قميصه لَمُطلقاً - أو قال:  
 كثاده قبيله وگروه

(٥) قرة بن ایاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس مصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیعت کے لئے حاضر ہوا تو حضور مصلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا تکمیلہ کھلا ہوا تھا، میں نے آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر تمگا مہربنوت کو چھوڑا۔ فائدہ: ان کی حاضری جس وقت ہوئی تو نبی اکرم مصلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا، اسی حالت میں ان کو زیارت ہوئی۔ محبت کا لازمہ ہے کہ محبوب کی ہر احوال میں گھپ جائے۔ عروة جواس حديث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ کو اور ان کے بیٹے کو کبھی بھی گریبان کی گھنڈی لگائے نہیں دیکھا، گرم ہو یا سردی ہی بشہ ان کی گھنڈیاں کھلی رہتی تھیں۔ ان حضرات کے اسی عشق کی بدولت آج نبی کریم مصلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادامت کے پاس محفوظ ہے۔ جزاهم اللہ عنا و عن سائر الأمة أحسن الجزاء.

بدیل: بدال مهملا مصغراً، هو ابن ميسرة كما في نسخة. والعقيلي مصغرأ، نسبة إلى عقيل بن كعب بن عامر. كُمْ: [مدخل اليد و مخرجها من القميص والثوب]. الرسغ: [مفصل ما بين الكف والساعد من الإنسان] بضم الراء و سکون السين أو الصاد لغتان، ثم غين معجمة، وهو: مفصل ما بين الكف والساعد، والحكمة فيه: أنه إن جاوز اليد منع لابسه سرعة الحركة والبطش، وإن قصر عن الرسغ تؤدي الساعد بالحر والبرد.

قشير: بقاف وشين معجمة مصغراً، وكذلك "الحسين" و "حريث" و "عيم وزهير" كلهم مصغرون، و "قرة" بضم القاف وتشديد الراء. رهط: [اسم جمع، لا واحد له من لفظه، وهو من ثلاثة إلى عشرة أو إلىأربعين، ويطلق على مطلق القوم]. مزينة: [بالتصغير، قبيلة من مضر، وأصله اسم امرأة] بضم ميم وفتح زاء وسكون تحريكية، قبيلة معروفة من مضر. قاري. مسماة باسم إحدى جدهم، والجار والمجرى صفة لـ "رهط". لنباعه: أي على الإسلام، وهو متعلق بقوله: "أتى".

أو قال: قال حنفي: الشك من معاوية أو من دونه، وتعقبه العصام فقال: الشك من معاوية، ومن قال: منه أو من دونه، فقد ارتتاب، وتبعه ابن حجر، ورد لها ميرك بقوله: الشك منشيخ الترمذى، وحققه القارى لروايات: منها ما أخرجه ابن سعد وابن ماجحة عن أبي نعيم هذا السند بغير شك.

زَرَّ قَمِصَهُ مُطْلُقٌ - قَالَ: فَأَدْخَلْتِ يَدِي فِي جِيبِ قَمِصَهِ، فَمَسَسْتِ الْخَاتَمَ. حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ،  
 حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ الْحَسْنِ، عَنْ أَنْسٍ  
 بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ، وَهُوَ مُتَكَبِّعٌ عَلَى أَسَامِةَ بْنِ زَيْدٍ، عَلَيْهِ ثُوبٌ قِطْرِيٌّ، قَدْ تَوَسَّحَ  
 بِهِ، فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: سَأَلْتُنِي يَحْيَى بْنَ مَعْنَى عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ  
بِفَتحِ الْبَيْمَانِ  
 أَوَّلَ مَا جَلَسَ إِلَيْيَّ، فَقَلَّتْ: حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ مِنْ كِتَابِكَ! فَقَمِتَ لِأَخْرَجَ كِتَابِي،  
بِفَتحِ الْبَيْمَانِ  
فِلَادَهُ دِرِّيْگَرْدَنْ اَفْكَنْدَنْ  
مِنْ الْمَحْلِسِ  
مِنْ بَيْنِ

(٤) حَفَظَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرِمَاتَهُ ہیں کہ حضور اقدس شریف حضرت اسامہ پر سہارا لگائے ہوئے مکان سے تشریف لائے، اس وقت حضور اقدس شریف پر ایک یمنی مقتش کپڑا تھا جس میں حضور اقدس شریف لپٹے ہوئے تھے، پس حضور اقدس شریف نے باہر تشریف لا کر صحابہ کو نماز پڑھائی۔ فائدہ: یہ قصہ حضور اقدس شریف کی بیماری کا ہے چنانچہ دارقطنی نے اس کی تصریح کی ہے، اسی لئے حضور اقدس شریف نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پر سہارا لگا کر کھاتھا، اور غالب یہ ہے کہ مرض الوفات کا قصہ ہے کہ اس قسم کے واقعات اس میں پیش آئے ہیں۔ حضور اقدس شریف کے کسی چیز پر ٹیک لگانے کے باب میں بھی یہ حدیث آئے گی۔ اس حدیث کی سند کے متعلق ایک عجیب قصہ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے جس سے حضرات محدثین رضی اللہ عنہم کا حدیث کے ساتھ شدت اشتیاق اور ان کی نگاہ میں دُنیا کی بے ثباتی معلوم ہوتی ہے۔ محمد بن الفضل کہتے ہیں کہ میگی بن معین (جو علم حدیث کے بڑے جلیل القدر امام ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے دس لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں) نے بیہقی اس حدیث کو مجھ سے دریافت کیا، میں نے سُنانَ شرُوعَ کیا تو وہ فرمانے لگے کہ کاش! اپنی کتاب سے سُنَّاتَ تاکہ زیادہ قابلِ اطمینان ہوتی۔

مُتَكَبِّعٌ: [الاعتماد على الغير لضعف الإنسان من مرض أو غيره] اسم فاعل من الاتكاء، وفي نسخة: "متوكئٌ" من التوكأ، وكلاهما يعني واحد وهو: الاعتماد، قاله القاري. وانختلف في إسناد هذا الحديث كما يأتي في باب اتكائه رضي الله عنه.  
 قِطْرِيٌّ: بكسر القاف وسكون الطاء بعدها راء ثم ياء النسب، نسبة إلى القطر بالكسر، وهو نوع من البرود اليمينية، يتخذ من قطن، وفيه حمرة وأعلام مع خشونة، أو نوع من حلل جياد، يحمل من بلد بالبحرين اسمها قطر بفتحتين، فكسرت القاف وسكتت الطاء على خلاف القياس، وقال الحافظ ابن حجر: ثياب من غليظ القطن ونحوه.  
 قد توسّح به: [أي: وضعه فوق عاتقية، أو اضطבע به كالحرم، أو خالف بين طرفيه وربطهما بعنقه]. لو كان: إن كان للشرط فجوابه محدود، أي: لكان أحسن؛ لما فيه من زيادة التثبت، وإن كان للمعنى فلا يحتاج إلى الجواب.

فَقَبِضَ عَلَى ثُوبِيْ، ثُمَّ قَالَ: أَمِّلَهُ عَلَيْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَلْقَاكَ، قَالَ: فَأَمْلِيْتُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَخْرَجْتُ  
كَلَبِيْ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ حَدِثَنَا سُوِيدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَبْارَكَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ،  
عَنْ أَبِي نَضْرَةِ عَنْ<sup>(٧)</sup> أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِذَا اسْتَجَدَ ثُوبًا سَمَاهُ بِاسْمِهِ  
عُمَامَةً، أَوْ قَمِيصًا،  
بَكْسَرُ الْمُهَمَّةَ وَتَحْصِيفُ الْيَاءِ  
بَكْسَرُ الْعَيْنِ

محمد بن فضل کہتے ہیں کہ میں کتاب لینے کے لئے اندر جانے لگا تو سیکھی بن معین رض نے میرا کپڑا کپڑا لیا اور یہ کہنے لگے کہ  
پہلے مجھے حفظ ہی لکھاتے جاؤ موت حیات کا کچھ اعتبار نہیں، ممکن ہے کہ میں پھر مل سکوں نہ مل سکوں، کتاب دیکھ کر دوبارہ  
سُنادیں۔ محمد بن فضل کہتے ہیں کہ اول میں نے حفظ سنائی اور پھر کتاب لا کر دوبارہ دیکھ کر سنائی۔ اللہ اکبر! ان کو طرفین کی  
حیات کا اس قدر بھی اطمینان نہیں تھا کہ اندر سے کتاب لانے تک زیست کا یقین ہو اور حدیث کا شغف کہ اس کے فوت  
ہو جانے کا بعید خطرہ بھی گوارہ نہ ہوا۔

(۷) ابو سعید خدری رض فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑا پہنچتا تو اظہار مسرت کے طور پر اس کا نام لیتے،  
مثلاً اللہ تعالیٰ نے یہ کرتا مرحمت فرمایا، ایسے ہی عمامة چادر وغیرہ، پھر یہ دعا پڑھتے: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسُوتَنِي، أَسْأَلُكَ

فَقَبِضَ عَلَى ثُوبِيْ: [أَيْ: ضَمَّ عَلَيْهِ أَصَابِعِهِ، وَمِنْهُ مَقْبِضُ السِّيفِ، وَغَرْضُهُ مِنْ ذَلِكَ: مَنْعِهِ مِنْ دُخُولِ الدَّارِ؛ لِشَدَّةِ حِرْصِهِ  
عَلَى حِصْوَلِ الْفَائِدَةِ خُشْبَيْةِ فَوْهَمَا]. أَمِّلَهُ: بِلَامٌ مُشَدَّدَةٌ مُفْتَوَحَةٌ مَعَ كَسْرِ الْمِيمِ مِنِ الْإِمْلَالِ، وَهُوَ بَعْنَى: الْإِمْلَاءِ، أَوْ  
بَسْكُونِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْأَلْمَامِ الْمُخْفَفَةِ مِنِ الْإِمْلَاءِ، يَقَالُ: أَمْلَكَتِ الْكِتَابَ وَأَمْلَيْتَهُ إِذَا أَلْقَيْتَهُ عَلَى الْكِتَابِ لِيَكْتُبَ، [وَفِي نَسْخَةِ:  
أَمِّلَهُ بِلَامِينِ]. وَالْمَعْنَى حَدِيثُ بِالْإِمْلَاءِ أَوْ لَا قَبْلَ أَنْ تَجْنِيَءَ بِالْكِتَابِ، وَفِيهِ كَمَالُ التَّحْرِيسِ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِلْمِ.

أَبِي نَضْرَةَ: بَنُونَ مَفْتَوَحَةٌ وَضَادُ مَعْجَمَةٍ سَاكِنَةٌ، وَتَقْدِيمٌ فِي بَابِ الْخَاتَمِ فَارْجَعُ إِلَيْهِ، اسْتَجَدَ: أَيْ: لَبِسْ ثُوبًا جَدِيدًا، وَقُولَهُ: سَمَاهُ  
بِاسْمِهِ، زَادَ فِي بَعْضِ النَّسْخَ: عُمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِداءً أَوْ غَيْرَهَا، أَيْ: يَقُولُ: "هَذِهِ عُمَامَةٌ" مَثَلًا، وَتَعَقَّبُ: بَأنَّ كَلَامَهُ عَلَيْهِ تَصَانُ  
عَنِ الْخُلُوِّ عَنِ الْفَائِدَةِ، وَهَذِهِ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَأَحَبُّ: بَأنَّ الْقَصْدَ إِظْهَارُ النَّعْمَةِ، أَوْ يَقُولُ: "كَسَانِي اللَّهُ هَذَا الْقَمِيصُ" مَثَلًا، قَلَتْ  
وَالْأَوْجَهُ عَنِيْدِي مَا قَالَ الْمَظْهَرُ: أَنَّهُ بِيَانُ لِضَمِيرِ "كَسُوتَنِيِّ"، أَيْ: يَقُولُ فِي الْقَمِيصِ مَثَلًا: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسُوتَنِي هَذَا  
الْقَمِيصُ، وَكَذَا فِي غَيْرِ الْقَمِيصِ مِنِ الْعُمَامَةِ وَغَيْرِهِ، وَيُؤْيِدُهُ لَفْظُ جَمِيعِ الْفَوَائِدِ: إِذَا اسْتَجَدَ ثُوبًا قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ  
كَسُوتَنِي هَذَا، وَيُسَمِّيَ بِاسْمِهِ إِمَامًا قَمِيصًا إِمَامًا عُمَامَةً، الْحَدِيثُ، لَكِنَّ فِيهِ أَنَّهُ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ وَالْتَّرْمِذِيِّ، وَلَفْظُهُمَا فِي  
أَصْلِيهِمَا مُثْلُ الشَّمَائِلِ، فَتَأْمَلُ. سَمَاهُ بِاسْمِهِ: [أَيْ: يَقُولُ: هَذَا ثُوبٌ، وَهَذِهِ عُمَامَةٌ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ يُسَمِّيَ بِاسْمِهِ يَمِيزُهُ عَنِغَيْرِهِ].

أَوْ رَدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَمَا صُنْعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ  
وَشَرِّمَا صُنْعَ لَهُ. حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ، أَبُو أَنَّا الْفَاقِسُ بْنُ مَالِكِ الْمَزْنِيِّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ  
أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

خَيْرَهُ وَخَيْرَمَا صُنْعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا صُنْعَ لَهُ. تَرْجِمَةُ لِلَّهِ! تَيْرَهُ هِيَ لَئِنْ تَعْرِفُنِي هُنَّ أَنَا كُپُرَهُ  
كَهُ پَهْنَانِ پَرِ تِيرَا هِيَ شَكَرَهُ، يَا اللَّهَ تَجْهِهُ هِيَ سَهْ اَسْ كُپُرَهُ کِي بَهْلَانِي چَاهْتا هُونَ (کِه خَابَهُ نَهْ هَوَ) اُورَ ان  
مَقَاصِدَ کِي بَهْلَانِي اُورَ خَوبِي چَاهْتا هُونَ جَنَّ کَه لَئِنْ يَهْ کُپُرَه بَنْيَا گِيَهُ، اُورَ تَجْهِهُ هِيَ سَهْ اَسْ كُپُرَه کَه شَرَهُ سَهْ پَنَاهَ مَانْگَتَا هُونَ، اُور  
انْ چِيزَوْنَ کَه شَرَهُ سَهْ پَنَاهَ مَانْگَتَا هُونَ جَنَّ کَه لَئِنْ يَهْ کُپُرَه بَنْيَا گِيَهُ۔ کُپُرَه کِي بَهْلَانِي بَرَائِي تو ظَاهِرَهُ هِيَ اُور جِيزَ کَه لَئِنْ بَنْيَا  
گِيَا کَه مَطْلَبَ يَهْ هِيَ کَه گَرْمِي سَرْدِي زَينَتْ وَغَيْرَهُ، جِيزَ غَرضَ کَه لَئِنْ بَنْيَا گِيَا اَسْ کِي بَهْلَانِي يَهْ هِيَ کَه اللَّهِ کِي رَضَا مِنْ استِعمال  
هُونَ، عِبَادَتْ پَرِ مَعِينَ هُونَ، اُور اَسْ کِي بَرَائِي يَهْ هِيَ کَه اللَّهِ کِي تَافِرَانِي مِنْ استِعمالَهُ، عَجَبَ وَمُكْبَرَ وَغَيْرَهُ پَيْدا کَرَے۔

(۸) حَفَظَتْ أَنْسُ بنُ مَالِكٍ فَرِمَاتِي هِيَ کَه حَضُورُ اَكْرَمِ شَرْقِ الْعَالَمِ کُو بَيْنِي مَنْقَشْ چَادِرْ کُپُرَوْنَ مِنْ زِيَادَهِ پَسْنِدِيَهُ تَهْيَى۔ فَالْأَدَهُ: يَهْ حَدِيثُ  
بَظَاهِرِ بَابِ کِي پَهْلِي حَدِيثِ کَه مَخَالِفَهُ هِيَ جِيزَ مِنْ کَهْرَبَ سَهْ زِيَادَهِ پَسْنِدِيَهُ هَوْ نَبَانِيَانِ کَيَا گِيَهُ۔ عَلَمَانِ نَهْ اَسْ کِي مُخَالِفَهُ  
تَوجِيَهِيں فَرَمَائَی هِيَ، سَبَ سَهْ زِيَادَهِ کَهْلِ تَوِيَهُ کَه انْ مِنْ کَچَھِ مَنَافَاتِ هِيَ نَهْيَيْنِ، وَهُ بَھِي زِيَادَهِ پَسْنِدَ تَحَاوَرِيَهُ بَھِي، يَاهِي کَہَا جَائَے کَه  
پَهْنَنِ کِي کُپُرَوْنَ مِنْ کَرْتَازِيَادَهِ پَسْنِدَ تَحَاوَرِ اوْرَ اوْرَهُنِنِ کِي کُپُرَوْنَ مِنْ چَادِرْ۔ بَعْضُ لوْگُونَ نَهْ شَبُوتَ کَه لَحَاظَ سَهْ اَسْ حَدِيثِ کَه  
زِيَادَهِ قَوِيَّ بَتَایَا ہے، بَعْضُ لوْگُونَ نَهْ اَسْ پَهْلِي حَدِيثِ کَهْ اَسْ قَالَمَنِ لِيَاسِ پَرِ حَمَلَ کَيَا ہے کَه کُپُرَوْنَ کِي سَبْ قَمُونِ مِنْ کَرْتَازِيَادَهِ پَسْنِدَ  
تَحَاوَرِ اَسْ حَدِيثِ کَوْ الْوَانِ پَرِ، لَعْنِ رَنْگِ کَه لَحَاظَ سَهْ مَنْقَشْ چَادِرْ کَارِنَگِ پَسْنِدَ تَحَاوَرِ۔ بَعْضُ نَهْ کَہَا ہے کَه يَهْ چَادِرِيں سَبْزِ رَنْگِ  
کِي ہَوَتِ تَحِيمَ۔ اُور مَقْصُودِيَهُ ہے کَه رَنْگِ کَه اَغْبَارِ سَبْزِ رَنْگِ پَسْنِدَ تَحَاوَرِ کَه جَنْتِي لِيَاسِ سَبْزِ رَنْگِ کَا ہَوَگَا۔

كما كسوته: الكاف للتعليل، أي: لك الحمد على كسوتك لي إياه، أو للتشبيه في الاختصاص، أي: الحمد مختص بك  
كاختصاص الكسوة. خيره: [في ذاته، وهو بقاوه ونقاوه]. وخير ما صنع: [أي: والخير الذي صنع لأجله من التقوية  
به على الطاعة وصرفه فيما فيه رضاك، نظراً لصلاح نية صانعه]. شره: [في ذاته، وهو ضد الخير في ذاته].  
وشر ما صنع: [نظراً لفساد نية صانعه]. حدثنا: هكذا ذكر المصنف هذا السندي بعد الأول في الجامع أيضاً، والظاهر  
عندى أن غرضه تقوية الاتصال؛ فإن أبو داود ذكر عدة من أرسله.

حدثنا محمد بن بشّار، أبنانا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن<sup>(٨)</sup> أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الشياب إلى رسول الله ﷺ يلبسه الحبرة. حدثنا محمود بن غيلان، أبناانا عبد الرحمن، أبناانا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن<sup>(٩)</sup> أبيه قال: رأيت النبي ﷺ وعليه حلّة حمراء، كأنى أنظر إلى بريق ساقيه.

فتح المهمة  
جنة من برواد اليمن  
فی خطوط حمراء  
ای لمعان ساقیه

(٩) ابو جحيفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ حضور اکرم ﷺ کی دونوں پنڈلیوں کی چک گویا ب میرے سامنے ہے، سفیان جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ سرخ جوڑا منتشی جوڑا تھا۔ فائدہ: یہ قصہ جمۃ الوداع کا ہے، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی روایت میں بالصریح موجود ہے۔ سفیان اس روایت کی مراد میں منتشی جوڑا اس لئے بتلاتے ہیں کہ سرخ کپڑے کی ممانعت آئی ہے، اسی وجہ سے علماء کا اس میں اختلاف ہے، چنانچہ حفیہ کے بھی اس میں مختلف اقوال ہیں۔ سب سے پہلے باب میں بھی گزر چکا ہے کہ اس میں تفصیل ہے جو کپڑے کی تعین کے بعد علماء سے تحقیق یکجا کرتی ہے۔ حضرت قطب ارشاد مولانا گنگوہی رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ میں بکثرت یہ مضمون ہے کہ سرخ رنگ مرد کے لئے فتویٰ کی رو سے جائز ہے تقوی کے لحاظ سے ترک کرنا اولی ہے کہ علماء میں مختلف فیہ ہے۔

يلبسه: الضمير لـ "أحب الشياب"، وفي نسخ: يلبسها، فالضمير إلى الشياب، والجملة حال على ما قاله المناوي، وصفة لأحب، أو الشياب، على ما قاله القاري. الحبرة: [برد يماني من قطن محبر، أي: مزيّن محسّن، والظاهر أنه إنما أحبه للبنية، وحسن انسجام صنعتها، وموافقتها لجسمه الشريف] بالنصب خبر "كان"، وأحب بالرفع اسمهما، على ما صصح في أكثر نسخ الشمائل، ومجوز عكسه، وهو الذي ذكره الزمخشري في تصحيح المصايح. والخبرة كعبنة: برد يماني من قطن محبر، أي: مزيّن، ولا يعارض ما تقدم من كون القميص أحب الشياب؛ لما اشتهر في مثله من أن المراد أنه من جملة أحب الشياب أو هما باعتبار الوقتين، مثلاً: كان القميص أحب حين يكون عليه عند نسائه، والخبرة حين يكون بين أصحابه.

سفیان: أي: الثوري؛ لما في نسخة، وقيل: ابن عینة. أي جحيفہ: بضم الجيم وفتح حاء مهملة وسكون ياء وباء، هو وہ الخیر، تقدم في باب الشیب. رأیت: وهذه الروایة وقعت له في بطحاء مکة في حجۃ الوداع، كما صرخ به في روایة البخاری. بريق ساقیه: [أی لعائمه، وإنما نظر إلى بريق ساقیه لكون الحلة كانت إلى أنصاف ساقیه الشریفین.]

قال سفیان: أَرَاهَا حِبْرَةً. حدثنا عليٌّ بن خَشْرُمٍ، أخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عن إِسْرَائِيلَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن<sup>(١٠)</sup> البراء بن عازب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ما رأيت أحداً من الناس أَحْسَنَ في حُلَّةٍ حَمْرَاءً من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنْ كَانَتْ جُمْتَهُ لِتَضْرِبَ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبِيهِ. حدثنا محمد بن بشّار، حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ، أَبْناؤنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ، عن أَبِيهِ، عن<sup>(١١)</sup> أبي رِمْثَةَ قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليه بُرْدَانٌ أَحْضَرَانٌ. حدثنا عبد بن حُمَيْدٍ، قال: أخْبَرَنَا عَفَّانَ بْنَ مُسْلِمَ،  
قال: أَبْناؤنا عبدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيَّ  
البرد: ثوب مخطط  
بصرف ويعن

- (١٠) حضرت براء رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی سرخ جوڑے والے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے حضور کے مونڈھوں کے قریب تک آرہے تھے۔ فائدہ: یہ حدیث پہلے باب میں گزر چکی ہے، یہاں سرخ جوڑے کی وجہ سے مکرر ذکر کی گئی۔
- (١١) ابو رمثہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سبز چادریں اوڑھے ہوئے دیکھا۔ فائدہ: یہ حدیث پہلے بھی دو جگہ گزر چکی ہے، لباس کی وجہ سے اس باب میں مختصر طور پر ذکر کی گئی۔

أَرَاهَا: على صيغة المضارع المجهول، يعني: أظن الحمراء حيرة، قاله القراري، واحتاج إلى هذا التأويل؛ لورود النهي عن لبس الحمراء. وختلف العلماء في ذلك على أقواب كثيرة، ذكر منها الحافظ في الفتح، والقاري في جمع الوسائل سبعة مسالك للعلماء، وخالف الحنفية أيضاً في ذلك، وفي الدر المختار: للشريبلاني فيه رسالة، نقل فيها ثمانية أقوال: منها أنه مستحب. خشرم: كجعفر، بناء وشين معجمتين، منصرف على ما في القاموس، وضبط في نسخة بفتح الميم على عدم الصرف، ولعل علتة الأخرى العجمة، قاله القراري. حلقة: قال القراري: بيان للواقع لا للتقييد. قلت: ويفيد ما تقدم من سياقه في باب حلقة بـلـفـظ: "عليه حلقة حمراء، مارأيت شيئاً قط أحسن منه".

جثته: [أي: خصلة من شعره]. رمثة: تقدم الحديث في باب شيبة رضي الله عنه، وفي باب خضابه رضي الله عنه، وأعاده هنها؛ لمناسبة الثياب. وقال المصنف في الجامع: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله.

أحضران: قال عصام: أي: ذو خطوط حضر. واعتراض عليه ابن حجر: بأنه إخراج اللفظ عن ظاهره، وأجيب بأن البرد عند أهل اللغة ثوب مخطط، فتعقيبه بالحضره يدل على أنه مخطط بها، ولو كان أحضر بحثاً لم يكن بردًا.

عن جَدِّيْهِ دُحَيْيَةِ وَعُلَيْيَةَ، عَنْ قَيْلَةَ بْنِ مَخْرُمَةَ قَالَتْ: رَأَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ الْأَسْمَاءُ الْمُلَيَّيْنِ كَانَتَا بِزَعْفَرَانَ،  
أَيْ مَصْبُوْغَيْنَ  
بِالصَّفَرِ فِيهَا

(۱۲) قیلہ بنت مخرمة کہتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ حضور والا پر و پرانی لگیاں تھیں جو زعفران میں رنگی ہوئی تھیں۔ لیکن زعفران کا کوئی اثر ان پر نہیں رہا تھا اور اس حدیث میں ایک طویل قصہ بھی ہے۔ فائدہ: زعفران کے رنگے ہوئے کپڑوں کی حدیث میں ممانعت بھی آئی ہے، اسی لئے اس حدیث میں اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس زعفران کا اثر باقی نہیں رہا تھا تاکہ ان احادیث سے اختلاف واقع نہ ہو۔ حضور اکرم ﷺ کا پرانی دو چادریں پہننا تواضع کی وجہ سے تھا، اسی وجہ سے صوفیانہ شکستگی کی حالت کو اختیار فرمایا کہ یہ تواضع کی طرف لے جانے والی ہے اور تکبیر سے دور کرنے والی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر یہ مقصود حاصل نہ ہو تو پھر شکستگی کی حالت محمود نہیں، چہ جائیکہ بجائے اس نفع کے اور مضر حاصل ہو، جیسا کہ اس زمانے میں ہو رہا ہے کہ بسا اوقات اس اظہار شکستگی کو اظہار کمال کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اور زبانِ حال سے سوال ہوتا ہے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رضی اللہ عنہ فکا جو اکابر صوفیا میں ہیں، قصہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ نہلیت عمدہ لباس میں تھے، کسی شکستہ حال نے ان پر اعتراض کیا تو آپ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ میری یہ ہیئت حق تعالیٰ جل جلالہ کا حمد و شکر ظاہر کر رہی ہے اور تیری یہ حالت صورت سوال بن رہی ہے، تو اپنی زبانِ حال سے لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ الغرض بہ نیت تواضع لباس فاخرہ نہ پہننا افضل ہے، بشرطیکہ کسی اور مضر حاصل کی طرف نہ پہنچ جائے۔

جَدِّيْه: قال القاري: إِحْدَا هَمَّ مِنْ قَبْلِ الأَبِ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ قَبْلِ الْأَمِّ، وَقَيْلَةُ جَدَّةِ أَيْيَهُمَا: أُمُّ أَمَّهُ، وَكَانَتْ رَبِّهِمَا.  
دُحَيْيَة: بالضم على المشهور، وقيل: بالفتح، و"علية" كذا في النسخ، والصواب بدله "صفية" كما حفظه الشراح، وهو بتنا  
عليها، وبالصواب أخرجه المصنف في جامعه، ونصه: عن عبد الله بن حسان أنه حدثه جداته صفية بنت عليمة ودحية بنت  
عليمة، حدثاه عن قيلة بنت مخرمة وكانت ربيتها، وقيلة جدة أىيهمَا: أُمُّ أَمَّهُ، أنها قالت: قدمتنا على رسول الله ﷺ، الحديث.  
وهكذا بالصواب أخرجه أبو داود، ولفظه: عن عبد الله بن حسان حدثني جدتي صفية ودحية ابنتا عليمة إلخ.

أَسْمَاءُ: جمع سِيلٍ محرّكة، كأساباب جمع سبب. والسِّمْلُ: الشُّوبُ الْخَلِقُ، والمِرَادُ بِالْجَمْعِ: مَا فَوْقُ الْوَاحِدِ، فَيُصَدِّقُ بِالْأَثْنَيْنِ، وَهُوَ  
الْمُتَعِينُ هُنْهَا لِإِضَافَتِهِ إِلَى "الْمُلَيَّيْنِ"، وَقِيلَ: وَصَفَهُ بِالْجَمْعِ بِاعتِبَارِ أَحْرَاءِ الشُّوبِ، بِلْ قَالَ الْمَرْوِيُّ: أَرَادَتْ كَانَتَا تَقْطَعُهَا حَتَّى  
قَطَعَا فَلَا إِشْكَالٌ فِي الْجَمْعِ، وَالْإِضَافَةُ يَبْيَانِيَةٌ، كَـ "جُرْدٌ قَطْلِيفَةٌ". مُلَيَّيْنِ: "الْمُلَيَّةُ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ تَصْغِيرٌ 'الْمَلَاءَةُ'" بِالْأَضْمَمِ وَالْمَدِّ، لَكِنْ  
بَعْدَ حَذْفِ الْأَلْفِ وَإِلَى يَقْالَ: مُلَيَّةٌ. وَالْمَلَاءَةُ: الْإِزَارُ، وَقِيلَ: الرَّبِّيْةُ أَيْ: الْمَلَحَّةُ، وَفِي الْقَامُوسِ: هِيَ كُلُّ ثُوبٍ لَمْ يَضْمِمْ بَعْضَهُ  
إِلَى بَعْضٍ بِخِيطٍ، بِلْ كَلَهُ نَسْجٌ وَاحِدٌ.

وقد نَفَضَتْهُ . وفي الحديث قصّة طويلة . حدثنا قُتيبة بن سعيد ، حدثنا بشر بن المُفضل ، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيمٍ ، عن سعيد بن جُبِيرٍ ،

اس کے بال مقابل اگر کوئی دینی مصلحت تقتضی ہو، مثلاً کسی ہدایہ دینے والے ملخص کی دلداری مقصود ہو یا اور کسی قسم کی دینی منفعت اس پر مرتب ہوتی ہو تو عمدہ لباس پہننا بھی افضل اور مندوب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ ستائیں اونٹیوں کے بدلو میں ایک جوڑا خرید فرمایا اور پہنا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ ایک وقتی اور عارضی چیز تھی ورنہ عام لباس میرے آقا کا نہلیت معمولی ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اکثر مشارع تصور کا یہی معمول رہا ہے، البتہ حضرات نقشبندیہ اور شاذیہ کا معمول اچھے لباس کا رہا ہے اور صورت سوال سے تحفظ کی رعایت اہم رہی، جیسا کہ حضرت ابو الحسن شاذیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ نفس کے دھوکہ سے احتراز دونوں جانبوں میں ضروری ہے شکستہ حالت میں شہرت، اور تواضع کے اظہار میں ریا، اور عمدہ لباس میں تکبیر اور نخوت خطرناک امور ہیں۔ اس حدیث میں ایک طویل تفصیل ہے جس کو حضور ﷺ کے لباس سے کوئی تعلق نہیں تھا اسی لئے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کی وجہ سے ترک کر دیا۔ قصہ تقریباً دو روز کا ہے، شراح نے بھی اس کو اختصار آچھوڑ دیا، اس میں قیدیہ کے ابتدائی اسلام کا قصہ اور اس کی کیفیت ہے، البتہ مشہور روایات میں اتنا اور بھی ہے کہ حضور اکرم ﷺ اس پرانے لباس میں غریبانہ نشست کے ساتھ تشریف فرماتے، ایک کھجور کی چھوڑی حضور ﷺ کے دستِ مبارک میں تھی، ایک شخص حاضر ہوئے اور حضور ﷺ کی یہ فقیرانہ بیت دیکھ کر رعب کی وجہ سے کانپنے لگے، حضور اقدس ﷺ نے ان کی اس حالت کو خود ملاحظہ فرمایا کسی نے عرض کیا، اس پر حضور ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ سکون اختیار کرو۔ حضور ﷺ کا یہ ارشاد فرمانتا تھا کہ ان پر سے سب خوف و غیرہ جاتا رہا۔

نَفَضَتْهُ : أي: الأسماء ، وفي نسخة: نَفَضَتْ ، أي: نَفَضَتْ الْمَلِيَّاتَ لَوْنَ الرَّغْفَرَانَ وَلَمْ يَقِنْ مِنْهُ أَثْرٌ ، وَحَذَفَ الْمَفْعُولَ شائعاً ، وَيُجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِ: نَفَضَ الثَّوْبَ نَفْضَا ، أي: ذَهَبَ بَعْضُ لَوْنِهِ مِنَ الصَّفْرَةِ وَالْحَمْرَةِ ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى حَذْفٍ الْمَفْعُولُ . قصَّة: [وَالقصَّة: أَنْ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَلَيْهِ أَسْمَاءُ مَلِيَّاتٍ، قَدْ كَانَتْ بِرَغْفَرَانٍ، فَنَفَضَتْ، وَبَيْدَهُ عَسِيبٌ نَخْلٌ، فَقَعَدَ عَلَى الْقُرْفُصَاءِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ عَلَى تِلْكَ الْمَهِيَّةِ، أَرْعَدَتْ مِنَ الْفَرَقَ - أي: الْخُوفَ - فَقَالَ جَلِيسُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرْعَدْتَ الْمَسْكِينَةَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّكِينَةَ، فَذَهَبَ عَنِّيَّ مَا أَجَدُ مِنَ الرَّعْبِ.] طَوِيلَة: قصَّتْهُ طَوِيلَة، أَخْرَجَهَا الطَّبِرَانِيُّ بِسَنْدٍ لَا يَأْسُ بِهِ مُخْتَصِّا، وَأَخْرَجَهَا أَيْضًا الطَّبِرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَفْصَ بْنِ عَمْرٍ في مُعْجمِهِ الْكَبِيرِ بِطَوْلِهِ قَرِيبٌ مِنْ وَرْقَتَيْنِ، قَالَهُ الْقَارِيُّ. قَلْتَ: وَذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي الإِصَابَةِ فِي تَرْجِمَةِ قِيلَةِ خُثِيمٍ: بِضمِّ خاءِ مَعْجمَةِ فَمِثْلَةِ مَفْتُوحَةِ وَسْكُونِ تَحْتَيَةِ مَصْغِرٍ، تَقْدِمُ فِي بَابِ الْكَحْلِ.

عن <sup>(۱۳)</sup> ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: **عليكم بالبياض من الشاب، ليبسنها أحياكم، وكفوا فيها موتاكم**، فإنما من خيار ثيابكم. حدثنا محمد بن بشير، أبنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان، عن حبيب بن ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن <sup>(۱۴)</sup> سمرة بن جندب رضي الله عنه هو ابن عبيدة قال: قال رسول الله ﷺ: **البسوا البياض، فإنما أطهر وأطيب، وكفوا فيها موتاكم**. حدثنا أحمد بن منيع، أبنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، أبنا أبي، عن مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، مدة أكثر من قصره

بعض احاديث سے یہ قضیہ خود تسلیم ہی کا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رضي الله عنه نے حضور ﷺ کی نشست کے بیان میں اس کا تھوڑا سا ذکر بھی فرمایا ہے اور قید ہی کی طرف قصہ کی نسبت کی ہے جیسا کہ حضور ﷺ کی نشست کے باب میں آرہا ہے۔ (۱۳) حضرت ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ سفید کپڑوں کو اختیار کیا کرو کہ یہ بہترین لباس میں سے ہے، سفید کپڑا ہی زندگی کی حالت میں پہننا چاہئے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہئے۔ فائدہ: اس حدیث میں حضور اقدس ﷺ کے سفید لباس پہننے کا ذکر نہیں اس لئے اس کو شاہکل میں ذکر کرنا مخفی ہے، لیکن یہ توجیہ کی جاسکتی ہے کہ جب حضور ﷺ نے اس کی ترغیب فرمائی تو خود پہننا بھی نکل آیا۔ چنانچہ بخاری وغیرہ میں حضور ﷺ کا سفید لباس زیب تن فرمانا بالصریح ثابت ہے۔

(۱۴) سمرة بن جندب رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے پہننا کرو اس لئے کہ وہ زیادہ پاک صاف رہتا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنا کرو۔ فائدہ: زیادہ پاک صاف رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذرا سا دھبہ کسی چیز کا پڑ جائے تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے، بخلاف رنگین کپڑے کے کہ اس میں تھوڑا سا دھبہ کم محسوس ہوتا ہے۔

**عليكم:** اسم فعل بمعنى "ألزموا" وحمل البياض على المبالغة أو على حذف المضاف كما سأليت. ومن الشاب بيان له.  
**أحياكم:** [ويحسن في صلاة الجمعة، وحضور المسجد، وال مجالس التي فيها مظنة لقاء الملائكة، كمحالس القراءة والذكر].  
**موتاكم:** [لمواجهة الميت للملائكة]. **البياض:** أي: الشاب البيض، بولغ فيها فتكاها نفس البياض، أو البسوها ذات البياض على حذف المضاف. **أطهر:** لأن الثوب المصبوغ إذا وقعت عليه بخاصة لا يظهر عليها مثل ظهورها إذا وقعت على ثوب أبيض، وقال الطبي: لأن البيض أكثر تأثيراً من الثاب الملونة فيكون أكثر غسلاً فيكون أكثر طهارة. **صفية:** لها رواية وحديث، وإنكار الدارقطني إدراكه يردّه تصريح البخاري بسماعها من النبي ﷺ، ومن ثم حزم في الفتح: بأنها من صغار الصحابة.

عن <sup>(١٥)</sup> عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله ﷺ ذات غدّة، وعليه مِرْطٌ من شَعَرِ أسود. حديثنا يوسف بن عيسى، أبناها وكيع، أبناها يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن <sup>(١٦)</sup> أبيه: أن النبي ﷺ ليس جبةً روميةً ضيقَةَ الْكُمَيْنِ.

(١٥) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتي ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ایک مرتبہ صبح کو مکان سے باہر تشریف لے گئے تو آپ کے بدن پر سیاہ بالوں کی چادر تھی۔

(١٦) مغیرہ بن شعبہ رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ایک رومنی جبے زیب تن فرمار کھا تھا جس کی آستینیں ٹگ ٹھیں۔ فائدہ: یہ قصہ غزوہ تبوک کا ہے۔ علماء نے ایسی ہی احادیث سے استنباط فرمایا ہے کہ سفار کی بنائی ہوئی چیزیں ناپاک نہیں ہوتیں جب تک کہ کسی خارجی طریقے سے ان کے ناپاک ہونے کا لیقین نہ ہو، اس لئے کہ روم میں اس وقت تک لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے بنے ہوئے کپڑے حضور اکرم ﷺ نے زیب تن فرمائے ہیں۔

مرط: بکسر فسكون، والجملة حالية، وهو: كساء طويل واسع من خرز أو صوف أو شعر. ولفظ "من شَعَر" بإثبات "من" وفي بعض النسخ الصحيحة: "مرط شعر" بالإضافة، وهي ترجع إلى الأولى أيضاً لأن الإضافة بيانية. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود بلفظ: خرج النبي ﷺ ذات غدّة وعليه مرط مرجل من شعر أسود.

يونس: قال المناوي: يونس بن أبي إسحاق الشيباني الذي سيصرح به المصنف، وقول الشارح: "السيعي" سهو. والظاهر عندي أنه وهم من العلامة المناوي، والصواب قول الشارح: إنه سبيعي، والذي سيصرح المصنف به في باب خفه ﷺ رجل آخر. وجزم الشيخ في البذل أنه سبيعي، وقال القاري: وفي نسخة: ابن إسحاق، وهي غير صحيحة.

الشعبي: هو نسبة لشعب، كفلس، بطن من هدان بسكنى الميم: هو عامر بن شراحيل، والشعبي بالضم، هو معاوية بن حفص، والشعبي بالكسر: هو عبد الله بن مظفر، وكلهم محدثون، فتميز.

جبة: [الجبة: ثوب سابق، واسع الكمين، يلبس فوق الثياب] بضم الجيم وتشديد الموحدة. قيل: هي ثوبان بينهما قطن، وقد تقال لما لا حشو له، إذا كانت ظهارته من صوف.

رومیة: هكذا في رواية المصنف في الجامع، وفي أبي داود: جبة من صوف من جباب الروم، لكن وقع في أكثر روايات الصحيحين: جبة شامية، ولا منافاة بينهما، فإن الشام حينئذ داخل تحت حكم قيسار ملك الروم، فكأنهما واحد من حيث الملك، ويمكن أن يكون نسبة هيئتها، المعتمد لبسها إلى أحدهما، ونسبة حياتها إلى الأخرى، قاله القاري.

## بَابُ مَاجَاءٍ فِي عِيشٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبويه، عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة

ماں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارہ کے بیان میں

فائدہ: یہ باب شامل کے موجودہ نسخوں میں دو جگہ ملتا ہے، ایک یہاں دوسرے اواخر کتاب میں۔ لیکن دو جگہ مذکور ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں، اسی لئے بعض نسخوں میں ہر دو باب کی احادیث کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے، تاہم چونکہ اکثر نسخوں میں دو جگہ پایا جاتا ہے اس لئے یہ توجیہ کی جاسکتی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود اس جگہ صرف نفس لنگی کو بیان کرنا ہے، اور اس جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی کی حالت میں جو جو چیزیں استعمال یا نوش فرمائی ہیں ان کا ذکر مقصود ہے، اسی وجہ سے یہاں صرف دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں اور اُس جگہ زیادہ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو کہ گذشتہ باب میں جو لباس میں بعض ایسی چیزیں گزری ہیں جیسا پرانی لنگی یا ٹانگ آستین کا جبکہ وغیرہ جو عام معمول کے خلاف تھا، یہ اس وقت کی عام ٹانگ حالی کی وجہ سے تھا کہ ابتداءً عُسرت زیادہ تھی، پس الفاظ ترجمہ کے اگرچہ ایک ہیں لیکن مقصود علیحدہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، ان پر ایک لئگی اور ایک چادر تھی، وہ دونوں

[كيفية معيشته حال حياته. العيش: الحياة، والمعيشة: مكسب الإنسان الذي يعيش به، أهل الحجائز يسمون الزرع والطعام عيشاً] هو الحياة وما يكون بها الحياة، وفي القاموس: هو الحياة وما يعيش بها والخبز. قال القاري: وقع في أصل سمعنا هذا الباب الصغير، وسيأتي في آخر الباب باب طويل في عيشه عليه، وقع في بعض النسخ ه هنا باب طويل، وعلى التقديررين بإبراد باب العيش بين بابي اللباس والخلف غير ملائم، والظاهر أنه من تصرف النساخ. كتبه الفقير جمال الدين الحسيني. هكذا وجدته يختط ميرك شاه على هامش نسخة، وقال الحنفي: وفي بعض النسخ: الطويل بعد القصير، ويتجه على كلتا النسختين أن جعلهما بابين غير ظاهر، ورد ابن حجر على من أبدى لذلك وجهها، والظاهر في الجواب: أن المراد بهذا الباب ما يدل على ضيق عيش بعض الأصحاب مع عيشه عليه في كل باب. وأحاديث ذلك الباب دالة على ضيق عيشه المخصوص به وبأهل بيته، أو هذا الباب يدل على ضيق عيشه في أول أمره، وذلك يدل على آخر أمره، قاله القاري، وقال المناوي: المبوب له هنا بيان صفة حياته وما اشتغلت عليه من الضيق والفقر، والمبوب له ثم بيان أنواع المأكولات. هذا أقصى ما اعذر به الشارح عن التكرار، والإنصاف أن الأصوب: جعلهما باباً واحداً.

وعلیه ثوبان مُمْشَقَانِ مِنْ كَتَانٍ، فَتَمَخَّطَ فِي أَحَدِهَا قَالَ: بَخْ بَخْ، يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَلِي لَأُخِرُّ فِيمَا يَنْ مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجْرَةَ عَائِشَةَ تَعَالَى عَلَيْهَا مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَيَحِيِّءُ الْجَاهِيَّ

کتان کی تھیں اور گیر وی رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک سے ناک صاف کی پھر تعجب سے کہنے لگے کہ اللہ اللہ! آج ابو ہریرہ کتان کے کپڑوں سے ناک صاف کرتا ہے اور ایک وہ زمانہ تھا کہ جب میں منبر بنوی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مجرہ کے درمیان شدت بھوک کی وجہ سے بیہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجھ کو مجنون سمجھ کر میری گردن کو پاؤں سے دباتے تھے اور حقیقتاً مجھے جنون وغیرہ کچھ نہیں تھا بلکہ صرف شدت بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو جاتی تھی۔ فائدہ: کتان ایک عمدہ قسم کا کپڑا ہوتا ہے۔ صاحب لغات الصراح نے لکھا ہے کہ ایک باریک قسم کا کپڑا ہے جو گھاس کے چڑی سے بنتا ہے اور صاحب محیط اعظم نے لکھا ہے کہ کتان کو ہندی میں ”لسی“ کہتے ہیں، اس کی چھال سے کپڑا بھی بنایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گردن کو پاؤں سے دبنا اس وجہ سے تھا کہ اس زمانہ میں مجنون کی گردن پاؤں سے علاج دبائی جاتی تھی تاکہ افاقتہ پائے۔ اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں اس لئے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے خواص خذام کا جب یہ حال تھا تو اس سے آپ کی تسلی کا حال خود معلوم ہو گیا کہ یہ حضرات اہل صفة حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان شمار ہوتے تھے اور جو کچھ آتا تھا وہ ان حضرات پر تقسیم ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کے متعلق کچھ تحقیق کیا، وہ بتا رہے تھے اور میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ چل نہ سکا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔

مشقات: بتشديد الشين المعجمة المفتوحة، أي: مصبوغان بالمشق بالكسر، وهو الطين الأحمر، وقيل: المغرة، قاله القاري، وقال المناوي: وفي المصباح: امشقت الثوب امشاقاً: صبغته بالمشق، فالمفعول على بابه. وقالوا: ثوب مشق بالتشديد والفتح، ولم يذكروا فعله. بخ بخ: بسكون آخره فيهما، وقيل: بكسره غير منون فيهما، وفيه لغات آخر. وهذه الكلمة تقال عند الرضا بالشيء والفرح لتفخيم الأمر وتعظيمه، وقد تستعمل للإنكار كما هنأ. الكتاب: [نبات زراعي حولي يتخد من أليافه السبيع المعروف].  
لقد: اللام في جواب قسم مقدر، أي: والله لقد، قاله القاري. لأنّـ: بصيغة المتكلّم من المفرد، من باب ضرب، مشتق من الخرور، أي: أسقط على الأرض. مغشياً: [مستوليا على الشيء، وهو: تعطل القوى الحساسة لضعف القلب؛ بسبب جوع مفرط، أو وجع شديد، أو نحو ذلك].

جنونا وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الظبيعي،  
عن <sup>(٢)</sup> مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله ﷺ من خبر فقط،

آج مسلمانوں کی تکحالی کا شور ہے اور روئی کا سوال اتنا ہم ہے کہ اس کی خاطر ہر قسم کی بد دینی کو اختیار کیا جاسکتا ہے لیکن کیا ان حالات کے عشر عشر بھی ہمارے حالات ہیں اور یہ حضرات ان مصائب پر بھی کسی قسم کی دینی مہانت برداشت نہ کر سکتے تھے۔  
(۲) مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس اللہ تعالیٰ نے کبھی روئی سے اور نہ گوشت سے شکم سیری فرمائی مگر حالت ضفف پر۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بد دی سے "ضعف" کے معنی پوچھے تو اس نے لوگوں کے ساتھ کھانے کے معنی بتائے۔ فائدہ: ضفف کے معنی خنی تھے چنانچہ اب بھی الی لغت اس میں مختلف ہیں، اسی وجہ سے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بد دی سے دریافت کیا ہے۔ اجتماعی حالت میں پیٹ بھر کر کھانے کا مطلب بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اگر کسی جگہ دعوت وغیرہ میں نوبت آتی تو شکم سیر ہو کر نوش فرماتے، ویسے کبھی نوبت نہ آتی تھی۔ اس پر بعض علماء نے بڑے زور سے رد فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی طرف ایسے امر کی نسبت کرنا جس کو اگر آج کسی کی طرف نسبت کیا جائے تو سخت ناگوار ہو، نہایت بے ادبی ہے۔ مگر بندہ ناچیز کے نزدیک اس مطلب میں کوئی مانع نہیں، اس لئے اس زمانہ میں اگر کسی کی طرف اس امر کی نسبت کی جاتی ہے کہ اپنے گھر پیٹ بھر کر نہیں کھاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص بخیل ہے اور اس زمانہ میں آنحضرت ﷺ کی طرف اس کی نسبت کرنے میں اس کا ایہام نہیں ہے، اس لئے کہ اس وقت کی تکحالی معلوم ہے کہ کئی کئی وقت سلسل فاقوں کی نوبت آتی تھی، اور اس کے ساتھ حضور اکرم ﷺ کا سما اور جود کہ جو ہدیہ میں کہیں سے کچھ آجاتا تھا وہ اصحاب صفة پر تقسیم کیا جاتا تھا،

جنونا: [أي: يظن ذلك الحاجي أنّ بي نوعاً من الجنون، وهو الصرع]. الظبيعي: بضم الصاد المعجمة وفتح المثلثة وكسر العين المهملة، نسبة لقبيلة بني ضبيعة. مالك بن دينار: تابعي جليل، فالحديث مرسل، وقيل: مضلل، لأنَّ سمعه عن الحسن البصري، وهو تابعي أيضاً، فقال: حدثنا الحسن قال: لم يشبع رسول الله ﷺ الحديث. أخرجه أبو موسى وغيره. خبر فقط: بفتح القاف وتشديد الطاء المهملة، أي: أصلاً، وفي زمان من الزمان. وهل المراد أنه ما شبع من أحد هما كما أفهمه توسط "قط" بينهما، أو منها معاً؟ كما يأتي في الباب الطويل: عن أنس أن النبي ﷺ لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف؟ محل تردد.

و لا حم إلأ على ضَفْفِهِ، قَالَ مَالِكٌ: سَأَلَتْ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: مَا الضَّفَفُ؟ فَقَالَ: أَنْ يَتَأَوَّلَ مَعَ النَّاسِ.

ایسی صورت میں پیٹ بھرنے کی نوبت کہاں آسکتی تھی۔ لیکن شرائج حدیث اس مطلب کو غلط بتاتے ہیں اور ان کا ارشاد جست ہے، اس لئے اگر یہ مطلب غلط ہو تو اللہ جل جلالہ اپنے لطف سے معاف فرمادیں اُمود باللہ اُنْ أَقُولُ فِي حَقِّهِ مَا لَا يَلِيقُ بِشَانِهِ. بالجملہ جن علماء نے اس مطلب کو ناپسند فرمایا ہے وہ حدیث کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ حضور القدس ﷺ کی حالت میزبانی میں تو شکم سیر ہو کر نوش فرماتے تاکہ مہمان حضور ﷺ کے ساتھ جلد نہ اٹھ جائیں اور بھوکے نہ رہیں، نیز اس وقت جب کہ آپ کے یہاں کوئی مہمان ہوتا تھا تو اس کے لئے حضور اقدس ﷺ باوجود عسرت اور تنگی کے بھی فکر فرمائ کر کچھ نہ کچھ مہما فرماتے تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جمع کے ساتھ کھانا مراد ہو، عام ہے کہ اپنے گھر ہو یا کسی دوسری جگہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جمع میں حضور اقدس ﷺ کا شریف فرمائے ہوں اس میں حضور اقدس ﷺ کے ہاتھ کھینچ لینے کے بعد جمع کا ہاتھ کھینچ لینا بدیہی ہے۔ تشبیہ: آنحضرت ﷺ کا شکم سیر ہونا جس جگہ وارد ہوا ہے ان سب مواضع میں وہی دو تھائی پیٹ بھر کر نوش فرمانا مراد ہے کہ یہ حالت بھی حالت مہمانی میں ہوتی تھی ورنہ بالکل شکم سیر ہونا کسی وقت نہیں ہوتا تھا، نہ حالت مہمانی میں نہ حالت تھائی میں۔

ضفف: [أي: ما شبع في زمن من الأزمان إلأ إذا نزل به الضيوف فيشبع حينئذ؛ لضرورة الإيناس والمخابرة] هو بفتح الصاد المعجمة والقافين أولاً هما مفتوحة، وفي الفائق: روی حخف وشظف، والثلاثة في معنی ضيق المعيشة وقتلها، يعني: لم یشبع بِكَلَّ إلا والحال خلاف الخصب والرخاء، وقيل: معناه كثرة الأيدي واجتماع الآكلين، كما فسر في الحديث. قال البيحوري تبعاً للمناوي: أي: إلا إذا نزل به الضيوف فيشبع حينئذ بحسب ما يأكل ثلثي بطنه، لضرورة الإيناس والمخابرة. هذا هو المتعين في فهم هذا المقام، وما ذكره بعض الشرائح: من أن المعنى لم یشبع في بيته بل مع الناس في الولائم والعقائق، فهو هفوة لا يليق ذلك بمنابه بِكَلَّ؛ إذ لو قيل في حق الواحد منا ذلك لم یرتضه، فما بالك بذلك الجناب الأفخم والملاذ الأعظم. البادية: لأنهم أعرف باللغات. أن یتناول: قال القاري: بضم أوله، وفي نسخة بفتحه، ومنع الخبر على هذا: أنه بِكَلَّ لم یشبع منهما إذا أكل وحده، ولكن شبع منها إذا كان يأكل مع الناس، ثم قيل: معناه: أنه يأكل مع أهل بيته، أو مع الأضيف، أو في الضيافات والولائم والعقائق.

## بَابُ مَاجَاءٍ فِي خُفْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

حدثنا هناد بن السرّي، حدثنا وكيع، عن دلهم بن صالح، عن حجير بن عبد الله، عن<sup>(۱)</sup> ابن بريدة، عن أبيه،

## باب حضور اقدس ﷺ کے موزہ کے بیان میں

فائدہ: حضور اقدس ﷺ نے چند قسم کے موزے استعمال فرمائے ہیں۔ موزے کے آداب میں سے دایاں موزہ پہلے پہنچتا ہے۔ نیز موزہ کا پہنچنے سے قبل جهاز لینا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مجذرات میں طبرانی نے ایک روایت موزہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ جنگل میں ایک موزہ پہنچا اور دوسرا پہنچنے کا قصد فرماتا ہے تھے کہ ایک کو آکر وہ دوسرا موزہ اٹھا کر لے گیا اور اپر لے جا کر اس کو پھینک دیا، اس میں ایک سانپ گھسا ہوا تھا جو اس گرنے کی چوٹ سے باہر نکلا۔ حضور اقدس ﷺ نے حق تعالیٰ کا شکردا کیا، اور آداب موزہ سے ایک قانون فرمادیا کہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ جب موزہ پہنچنے کا ارادہ کرے تو اس کو جهاز لیا کرے۔

امام ترمذی رضی اللہ عنہی نے اس باب میں دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) بریدہ کہتے ہیں کہ نجاشی نے حضور ﷺ کے پاس سیاہ رنگ کے دوسارے موزے ہدیرہ بھیجے تھے، حضور اقدس ﷺ نے ان کو پہنچا اور وضو کے بعد ان پر سع بھی فرمایا۔ فائدہ: ”نجاشی“ جسہ کے ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا جیسا کہ ”شریف“ والی مکہ کا لقب ہوتا ہے۔ ان نجاشی کا نام ا صحمد تھا، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ علماء نے اس سے استنباط فرمایا ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، البتہ چونکہ دوسری حدیث میں کافر کے ہدیہ سے انکار بھی آیا ہے اس لئے علماء نے مختلف طرح سے دونوں کو جمع کیا ہے۔

خف: [ما يلبس في الرجل داخل المنزل] معروف، وخف البعير جمعه أخفاف، كقفل وأقفال.  
حجير: بضم حاء مهملة ففتح حيم فسكون ياء آخره راء، له هذا الحديث الواحد، أخرجه أبو داود والترمذی وابن ماجة، قاله القاري. ابن بريدة: هو عبد الله، وفي بعض النسخ: أبي بريدة، قال القسطلاني: هو غلط فاحش، قال القاري: وقد يوجه بأنه كنيته. قلت: لكن أهل الرجال ذكروا كنيته أبا سهل.

أَنَّ النَّجَاشِيَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفَّينَ أَسْوَدَيْنَ سَادِجَيْنَ، فَلَبِسُهُمَا ثُمَّ تَوْضِيْأً وَمَسْحٌ عَلَيْهِمَا.  
حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الحسن بن عياش، عن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: قال المغيرة<sup>(٢)</sup> بن شعبة: أهداه دحية للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفَّينَ، فلبسهما.  
- وقال إسرائيل: عن جابر، عن عامر - وجبة<sup>هي عاصمة إسرائيل</sup>

(٢) مغيرة بن شعبة روى فرماتے ہیں کہ وجيه کلمی نے دو موزے حضور ﷺ کی نذر کیے تھے۔ ایک دوسری روایت میں موزوں کے ساتھ مجہہ کے پیش کرنے کا بھی ذکر ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے ان کو پہننا یہاں تک کہ وہ پھٹ گئے۔ حضور اقدس ﷺ نے یہ بھی تحقیق نہیں فرمایا کہ وہ مذبور جانور کی کھال کے تھے یا غیر مذبور۔

النجاشي: [القب ملك الحبشة، اسمه أصحمة، وقيل: مكحول بن صعصة. ولما مات أخوه النبي ﷺ يوم موته يوم Monday، وخرج بهم وصلوا عليه، وصلوا معه] كسر أوله أفعص من فتحه، وتشديد الياء أفعص من تحفيتها، وتشديد الجيم خطأ، قاله البيهوري تبعاً للمناوي، وقال القاري: تشديد الجيم خطأ، وهو بفتح التون وتكسر، وقول ابن حجر: "كسر التون أفعص" غير صحيح. لقب ملوك الحبشة، كالتبّع لليمن، وكسرى للفرس، وقيصر للروم، وهرقل للشام، وفرعون لمصر، الألقاب جاهلية، واسم هذا الملك أصحمة. وقد أرسل ﷺ إليه عمرو بن أمية الضمري، يدعوه إلى الإسلام فأسلم، ومات سنة تسع من الهجرة عند الأكتر على ماصرخ به العسقلاني، قاله القاري، وفي البذل: قبل فتح مكة، وصلى عليه النبي ﷺ بالمدينة، كما هو المشهور في كتب الحديث. للنبي ﷺ: وفي نسخة: إلى النبي ﷺ واستعمال "أهدى" باللام وإلى شائع.

ساذجين: [حالدين في السواد، وليس فيهما نقوش] بفتح الذال المعجمة، معرب "ساده" على ما في القاموس، أي: غير منقوشين، أو لا شيء فيها تخالف لونهما، أو بحدرين عن الشعر، كما في قوله: نعلين جرداوين. دحية: بكسر أوله عند الجمهور، وقيل: بالفتح. صحابي مشهور ذو جمال حتى كان يأتي جبرائيل عليه السلام في صورته كثيراً، ووجهه تقدم.

وقال إسرائيل: هو من كلام الترمذى، فإن كان من قبل نفسه وهو الظاهر، فهو معلق، وإن كان من قتيبة فلا يكون معلقاً، وقال ميرك: يحتمل أن يكون مقولاً، ليجيء فيكون عطفاً بحسب المعنى على قوله: عن الحسن بن عياش، قاله القاري. وجبة: بالنصب عطفاً على حفين، قال ميرك: والحاصل أن يجيئ روى قصة إهداء الحفين فقط عن الحسن، وروى قصة إهداء الحفين مع الجبة عن إسرائيل، ويحتمل أن يكون تعليقاً عن الترمذى، ولم أر من خرج الحديث غير المؤلف، فإنه ذكره في جامعه بهذا السياق بلا تفاوت، ثم رأيت الحديث مخرجاً في أخلاق النبي ﷺ لأبي شيخ بن حبان الأصبهانى، فإنه أخرجه من طريق هشيم بن حمبل، عن زبير بن معاوية، عن جابر الجعفى، عن عامر، عن دحية الكلبي أنه أهداه لرسول الله ﷺ جبة من الشام وحفين، ويفهم من هذا السياق تقوية احتمال التعليق، قاله القاري.

فَلَبِسُهُمَا حَتَّى تَخْرُقَا، لَا يَدْرِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْكَىٰ هَمَا أَمْ لَا  
أَيْ مَذْبُوحٌ أَصْلَهُمَا أَمْ لَا  
الشَّيْبَانِيٌّ، وَاسْمُهُ سُلَيْمَانٌ.

فاکہدہ: اس اخیر لفظ سے حنفیہ کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ دباغت کے بعد مذبوح اور غیر مذبوح کی کھال دونوں استعمال کرنی جائز ہیں۔ بعض ائمہ کا اس میں اختلاف ہے جس کی بحث کتب فتنہ سے تعلق رکھتی ہے۔

فليبسهما: أي: الخفين والجبة، وثني الضمير؛ لأن الخفين في الحقيقة ملبوس واحد، ويحمل أن يكون الضمير إلى الخفين فقط كما في الرواية الأولى، ويؤيده قوله: لا يدرى. أذكىٰ: [أي: أَمْ مَذْبُوحٌ بِتَذْكِيَةٍ شَرْعِيَّةٍ أَمْ لَا، والمعنى: لم يعلم أن هذين الخفين كاتنا متحذتين من جلد مذكىٰ أَمْ من الميت]. الشيباني: معجمة وتحتية وموحدة، نسبة إلى شيبان، قبيلة معروفة في بكر بن وائل، وهو شيبان جليل بن ثعلبة، قاله السمعاني. والغرض أن أبا إسحاق هذا ليس بسيعي كما يوهنه كون إسرائيل الراوي من ولده.

## بَابُ مَاجَاءَ فِي نَعْلٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حدثنا محمد بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا همام، عن قتادة<sup>(١)</sup> قال: قلت لأنس بن مالك: الطيالسي  
كيف كان نعل رسول الله ﷺ؟ قال: لهما قبلان. حدثنا أبو كريباً محمد بن العلاء، حدثنا  
صغيراً، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث،

### باب حضور اقدس ﷺ کے نعلین (جوتے) شریف کے ذکر میں

فائدہ: اس میں حضور اقدس ﷺ کے جوتے کی بہت اور اس کے پہنچنے اور نکالنے کا طریقہ ذکر فرمایا ہے۔ نعل شریف کا نقشہ اور اس کے برکات و فضائل حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مذکور<sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> کے اخیر میں مفصل مذکور ہیں، جس کو تفصیل مقصود ہواں میں دیکھ لے۔ مختصر یہ ہے کہ اس کے خواص بے انتہا ہیں، علماء نے بارہا تجویز کیے ہیں، حضور کی زیارت میسر ہوتی ہے، ظالموں سے نجات حاصل ہوتی ہے، ہر دلعزیزی میسر ہوتی ہے۔ غرض ہر مقصد میں اس کے توسل سے کامیابی ہوتی ہے۔ طریقہ توسل بھی اُسی میں مذکور ہے۔ امام ترمذی رضی اللہ علیہ نے اس باب میں گیارہ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) قتادة کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضور کے نعل شریف کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہر ایک جوتے میں دو دو تھے تھے۔ فائدہ: عرب میں جوتا ایسا نہیں ہوتا تھا جیسا کہ یہاں ہند میں متعارف ہے بلکہ ایک چڑی کی چیٹی پر دو تھے تھے۔ جس کا نقشہ یہ ہے۔ (نعلین مبارک کا نقشہ کتاب کے آخر میں صفحہ ۵۰ پر ملاحظہ فرمائیں)

نعل: [كل ما وقيت به القدم عن الأرض] النعل قد يجيء مصدراً وقد يجيء اسماء، وهو محتمل للمعنىين ههنا، والثانى هو الأظهر، قاله القاري. قبلان: تشية فبال بكسر القاف وبالموحدة: زمام النعل، وقال الجهد: زمام بين الإصبع الوسطي والتي تليها، وكان عليه يضع أحد القباليين بين الإبهام والتي تليها، والأخرى بين الوسطى والتي تليها.

سفيان: قال القاري: أي: الثوري لا ابن عبيدة؛ لأنه لم يرو عن خالد الحذاء، خلافاً لمن وهم من الشرائح. وكذا تعقب المناوي وغيره على من قال: إنه ابن عبيدة.

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: کان لنعل رسول الله ﷺ قبالاً مُثْنی شراکھما. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عيسى بن طهمان قال: بِهِمَلَاتِ كَعْطَانَ<sup>(٢)</sup> أخرج الينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالاً. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس: أَيِّ عِيسَى بْنَ طَهْمَانَ بَعْدَ هَذَا الْمَحْلِسِ أَهْمَا كَانَا نَعْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال:

(٢) ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے نعلین شریف کے تے دوہرے تھے۔ فائدہ: یعنی ہر ہر تے میں دو دو تھے تھے، یعنی ہر تکہ دوہر اتھا۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی خالد حداء ہیں۔ حداء کے معنی موچی کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صاحب خود موچی نہیں تھے، لیکن نشت و برخاست اور تعلقات موچیوں سے تھے اس لئے ان کا لقب خالد موچی پڑ گیا تھا کہ اسی سے پہچانے جاتے تھے۔ جس قسم کے آدمیوں سے تعلقات ہوتے ہیں ان کے ظاہری اور باطنی اثرات رنگ لائے بغیر نہیں رہتے۔

(٣) عیسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت أنس رضی اللہ عنہ نے ہمیں دو جو تے نکال کر دکھائے، ان پر بال نہیں تھے۔ مجھے اس کے بعد ثابت نے یہ بتایا کہ وہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریف تھے۔ فائدہ: اکثر چڑے کو بغیر بال اتارے بھی عرب میں جوتا بنالیا جاتا تھا، اس لئے راوی نے بالوں کا ذکر فرمایا۔

مُثْنی: بضم ميم وفتح مثلثة ونون مشددة على أنه اسم مفعول من التثنية، وفي نسخة صحيحة: بفتح ميم فسكون فكسر فتحة مشددة على أنه اسم مفعول من الثنى، قاله القاري، وجعلهما المناوى روایتين. شراکھما: [ثنية شراك، وهو أحد سبور النعل. والمعنى: كان شراك نعله معمولاً اثنين من السبور]. الزبيري: نسبة لجده زبير بالزابي مصغراً، واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير. جرداوین: الجرداء مؤنث أجرد، وهي: التي لا شعر عليها، استعير من أرض جرد لانبات فيها، وقيل: معناه خلقين. ابن موسى: كلها في النسخ، قال المناوى وتبعه البيهوري: إسحاق بن موسى كلها في نسخ، وفي بعضها: إسحاق بن محمد وهو الصواب. قال بعض الحفاظ: هذا هو الذي خرج له في الشمائل، وليس هو إسحاق بن موسى الذي خرج له في جامعه، قال في التقريب: إسحاق بن محمد مجهول. وهذا عندي وهم منها، والصحيح إسحاق بن موسى كما في النسخ الموجودة عندي، و يؤيد كتب الرجال أيضاً كونه ابن موسى؛ إذ ذكرروا رواية الترمذى عن ابن موسى بدون الواسطة، وعن ابن محمد بواسطة، وأيضاً ذكرروا في تلامذة معن بن موسى: هذا ابن موسى دون ابن محمد، وإسحاق بن محمد الذي أخرج له الترمذى في الشمائل، وقال صاحب التقريب فيه: إنه مجهول، هو رجل آخر، راوي حديث الاحتباء، يأتي حديثه في باب جلسته بِكَلِيلٍ فَتَامِلٍ.

أخبرنا مالك، حدثنا مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السببية؟ قال: إني رأيت رسول الله ﷺ يلبس النعال التي ليس فيها شعر،

(۲) عبید بن جریر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بغیر بالوں کے چڑے کا جوتا پہنتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس اللہ علیہ السلام کو ایسا ہی جوتا پہنتے ہوئے اور اس میں وضوفرماتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے میں ایسے ہی جوتے کو پسند کرتا ہوں۔

فائدہ: مٹا سوال کا یہ تھا کہ عرب میں اس وقت تک تسمم و تمدن ایسا نہ تھا، اس نے بالوں سمیت چڑے کا جوتا عام طور سے بنالیا جاتا تھا۔ اسی نے بخاری شریف کی مفضل حدیث میں ہے کہ عبید نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں چند چیزوں آپ کے معمولات میں ایسی دیکھتا ہوں جو دوسرے صحابہ کے معمولات میں نہیں دیکھتا، منجبہ ان کے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ صاف شدہ چڑے کا جوتا پہنتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اتباع کے شدتِ اہتمام میں اس کا لحاظ فرماتے تھے، دوسرے حضرات عام دستور کے موافق ویسے ہی چڑے کا بنائیتے تھے۔ حدیث بالا میں اس میں وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے جوتے میں چونکہ پنجہ نہیں ہوتا، یعنی چپتی اور پر تسمہ، اس نے جوتا پہننے ہوئے بھی وضو ہو سکتا ہے اور بے تکلف پاؤں دھل سکتا ہے، اس نے حضور کبھی کبھی تعلیم و جواز کے واسطے ایسا بھی کر لیتے تھے۔ بعض علماء نے اس میں وضو کا مطلب یہ بتایا ہے کہ وضو کے بعد فوراً نعلین شریف پہن لیتے تھے، پاؤں کے خشک ہونے کا انتظار نہ فرماتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ فوراً پاؤں میں جوتا پہننے سے وضو میں کوئی نقص نہیں آتا۔

المقبری: نسبة للمقررة لكثره زيارته لها، أو لحفظها، أو لكون عمر ولاه لغفرها. السببية: [التي لا شعر عليها، نسبة إلى سبت، وهو جلود البقر المدبوعة لأن شعرها سُبتَ وسقط عنها بالدباغ، ومراد السائل: أن يعرف حكمه اختيار ابن عمر لبس السببية] بكسر السين المهملة وسكون الموحدة: منسوبة إلى السبت، قال أبو عبيدة: هي المدبوعة، ونقله عن الأصمعي، وقيل: إنما هي التي حلقت عنها وأزيل شعرها، قاله القاري، وقال العيني رحمه الله: نسبة إلى سبت بكسر السين وسكون الموحدة، وهو جلد البقر المدبوع بالقرظ، وقال أبو عمر: كل مدبوغ فهو سبت، وقال أبو زيد: هي السبت مدبوغة أو غير مدبوغة، وقيل: السببية التي لا شعر عليها، وقيل: التي عليها الشعر إلى آخر ما بسطه، وجواب ابن عمر رحمه الله: يدل على أن المراد التي لا شعر عليها. قال الحنفي: وإنما اعرضت عليه؛ لأنما نعال أهل النعمة والسعادة، قال ابن حجر: ومن ثم لم يلبسها الصحابة كما أفاده حديث البخاري: عن عبید بن جریر أنه قال لابن عمر رحمه الله: رأيتك تصنع أربعاء لم أر أحداً من أصحابك يصنعها. الحديث.

ويتوضاً فيها، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبِسَهَا. حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ، حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقَ، عَنْ مُعْمَرٍ، عَنْ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوَامَةِ، عَنْ<sup>(۵)</sup> أَبِي هَرِيرَةَ رضي الله عنه قال: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالَانِ. حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْيَعٍ، حَدَثَنَا أَبُو أَحْمَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَفِيَّانُ، عَنْ السُّدِّيِّ قَالَ: حَدَثَنِي مَنْ سَمِعَ عُمَرَ<sup>(۶)</sup> بْنَ حُرَيْثَ يَقُولُ: رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْ مَخْصُوفَيْنِ. حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ<sup>(۷)</sup>

(۵) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہ ہی نقل فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے نعلین شریف کے دو تھے تھے۔

(۶) عمرو بن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو ایسے جو توں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جن میں دوسرا چجز اسلاما ہوا تھا۔ فائدہ: یعنی اس کی تلی دو ہری تھی، اور پہنچے دو تھے چجز کی تھیں، یا یہ مطلب ہے کہ ٹوٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے چجز کے پیوند لگے ہوئے تھے۔

(۷) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یادوں پہن کر چلے یادوں نکال دے۔ فائدہ: اس حدیث کو شامل میں ذکر کرنے سے یہ مقصود ہے کہ حضور کی عادت شریفہ ایک جوتا پہننے کی نہیں تھی، اس لئے کہ جب حضور و رسول کو منع فرمائے ہیں تو خود ایسا کیوں کرتے۔ بظاہر اس حدیث میں ممانعت

يتوضأ فيها: أي: يلبسها بعد الوضوء ورجلاه رطبات، كما في الجمع، واختاره النموي، وقيل: يتوضأ والرجل في النعل، واختاره البيجوري.

التوأم: كالدحرجة بفتح مثناة وسكون واو وفتح هزة. هي امرأة لها صحبة، سميت بذلك؛ لأنها كانت مع أخت في بطنه.

السدي: بمعنى مضمومة فمهملة مشددة مكسورة: نسبة إلى السيدة، وهو باب الدار، نسب إليها إسماعيل بن عبد الرحمن لبيعه المقام بباب مسجد الكوفة، وهو السدي الكبير وحفيده السدي الصغير، والمراد هنا الكبير.

من سمع: قال القسطلاني: لم أمر التصریح باسمه، وأطلقه عطاء بن السائب.

مخصوصتين: عامة الشراح على أنها كانتا مخزوتين بحيث ضم طاق إلى طاق، لكن قال القاري: وفي شرح أن المراد به المرقعة، وهذا أوجه عندي؛ لما سيفتي من قول الأنصاري: ياخير من يمشي بنعل فرد.

أبی هُریْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَا يَمْشِينَ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلُهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَحْفَهُمَا جَمِيعًا. حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، نَحْوَهُ. حَدَثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّيْرَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ،

سے مقصود عادَةً ایسا کرنا ہے، لہذا اگر کسی عارض کی وجہ سے تھوڑی بہت دیر ایسے چلے مثلاً جو تاثُّث جائے یا کوئی اور عارض پیش آجائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اس حدیث کے ذیل میں علماء نے ایک موزہ اور ایک آستین پہننے کو بھی داخل فرمایا ہے۔ غرض معتاد طریقہ پر ہر چیز کو پہننا چاہئے، تکلف اور بے تمیزی سے احتراز کرنا چاہئے۔

(۸) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرور اقدس سنتیتیم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص باسیں ہاتھ سے کھائے یا ایک جوتا پہنے۔ فائدہ: جمہور علماء کے نزدیک یہ ارشادات استحبانی ہیں یعنی حرام نہیں ہے۔ لیکن بعض اصحاب ظاہر نے ناجائز بتایا ہے۔

لَا يَمْشِينَ: [نفي صورة وهي معنى، فيكره ذلك من غير عذر؛ لما فيه من المثلة، وعدم الوقار، وتغيير إحدى جارحتيه عن الأخرى]. أشكُل عليه بوجهين: الأول بما في الجامع عن عائشة من أن المصطفى رَبِّنَا مشى بنعل واحدة، وأجيب: بأن موضع النهي استدامة المشي في فردة، أما لو انقطع نעה فمشي خطوة أو خطوتين فليس بقيبح ولا منكر، أو النهي للإرشاد والفعل للجوز، وكفى بفعل على وابن عمر جوازاً، والثانى بما في الصحيحين أن أنصاريا شكى إليه رَبِّنَا فقال: يا خير من يمشي بنعل فرد، وأجيب: بأن الفرد ه هنا التي لم تخصف ولم تطأرق، وإنما هي طاق واحد، والعرب متداخ برقة النعال، وحکی التووی الإجماع على ندب لبس النعلین جمیعاً، وأنه غير واجب، ونوزع بقول ابن حزم: لا يحل.

لِيَنْعَلُهُمَا: أي: القدمين بلام الأمر، ضبطه التووی بضم أوله من أَنْعَلْ، وتعقب بأن أهل اللغة قالوا: أَنْعَلْ وَانْعَلْ أي: لبس النعل، لكن قال أهل اللغة أيضاً: أَنْعَلْ رجله أَنْسَها نعلا. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين حاز الضم والفتح، وإن كان للنعلين تعين الفتح. ليحفههما: [وهو الإعراء عن الرجل].

قُتَيْبَةُ إِلَيْهِ: قَالَ الْمَنَاوِيُّ: السِّنَدُ مَرْسُلٌ أَوْ مَنْقُطٌ لِإِسْقاطِ الْأَعْرَجِ وَأَبِي هُرِيْرَةَ، وَتَبَعَهُ الْبَيْحُورِيُّ فِي ذَلِكَ، وَحَكَاهُ الْقَارِيُّ عَنِ الْعَصَمَانِ، وَهَذَا كَلِه لَيْسَ بِذَلِكَ، بَلْ الْمَعْنَى بِسَنَدِه نَحْوُهُ، كَمَا هُوَ التَّعَارُفُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ الْمَصْنَفَ يَحْكُمُ أَخْرَجَهُمَا فِي جَامِعَهُ، وَنَصْهُ: حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ حَ وَحَدَثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَثَنَا مَعْنٍ، حَدَثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ إِلَيْهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّوَايَيْنِ أَنَّ فِي الثَّانِي حَصْلَ الْمَصْنَفِ الْعُلُوِّ.

أن النبي ﷺ نهى أن يأكل -يعني الرجل- بشماله، أو يمشي في نعل واحدة. حدثنا قتيبة عن مالك ح وأخبرنا إسحاق بن موسى، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن <sup>(٤)</sup> أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمن، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمن أولهما تُنْعَلُ، وآخرهما تُنْزَعُ. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، أخبرنا محمد بن جعفر قال: <sup>ذكر بناوبل المصو</sup>  
<sup>(١٠)</sup> أخبارنا شعبة قال: حدثنا أشعث - وهو ابن أبي الشعثاء - عن أبيه، عن مسروق، عن

عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يُحب التيمّن ما استطاع في ترجله وتنعله وظهوره.  
تمشط شعر [ليس نعله] [استعمال طهوره]

(٩) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص تم میں سے جوتا پہنے تو دائیں سے ابتداء کرنی چاہئے، اور جب نکالے تو بائیں سے پہلے نکالے۔ دایاں پاؤں جوتا پہنے میں مقدم ہونا چاہئے اور نکالنے میں مورخ۔ فائدہ: چونکہ جوتا پاؤں کے لئے زینت ہے اس لئے دیر تک پاؤں میں رہنا چاہئے، جیسا کہ پہلے بھی گذر چکا۔ ایسے ہی ہر وہ چیز جس کا پہنائزینٹ ہواں کے پہنے میں دائیں کو مقدم کرے اور نکالنے میں بائیں کو، جیسے کرتا، پاجامہ، اچکن وغیرہ۔

(١٠) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرور اقدس ﷺ اپنے لکھنی کرنے میں اور جوتا پہنے میں اور اعضاء و ضو کے دھونے میں حتی الوع دائیں سے ابتداء فرمایا کرتے تھے۔ فائدہ: ان تین کی تخصیص نہیں بلکہ ہر چیز کا یہی حکم ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے، اور حتی الوع سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت بائیں کے ابتداء کی لاحق ہو تو مضائقہ نہیں۔

يعني الرجل: يعني زاد لفظ "يعني" أبو الزبير أو من دونه لنسیان ألفاظ الشیعی. والرجل ليس باحتراز عن المرأة، بل المراد الشخص بطريق العموم. فليبدأ: قال الحافظ ابن حجر: نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب. بالشمال: [ لأن النزع من باب التنقيس، واليمن خutar الله ومحبوبه في الأشياء]. أبو موسى: هو محمد ابن المثنى المذكور، فما في بعض النسخ من لفظ "نا" بينهما غلط. وهو ابن: الغرض أن شعبة اقتصر على لفظ "أشعت" فقط فراد بعض من دونه نسبة. استطاع: [أي: يختار تقديم اليمن مدة استطاعته، بخلاف ما إذا كان ضرورة فلا كراهة في تقديم اليسار حينئذ]. في ترجله: [أي: في تسريع شعره] ذكر الثلاثة ليس للحصر، بل للإشارة إلى أنه عليه كأن يراعي التيمّن من الفرق إلى القدم في باب العبادات والعادات.

حدثنا محمد بن مَرْزُوقُ أبو عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية، أَبْنَا هِشَامَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ <sup>(۱۱)</sup> أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ لَنَعْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالَانَ،  
وَأَبِي بَكْرٍ وَعَمْرَ قَبَالَانَ، وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَاحِدًا عَثْمَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  
جَعْلَ قَبَالَانَ وَاحِدًا

(۱۱) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ کے نعلین شریف کے دو تھے تھے۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے جوتا میں بھی دوہرائی تھے۔ ایک تھے کی ابتدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے۔ فائدہ: غالباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی لئے اس کو اختیار فرمایا کہ دو تموں کا ہونا ضروری نہ خیال کر لیا جائے۔

هشام: قال العصام: المسمى هشام في أسانيد الشمائل خمسة، قال المناوي: هذا هشام ابن حسان، وهو الراوي عن ابن سيرين. عن محمد: [أي: ابن سيرين، رأى ثلاثة صحابيا، وكان يعبر الرؤيا.]

## بَابُ مَاجَاءَ فِي ذِكْرِ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد، عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي ﷺ من ورق،

### باب حضور اقدس ﷺ کی انگوٹھی کا ذکر

فائدہ: اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آنہ احادیث ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا گئیہ جبشی تھا۔

فائدہ: چاندی کی انگوٹھی جمہور کے نزدیک جائز ہے، باقی پیش لو ہے وغیرہ کی حفیہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ حضور ﷺ نے ابتداءً انگوٹھی نہیں بنوائی تھی، مگر جب معلوم ہوا کہ سلاطین عجم بغیر مہر کے خطوط کی قدر نہیں کرتے اور تبلیغ خطوط سلاطین کے پاس ارسال کرنے شروع فرمائے تو سد ۶ یا سنہ ۷ بھری میں مہر بنوائی۔ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں کہ انگوٹھی کا حکم کیا ہے۔ بعض علماء نے مطلقاً سنت فرمایا ہے، بعض علماء نے غیر سلطان اور قاضی کے لئے مکروہ بتایا ہے۔ علماء حفیہ (کثر اللہ تعالیٰ جمعهم و شکر سعیهم) کی تحقیق شامی کے قول کے موافق یہ ہے کہ بلوشه، قاضی، متول وغیرہ، غرض جن کو مہر کی ضرورت پڑتی ہو ان کے لئے تو سنت ہے اور ان کے علاوہ دوسروں کے لئے جائز ہے لیکن ترک کرنا افضل ہے۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بھی اسی وقت بنوائی جب سلاطین کو خطوط لکھنے کے لئے اس کی ضرورت پیش آئی،

ذکر: زاد لفظ "ذکر" للتبیه على تمیز هذه الترجمة من الترجمة المتقدمة، فإن المراد في الأولى: هي البضعة الناشزة عند الكتف، والمراد هناك الطابع الذي يختص به الكتب. وفي لفظ "الخاتم" خمس لغات، وقيل: عشر، والأفضل كسر الناء. قال الزین العراقي: لم ينقل كيف كانت صفة خاتمه الشريف هل كان مربعاً أو مثلثاً أو مدوراً؟ وعمل الناس في ذلك مختلف، وفي كتاب "أخلاق النبوة" أنه لا يُدرى كيف هو. قالوا: والخاتم حلقة ذات فص من غيرها، فإن لم يكن لها فص فهي فتحة، قاله البيحوري. وانختلف في حكم الخاتم كما بسط في المطولات، وفي الدر المختار: ترك التختيم لغير السلطان والقاضي وذي حاجة إليه كمتول أفضل، قال ابن عابدين: أشار إلى أن التختيم سنة لم يحتاج إليه كما في الاختيار. ورق: بفتح الواو وكسر الراء المهملة وتسکن تحفيفاً، أي: فضة وفي الأصل: النقرة المضروبة. وقيل: النقرة مطلقاً، مضروبة أو لا.

وكان فَصُهْ حَبَشِيَاً. حدثنا قتيبة، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي بشرٍ، عن نافع، عن ابن عمر <sup>(۱)</sup> أن النبي ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فَضَّةٍ، فَكَانَ يَحْتِمُ بِهِ، وَلَا يَلْبِسُهُ. قال أبو عيسى: أبو بشر: اسمه جعفر بن أبي وحشية. حدثنا محمود بن غيلان،

چنانچہ حدیث <sup>(۲)</sup> میں آرہا ہے۔ ابو داؤد شریف وغیرہ میں نبی کریم ﷺ سے بادشاہ کے علاوہ کو انگوٹھی پہننے کی ممانعت بھی آئی ہے، مگر چونکہ حضور ﷺ کے سامنے اکثر صحابہ سے پہننا بھی ثابت ہے اور حضور ﷺ کی اجازت بھی دوسری احادیث میں آئی ہے، اس لئے اس ممانعت کو اسی خلاف اولی پر حمل کیا ہے۔

(۲) حضرت ابن عمر <sup>رض</sup> فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی، اس سے خطوط وغیرہ پر مہر فرماتے تھے، پہننے نہیں تھے۔ فائدہ: حضور اقدس ﷺ کا انگوٹھی کو پہننا روایات متعددہ سے ثابت ہے اس لئے حضرت ابن عمر <sup>رض</sup> کی اس حدیث کی علماء نے چند توجیہات فرمائی ہیں۔ بعض نے یہ توجیہ کی ہے کہ مقصود استمرار ہے کہ ہمیشہ نہیں پہننے تھے، بعض کی رائے ہے کہ حضور ﷺ کی دو انگوٹھیاں تھیں، ایک یہ مہروالی، اس کو مہر کے کام میں لاتے تھے اور پہننے نہیں تھے، دوسری پہننے کے استعمال میں لاتے۔ ایسے ہی اور بھی مختلف طریق سے جمع کیا گیا ہے۔ لیکن بندہ کے نزدیک اولی یہی ہے کہ ہر وقت اس کو نہیں پہننے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نماز پڑھ رہے تھے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی تھی، نماز میں اس پر نگاہ پڑگی تو اس کے بعد سے پہننا چھوڑ دیا تھا۔

فصہ: بتلیث أوله، ووهم القاموس الصحاح في جعله الكسر لحننا، وللفص معان كثيرة، والمراد ههنا: ما ينقش فيه اسم صاحبه. حبشيَا: أي حجراً منسوباً إلى الحبش؛ لأنَّ معدنه، وقيل: كان فصه عقيقاً كما في خبر، وقيل: كان جزعاً. وقال حبشيَا؛ لأنَّ يوتى هما من بلاد اليمين وهو كورة الحبشيَّة، أو معنى حبشيَا: جيء به من الحبشيَّة، أو كان أسود على لون الحبشيَّة، أو صانعه أو صانع نقشه من الحبشيَّة، وبه يحصل الجمع بينه وبين ما سيرأ: "من فضة فصه منه" إذ لم يثبت تعدد خاتمه، وهي رواية البخاري، ومن ثم قال ابن عبد البر: إنما أصح، قاله القراري، زاد المناوي أو مصنوعاً كما يصنعه الحبشيَّة، كما فسر كون سيفه حنفيَا بكون زيه على سیوف بنی حنفیة. اتخاذ: [واتخاذه <sup>ﷺ</sup> الخاتم كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة] ولا يلبسه: أي: استمراراً ودواماً، فلا ينافي ما سيرأ في آخر الباب عن ابن عمر <sup>رض</sup> بنفسه: أنه كان في يده. وحشية: هكذا بالباء في آخره في النسخة الأحدية، وهكذا في التهذيب وغيره، وفي نسخ الشروح: وحشی.

حدثنا حفص بن عمر بن عبید - هو الطافسي - أخبرنا زهير، عن حميد، عن <sup>(٣)</sup> أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله ﷺ من فضله، فصَّهُ منه. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن <sup>(٤)</sup> أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي ﷺ

احادیث میں ایک منتش کپڑے کے متعلق بھی اس قسم کا واقعہ آتا ہے کہ نماز میں اس پر نگاہ پڑ گئی تو حضور ﷺ نے اس کو نکال دیا تھا اور اس کے بدله میں ایک معمولی کپڑا پہن لیا تھا۔ انگوٹھی چونکہ ضرورت کی چیز تھی اس لئے مطلقاً تو اس کا ترک مشکل تھا اس لئے عام طور پر اس کا پہننا ترک فرمادیا ہو، یہ اقرب ہے، چنانچہ دوسرے باب کی چھٹی حدیث میں آرہا ہے کہ اکثر اوقات حضرت معیقیب کے پاس رہتی تھی۔

(۳) حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا گنینہ بھی اس ہی کا تھا۔ فائدہ: یہ حدیث بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں جبشی گنینہ وارد ہوا ہے۔ جو لوگ دو انگوٹھیوں کے قائل ہوئے ہیں وہ خود اس حدیث کو بھی دو ہونے پر قرینہ بتاتے ہیں، چنانچہ تینی وغیرہ کی تھیں رائے ہے، ان کے نزدیک تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ لیکن جو حضرات ایک انگوٹھی کے قائل ہیں وہ ان دونوں میں اس طرح جمع فرماتے ہیں کہ جبشی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جبشی رنگ یا جبشی طریقہ کا تھا، یا اس کا بنانے والا جبشی تھا۔ بندہ کے نزدیک تعدد پر حمل اقرب ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف انگوٹھیاں ہونا متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ ایک انگوٹھی حضور نے خود بنوائی پھر ہدیہ میں خدام نے پیش کیں، جیسا کہ جمع الوسائل کی مختلف روایات سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے۔

(۴) حضرت انس رضي الله عنه سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے جب الہ عجم کو تبلیغی خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ عجم بلا مہروالے خط کو قبول نہیں کرتے، اس لئے حضور نے انگوٹھی بنوائی، جس کی سفیدی گویا ب میری

**الطاوسي:** بفتح الطاء وكسر الفاء، نسبة لطنافس كمساجد، جمع طنفسة بضم أوله وثالثه، وكسرهما، وكسر الأول وفتح الثالث: بساط له خَمْلٌ، أي وبر، نسب إليها؛ لأنَّه كان يعملها أو يبيعها. فصَّهُ منه: هذا يخالف ما تقدم من قوله "وكان فصَّهُ حبشاً" وتقديم الجمع بينهما، والأوجه عندي التعدد، وإليه مال النووي والبيهقي وابن العربي والقرطبي وغيرهم، كما حكاه عنهم المناوي، وبسط الروايات في ذلك القاري.

أن يكتب إلى العجم، قيل له: إن العَجَمَ لا يقبلون إلا كتاباً عليه خاتم، فاصطعن خاتماً، فكأني  
أنظر إلى بياضه في كفه. حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني  
أبي، عن ثِمَامَةَ، عن<sup>(٥)</sup> أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم النبي ﷺ: محمد: سطر،  
ورسول: سطر، والله: سطر. حدثنا نصر بن عليّ الجَهْضَمِيُّ أبو عمرو، أبُنَا نوح بن قيس،  
عن خالد بن قيس، عن قتادة،

نظرؤں کے سامنے پھر رہی ہے۔ فائدہ: اس اخیر کے جملے سے اس قصہ کے خوب یاد ہونے کی طرف اشارہ ہے اور سفیدی  
سے اس کے چاندی کی ہونے پر اشارہ ہے۔

(٥) حضرت أنس رضي الله عنه سے مردی ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی انگوٹھی کا نقش "محمد رسول الله" تھا اس طرح پر کہ "محمد"  
ایک سطر میں تھا، "رسول" دوسری سطر میں، لفظ "الله" تیسرا سطر میں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی صورت  
رسول تھی کہ اللہ کا پاک نام سب سے اوپر تھا، مگر محققین کی رائے یہ ہے کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ظاہر  
الفاظ سے رسول معلوم ہوتا ہے۔

العجم: [أي: إلى عظمائهم وملوكهم يدعوهم إلى الإسلام، والمراد بالعجم ماعدا العرب، فيشمل الروم وغيرهم].  
صاصطعن: [فلاجل ذلك أمر بإن يُصنطن له خاتم]. من باب قوله: "بني الأمير المدينة"، والصانع كان يعلى بن أمية.  
أنظر: [إشارة إلى كمال إتقانه واستحضاره لهذا الخبر حال الحكاية، كأنه يغير عن مشاهدة]. ثِمَامَةَ: بضم المثلثة وتحقيق ميمه: هو  
عم عبد الله الراوي. قال المناوي: ظاهره أن "محمدًا" سطره الأول، و "رسول" سطره الثاني، و "الله" سطره الثالث، وقول  
الأسنوي: كانت تقرأ من الأسفل؛ ليكون اسم الله فوق الكل وتأيد ابن جماعة بأنه اللاقن بكمال أدبه مع ربه، رد نقا وتجيئها،  
أما الأول: فقد ذكر الحافظ ابن حجر: أنه لم يره في شيء من الأحاديث قال، بل رواية الإمام علي يخالف ظاهرها ذلك، إذ قال:  
"محمد" سطر، والسطر الثاني: "رسول" والسطر الثالث: "الله". وأما الثاني: فإن العصام تعقبه بأنه يخالف وضع التزيل؛ إذ جاء  
فيه: محمد رسول الله (الفتح: ٢٩) على هذا الترتيب إلى آخر ما سطه المناوي. [وأما الثالث: فلا أنه إنما عوّل فيه على  
العادة، وأحواله خارجة عن طورها، وبالجملة: فلا يصار إلى كلام الأسنوي]. الجَهْضَمِيُّ: بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح  
الضاد المعجمة في آخره ميم: نسبة للجهاضمة، محلة بالبصرة، وتلك المحلة تنسب إلى الجهاضمة بطن من الإزد، قاله البيحوري.

عن <sup>(٦)</sup> أنس رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كتب إلى كسرى وقيصر والجاشي، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم،

(۶) حضرت انس رضي الله عنه سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے کسری اور قیصر اور نجاشی کے پاس تبلیغ خطوط لکھنے کا تصد فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ایسے لوگ بدون مہر کے خطوط کو قبول نہیں کرتے۔ اس نے حضور اقدس ﷺ نے ایک مہربنوائی جس کا حلقة چاندی کا تھا اس میں ”محمد رسول اللہ“ منقوش تھا۔ فائدہ: کسری ملک فارس کے بادشاہ کا لقب ہے، اور قیصر ملک روم کے، اور نجاشی ملک جبشہ کے بادشاہ کا۔ کسری شاہ فارس کے پاس حضور نے اپنا والا نامہ عبد اللہ بن حذافہ سہی رضي الله عنه کے ہاتھ روانہ فرمایا تھا، کسری نے آپ کے والا نامہ مبارک کو لکھنے لکھنے کر دیا۔ حضور نے سن کر بدعا فرمائی کہ حق تعالیٰ جل جلالہ اس کے ملک کو لکھنے فرمادے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شاہ روم کے پاس دیجہ کلبی رضي الله عنه کے ہاتھ گرامی نامہ اقدس ارسال ہوا، وہ باوجود یقین نبوت کے ایمان نہیں لایا۔ نجاشی شاہ جبše کے پاس عمر بن امیہہ ضری کے ہاتھ خط لکھا جیسا کہ مواہب لدنیہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ نجاشی نہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، جن پر حضور ﷺ نے صلاۃ الجازہ پڑھی، یہ اور نجاشی ہیں۔ ان کے اسلام کے حال جیسا کہ ملا علی قاری رضي الله عنه عليه نے لکھا ہے معلوم نہیں ہوا۔

حضور اکرم ﷺ کے والا نامہ جات تو متعدد ہیں جو کتب سیر و حدیث میں مفصل مذکور ہیں۔ گرامی نامہ جات کو بعض لوگوں نے مستقل تصنیف میں جمع بھی کر دیا ہے۔ حدیث بالا میں تین والا نامہ جات کا ذکر ہے، جن کا مختصر ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک والا نامہ کسری کے نام ہے، فارس کے ہر بادشاہ کا لقب کسری ہے جو بھی ہو، اس کسری کا نام پر ویز تھا،

كتب: أي: أراد أن يكتب للرواية السابقة، وذلك حين رجع من الحديبية.

كسری: بكسر الكاف وفتحها: لقب ملوك فارس، وفي المغرب: كسرى بالفتح أصلح، لكن في القاموس: كسرى وفتح ملك الفرس، معرّب "خسرو" أي: واسع الملك، قاله القاري، وقال المناوي: النسبة إليه كسروي وإن شئت كسرى، وعن أبي عمر: جمع كسرى أكاسرة على غير قياس. وقيصر: تقدم في باب الخف أن قصر لقب ملك الروم، زاد القاري: كما أن تبع من ملك حمير، واليمين وحاقان من ملك الترك.

**فصاغ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا حَلَقَتْهُ فَضَةً، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.** حدثنا إسحاق بن منصور،  
مشعر بـان فصـه لم يكن من فصـة

جون شیر وال کا پوتا تھا۔ والا نامہ کا مضمون حسب ذیل تھا:-

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بـاسم الله الرحمن الرحيم۔ اللـهـ کـے رسولـ محمدـ (صلـ علـيـهـ وـآلـهـ وـسـلـيـهـ) کـی طـرفـ سـے کـسرـیـ کـے رسولـ اللـهـ إـلـىـ کـسرـیـ عـظـیـمـ فـارـسـ. نـامـ جـوـ فـارـسـ کـاـ بـرـاـ (اورـ سـرـدارـ) ہـےـ۔ سـلامـ عـلـیـ اـسـ خـفـضـ کـے لـئـےـ ہـےـ جـوـ ہـدـایـتـ سـلامـ عـلـیـ مـنـ اـتـیـعـ الـهـدـیـ وـآمـنـ بـالـلـهـ وـرـسـوـلـ، وـشـهـدـ أـنـ لـاـ إـلـهـ إـلـاـ اللـهـ وـحـدـهـ اـخـتـیـارـ کـرـےـ اـورـ اللـهـ پـرـ اـورـ اـسـ کـےـ رـسـوـلـ پـرـ اـیـمـانـ لـائـےـ اـورـ اـسـ بـاتـ کـاـ اـقـرـارـ لـاـ شـرـیـکـ لـهـ وـأـنـ مـحـمـدـاـ عـبـدـ وـرـسـوـلـ، کـرـےـ کـہـ اللـهـ وـحـدـهـ لـاـ شـرـیـکـ لـهـ کـےـ سـواـ کـوـئـیـ مـعـبـودـ نـہـیـںـ اـورـ مـحـمـدـ (صلـ علـيـهـ وـآلـهـ وـسـلـيـهـ) اـسـ کـےـ بـنـدـےـ اـورـ رـسـوـلـ ہـیـںـ۔ مـیـںـ تـجـھـ کـوـ اللـهـ کـیـ پـکـارـ (یـعنـیـ کـلمـہـ) کـیـ دـعـوتـ دـیـتاـ ہـوـںـ، اـسـ لـئـےـ کـہـ مـیـںـ اللـهـ کـاـ وـهـ رـسـوـلـ ہـوـںـ جـوـ تمـ جـہـاـنـ کـیـ طـرفـ اـسـ لـئـےـ ہـوـںـ، اـسـ بـھـیـجـاـ گـیـاـ ہـےـ کـہـ انـ لـوـگـوـںـ کـوـ ذـرـائـےـ جـنـ کـےـ دـلـ زـنـدـہـ ہـیـںـ (یـعنـیـ انـ مـیـںـ کـچـھـ عـقـلـ ہـےـ کـہـ عـقـلـ آـدـیـ بـمـنـزـلـهـ مـرـدـہـ کـےـ ہـےـ) اـورـ تـاـکـہـ اللـهـ کـیـ جـمـتـ کـافـرـوـںـ پـرـ پـورـیـ ہـوـجـائـےـ۔ (اـورـ کـلـ قـیـامـ مـیـںـ یـہـ کـہـنـےـ کـاـ مـوـقـعـ نـہـ مـلـےـ کـہـ ہـمـ کـوـ عـلـمـ نـہـ ہـوـسـکـاـ) توـ اـسـلـامـ لـےـ آـتـاـکـہـ سـلـامـتـیـ سـےـ رـہـےـ وـرـنـہـ تـیرـےـ اـتـبـاعـ مـجـوسـ کـاـ بـھـیـ وـبـالـ تـجـھـ پـرـ ہـوـگـاـ کـہـ وـہـ تـیرـیـ اـقـتـادـاـ مـیـںـ مـگـرـاـ ہـوـرـہـ ہـےـ ہـیـںـ۔

حضرت عبد اللـهـ بـنـ حـذـافـهـ کـوـ یـہـ خطـ دـےـ کـرـ وـانـہـ فـرـمـاـیـاـ اـورـ یـہـ اـرـشـادـ فـرـمـاـیـاـ کـہـ کـسـرـیـ کـاـ گـورـنـزـ جـوـ بـگـرـیـنـ مـیـںـ رـہـتاـ ہـےـ اـسـ کـےـ ذـرـیـعـ سـےـ کـسـرـیـ تـکـ پـہـنـچـاـ دـیـںـ، چـنـاـچـہـ اـسـیـ ذـرـیـعـ سـےـ وـہـاـنـ تـکـ خـطـ لـےـ کـرـ پـہـنـچـ۔ کـسـرـیـ نـےـ یـہـ وـالـاـنـامـ پـڑـھـوـاـ کـرـ سـنـاـ اـورـ اـسـ کـوـ چـاـکـ کـرـ دـیـاـ اـورـ تـکـڑـےـ تـکـڑـےـ کـرـ کـےـ پـھـیـنـکـ دـیـاـ۔ حـضـورـ (صلـ علـيـهـ وـآلـهـ وـسـلـيـهـ) کـوـ اـسـ کـاـ عـلـمـ ہـوـاـ توـ حـضـورـ (صلـ علـيـهـ وـآلـهـ وـسـلـيـهـ) نـےـ اـسـ کـےـ لـئـےـ بـدـعـاـفـرـمـائـیـ اـورـ اـسـ کـےـ بـیـئـ شـیرـ دـیـہـ نـےـ بـرـیـ طـرـحـ سـےـ اـسـ کـوـ قـتـلـ کـیـاـ جـسـ کـاـ قـصـہـ کـتـبـ تـوارـیـخـ مـیـںـ مـذـکـورـ ہـےـ۔ دـوـ سـرـ اوـ الـاـنـامـ جـسـ کـاـ حـدـیـثـ بـالـ

فصاغ: [أَيْ أَمْرٌ بِصُوْغَهُ، وَهُوَ هَيْثَةُ الشَّيْءِ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقِيمٍ]. وَنَقْشٌ: قَالَ الْقَارِيُّ: ضَبْطٌ مَجْهُولًا فِي النُّسْخَ الْمُعْتَمَدةَ، وَقَالَ الْخَنْفِيُّ: رَوِيَ مَعْلُومًا مَجْهُولًا، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصَحَّتِهِ، وَقَالَ مَيرَكَ: ضَبْطٌ فِي أَصْلِ سَمَاعِنَا بِالْجَهْوَلِ، وَضَبْطُنَا فِي الْبَخَارِيِّ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى أَنَّ ضَمِيرَ الْفَاعِلِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالْإِسْنَادُ بِالْمَازِيِّ.

میں ذکر ہے قیصر کے نام تھا، جوروم کا بادشاہ تھا۔ اس کا نام موئیخین کے نزدیک ہر قل ہے۔ یہ والا نامہ حضرت دیجہ کلبی ﷺ کے ہاتھ بھیجا گیا۔ مسلمان تو قیصر بھی نہیں ہوا لیکن حضور کے والا نامہ کو نہیت اعزاز واکرام سے رکھا۔ حضور ﷺ کو جب ان دونوں واقعات کا علم ہوا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسری نے اپنے ملک کے ٹکڑے کر لیے اور قیصر نے اپنے ملک کی حفاظت کر لی۔ اس والا نامہ کا مضمون حسب ذیل تھا:-

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم.  
سلام على من اتبع المهدى. أما بعد فلاني  
أدعوك بدعابة الإسلام. أسلم تسلّم،  
يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن  
عليك إثم البريسيين، ويَا أهْلَ الْكِتَابِ  
تَعَالُو إِلَى كَلْمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنَّ  
لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَشْرُكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا  
يَحْذَدُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
فَإِنْ تُولِّوْا فَقُولُوا اشْهُدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.  
(خاری، إعلام السائلين) (با اهل الكتاب  
سے اخیر تک قرآن پاک کا مضمون ہے جو سورہ  
آل عمران کے چھٹے روپ میں ہے)

عبادت نہ کریں، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائے (جیسا کہ احبار اور رہبان کو بنایا جاتا تھا) اگر اس کے بعد بھی وہ اہل کتاب روگردانی کرے تو مسلمانوں! تم ان سے کہہ دو کہ تم اس کے گواہ رہو  
کہ ہم تو مسلمان ہیں (ہم تو اپنے ملک کا صاف اعلان کرتے ہیں، اب تم جانو تمہارا کام)

حضرت دیجہ ﷺ جب اس والا نامہ کو لے کر گئے اور قیصر کے سامنے پہنچا گیا تو اس کا بھیجا بھی وہاں موجود تھا، وہ  
نہیت غصہ میں بھر گیا اور کہنے لگا کہ اس خط کو مجھے دو۔ چچا یعنی قیصر نے کہا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا یہ خط پڑھنے کے  
قابل نہیں ہے، اس میں آپ کے نام سے ابتداء نہیں کی، اپنے نام سے کی ہے، پھر آپ کو بادشاہ کے بجائے روم کا بڑا آدمی  
لکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ قیصر نے کہا: توبے و قوف ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کے خط کو پھینک دوں جس کے پاس

ناموسِ اکبر (یعنی حضرت جبریل علیہ السلام) آتے ہوں، اگر وہ نبی ہیں تو ان کو ایسے ہی لکھنا چاہئے۔ اس کے بعد حضرت دجیہ ﷺ کو بڑے اعزاز و اکرام سے تھہرا�ا۔ قیصر اس وقت سفر میں تھا، واپسی پر اس نے اپنے ارکان و امراءٰ سلطنت کو جمع کیا اور جمع کر کے اُن سے کہا کہ میں تم کو ایک ایسی بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو سراسر خیر و فلاح ہے اور ہمیشہ کے لئے تمہارے ملک کے بقا کا ذریعہ ہے، بیشک یہ نبی ہیں ان کا اتباع کر لو اور ان کی بیعت اختیار کرلو۔ اس نے ایک بند مکان میں جہاں سب طرف کو کواڑ بند کر دیے گئے تھے، اس مضمون پر ایک لمبی تقریر کی۔ وہ لوگ اس قدر متوجہ ہوئے کہ ایک دم شور و شغب ہو گیا، ادھر اُدھر بھاگنے لگے مگر کواڑ سب بند تھے، دیر تک ہنگامہ برپا رہا۔ اس کے بعد اُس نے سب کو چھپ کیا اور تقریر کی کہ در حقیقت ایک مدعا نبوت پیدا ہوا ہے، میں تم لوگوں کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین میں کس قدر پختہ ہو، اب مجھے اس کا اندازہ ہو گیا۔ وہ لوگ اس کے سامنے اپنی عادت کے موافق سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد ان کو شاباشی وغیرہ دے کر رخصت کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اُس نے خط کو پڑھ کر چوما، سر پر رکھا اور ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا اور پوپ کو طلب کیا اُس سے مشورہ کیا، اس نے کہا: بیشک یہ نبی آخر الزمان ہیں، جن کی بشارتیں ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ قیصر نے کہا: مجھے بھی اس کا یقین ہے، مگر اشکال یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور سلطنت جاتی رہے گی (علام السالمین) جس وقت یہ والا نامہ سفر کی حالت میں قیصر کے پاس پہنچا تھا وہ اس وقت اپنی مدد ہی ضرورت کے لئے بیت المقدس آیا ہوا تھا، وہاں مکہ مکرمہ کا ایک بڑا تجارتی قافلہ بھی گیا ہوا تھا۔ اس نے تحقیق حالات کیلئے اس قافلہ کے سرداروں کو بھی طلب کیا تھا، جس کا مفضل قصہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہ اس زمانہ کا قصہ ہے جب عمرہ حدیبیہ کے بعد حضور اقدس ﷺ کے درمیان اور اہل مکہ کے درمیان چند سال کے لئے ایک عہد نامہ اور صلح نامہ تیار ہوا تھا کہ آپس میں لڑائی نہ کی جائے۔ ابوسفیان شیخُ جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ اس صلح کے زمانہ میں ملک شام میں گیا ہوا تھا کہ اس اثنامیں ہر قل کے نام حضور کا والا نامہ بھی گیا جس کو دجیہ کلبی لے کر گئے، ہر قل کے پاس جب وہ گرامی نامہ پہنچا تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں اس شہر میں کوئی شخص اس کا واقف ہے جو مدعا نبوت پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، اس پر ہماری طلبی ہوئی۔ چنانچہ میں قریش کے چند لوگوں کے ہمراہ اس کے پاس گیا، اس نے ہم سب کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ اس شخص کے ساتھ جو

نبوت کا دعویدار ہے، تم میں سب سے زیادہ قریب رشتہ داری کس کی ہے؟ میں نے کہا کہ میں سب میں زیادہ قریب ہوں۔ اس نے مجھے اپنے قریب بلایا اور باقی ساتھیوں کو میرے پیچھے بھایا اور ان سے یہ کہا کہ میں اس سے چند سوالات کرتا ہوں، تم سب غور سے سنتے رہنا اور جس بات کا جواب جھوٹ بنائے تو تم اس کو ظاہر کر دینا۔ ابوسفیان رض اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور سخت ترین دشمن تھے، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم! اگر مجھے اپنی بدناہی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ بعد میں مجھے جھوٹ سے بدنام کریں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا مگر خوفِ بدناہی نے حق بولنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ترجمان کے ذریعہ سے مجھ سے حسبِ ذیل سوالات لئے:-

سوال: یہ مدعی نبوت نسب کے اعتبار سے تم میں کیسے شخص سمجھے جاتے ہیں؟

جواب: ہم میں بڑا عالی نسب ہے۔

سوال: ان کے بڑوں میں کوئی شخص بادشاہ ہوا ہے؟

جواب: کوئی نہیں ہوا۔

سوال: نبوت کے دعویٰ سے قبل تم کبھی ان کو جھوٹ بولنے کا الزام دیتے تھے؟

جواب: کبھی نہیں۔

سوال: ان کے تبعین قوم کے شرفاء ہیں یا معمولی درجے کے آدمی؟

جواب: معمولی درجے کے لوگ۔

سوال: ان کے تبعین کا گروہ بڑھتا جا رہا ہے یا کم ہوتا جاتا ہے؟

جواب: بڑھتا جاتا ہے۔

سوال: ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس سے بد دل ہو کر دین سے پھر بھی جاتے ہیں یا نہیں؟

جواب: نہیں۔

سوال: تمہاری ان کے ساتھ کبھی جنگ ہوئی یا نہیں؟

جواب: ہوئی ہے۔

سوال: جنگ کا پالا کیسا رہا؟

جواب: کبھی وہ غالب ہو جاتے، کبھی ہم غالب ہو جاتے۔

سوال: وہ کبھی بد عہدی کرتے ہیں؟

جواب: نہیں، لیکن آج کل ہمارا اور ان کا ایک معاہدہ ہے، نہ معلوم وہ اس کو پورا کریں گے یا نہیں۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہ اس ایک کلمہ کے سوا کسی چیز میں بھی مجھے موقع نہ ملا کہ کچھ اپنی طرف سے ملا دوں۔

سوال: ان سے قبل کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟

جواب: نہیں۔

بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ہر قل نے پوچھا کہ بد عہدی کا کیوں خوف ہے؟ تو ابوسفیان نے کہا کہ میری قوم نے اپنے حلفوں کی اس کے حلفوں کے خلاف مدد کی ہے۔ اس پر ہر قل نے کہا کہ جب تم ابتدا کر چکے ہو تو تم زیادہ بد عہد ہوئے۔ اس کے بعد ہر قل نے از سر نو سلسلہ شروع کیا اور کہا کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں سوال کیا، تم نے عالی نسب بتایا۔ انبیاء پر قوم کے شریف خاندان ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان کے بڑوں میں کوئی شخص بادشاہ ہوا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ مجھے یہ خیال ہوا تھا کہ شاید اس بہانے سے اس بادشاہت کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کے متعین کے بارے میں سوال کیا کہ شرفا ہیں یا کمزور لوگ؟ تم نے جواب دیا کہ کمزور لوگ ہیں۔ ہمیشہ سے انبیاء کا اتباع کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں (کہ شرفاء کو اپنی نخوت دوسروں کی اطاعت سے روکتی ہے) میں نے سوال کیا تھا کہ اس دعویٰ سے قبل تم دروغ گوئی کا الزام ان پر لگاتے تھے یا نہیں؟ تم نے انکار کیا۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید لوگوں کے متعلق جھوٹ بولتے بولنے اللہ پر بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہو (مگر جو شخص لوگوں کے متعلق جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا جھوٹ بول سکتا ہے) میں نے سوال کیا تھا کہ اس کے دین میں داخل ہو کر اس سے ناراض ہو کر کوئی مرتد ہوتا ہے؟ تم نے اس سے انکار کیا۔ ایمان کی یہی خاصیت ہے جب کہ اس کی بیانات دلوں میں گھس جائے۔ میں نے پوچھا تھا کہ وہ لوگ بڑھتے رہتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں؟ تم نے کہا کہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ایمان کا خاصہ یہی ہے حتیٰ کہ دین کی تکمیل ہو جائے۔ میں نے ان سے جنگ کے بارے میں سوال کیا تھا، تم نے کہا کبھی وہ غالب کبھی ہم غالب۔ انبیاء کے ساتھ ہمیشہ یہی بر تاؤ رہا لیکن بہتر انعام انھیں کے لئے ہوتا ہے۔ میں نے بد عہدی کے متعلق سوال کیا، تم نے انکار کیا۔ یہی

انیاکی صفت ہوتی ہے کہ وہ بد عہد نہیں ہوتے۔ میں نے پوچھا تھا کہ ان سے قبل کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تم نے اس سے انکار کیا۔ میں نے خیال کیا تھا کہ اگر کسی نے ان سے قبل یہ دعویٰ کیا ہو گا تو میں سمجھوں گا کہ یہ اُسی قول کی تقدیر کرتے ہیں جو ان سے پہلے کہا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ہر قل نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھنے کا، صدقہ کرنے کا، صلدہ رحمی کا، عفت و پاکدا منی کا حکم کرتے ہیں۔ ہر قل نے کہا اگر یہ سب امور صحیح ہیں جو تم نے بیان کئے تو وہ بلاشبہ نبی ہیں۔ مجھے یہ تو یقین تھا کہ وہ عنقریب پیدا ہونے والے ہیں مگر یہ یقین نہیں تھا کہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو ان کے ملنے کی خواہش کرتا (مگر اپنے قتل اور سلطنت کے زوال کے خوف سے جانہیں سکتا) اور میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ بلاشبہ ان کی سلطنت اس جگہ تک پہنچے والی ہے جہاں میں ہوں۔ ہر قل کے اور بھی بہت سے قصے حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ یہ اپنی کتاب کا بھی ماہر تھا اور نجوم میں بھی مہارت رکھتا تھا اس لئے اس کو پہلے سے اس قسم کے خیالات ہو رہے تھے اور تحقیقات کر رہا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس نے اس والا نامہ کو نہایت احتیاط سے صندوق میں سونے کی ایک نکلی میں محفوظ رکھا جو نسل بعد اسی طرح اس کی اولاد میں منتقل ہوتا چلا آیا۔

تیر والا نامہ جس کا حدیث بالا میں ذکر ہے، نجاشی کے نام تھا۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ جبše کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے۔ حضور ﷺ کے زمانہ میں دو بادشاہ جبše میں گزرے ہیں، پہلے کا نام اصغر تھا یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام نے ان کی سلطنت جبše میں اُس وقت ہجرت کی تھی جب کہ یہ مسلمان بھی نہ ہوئے تھے جس کا قصہ ”حکایات صحابہ“ کے پہلے باب کے نمبر ۱۰ پر کچھ محض ساگزروں چکا ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے عمرو بن امیہ ضمری کے ہاتھ ان کے پاس بھی خط بھیجا تھا، جس کا مضمون یہ تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اللَّهُ كَرِيْمٌ رَّحِيْمٌ کی طرف سے جسہ کے بادشاہ نجاشی کے نام۔ تم صلح پسند ہو، میں اُس اللَّهِ کی تعریف تھہارے پاس پہنچتا ہوں جس کے سوا کوئی معبد نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، سب عیوبوں سے پاک ہے، ہر قسم کے نقش سے محفوظ ہے (یابندے اس کے ظلم سے محفوظ ہیں) من دینے والا ہے، نگہبان ہے (کہ بندوں کی آفات سے حفاظت فرماتا ہے) اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
رسول اللَّهِ إِلَيْ النَّحَاشِيْ مَلِكُ الْحَبِشَةِ، سَلَّمَ أَنْتَ فَلَيْ أَهْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمَهِيمُ،  
وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

روح اللہ و کلمتہ ألقاها إلی مریم اللہ کی ایک روح اور اس کے وہ کلمہ تھے جس کو اللہ جل شانہ نے پاک و صاف کنواری مریم کی طرف بھیجا تھا پس وہ حاملہ بن گئیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک خاص روح سے پیدا کیا اور ان میں جان ڈال دی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو (بیغیر باب کے) اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا۔ میں تمہیں اسی وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں اور اس کی اطاعت پر تعاون کی طرف بلا تا ہوں اور اس بات کی طرف بلا تا ہوں کہ تم میرا اتباع کرو، اور جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لاو۔ بلاشبہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی طرف تم کو اور تمہارے سارے لشکروں کو بلا تا ہوں۔ میں حق بات تم تک پہنچا چکا ہوں اور نصیحت کر چکا، تم میری نصیحت قبول کر لو اور سلام (یاسلامتی) اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔

محمد شین کی ایک جماعت کی تحقیق یہ ہے کہ یہ نجاشی پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے۔ اس والا نامہ پر انھوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت مسلمان ہوئے، بہر حال انھوں نے اس والا نامہ کے جواب میں ایک عربیضہ لکھا جس میں اپنے ایمان کا اقرار کیا اور اس کا اقرار کیا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ لکھا وہ حرف صحیح ہے اور اپنے لڑکے کے ہاتھ سائھ نفر کی ایک جمعیت کے ساتھ اپنا عربیضہ خدمتِ اقدس میں بھیجا، مگر افسوس کہ راستے میں وہ کشتی سمندر میں غرق ہو گئی اور ان میں سے کوئی بھی خدمتِ اقدس میں نہ پہنچ سکا۔ خود ان نجاشی کا وصال بھی حضور کی حیات ہی میں ہو گیا تھا اور حضور ﷺ نے غالباً ان کے جنازہ کی نماز پڑھی (غالباً نماز کا مسئلہ ایک فقہی بحث ہے جس کی یہ جگہ نہیں ہے، بہت سی وجہ سے حفیہ کے نزدیک ان کی خصوصیت تھی) ان کے بعد ان کی جگہ دوسرا نجاشی ہوا، اس کے پاس بھی حضور اقدس ﷺ نے والا نامہ ارسال فرمایا جو حسبِ ذیل ہے:-

هذا كتاب من النبي ﷺ إلى يه خط اللہ کے نبی محمد ﷺ کی طرف سے نجاشی کے نام ہے جو جب شہ کا بڑا اور سردار النجاشی عظیم الحبشه۔  
سلام على من اتبع المهدی  
ہے۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں، وہ تنہ ذات ہے۔  
وآمن بالله ورسوله۔

أنبأنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال، عن همام، عن ابن جريج، عن الزهرى،

نه کوئی اس کا شریک، نہ بیوی ہے اس کے لئے نہ اولاد۔ اور اس کا اقرار کرے کہ محمد ﷺ نہ کوئی اس کا شریک، نہ بیوی ہے اس کے لئے نہ اولاد۔ اور اس کا اقرار کرے کہ محمد ﷺ لا شریک له، لم یتَحَدَّ صَاحِبَةُ وَلَا وَلَدًا وَأَنَّ حَمْدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَدْعُوكَ بِدُعَائِيَ اللَّهِ فَلَبِّيْ إِنَّا رَسُولُهُ فَأَسْلِمْ تَسْلِمْ، يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَةِ سَوَاءٍ يَبْتَأِنُّ كَيْ پُرْسَشْ نَهْ كَرِيسْ، اللَّهُ كَمْسِكِيْ کو شریک نَهْ بنائیں اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نَهْ بنائے اللَّهُ کے سوا۔ اگر اس کے بعد بھی اہل کتاب روگردانی کریں تو مسلمانوں! تم کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو اس کے کہ ہم مسلمان ہیں (بے دھڑک اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں) اے نجاشی! اگر تو میری دعوت کے قبول کرنے سے انکاری ہے تو نصاریٰ کا گناہ بھی (بوجہ اس کے کہ وہ تیرے تمعیج ہیں) تجھ پر ہو گا۔ فقط۔

اس خط میں غالباً حسبِ معمول بسم اللہ بھی ہو گی مگر میں نے جہاں سے نقل کیا ہے اس میں نہیں ہے۔ ان نجاشی کے متعلق یہ محقق نہیں ہو سکا کہ یہ اسلام لائے یا نہیں، ان کا کیا نام تھا۔ اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ حدیث بالا میں تیراخط جو نجاشی کے نام ہے وہ یہی نجاشی ہیں، چنانچہ بعض روایات میں نجاشی کے نام کے ساتھ یہ لفظ بھی ہے کہ وہ نجاشی نہیں ہیں جن کے جنازہ کی نماز حضور ﷺ نے پڑھی۔ اور یہی صحیح ہے اگرچہ بعض محدثین نے صرف پہلے ہی نجاشی کے خط کا ذکر کیا اور بعض نے صرف دوسرے کا۔

والحجاج: بفتح حاء مهملة وتشديد الجيم الأولى. ومنهال بكسر الميم فسكون نون. همام: بتشدد الميم الأولى: ابن يحيى بن دينار. اتفق الشيوخان علي الاحتجاج به ووثقه غير واحد كما حكاه القاري، وقال الحافظ في التقريب: ثقة، ر بما وهم، وبسط القاري في نصوص من ضعف الحديث وصححه، ومن تكلم عليه أبو داود فقال: هذا الحديث منكر، والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام، وقال الترمذى في جامعه: حسن صحيح غريب، وقال الحاكم في مستدركه: صحيح على شرط الشيوخين، وصححه ابن حبان، قاله القاري. قلت: ولما شائع الحديث في الكلام على هذا الحديث تقارير بسيطة، لا يسعها هذا المختصر، وبسطه شيئاً حضرة الشيخ في بذل الجهد حل أبي داود، فارجع إليه. جريج: بجيمن مصغرًا: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج. [أحد الأعلام، أول من صنف في الإسلام على قول].

عن <sup>(٧)</sup> أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء فزع خاتمه. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الله بن ثمير، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن <sup>(٨)</sup> ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله ﷺ خاتماً من ورق، فكان في يده،

(٧) حضرت أنس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی نکال کر تشریف لے جاتے۔ فائدہ: چونکہ اس میں اللہ جل جلال عالم نواہ کا اسم شریف لکھا ہوا تھا اس لئے حضور اقدس ﷺ اسے پہنچنے ہوئے انتہج نہ جاتے تھے۔ اسی بنا پر علماء نے اس انگوٹھی کو پہنچنے ہوئے بیت الخلاء جانے کو مکروہ لکھا ہے جس میں کوئی متبرک نام یا عبارت ہو۔

(٨) ابن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کی انگوٹھی حضور کے دست مبارک میں رہی، پھر حضرت ابو بکر رضي الله عنه کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عمر رضي الله عنه کے، پھر حضرت عثمان رضي الله عنه کے، پھر ان ہی کے زمانہ میں یہ آریں میں گرگئی تھی۔ اس انگوٹھی کا نقش "محمد رسول اللہ" تھا۔ فائدہ: یہ آریں قبا کے قریب ایک کنوں ہے۔ یہ انگوٹھی حضرت عثمان رضي الله عنه کے زمانہ خلافت میں چھ برس تک اُن کے پاس رہی، اس کے بعد اتفاق سے اس کنوں میں گرگئی۔ حضرت عثمان رضي الله عنه نے ہر چند اس کنوں میں تلاش فرمایا، تین دن تک اس کا پانی نکلوایا مگر ملی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس انگوٹھی کے گرتے ہی وہ فتن اور حوادث شروع ہو گئے تھے جو حضرت عثمان کے اخیر زمانہ میں بکثرت ظہور پذیر ہوئے ہیں۔

اس حدیث میں حضرت ابن عمر رضي الله عنه خود حضور اقدس ﷺ کے دست مبارک میں موجود ہونے کو بیان فرماتے ہیں اور اسی باب کی دوسری حدیث میں خود ابن عمر رضي الله عنه انگوٹھی پہنچنے کی لفظ بھی فرمائچے ہیں جس کا بیان پہلے گذر چکا ہے۔ اس حدیث کے تعارض کا ایک خاص جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ کے دست مبارک میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے قبضہ میں رہتی تھی، حضور کے پاس رہتی تھی، پہنچنا اس کو لازم نہیں۔ چنانچہ آئندہ باب میں آرہا ہے کہ حضرت معیقیب کے پاس رہتی تھی۔

نوع: قال القاري: لاشتماله على لفظ "الله" ، فاستصحابه في الخلاء مكروه، وقيل: حرام. في يده: أي: حقيقة بأن كان لابسه، أو في تصرفه بأن كان عنده للختم، وعلى هذا فلا ينافي ما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنه بنفسه أنه كان يختتم به ولا يلبسه، ويؤيد الأول ما في البخاري عن ابن عمر: فليس الخاتم بعد النبي ﷺ أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره. والأظهر أنهم ليسوا أحيانا للتبرك به، و كان في أكثر الأوقات عند معيقيب جمعاً بين الروايات، قاله القاري.

ثم كان في يد أبي بكر، وعمر، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر أريّس، نقشه:  
بالصرف وعدمه  
محمد رسول الله. (صلوات الله عليه وآله وسلامه)

وقع: ظاهره أنه وقع من يد عثمان، وهو نص حديث البخاري عن أنس: فلما كان عثمان رضي الله عنه جلس على بئر أريّس فأخرج الخاتم، فجعل يبعث به فسقط، الحديث. وأوضح منها ما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه وقع من عثمان في بئر أريّس، وسيأتي في الباب الآتي أنه سقط من معيقب، وكذا في بعض طرق عند مسلم، قاله القاري.  
بئر أريّس: [إلى أن سقط في أثناء خلافة عثمان في بئر أريّس، بوزن أمير، بالصرف وعدمه. وبئر أريّس: بئر بجديدة قريبة من مسجد قباء، وتنسب إلى رجل من اليهود اسمه أريّس، بمعنى الفلاح بلغة أهل الشام]

## باب ما جاء في أن النبي ﷺ كان يختتم في يمينه

حدثنا محمد بن سَهْلُ بن عَسْكَرُ الْبَغْدَادِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَخْبَرَنَا سَلِيمَانُ بْنُ بَلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي ثَمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْينَ، عَنْ أَيْيَهُ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (رضي الله عنه)،

## باب۔ اس بیان میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کو دائیں ہاتھ میں پہنَا کرتے تھے

فائدہ: پہلے باب میں مصنف التسلیم نے انگوٹھی کی کیفیت بتائی تھی اور اس باب میں اس کے پہنے کی کیفیت بتانا مقصود ہے۔ اس باب میں مصنف التسلیم نے نو حدیثیں ذکر کی ہیں۔  
 (۱) حضرت علی رض فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنَا کرتے تھے۔

باب: [القصد من هذا الباب بيان كيفية لبسه، ومن الباب السابق بيان حقيقة الخاتم]. باب ما جاء: اختلف النسخ في ذكر هذه الترجمة، ففي النسخ الموجودة عندنا هكذا بلفظ: "كان يختتم في يمينه" وهكذا في عامة الشرح من المناوي والبيجوري وغيرهما، ولم يختبر القاري لفظ: "في يمينه" في الترجمة ولفظها: "باب ما جاء في تختم رسول الله ﷺ" وكذا في النسخة المكتوبة القلمية، وهو الأوجه عندي؛ لثلا يتتكلّف في توجيه الرواية التي فيها ذكر اليسار، وأما على النسخة الموجودة فقد قال ميرك: فيه إشعار بأن المصنف كان يرجع روایات تختتمه في يمينه على الروایات الدالة في التختم على اليسار؛ فلذا لم يخرج في الباب حديثا، فيه التصریح بكونه تختتم في يساره. قلت: وهو كذلك، فإنه ذكره من حديث أنس فقط، وتکلم عليه، وقال: لا يصح، وأما أثر الحسنین رض فهو موقف، وجل الروایات المرفوعة في الباب في التختم في اليمين.

سهیل: بفتح المهملة وسکون الماء، فما في بعض النسخ بلفظ التصغير غلط، ليس في الرواية أحد اسمه محمد بن سهیل. البغدادی: بالمعجمة والمهملة في الدال الثاني على ما في النسخ، قاله القاري. حسان: يصرف ولا يصرف على أنه فعلان. ثغر: بفتح النون وكسر الميم آخره راء مهملة. قاري. عبد الله بن حنين: بضم الحاء المهملة ونونين، مصغراً.

أن النبي ﷺ كان يلبس خاتمه في يمينه. حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا يزيد بن هارون،

فائدہ: اس بارے میں روایات مختلفہ وارد ہوئی ہیں کہ حضور قدس ﷺ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے یا باسیں میں۔ بعض علمائے محدثین اس میں ترجیح کی طرف مائل ہوئے ہیں، چنانچہ امام بخاری و امام ترمذی و الشیعہ وغیرہ کی رائے یہی ہے کہ دائیں ہاتھ میں پہنتے کی روایات راجح ہیں۔ بعض علماء نے اس طرح جمع کیا ہے کہ اکثر دائیں دست مبارک میں پہنتے تھے اور گاہے گاہے باسیں میں بھی پہن لیتے تھے۔ علماء کے درمیان میں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ انگوٹھی کون سے ہاتھ میں پہننا افضل ہے۔ خود علماء حنفیہ میں بھی اختلاف ہے، بعض نے باسیں ہاتھ میں پہننے کو افضل بتایا ہے اور بعض نے دونوں کو مساوی بتایا ہے۔ شایی نے یہی دو قول لکھے ہیں۔ ملا علی قاری رشیعیلی نے حنفیہ کا ایک قول دائیں کے افضل ہونے کا لکھا ہے، لیکن مذهب کے لحاظ سے راجح وہی قول ہے جو علامہ شایی رشیعیلی کی تحقیق ہے۔ امام نووی رشیعیلی نے دونوں میں بلا کراہت جائز ہونے پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے، مالکیہ نے باسیں ہاتھ میں پہننے کو افضل بتایا ہے۔ الغرض احادیث سے بھی دونوں فعل ثابت ہیں اور علماء بھی ترجیح کے اعتبار سے دونوں طرف گئے ہیں۔ دُرّ مختار میں قسمانی سے نقل کیا ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا روافض کا شعار ہو گیا ہے اس لئے اُس سے احتراز واجب ہے۔ صاحب دُرّ مختار لکھتے ہیں کہ ممکن ہے اس زمانہ میں روافض کا شعار ہواب نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے کوکب دری میں نقل کیا گیا ہے کہ باسیں ہاتھ میں انگوٹھی چونکہ روافض کا شعار ہے اس لئے مکروہ ہے۔ حضرت سہارپوری رشیعیلی نے بھی بذل الحجہ میں یہی تحریر فرمایا ہے اور یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ روافض کے کفر میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن ان کے فاسق ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور فاسق کے ساتھ تشبہ سے بھی احتراز ضروری ہے۔

يلبس: بفتح المودحة من اللبس بضم اللام. يمينه: [لأن التختم فيه نوع تكريم، واليمين به أحق]. محمد بن يحيى: هذا طريق آخر لحديث شريك المتقدم، والظاهر عندي أن الغرض منه تقوية الاتصال؛ فإن الحديث روى عن شريك مسنداً ومرسلاً، فإن أبا داود أخرجه من طريق أحمد بن صالح عن ابن وهب بهذا السند متصلة، ثم قال: وقال شريك: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي ﷺ كان يختتم في يمينه. وهذا مرسل، وهكذا بالطريقين مسنداً ومرسلاً أخرجه النسائي في سننه. أحمد بن منيع: هذا الحديث أخرجه المصنف في الجامع بهذا السند، ثم قال: قال محمد: وهذا أصح شيء روي عن النبي ﷺ في هذا الباب.

عن <sup>(٢)</sup> حمّاد بن سلّمة قال: رأيت ابن أبي رافع يَتَخَّتمُ في يمينه، فسألته عن ذلك؟ فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يَتَخَّتمُ في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر: كان النبي ﷺ يَتَخَّتمُ في يمينه. حدثنا يحيى بن موسى، أربأنا عبد الله بن نمير، أربأنا إبراهيم بن الفضل، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن <sup>(٣)</sup> عبد الله بن جعفر، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يَتَخَّتمُ في يمينه.

(٢) حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی رافع کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا۔ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے عبد اللہ بن جعفر کو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ حضور اقدس ﷺ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔

(٣) عبد اللہ بن جعفر رض سے دوسرے طریقے سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ حضور اقدس ﷺ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ فائدہ: ایک حدیث میں اس کے ساتھ یہ بھی نقل کیا گیا کہ زینت دائیں ہاتھ کے ساتھ زیادہ موزوں ہے، اسی لئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو فتن حدیث کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے احادیث کے دیکھنے سے جو محقق ہوا وہ یہ کہ اگر زینت کے ارادہ سے پہنے تو دایاں ہاتھ موزوں ہے اور اگر مہر لگانے کے ارادہ سے پہنے تو بایاں ہاتھ موزوں ہے کہ دائیں ہاتھ سے اس کو نکال کر مہر لگانے میں سہولت ہے۔ اور احادیث میں دونوں ہاتھوں میں پہنناوارد ہے۔

ابی رافع: هکذا عند المصنف في الجامع والنسائي في سننه بالكتبة. قال المناوي وتبغه البيحوري: إنه عبد الرحمن، وكذا حكى اسمه في الحواشى عن العصام وهو الصواب، فما في جمع الوسائل: اسمه "عبد الله" وهم، وذكر الحافظ هذا الحديث في تهذيبه في ترجمة عبد الرحمن بن ابی رافع، وقال في ذيل الكتب: ابن ابی رافع عن عبد الله بن جعفر هو عبد الرحمن، ولم أجده ترجمة عبد الله بن ابی رافع في التهذيب وغيره. عبد الله بن جعفر: [صحابيٌّ كَانَ يَوْلُودُ وَلَدًا فِي الْإِسْلَامِ بِأَرْضِ الْجَبَشِيَّةِ، وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ الْمُنْوَرَةِ، خَرَجَ لِهِ السَّتَّةُ].

یحییٰ بن موسی: کذا فی المکتوبۃ، وہکذا فی الشروح الثلاثۃ وهو الصواب، فما فی النسخ الهندیۃ "موسی بن یحییٰ" غلط؛ لیس فی رواۃ الصحاح أحد اسمه موسی بن یحییٰ، فتأمل. إبراهیم بن الفضل: قال العصام: لم أجده ترجمته، وقال القاری: لم أطلع على ترجمته، قال المناوی: هو قصور، إذ هو إبراهیم بن الفضل بن سلیمان المخزومی. قلت: رقم علیہ الحافظ للترمذی وابن ماجہ، وذکر فی شیوه عبد الله بن عقيل، وفي تلامذته ابن نمير، فهو المعین.

حدثنا أبو الخطاب زيد بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ كان يَتَخَّتمُ فِي يَمِينِه. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن<sup>(٤)</sup> الصَّلَتْ بن عبد الله قال: كان ابن عباس يَتَخَّتمُ فِي يَمِينِه ولا<sup>مَكْتَبَةِ</sup> إِخَالَهْ إِلَّا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَّتمُ فِي يَمِينِه.

(٢) جابر بن عبد الله رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنَا کرتے تھے۔

(٥) صلت بن عبد الله کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضي الله عنه داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنَا کرتے تھے اور مجھے جہاں تک خیال ہے یہ کہا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم بھی داہنے ہاتھ میں پہنے تھے۔ فائدہ: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مختصر نقل کیا ہے، ابو داؤد شریف میں ذرا تفصیل سے ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے صلت کو دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی (کن انگلی جس کو چھنگلا انگلی بھی کہتے ہیں) میں پہنے دیکھا۔ میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضي الله عنه کو ایسے ہی پہنے دیکھا اور اس کے نگین کو اوپر کی جانب کر رکھا تھا اور جہاں تک خیال ہے وہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے متعلق ذکر کرتے تھے کہ آپ بھی اسی طرح پہنے تھے۔ اس حدیث میں دو مضمون ہیں: ایک یہ کہ نگین کو اوپر کی جانب کر رکھا تھا۔ بذل المجدود میں مرقة الصعود سے نقل کیا ہے کہ نگین کا ہاتھ کے اندر کے حصہ یعنی ہتھیلی کی طرف رکھنا زیادہ صحیح ہے اور اکثر روایات میں وارد ہے، چنانچہ شامل میں بھی آئندہ روایت میں آرہا ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی افضل ہے، اس میں نگین کی حفاظت بھی ہے اور عجب و تکبر سے حفاظت بھی ہے۔

جعفر: [أَيْ: الصَّادِقُ، لَقْبُهُ؛ لِكَمَالِ صَدْقَةِ وَوْرَعَةِ، وَأَمَّهُمْ فُرُوْةُ بُنْتُ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ مَا رَأَيْتُ أَفْقَهَ مِنْهُ]. محمد: [أَيْ: مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ، لَقْبُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بَقَرَ الْعِلْمَ أَيْ: شَقَّهُ، وَعُرِفَ بِخَفِيَّةِ وَجْلِيهِ، وَهُوَ أَنْ عَلَى بَنِ سَيِّدِنَا الْحَسَنِ بْنِ عَلَيْهِ]. الصَّلَتْ: بِتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمَهْمَلَةِ مَفْتُوحَةٌ وَسَكُونُ الْلَّامِ. إِخَالَهْ: هُوَ بَكْسُ الْهَمْزَةِ أَنْصَحُ مِنْ فَحْحَهَا، وَالْقِيَاسُ الْفَتْحُ، وَقَيْلُ: الْثَّانِي أَنْصَحُ، وَفِي الْقَامِسِ: الْفَتْحُ لِغَةً، وَهُوَ مِنْ أَفْعَالِ الشَّكِّ مُتَكَلِّمٌ بِخَالِ أَيْ: لَا أَظْنَهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَقْوِلَةُ الصَّلَتِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَوْاحِدًا مِنْ قَبْلِهِ، وَلَمْ تُوْجَدْ هَذِهِ الْجَمْلَةُ فِي بَعْضِ الْأَصْوَلِ، قَالَهُ الْقَارِيُّ. وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو داؤد بِرَوَايَةِ يُونُسَ بْنِ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقِ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ: وَلَا يَخَالُ ابْنَ عَبَّاسَ إِلَّا قَدْ كَانَ يَذَكِّرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَلْبِسُ هَكُذا.

حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان، عن أبوبن موسى، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ اتخذ خاتما من فضة، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه: "محمد رسول الله" ونفي أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معicيب في بئر أريس.

دوسرًا مضمون یہ ہے کہ انگوٹھی کو سب سے چھوٹی انگلی میں پہننا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سنت ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انگوٹھی اسی انگلی میں ہونا چاہئے، اور انگلیں مردوں کی انگوٹھی میں ہتھیلی کی طرف ہونا چاہئے، اور عورتوں کی انگوٹھی میں اوپر کی جانب کہ ان کا پہنائزینٹ کے لئے ہوتا ہے۔

(۲) ابن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس کا گھینہ ہتھیلی کی جانب میں رہتا تھا، اس میں "محمد رسول الله" کندہ کرایا تھا۔ اور لوگوں کو منع فرمادیا تھا کہ کوئی شخص اپنی انگوٹھی پر یہ کندہ نہ کرائے۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو معیقیب سے حضرت عثمان رضي الله عنهما کے زمانہ میں یہاں میں گرگئی تھی۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ کو اس نے منع فرمادیا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کمال اتباع میں اگر یہی کندہ کرا لیتے تو حضور اقدس سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر دوسروں کی مہر کے ساتھ مخلوط ہو جاتی۔ معیقیب رضي الله عنهما ایک صحابی تھے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے انگوٹھی کے محافظ تھے۔ حضور کے زمانہ میں بھی جن اوقات میں کہ حضور انگوٹھی پہنے ہوئے نہیں

ما يلي كفه: [أي: ما يلي باطن كفه]. عليه: أي: على وفق هذا النقش؛ لذا يلتبس بخته بخت الغير، وما قيل: إن نقش خاتم معاذ رضي الله عنهما كان هكذا، يحمل على قبل النهي أو على بعد وفاته رضي الله عنهما، وهذا كله على تقدير ثبوته، وإلا فهو لم يثبت عند المحدثين، صرح به البيهقي. قال المناوي: أو يحمل على الخصوصية، وقال ابن جماعة والزبين العراقي: يظهر أن النهي خاص بحياته رضي الله عنهما أحدًا بالعلة، فقول القرطبي: لا يجوز لمن كان اسمه "محمد" النقش عليه مطلقاً، في حيز المعنى، نعم! لو قيل يمنع النقش على اسم الإمام الأعظم مطلقاً، لوجود العلة لم يبعد.

معیقیب: [اسم صحابی، اسلم قديما، وشهد بدرًا، وهاجر إلى الحبشة، وكان يلي خاتم المصطفى رضي الله عنهما، وكان به علة من حذام] بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون التحتتين بينهما قاف مكسورة وآخره باء موحدة، ابن أبي فاطمة البدری، أسلم قديما، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية. كان على خاتم النبي رضي الله عنهما بالمدينة، واستعمله أبو بكر وعمر وعثمان على بیت المال. وأما قول ابن بحر: إن معیقیباً غلام عثمان، فغير صحيح، قاله القاری.

حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: كان <sup>(٧)</sup> محمد الباقر <sup>رض</sup> الحسن والحسين <sup>رضي الله عنهما</sup> ينتحمان في يسارهما. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن،

ہوتے تھے، اس وقت میں معیقیب <sup>رض</sup> کے پاس محفوظ رہتی تھی، ایسے ہی پھر حضرت ابو بکر صدیق <sup>رض</sup> کے دور میں رہا، اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق <sup>رض</sup> کے زمانہ حکومت میں، اور حضرت عثمان <sup>رض</sup> کے زمانہ میں بھی یہی صورت تھی۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ وہ حضرت عثمان <sup>رض</sup> کو انگوٹھی دے رہے تھے یا حضرت عثمان <sup>رض</sup> سے لے رہے تھے کہ اس حالت میں انگوٹھی گری اور کنویں میں جا پڑی۔ اس میں روایات مختلف ہیں کہ وہ حضرت عثمان <sup>رض</sup> کے پاس سے گری یا حضرت معیقیب <sup>رض</sup> کے پاس سے۔ علماء نے یہی صورت جمع کی تجویز فرمائی ہے جو اپر لکھی گئی۔ اس صورت میں دونوں روایتیں صحیح ہیں اس لئے کہ جب درمیان میں گری تو اس کی نسبت ہر ایک کی طرف صحیح ہے۔

(٧) امام محمد باقر <sup>رض</sup> فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن و امام حسین <sup>رضی الله عنہما</sup> اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ فائدہ: یہ حدیث امام ترمذی <sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> کے باب کی سُرخی کے خلاف ہو گئی، اس لئے کہ باب دائبے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے کا منعقد فرمایا تھا۔ اس کی توجیہ یہ کی جاسکتی ہے کہ مقصود اس قسم کی روایات سے جب کہ اس باب میں بہت سی روایات اس کے خلاف ہیں،

عن أبيه: [أي: محمد الباقر، وهو لم ير سيدنا الحسن أصلاً، فهذا الأثر مرسل بالنسبة إلى سيدنا الحسن، وأما بالنسبة لسيدنا الحسين، فيمكن كونه رآه في يساره، فإنه كان له يوم الطَّفَ أربع سنين، فلا يكون الأثر مرولاً بالنسبة إليه، ويحتمل أنه سمع من أبيه زين العابدين أنه رآه كذلك، فيكون مرولاً بالنسبة إليهمَا].

كان الحسن: لعلَّ غرض المصنف بإيراد هذا الأثر على خلاف ترجمته إشارة إلى شذوذه، أو إلى أن هذا موقف، والروايات المرفوعة كلها مصರحة باللبس في اليمين، قاله الشراح. قلت: لكن يشكل عليه تصحيح المصنف هذا الحديث في جامعه، فالأوجه عندي في غرض المصنف أن هذا الحديث روي موقوفاً بفعلهما ومرفوعاً بلفظ: كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين <sup>رضي الله عنهم</sup> ينتحمان باليسار، أخرجه البيهقي في الأدب وأبو الشيخ في الأخلاق، فغرض المصنف بذكر هذا الموقف ترجيحه على المرفوع، والله أعلم. وهذا كله على تقيد الترجمة باليمين، وأما على إطلاقه فلا حاجة له كما تقدم. ثم هذا الأثر منقطع؛ لأن محمداً الباقر لم يدرك الحسن والحسين <sup>رضي الله عنهم</sup>، قاله القاري، وتبعه المناوي، وقيل: مرسل باعتبار الحسن <sup>رضي الله عنه</sup>، ويمكن الاتصال باعتبار الحسين <sup>رضي الله عنه</sup>، فتأمل.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ - وَهُوَ ابْنُ الْعَبَّاعَ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَامَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرْوَةَ، عَنْ قَاتِدَةَ،

عَنْ<sup>(٨)</sup> أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَمَ تَحْتَمَ فِي يَمِينِهِ (قَالَ أَبُو عِيسَىٰ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ،

اشارہ اس کے ضعف کی طرف ہے۔ بندہ ناجیز کے نزدیک باب میں دابنے ہاتھ کی قید بیانِ افضلیت کے لئے ہے اور اس نوع کی روایات بیانِ جواز کے واسطے ہیں۔ بعض اکابر نے یہ بھی توجیہ فرمائی ہے کہ ترجمہ میں حسبِ عادتِ محدثین کلمہ (أم فی یسارہ) محدود ہے، یعنی حضرور اللہ تعالیٰ اگوٹھی دابنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے یا بائیں میں۔ اس توجیہ پر کوئی روایت ترجمہ کے غیر مطابق نہ ہو گی۔

(٨) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی جاتی ہے کہ حضرور اقدس شریعت دابنے ہاتھ میں اگوٹھی پہنتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ حضرور اقدس شریعت بائیں ہاتھ میں اگوٹھی پہنتے تھے۔

الطباع: بتشدد المودحة أي: الحكاك، ونقاش الخاتم، قاله القاري. عباد بن العوام: بتشدد المودحة والواو. قال أحمده: حديثه عن سعيد بن أبي عروبة مضطرب. قال أبو عيسى: ليس هذا الكلام في النسخة القلمية، وليس أيضاً عند أحد من الشراف الثلاثة كما يظهر من كلامهم، فإنهم نقلوه عن جامع المصنف، وغرضه كما يظهر من كلام القاري: أن حديث أنس في التحتم في اليمين أو التحتم في اليسار لا يصح من هذا الطريق، وإن فقد صح من طريق أخرى التحتم فيهما، وقد أخرج مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي ﷺ في هذه، وأشار إلى الخنصر اليسرى. قلت: وما يخطر في البال أن غرض المصنف عدم الجزم بالترجيح في روایات قادة عن أنس في هذا الباب، فإن الذين رروا هذا الحديث عن أنس مختلفة. قال العیني في شرح البخاري: وقد اختلفت الرواية عن أنس، هل كان يتحتم في يمينه أو يساره؟ وقد رواه عنه ثابت البناني وثامة وحميد وشريك على الشك فيه وعبد العزيز بن صهيب وقادة والزهري، فأماماً ثامة وحميد وشريك وعبد العزيز فليس في روایاتهم تعرض لذكر اليمين أو اليسار، وأماماً رواية ثابت وقادة والزهري وفيها التعرض لذلك، ثم قال: وأما قادة فاختل了一 فيها فقال سعيد بن أبي عروبة عنه عن أنس: كان يتحتم في يمينه. وقال شعبة وعمرو بن عامر عن قادة عن أنس كان يتحتم في يساره. وفي علل لابن أبي حاتم: سأله عن حديث رواه سعيد بن بشير عن قادة عن أنس: أن النبي ﷺ اخذ خاتماً، الحديث. قال أبا: أما قوله: "اخذ خاتماً من فضة ونقش عليه"، فهو صحيح عن النبي ﷺ، وأما قوله: "فكان يلبسه في شماله" فلا أعلم أحداً رواه إلا مارواه عباد بن العوام عن سعيد عن قادة عن أنس عن النبي ﷺ، وروى بعضهم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي ﷺ، والحافظ ترويه عن سعيد عن قادة عن أنس عن النبي ﷺ، لا يقولون: إنه ليس في يساره. فالظاهر أن ذكر اليد يميناً كان أو يساراً ليس عندهم في هذا الحديث.

لَا نَعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرْوَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلوات الله عليه نَحْوُ هَذَا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَرَوْى بَعْضُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيِّ صلوات الله عليه تَخْتَمُ فِي يَسَارِهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يَصْحَّ أَيْضًاً. حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَحَارِبِيِّ، حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ <sup>(٩)</sup> أَبْنِ عَمْرٍ رضي الله عنه قَالُوا: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ،

فَأَكْدَهُ: امام ترمذی رحمه الله کی تحقیق یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں صحیح نہیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت انس رضي الله عنه کی حدیث میں ہاتھ کی تعین نہیں ہے۔ یہ محدثین کی غایبت احتیاط ہے کہ وہ حدیث کے ہر مکملے پر گہری نظر ڈالتے ہیں کہ کون سی حدیث میں کون سا مضمون صحیح ہے اور کونسا ایسا ہے جو اس حدیث میں صحیح نہیں ہے، دوسری حدیثوں میں اگرچہ صحیح طور پر ثابت ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بدولت حدیث شریف کافن آج تک نہیت چیکی اور نورانیت و چک کے ساتھ دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلوات الله عليه کا انگوٹھی دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں میں پہنچا روایات متعددہ سے ثابت ہے۔ دائبے ہاتھ کی روایات اس باب میں گزر چکی ہیں، اور بائیں ہاتھ کی روایات بھی ابو داؤد و مسلم وغیرہ میں موجود ہیں، چنانچہ نووی رحمه الله نے دونوں قسم کی روایات کو صحیح بتایا ہے، لیکن محدثین کا قاعده یہ ہوتا ہے کہ باوجود متن حدیث کے صحیح ہونے کے اگر کسی خاص طریقہ سے قواعد محدثین کے موافق صحیح نہیں ہوتی تو اس خاص طریقہ پر کلام فرماتے ہیں، اس لئے امام ترمذی رحمه الله نے کلام کیا ہے۔

(٩) حضرت ابن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلوات الله عليه نے سونے کی انگوٹھی بنوائی جس کو اپنے دائبے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ صحابہ رضي الله عنهم نے بھی ابتداء سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں۔ حضور اقدس صلوات الله عليه نے اس کے بعد وہ انگوٹھی پھینک دی اور یہ فرمایا کہ میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا۔

الخاری: بضم أوله ومهملة وكسر راء وموحدة، نسبة لبني مخرب: قبيلة من العرب، و"محمد بن عبيد" هذا بدون الإضافة إلى اسم الجلالة. من ذهب: قال الزين العراقي نقلًا عن البيهقي في الأدب: وهذا الخاتم هو الذي كان فصه جبشيًا. قال ابن حجر: هذا هو الناسخ لحله مع قوله صلوات الله عليه في الأحاديث الصحيحة: وقد أخذ ذهباً في يد وحريراً في يد وقال: هذان حرمان على ذكور أمتي حل لأناثها، والأئمة الأربع على تحريم المنهي عنه في الصحيحين وغيرهما، قال القاري: =

فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فطرَّحَه رسول الله ﷺ وقال: لا ألبسه أبداً، فطرح الناس خواتيمهم.

**فائدہ:** سونا ابتداءً اسلام میں جائز تھا، پھر مردوں کے لئے حرام ہو گیا۔ اس کی حرمت پر جمہور کا اتفاق ہے، امام نووی رضی اللہ عنہ نے اس کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے۔ نقہی بحث اس مسئلہ میں طویل ہے جس کا یہ محل نہیں۔

= جمہور السلف علی حرمة التختم بخاتم الذهب للرجال دون النساء، والاعتبار بالحلقة عند الحنفية، فلا بأس بمسمار الذهب على الخاتم، خلافاً للشافعية، قال المناوي: فتحرى به مجمع عليه الآن في حق الرجال كما أفاده العراقي تبعاً للنحووي حيث قال: أجمعوا على تحريم الذهب إلا ما حكى عن ابن حزم أنه أباحه، وعن بعضهم: أنه مكروه لا حرام، وهذا باطلان، وقائلهما ممحوج بالآحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه. قال الزرين العراقي: لا يصح نقل الإجماع، فقد لبسه جمع من الصحابة والتبعين، قال القاري: فقول عياض: أن الناس مجمعون على تحريمه غير سديد، إلا أن يقال: أراد "بالناس" الجمہور، ويقال: انفرض قرن من قال بكرامة التنزية، واستقر الإجماع بعد على التحرير.

**فطراً:** هذا هو المعروف عند الحدیثین أن المطروح خاتم الذهب، وقد أخرج أبو داود برواية الزهری عن أنس: أنه رأى في يد النبي ﷺ خاتماً من ورق يوماً واحداً، فصنع الناس فلبسوها، وطرح النبي ﷺ فطرح الناس. قال القرطی: هو وهم من الزهری عند جميع أهل الحديث، وإنما اتفق ذلك له ﷺ في خاتم الذهب كذا في البذل، وحکی الشیخ توجیهات روایة الزهری فارجع إلیه. وحکی القاری عن غیره: الأقرب أنه ﷺ اتخد خاتماً من ذهب فاتخذوه، فالقاہ حين وافق تحريمه فألقوه، ثم اتخد خاتماً من ورق ونقش فيه "محمد رسول الله ﷺ" فتبیعه الناس في ذلك، فرمی به حتى رمى الناس كلهم؛ لغلا تقوت مصلحة الختم بالاشترک، ثم رجع إلى خاتمه الخاص به فصار يختتم به، قال القاري: والأظہر أنه ﷺ بعد تحريمه خاتم الذهب ليس خاتم الفضه على قصد الزينة فتبیعه الناس، فرأى أن في لبسه ما يتربّ عليه من التعجب والكبش والخیلاء فرمیه ورموا، فلما احتاج إلى لبسه لأجل الختم به لبسه وقال: إنا اتخدنا خاتماً ونقشنا فيه نقشاً فلا ينقش عليه أحد.

## بابُ ما جاء في صفة سيف رسول الله ﷺ

حدثنا محمد بن بشّار، أخبرنا وهب بن جرير، أباًنا أبي، عن قتادة، عن <sup>(۱)</sup> أنس رضي الله عنه قال: كان قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة. حدثنا محمد بن بشّار، أخبرنا معاذ بن هشام، حديثي أبي، عن قتادة،

## باب۔ حضور اقدس ﷺ کی توارکا بیان

فائدہ: علماء کہتے ہیں کہ امام ترمذی رضی اللہ علیہ نے انگوٹھی کے بعد اس لئے ذکر کیا کہ حقیقتاً اس سے ایک خاص نظام اعمل اور صاحب السلطنت کی طرف اشارہ ہے کہ اول تبلیغ خطوط سلاطین کے پاس ارسال کیے جائیں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو منافع دین اور دنیوی کے مالک ہیں ہی، ورنہ پھر وہ اور توار۔ حضور اقدس ﷺ کے پاس چند تواریں رہیں ان کے خاص خاص نام تھے۔ سب سے پہلی توار ماثور تھی، جو وراشت میں آپ نے اپنے والد سے پائی تھی۔ ایک کا نام قفیب، اور ایک کا قلمی، ایک کاب تار، ایک کا ذوالفقار وغیرہ وغیرہ تھا۔

امام ترمذی رضی اللہ علیہ نے اس باب میں چار حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔

(۱) حضرت انس رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کی توار کے قبضہ کی نوبی چاندی کی تھی۔

فائدہ: علماء بیجوری رضی اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ذوالفقار کا ذکر ہے۔ فتح مکہ میں حضور اقدس ﷺ کے پاس یہی توار تھی۔

الصفة: الوصف والكشف والتبيين. والسيف بفتح السين المهملة، جمعه سيف وأسياف. وبدأ به في آلات الحرب؛ لأنَّه أغلبها استعمالاً، وأردف باب الحاتم بباب السيف؛ لما علم أنه ﷺ اخذ الحاتم ليختتم به رسائله إلى، الملوك، إشارة إلى أنه دعاهم إلى الإسلام أولاً، فلما امتنعوا حاربهم. صفة سيف: [المراد بصفة السيوف حالته التي كان عليها].

كان: هكذا بصيغة التذكير في النسخ الهندية والمصرية من الشمائل، وفي الشرح بلفظ: "كانت" ب بصيغة التأنيث، وهكذا في رواية أبي داود والترمذى وغيرهما من حديث جرير. قبيعة: [قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد، يعتمد الكف عليها؛ لثلا يزلق] بفتح القاف وكسر الموحدة: ما على رأس مقبض السيوف من فضة أو حديدة على من قاله الجوهري وقيل: غير ذلك. قاري.

عن <sup>(۲)</sup> سعید بن أبي الحسن قال: كانت قبیعة سيف رسول الله صلی اللہ علیہ وسالم من فضة. حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري، أخبرنا طالب بن حجّير، عن هود - وهو ابن عبد الله بن سعيد -

عن <sup>(۳)</sup> جده قال: دخل رسول الله صلی اللہ علیہ وسالم مکة يوم الفتح،

(۲) سعید بن ابی الحسن رض نے بھی یہی نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسالم کی تلوار کی موٹھ چاندی کی تھی۔

(۳) ہود کے نانا مزیدہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسالم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو حضور کی تلوار پر سونا اور چاندی تھا۔ طالب جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ چاندی کس جگہ تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ قبضہ کی ٹوپی چاندی کی تھی۔

فائدہ: تلوار میں سونا گانا جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور اس حدیث سے اس لئے استدلال نہیں ہو سکتا کہ محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بتایا ہے۔ علامہ توریثتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ اس کی سند قبل اعتماد نہیں ہے، البتہ چاندی کی ٹوپی وغیرہ جیسا کہ پہلی روایتوں میں آیا، جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ سونا ناجائز تھا اس لئے راوی نے صرف چاندی کی تحقیق کی کہ کس جگہ تھی، سونے کو دریافت بھی نہیں کیا کہ کہاں تھا۔

سعید بن أبي الحسن: هو أخو الحسن البصري، تابعي، فالحديث مرسل، وأخرجه المصنف في جامعه من طريق حرير بهذا السندي المذكور في الشماائق، ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وهكذا روی عن همام عن قتادة عن أنس، وقد روی بعضهم عن قتادة عن سعید بن أبي الحسن قال: كانت قبیعة سيف رسول الله صلی اللہ علیہ وسالم من فضة. وظاهره: أن المصنف مال إلى ترجيح المسند؛ إذ ذكر له متابعة، لكن بعضهم رجحوا المرسل، كما بسط الشيخ في البذل. صدران: بهملات كغفران: هو محمد بن إبراهيم بن صدران، منسوب إلى جده. حجّير: بضم حاء مهملة وفتح جيم وسكون تحمة آخره راء مهملة.

عبد الله بن سعید: هكذا في نسخ الشماائق بالتحتية بعد العين، قالت الشراح: هكذا في بعض نسخ الشماائق المصححة المقروعة، وصوابه: "سعد" بغير ياء كما في بعض النسخ الآخر، وعليه المحققون من علماء أسماء الرجال. قلت: وهكذا بدون الياء في الجامع. جده: أي: لأمه، كما في نسخة، اسمه: مزیدة، قال القاري: ضبط الأكثر بفتح الميم وإسكان الزاي وفتح الياء، واختارة الجزر في "تصحیح المصایب"، وهو المشهور عند الجمهور، وخالفهم العسقلاني فقال في التقریب: مزیدة بوزن كبيرة.

وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة، فقال: كانت قبيعة السيف فضة.  
 حدثنا محمد بن شجاع البغدادي، أخبرنا أبو عبيدة الحداد، عن عثمان بن سعد، عن <sup>(٤)</sup> ابن سيرين  
 قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف  
 رسول الله ﷺ، وكان حنفياً. حدثنا عقبة بن مكرم البصري، حدثنا محمد بن بكر، عن  
 عثمان بن سعد، بهذا الإسناد نحوه.

(٢) ابن سيرين رضي الله عنهما كتبته تھے کہ میں نے اپنی توار سر پختہ کی توار کے موافق بنوائی، اور وہ کہتے تھے کہ ان کی توار  
 حضور اقدس ﷺ کی توار کے موافق بنوائی گئی ہے، اور وہ قبیلہ بنو حنفیہ کی تواروں کی طریق پر تھی۔ فائدہ: بنو حنفیہ  
 عرب کا ایک قبیلہ ہے جو تواروں کے عمدہ بنانے میں بہت مشہور ہے۔ یہ سب لوگ کیے بعد دیگرے حضور ﷺ کے اتباع  
 میں ویسی ہی توار بناتے رہے۔

ذهب وفضة: يخالف مسلك الحنفية، إذ قال الشامي: ولا يتحلى الرجل بذهب وفضة إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف  
 منها، أي، من الفضة لا من الذهب. وكذلك عند الشافعية وغيرهم. قال القاري: لا يعارض هذا ما تقرر من حرمة  
 بالذهب؛ لأن هذا الحديث ضعيف، ولا يصح الجواب: بأن هذا قبل ورود النهي عن تحريم الذهب؛ لأن تحريمه كان قبل  
 الفتح على ما نقل. قلت: لا حاجة إلى الجواب بعد أن قال فيه ابن القطان راداً على تحسين الترمذى: إنه ضعيف لا  
 حسن، وقال أبو حاتم: منكر، قال في الميزان: صدق ابن القطان وهذا منكر، وما علمنا في حلية قبيعه ذهبًا، قال  
 التوربشي: هذا الحديث لا تقوم به حجة، وذكر ابن عبد البر في استيعابه: أنه ليس بقوى.

وكان حنفياً: [أي: وكان سيفه حنفياً، نسبة لبني حنفية، وهم قبيلة مسليمة، لأنهم معروفوون بحسن صنعة السيف]  
 مقوله ابن سيرين على الإرسال، أو مقوله سمرة. هذا إذا أرجع الضمير إلى سيفه ﷺ، ويحتمل أن يكون المراد به سيف  
 سمرة، فيكون من كلام ابن سيرين لا غير. عقبة بن مكرم: عقبة بضم فسكون. ومكرم ببناء المجهول من الإكرام، قاله  
 القاري. قال المناوي: و وهم من جعله ببناء الفاعل.

## بابُ ما جاء في صفة درع رسول الله ﷺ

حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشجع، أخبرنا يونس بن بُكير، عن محمد بن إسحاق،  
 عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جده عبد الله بن الزبير، عن <sup>بتشذيد الميم</sup>  
<sup>عياد</sup> <sup>(١)</sup> الزبير بن العوّام <sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup> قال: كان على النبي ﷺ

## باب۔ حضور اقدس ﷺ کی زرہ کا بیان

فائدہ: حضور اکرم ﷺ کے پاس سات زرہ تھیں، جن کے نام حسب ذیل ہیں: ذات الفضول، جوانپی و سعت کی وجہ سے اس نام کے ساتھ مشہور تھی، اور یہی وہ زرہ ہے جس کا قصہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، جو ابوالشحم یہودی کے پاس رہن تھی۔ اور باقی چھ کے نام یہ ہیں: ذات الحواشی، ذات الوشاح، نضہ، سُغدیہ، بتراء، خرنق۔ اس باب میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں۔

(۱) حضرت زیر بن شیخ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے بدن مبارک پر أحد کی لڑائی میں دو زرہ تھیں (ایک ذات الفضول۔ دوسری نضہ) حضور اقدس ﷺ نے ایک چٹان کے اوپر چڑھنے کا ارادہ فرمایا مگر (وہ اونچی تھی)، اور دو زرہوں کا وزن، نیز غزوہ أحد میں وہ تکلیفیں جو حضور ﷺ کو پہنچی تھیں کہ جن کی وجہ سے چہرہ مبارک خون آلودہ ہو گیا تھا، غرض ان وجوہ سے (حضرت طلحہ بن عیاش کو نیچے بٹھا کر ان کے ذریعے سے اس چٹان پر چڑھنے سکے۔ اس لئے حضرت طلحہ بن عیاش کو نیچے بٹھا کر ان کے ذریعے سے اس چٹان پر چڑھئے۔

صفة درع: بحذف المضاف أي: صفة لبسه، لیوافق حدیثي الباب، وهو بدل مهملة مكسورة فراء ساکنة: جنة من حديد، تصنع حلقا حلقا، تلبس للحرب. درع: [هو قميص من ذو حلقات من الحديد متتشابكة، يلبس وقاية من السلاح].  
 الربرير بن العوّام: هكذا في نسخ الشعمايل، قال ميرك: هكذا وقع في بعض نسخ الشعمايل، وكذا وقع في أصل سماعنا ملحقاً بصح، وحذف في بعض النسخ ذكر الزبير، واقتصر على عبد الله بن الزبير، وهو خطأ، والصواب إثباته في الإسناد؛ لأنه هكذا ذكره المصنف في جامعه، وبذكره يكون الحديث مستنداً متصلاً، ومحذفه يكون مرسلًا، فإن عبد الله بن الزبير لم يحضر وقعة أحد، قاله القاري، وهكذا حکی المناوی عن الحافظ بن حجر وزاد: وبذكر الزبير يصح قوله في الحديث: "قال: فسمعت النبي ﷺ يقول: أوجب طلحة" بـ "الفاء" الدالة على التعقيب، وعلى حذف الزبير يكون هذا كذباً محضاً؛ لأن مولد ابن الربرير في السنة الثانية من الهجرة، وأحد في الثالثة.

يَوْمَ أَحَدٍ دَرْعًا فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ، فَصَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى  
اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أُوجِبَ طَلْحَةُ.  
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ<sub>محمد بن محبى</sub>  
حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ،

حضرت زیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو یہ کہتے ہوئے ساکھ طلحہ نے (جنت کو یا میری شفاعت کو) واجب کر لیا۔  
فائدہ: جنگِ احمد میں لڑائی کی حالت نہایت خطرناک تھی، حتیٰ کہ حضور ﷺ کے وصال کا وابہہ بعض لوگوں کو ہو گیا تھا۔  
حضرت اقدس ﷺ اس اونچی جگہ اس لئے تشریف لے گئے تھے تاکہ سب صحابہ حضور ﷺ کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں اور بعض اکابر  
نے لکھا ہے کہ کفار کے دیکھنے کے لئے چڑھتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس دن کمال شجاعت سے حضور ﷺ کا ساتھ دیا تھا، حتیٰ  
کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب غزوہ احمد کا ذکر فرماتے تو کہتے تھے کہ یہ دن تمام کا تمام طلحہ کا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو حضور ﷺ کی  
ڈھال پنار کھا تھا۔ اسی سے زائد رحمان کے بدن پر آئے اور حضور ﷺ کا ساتھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ان کا ہاتھ بھی شل ہو گیا تھا۔

درعنان: قال ميرك: هما ذات الفضول والفضة، كما رواه بعض أهل السير عن محمد بن مسلمة.  
إلى: أي متوجهها إليها ليستعليها فيراه الناس فيعلمون حياته، ويجتمعون عنده. فلم يستطع: [فلم يقدر على  
الارتفاع على الصخرة، قيل: لما حصل من شجَّ رأسه وجبينه الشريفين، واستفراغ الدم الكثير منهمما، وقيل: لشفل  
درعيه، وقيل: لعلوها]. تحته: [أي: أجلسه فصار طلحة كالسلّم]. فصعد: [أي: فوضع رجله فوقه وارتفع].  
أوجب: أي: لنفسه الجنة، أو الشفاعة، أو المثوبة العظيمة بفعله هذا، أو بما فعل ذلك اليوم، حيث جعل نفسه فداء  
رسول الله ﷺ حتى شلت يده.

طلحة: [أي: فعل فعلًا أوجب لنفسه بسببه الجنة، وهو إعانته له ﷺ على الارتفاع على الصخرة، ويحتمل أن ذلك  
الفعل هو جعله نفسه فداءً له ﷺ ذلك اليوم، حتى أصيب ببعض وثمانين طعنة]. عن يزيد: هكذا في ابن ماجة برواية  
هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيف إلخ. خصيف: بخاء معجمة وصاد مهملة مصغرًا، ويزيد ابن عبد الله بن  
سفیان قال: حسبت أی سمعت يزيد بن خصیف إلخ. خصیف: بخاء معجمة وصاد مهملة مصغرًا، ویزید ابن عبد الله بن  
خصیف منسوب إلى جده.

**عن السائب بن يزيد** أن رسول الله ﷺ كان عليه يوم أحد درعان، قد ظاهر بينهما.

(۲) سائب بن يزيد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے بدن مبارک پر جنگِ أحد میں دوزر ہیں تھیں، جن کو اوپر نیچے پین رکھا تھا۔ فائدہ: حضور اقدس ﷺ کا دوزرہ پہننا یہ حضور کے کمالِ توکل کے منافی نہیں، اس لئے کہ اول توکالِ سلوک خود صوفیا کے بیہاں بھی رجوعِ الی البذایت ہے، یعنی عام معاملات میں عام لوگوں جیسا برداشت ہو لیکن شریعت کی پابندی طبیعت بن جائے۔ دوسرے یہ بات ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے معمولات میں اس قسم کے امورِ امت کو تعلیم کے لئے ہوا کرتے ہیں اور یہ ظاہر بات ہے۔ تیسرا بات یہ بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے: **إِنَّمَا أَنْهَاكُمُ الْأَنْوَارُ حَتَّىٰ يَرَوُا مَا فِي الْأَرْضِ وَلَا يُنْهَا كُلُّ نَفْرُوا أَثْبَاتٍ أَوْ أَنْفُرُوا جَمِيعًا** (سورہ نساء: ) اے ایمان والو! (کافروں کے مقابلہ میں) اپنی تو احتیاط رکھو (یعنی ان کے داؤ گھات سے بھی ہوشیار رہو اور مقابلہ کے وقت سامان ہتھیار ڈھال وغیرہ سے بھی درست رہو) پھر (ان سے مقابلہ کے لئے) متفرق طور پر یا مجمع طور پر (جیسا موقع ہو) نکلو۔ (بیان القرآن) اس لئے حفاظت کا حسب موقع سامان لینا آیت شریفہ کا اقتضال ہے اور حضور ﷺ سے زیادہ اللہ جل جلالہ کے ارشادات پر عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلہ میں زرہ خود وغیرہ جملہ احتیاطی سامان کا استعمال ہے۔

السائل: الحديث مرسل، فإن سائبا لم يكن في أحد حضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع سنين، قاله القاري، وقد أخرجه أبو داود عنه عن رجل، وبسط الشيخ في البذل الكلام على هذا المبهم، فارجع إليه. ظاهر: أي: ليس إحداهما فوق الأخرى. فيه تعلم وإشعار بأن التوفيق من الأعداء لا ينافي التوكيل والرضاء والتسليم، وقد روی عنه **اعقلها وتوكل**.

## بابُ ما جاء في صفة مغفرة رسول الله ﷺ

بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن<sup>(١)</sup> أنس بن مالك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن النبي ﷺ دخل مكة وعليه مغفرة، فقيل له: هذا ابن خطل! متعلق بأسنار الكعبة، فقال: اقتلوه.

عَدَ الْفَعْلَجَ  
حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني مالك بن أنس، عن ابن شهاب،

## باب۔ حضور اقدس ﷺ کی خود کا ذکر

فائدہ: خود لوہے کی بنی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے، جو لڑائی کے وقت سر کی حفاظت کے لئے اوڑھی جاتی ہے۔ مصنف رحمۃ الشیعیین نے اس باب میں دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) حضرت أنس رض فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھی (حضرور جب خود ائمہ پکے اور اطمینان ہو گیا تو) کسی نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یا ابن خطل کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔

فائدہ: حضور اقدس ﷺ کے لئے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو ابن مکہ پر ایک ایسی دہشت اور گھبراہٹ سوار تھی

مغفر: بكسر الميم وفتح الفاء، يلبس تحت البيضة، ويطلق على البيضة أيضاً، كذلك في المغرب، وقيل: هي حلقة تسنج من الدرع على قدر الرأس، وفي الحكم: هو ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس كالقلنسوة، وقيل: هو أحرف البيضة [كمبر من الغفر وهو الستر، والمراد به هنا: زرَّةٌ من حديد يُنسج بقدر الرأس، يلبس تحت القلسنة، وهو من جملة السلاح؛ لأن السلاح يطلق على ما يُقتل به، وعلى ما يدافع به]. وعليه مغفر: قال الحافظ: ذكر ابن بطال: أنه أنكر على مالك قوله: وعليه المغفر، وإنه تفرد به، والمحفظ أنه دخل وعليه عمامة سوداء. ثم أصحاب عن دعوى التفرد بأنه وجد في كتاب حديث الزهرى تصنيف النساءى: هذا الحديث من روایة الأوزاعي عن الزهرى مثل ما رواه مالك، وعن الحديث الآخر: بأنه دخل وعلى رأسه المغفر، وكانت العمامة فوقه. وذكر الحافظ: أن بضعة عشر نفساً رواه عن الزهرى غير مالك، وبين مخارجها.

فقيل: قال المناوي: يعني قال له سعيد بن حرث. قلت: وهذا يخالف ما يأتي في الحديث الآتي. ابن خطل: معجمة فمهمة مفتونتين، كان اسمه عبد العزى، وكيف يجده فأسلم فسمى عبد الله، وكتب الوحي ثم ارتدى والعياذ بالله، وقتل مسلماً، وأخذ جاريتن تغنيان بمجائه عَلَيْهِمَا فَأَهْدَرَ دَمَهُ.

**عن أنس بن مالك رضي الله عنه:** أن رسول الله ﷺ دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المِغْفَرَ،

جس کی کوئی انتہانہ تھی، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ حضور اکرم ﷺ نے غایت شفقت اور مہربانی کی وجہ سے یہ فرمادیا تھا کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو ہتھیار ڈال دے وہ مامون ہے وغیرہ وغیرہ۔ البتہ گیارہ مرد اور چھ عورتیں ایسی تھیں کہ حضور اقدس ﷺ نے اس وجہ سے کہ ان کے جرام ناقابل غفوٰتھے، ان کے خون ہدر کر دیے تھے، اور اس معافی کے عام اعلان سے ان کو مستثنیٰ کر دیا تھا اور ارشاد فرمادیا تھا کہ ان لوگوں کو امن نہیں ہے۔ ان میں سے بھی سات مرد اور دو عورتیں مسلمان ہو کر معافی میں آگئے تھے، باقی چار مرد اور چار عورتیں قتل کیے گئے۔ مسجدِ ان آٹھ کے ابن خطل تھا۔ یہ شخص اول مدینہ متورہ حاضر ہو کر مسلمان ہوا اور عبد اللہ نام رکھا گیا۔ حضور اقدس ﷺ نے کسی قبیلہ کی زکوٰۃ لینے کے لئے اس کو بھیجا، اس نے اپنے ایک غلام کو اس جرم میں جان سے مار دالا کہ اس نے کھانا پکانے میں کچھ دیر کر دی تھی، اور خود اس خوف سے کہ مدینہ متورہ لوٹا تو قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا، مرتد ہو کر مکہ مکرہ چلا آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر حضور اقدس ﷺ کی جگہ کرتا تھا، اور دو باندیاں گانے والیاں خریدیں جو حضور ﷺ کی ہجو کے اشعار سے اس کو خوش کیا کرتی تھیں۔ حضور اکرم ﷺ نے مسجدِ ان آٹھ کے اس کا بھی خون ہدر کر دیا تھا۔ اسی لئے باوجود بیت اللہ میں داخل ہونے کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے قاتل میں محمد شین کے بہت سے اقوال ہیں کہ کس نے قتل کیا۔ اس حدیث میں ایک فقیہی بحث بھی ہے کہ حدود و قصاص حرم میں قائم ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ مسئلہ تفصیل طلب ہے اور عام ضرورت بھی اس سے متعلق نہیں اس لئے اختصار آترک کر دیا گیا۔ لیکن ایسے موقع پر اس لئے تعبیر کر دی جاتی ہے کہ اگر علم دوست حضرات یا طلبه میں سے کوئی دیکھے تو وہ اس تنبیہ کے بعد مراجعتِ مشائخ سے تحقیق کر لے۔ اسی طرح اس حدیث سے مکرہ میں بغیر احرام کے داخل ہونے کا جواز معلوم ہوتا ہے جس کا بیان دوسری حدیث میں آرہا ہے۔

(۲) حضرت انس رضي الله عنه سے مروی ہے کہ جب حضور اقدس ﷺ فتح مکہ کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو حضور کے سر مبارک پر خود تھی، جب حضور نے اس کو اتار دیا تو ایک آدمی آیا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابن خطل کعبہ کے پورہ سے لپٹا ہوا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ امن والوں میں نہیں، اس کو قتل کر ڈالو۔ زہری التسلیم کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور اقدس ﷺ اس روز حرم نہیں تھے۔

قال: فلما نزعه، جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأسثار الكعبة! فقال: أقتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله ﷺ لم يكن يومئذ مُحِرِّماً.

فائدہ: یہ اخیر جملہ امام زہری رض کا بھی ایک فقہی مسئلہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ حنفیہ کے نزدیک مکہ مکرمہ میں بلا احرام داخل ہونا جائز نہیں، اس لئے کہ حدیث شریف میں میقات سے بدون احرام کے تجاوز کرنے کی ممانعت آئی ہے اور شافعیہ کے نزدیک اس حدیث کی بنا پر جائز ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ حدیث اس لئے صحیح نہیں بن سعی کہ حضور اقدس ﷺ کے لئے فتح مکہ کی غرض سے اس دن کی حرمت انعاموی گئی تھی، چنانچہ بخاری وغیرہ کی روایات میں اس کی تصریح ہے کہ حضور ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لئے آج کے دن یہ حلال تھا کسی اور کے لئے نہیں ہے۔ ابن خطل کا کعبہ کے پر وہ سے پہنچا ممکن ہے آہ و زاری اور دعا کی غرض سے ہو کہ اس کو چوکہ امن نہیں دیا گیا تھا اور اپنی تمام حرکات بھی یاد تھیں کہ میں نے مرتد ہو کر کیا کچھ نہیں کیا، اس لئے دعا کی غرض سے ایسا کرتا ہو کہ کعبہ کی تعظیم و تکریم تو یہ لوگ کرتے ہی تھے، اور اقرب یہ ہے کہ سابقہ دستور کے موافق اس وجہ سے امن کی امید ہو کہ کعبہ کی تعظیم کی وجہ سے مجرموں کو اس حال میں قتل نہیں کیا جاتا تھا۔

رجل: قال الحافظ: لم أقف على تسميتها، وزعم الفاكهي في شرح العمدة أنه فضيلة بن عبيد أبو بردۃ الأسلمي، قاله المناوي، قال الحافظ: وكأنه لما رجع عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبراً بقصته، ثم بسط الاختلاف في قاتله، وجزم به العیني إذ قال: هو أبو بربعة الأسلمي بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي، اسمه فضيلة بن عبيد، وجزم به الكرمان والفاكهی. وهذا يخالف ما تقدم في الحديث السابق عن المناوي. متعلق: قال عاصم وتابعه المناوي: إنه تعلق بما متمسكاً بقوله تعالى: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) (آل عمران: ٩٧) وتعقبه القاري بأن التمسك غير صحيح؛ فإنه لم يكن مؤمناً، وإنما تعلق بما هو من عادة الجاهليه: أهتم كانوا يعظمون من تمسك بذيلها في كل جريمة.

اقتلواه: واختلف فيما قتله على أقوال، بسطها الحافظ في الفتح. محrama: لم يكن محrama، اختلف العلماء في جواز دخول مکة بغیر احرام، والصحيح من قول الشافعی المشهور عندهم جوازه مطلقاً، وعن الأئمۃ الثلاثة على المشهور عندهم وجوب الإحرام، قال ابن عبد البر: أكثر الصحابة والتبعين على الوجوب. وأصحاب الطحاوی عن دخوله عليه عليه السلام بأنه من خصائصه لقوله عليه عليه السلام: وإنما لم تحل لي إلا ساعة. قاري مختصراً.

## بابُ ما جاءَ فِي عِمَامَةِ النَّبِيِّ

حدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدَىً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلْمَةَ. حَ وَحدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ

## بابُ حضُورِ اقْدَسِ سَلَامُهُ کے عِمَامَہ کا ذکر

فَائِدَه: حضُورِ اقْدَسِ سَلَامُهُ کے عِمَامَہ کی مقدار مشہور روایات میں نہیں ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں سات ذراع آتی ہے۔ یہ جو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ابن حجرِ الشَّعْبَانَ سے اس حدیث کا بے اصل ہونا نقل کیا ہے۔ علامہ جزری رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کی کتابوں کو خاص طور سے تلاش کیا مگر حضور کے عِمَامَہ کی مقدار مجھے نہیں ملی۔ البتہ امام نووی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے نقل کیا جاتا ہے کہ حضُورِ اقْدَسِ سَلَامُهُ کے دو عِمَامَے تھے: ایک چھوٹا چھوٹا تھا کہ ماناوی کے قول کے موافق، اور سات ہاتھ کا میا علی قاری کے قول کے موافق، اور ایک بڑا بارہ ہاتھ کا۔ صاحبِ مدخل نے حضُورِ اقْدَسِ سَلَامُهُ کے عِمَامَہ کی مقدار فقط سات ہی ہاتھ بتائی ہے دوسرا نہیں بتایا۔ عِمَامَہ کا باندھنا سنتِ مُسْتَمِرَہ ہے۔ نبی اکرم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے عِمَامَہ باندھنے کا حکم بھی نقل کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے کہ عِمَامَہ باندھا کرو اس سے حلم میں بڑھ جاؤ گے۔ (فتح الباری)

حضرت عبدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ زَيْدٍ سے کسی نے پوچھا کیا عِمَامَہ باندھنا سنت ہے؟ انھوں نے فرمایا ہاں سنت ہے۔ (عینی)

ایک حدیث میں آیا ہے: عِمَامَہ باندھا کرو! عِمَامَہ اسلام کا نشان ہے، اور مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والا ہے۔ (عینی)  
اس باب میں مصنف رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے پانچ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) حضرت جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضُورِ اقْدَسِ سَلَامُهُ فتح مکہ میں جب شہر میں داخل ہوئے ہیں تو حضُورِ اقْدَسِ سَلَامُهُ کے سر مبارک پر سیاه عِمَامَہ تھا۔ فَائِدَه: یہ حدیث بظاہر گذشتہ باب کی روایات کے خلاف ہے جن میں حضُورِ اقْدَسِ سَلَامُهُ کا خود

عِمَامَہ: [كُلُّ مَا يَعْقِدُ وَيُلْفُ على الرَّأْسِ، سَوَاءٌ كَانَ تَحْتَ الْمَغْفِرَ أَوْ فَوْقَهُ، أَوْ مَا يَشَدُ على الْقَلْنِسُوَةِ، وَكَذَلِكَ مَا يَشَدُ على رَأْسِ الْمَرِيضِ، وَلَكِنَّ الْمَرَادُ مِنْهَا هُنَا مَاعِدًا الْمَغْفِرَ] بالكسر معروف، وهم العصام حيث قال بالفتح، قال المناوي: العِمَامَةُ سَنَةٌ لَاسِيمًا لِلصَّلَاةِ وَبِقَصْدِ التَّحْمِلِ لِأَخْبَارِ كَثِيرَةٍ، وَاشْتِدَادِ ضُعْفٍ كَثِيرٍ مِنْهَا يَجْرِي كَثْرَةُ طَرْقَهَا، وَزَعْمُ وَضْعٍ أَكْثَرُهَا تَسَاهُلٌ.

مکہ یوم الفتح، وعلیہ عمامة سوداء. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفیان، عن مسّاور الوراق، عن جعفر بن عمرو بن حربیث، عن <sup>(۲)</sup> أبيه قال: رأیت على رسول الله ﷺ عمامة سوداء. حدثنا محمود بن غیلان ویوسف بن عیسیٰ قالا: حدثنا وکیع، عن مسّاور الوراق، عن جعفر بن عمرو بن حربیث،

پہنچے ہوئے مگر مکرمہ میں تشریف لے جاناوارد ہوا ہے، لیکن حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں، اس لئے کہ خود پر عمامہ ہونے میں کوئی بعد نہیں، دونوں روایتیں بسوالت جمع ہو سکتی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ داخلہ کے وقت تو خود سر مبارک پر تھی اس کے بعد متصلًا ہی عمامہ باندھ لیا تھا، چونکہ وہی وقت تقریباً تھا اس لئے اس روایت میں داخلہ کا وقت کہا گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ لو ہے کی تو پی کی اذیت کی وجہ سے اس کے نیچے عمامہ باندھ رکھا ہو گا۔

(۲) عمرو بن حربیث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ دیکھا۔ فائدہ: مسلم شریف اور نسائی شریف میں ہے عمرو بن حربیث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہے جب نبی کریم ﷺ نمبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے، سیاہ عمامہ آپ کے سر مبارک پر تھا اور اُس کا شاملہ دونوں شانوں کے درمیان تھا۔

يوم الفتح: قال الزین العراقي: اختلفت ألفاظ حديث جابر في المكان والرمان الذي لبس فيه العمامة السوداء، فالمشهور أنه يوم الفتح، وفي رواية البیهقی في الشعب: يوم ثانية الحنظل وذلك يوم الحدبیة، ويجب: بأن هذا ليس باضطراب، وأنه ليس يوم الحدبیة والفتح معا إلا أن الإسناد واحد، فليتأمل. عمامة: يخالف ما تقدم في الباب السابق: من المغفر، قال المناوي: وفي القاموس إن العمامة بالكسر: المغفر، والبيضة، وما يلف على الرأس. فلا حاجة إلى الجواب على ذلك. مساور: بضم ميم وكسر واو وراء قاله القاري، قال النووي: بسين مهملة اسم فاعل، وصحف من قال: مبادر. الوراق: بتشدید الراء: بائع الورق، أو صانعه، أو منسوب إلى ورق الشجر، قاله القاري، وقال السمعانی: اسم لمن يكتب المصحف وكتب الحديث وغيرها، ويقال له بيع الورق ببغداد. رأیت على إخ: قال القاري: هذا يحمل عام الفتح وغيره، وحال الخطبة وغيرها، يوم الجمعة وغيرها، وسيجيء ما يبینه في الحديث الآتي.

الحریث: قال میرک: حديث عمرو بن حریث في معنی حديث جابر، وأورده المصنف بطريقین، وزاد في الطریق الثانی: خطب الناس أی: يوم فتح مکہ، وهذه الخطبة عند باب الكعبۃ على ما یفهم من کلام الحافظ ابن حجر العسقلانی، وأخرج مسلم من طریق أی اسامة عن مساور: حدثی جعفر بن عمرو بن حریث عن أیه قال: کأن انظر إلى رسول الله ﷺ على المنبر وعلیہ عمامة سوداء، وقد أرخی طرفیها بین کفیها. و"طرفیها" بالتشیہ في أكثر نسخ مسلم، وفي بعضها بالإفراد، قال عیاض: وهو الصواب المعروف. قلت: وهکذا بالإفراد في رواية النسائی.

عن <sup>(۳)</sup> أیه: أن النبي ﷺ خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني،  
بسكون الميم <sup>(۴)</sup>، حدثنا يحيى بن محمد المديني، عن عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن  
ابن عبد الله منسوب إلى جده

(۳) عمرو بن حرب <sup>رض</sup> سئل عن خطبته سیاه عمامة تھا۔ فائدہ: مشہور قول کے موافق یہ خطبہ فتح مکہ کا خطبہ ہے، جو کعبہ کی چوکھت پر کھڑے ہو کر حضور اقدس ﷺ نے فرمایا تھا، جس کا ذکر کہلی حدیثوں میں حضرت جابر <sup>رض</sup> کی روایت سے گزر چکا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس وجہ سے کہ اس قصہ میں بعض جگہ "منبر" کا لفظ آیا ہے اور فتح مکہ کا وہ خطبہ منبر پر نہیں تھا، اس لئے مدینہ منورہ کا کوئی اور خطبہ جمعہ کا مراد لیا ہے کہ بعض حدیثوں میں اس قصہ میں "جمعة" کا لفظ بھی موجود ہے۔ ملا علی قاری <sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> نے شرح مشکوٰۃ میں میرک شاہ سے نقل کیا ہے کہ یہ خطبہ حضور کے مرض وصال کا ہے۔ واللہ اعلم۔

(۴) ابن عمر <sup>رض</sup> فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ جب عمامة باندھتے تو اس کے شملہ کو اپنے دونوں مونڈھوں کے درمیان یعنی پچھلی جانب ڈال لیتے تھے۔ نافع یہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمر <sup>رض</sup> کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ عبید اللہ جو نافع کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانہ میں حضرت ابو بکر صدیق <sup>رض</sup> کے پوتے قاسم بن محمد کو اور حضرت عمر <sup>رض</sup> کے پوتے سالم بن عبد اللہ کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ فائدہ: حضور اقدس ﷺ کی عادت شریفہ شملہ کے بارے میں مختلف رہی ہے۔

خطب الناس: قال القاري: أي على المنبر كما في رواية مسلم، وهذا يندفع ما قال بعضهم: من أن ليس السوداد كان في فتح مكة فقط؛ لأن خطبته <sup>رس</sup> مكة لم يكن على المنبر، بل كان على باب الكعبة، ولذا ذكره صاحب المصايح في باب خطبة الجمعة. قلت: ولفظ المشكوة: أن النبي <sup>رس</sup> خطب عليه عمامة سوداء، قد أرخي طرفها بين كتفيه يوم الجمعة. رواه مسلم. قلت: لكن الإمام مسلماً أخرجه في باب "دخول مكة بغير إحرام" ولفظه: كأني أنظر إلى رسول الله <sup>رس</sup> على المنبر وعليه عمامة سوداء. الحديث. ليس فيه لفظ "الجمعة". عمامة: قال المناوي: وفي نسخة: "عصابة". قلت: ولعل ذلك الباعث لميرك شاہ؛ إذ قال: هذه الخطبة وقعت في مرض النبي <sup>رس</sup> الذي توفي فيه. هكذا حکى عنه القاري في المراقة. المديني: هكذا في الشرح، وكذا على حواشی المهدية بطريق النسخة، وفي متونها: المديني. قال القاري والمناوي وغيرهما: نسبة إلى مدينة السلام على الأصح، زاد المناوي: احتراز عن يحيى بن محمد المديني، وهو اثنان آخران. قلت: وبلفظ المديني ذكره المصنف في الجامع لهذا الإسناد.

ابن عمر رضی عنہما قال: کان النبی ﷺ إذا اعْتَمَ سَدَلَ عِمَامَتَه بین کفیہ. قال نافع: و كان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبید الله: ورأيت القاسم بن محمد و سالماً يفعلان ذلك. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا أبو سليمان - وهو عبد الرحمن بن الغسيل -، عن عِكْرَمَةَ، عنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ [ليس عمامة]

شملہ چھوڑنے کا معمول اکثر تھا حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک لکھ دیا کہ بغیر شملہ کے باندھنا ثابت ہی نہیں، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ گاہے بغیر شملہ چھوڑے بھی عمامہ باندھ لیتے تھے، اور شملہ چھوڑنے میں بھی مختلف معمول رہا ہے، کبھی آگے دائیں جانب، کبھی پیچے دونوں موندھوں کے درمیان شملہ چھوڑتے تھے، کبھی عمامہ کے دونوں سرے شملہ کے طریقہ پر چھوڑ لیتے تھے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ثابت اگرچہ سب صورتیں ہیں لیکن ان میں افضل اور زیادہ صحیح دونوں موندھوں کے درمیان یعنی پیچھلی جانب ہے۔

(۵) ابن عباس رضی عنہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس ﷺ نے ایک مرتبہ خطبه پڑھا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا یا بھکنی پٹی تھی۔ فائدہ: یہ قصہ حضور اقدس ﷺ کے مرض الوفات کا ہے اور آخری وعظ ہے کہ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے منبر پر تشریف لے گئے نہ کوئی خطبہ پڑھا۔ اس میں انصار کی مراجعت کا خاص طور سے حضور ﷺ نے ذکر فرمایا، ان کے محاسن اور احسانات گتوائے اور یہ ارشاد بھی فرمایا کہ جو تم میں سے کسی چیز کا بھی امیر بنا یا جائے وہ ان کی خاص طور سے رعایت کرے۔ اس وقت حضور ﷺ کے سر میں شدید درد تھا جس کی وجہ سے پٹی کا باندھنا بھی موجہ ہے، اور چونکہ حضور اکرم ﷺ کے سر مبارک پر تیل کی زیادہ مالش ہوتی تھی، جیسا کہ آئندہ آنے والا ہے، اس لئے اس پٹی کا بچنا ہونا بھی قرین قیاس ہے، اور سیاہ عمامہ تو ظاہر ہے اس میں کسی قسم کا بعد نہیں، حضور اقدس ﷺ کی عادت شریفہ تھی ہی۔ غرض علماء اس کے مطلب میں دونوں طرف گئے ہیں کہ بعض علماء نے سیاہ عمامہ کا ترجمہ فرمایا ہے اور بعض نے بھکنی پٹی کا،

سدل: قال القاري: أي أرخي طرفها الذي يسمى العلاقة، وقال المناوي: هل المراد يسدل الطرف الأسفل حتى يكون عذبة أو يسدل الطرف الأعلى كل محتمل. كتفیہ: قال میرک: قد ثبت في السیر بروايات صحیحة: أن النبی ﷺ كان يرخي علاقته أحياناً بين كتفيه، وأحياناً يلبس العمامة من غير علاقة. ابن الغسیل: منسوب إلى جد أبيه؛ لأن عبد الرحمن هذا هو ابن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الغسیل المعروف بابن الغسیل، والغسیل لقب لخد أبيه حنظلة.

## أن النبي ﷺ خطب الناس وعليه عصابة دسماء.

اور دونوں صحیح ہیں کہ لفظ بھی دونوں کو محنت ہے اور معمول بھی دونوں کے موافق ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی ابن الغسلی ہیں جو حضرت خضراء غسل الملائکہ کی اولاد ہیں۔ حضرت خضراء کا لقب غسل الملائکہ پڑھا گیا تھا جس کا ترجمہ فرشتوں کا غسل دیا ہوا ہے، ان کا عجیب واقعہ گزرا ہے کہ جس وقت اُحد کی لڑائی کے لئے کوچ ہوا ہے اور روائی کا اعلان ہوا تو یہ اپنی الہیہ کے ساتھ مشغول تھے، اس حالت میں شور سنا، معلوم ہوا کہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، یہ بھی خبر سنتے ہی ساتھ ہو لئے اور اتنی مہلت نہ ہوئی کہ غسل سے فراغت پاتے، وہاں پہنچ کر شہید ہو گئے۔ چونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اس لئے ان کو بھی غسل نہیں دیا گیا، مگر نبی اکرم ﷺ نے دیکھا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں اس لئے تحقیق فرمایا اور واپسی پر ان کی الہیہ سے یہ سارا حال معلوم ہوا۔ درحقیقت ان حضرات کے نزدیک دین پر مر منا اس کے لئے جان دے دینا اتنا ہی سہل تھا جتنا ہم لوگوں کو اپنی خواہشات دینیوں میں مشغول و منہک ہو جانا آسان ہے۔

عصابة: وفي رواية: عمامة، والعصابة هي العمامة، كما في القاموس. الدسماء: بفتح الدال المهملة وسكون السين المهملة: هي السوداء كما في نسخة، وقيل: الدسماء الملحظة بالدسم؛ لأنها ﷺ كان يكثر دهن شعره، فأصابتها الدسمة من الشعر.

## بابُ ما جاء في صفة إزار رسول الله ﷺ

حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أياوب، عن حميد بن هلال، عن<sup>(۱)</sup>

### باب۔ حضرور اقدس ﷺ کی لئگی کا ذکر

فائدہ: حضرور اقدس ﷺ کی عادت شریفہ لئگی باندھنے کی تھی۔ پاجامہ پہننا آنحضرت ﷺ کا مختلف فیہ ہے۔ علامہ بیجوری رضی الشیعیہ کی تحقیق کے موافق راجح قول پہننے کا عدم ثبوت ہے، البتہ یہ محقق ہے کہ حضرور کے پاس موجود تھا۔ حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ وصال کے بعد ترکہ میں بھی تھا۔ ابن قیم رضی الشیعیہ کہتے ہیں کہ حضرور ﷺ نے خریدا تو ہے ہی اور ظاہر ہے کہ پہننے ہی کے لئے خریدا ہے، اس کے علاوہ متعدد احادیث میں حضرور ﷺ کا پہننا بھی وارد ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو حضرور کی اجازت سے پہننے ہی تھے (زاد المعاو) ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرور ﷺ سے عرض کیا کہ اہل کتاب لئگی نہیں باندھتے پاجامہ پہننے ہیں۔ حضرور ﷺ نے فرمایا تم لوگ ان کا خلاف کرو، پاجامہ بھی پہنو لئگی بھی باندھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث کے سلسلہ میں کہتے ہیں: میں نے حضرور ﷺ سے پوچھا آپ کبھی پاجامہ پہننے ہیں؟ حضرور نے فرمایا پہنتا ہوں، مجھے بدن کے ڈھانکے کا حکم ہے، اس سے زیادہ پرودہ اور چیزوں میں نہیں ہے۔ لیکن محمد بنین نے اس حدیث کو ضعیف بتایا ہے (نیل الأول طار) حضرور ﷺ کا معمول لئگی باندھنے کا اور چادر اور ٹھنڈنے کا اکثر تھا۔ حضرور ﷺ کی چادر چار ہاتھ لمبی اور اڑھائی ہاتھ، اور ایک قول کے موافق چھ ہاتھ لمبی اور تین ہاتھ اور ایک بالشت چوڑی بتائی جاتی ہے اور حضرور ﷺ کی لئگی چار ہاتھ اور ایک بالشت لمبی اور دو ہاتھ چوڑی لکھتے ہیں۔

اس باب میں مصنف رضی الشیعیہ نے چار حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں ایک پیوند گلی ہوئی چادر اور ایک موٹی لئگی دکھلائی اور یہ فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کا وصال ان دو کپڑوں میں ہوا تھا۔ فائدہ: یعنی وصال کے وقت تک حضرور ﷺ کا معمول ایسے ہی کپڑوں کے استعمال کا تھا، حالانکہ اس وقت فتوحات بھی شروع ہو چکی تھیں، فی الجملہ وسعت بھی ہو گئی تھی۔ خیر کی فتح کے بعد سے

**أبي بردۃ:** قال أخرجت إلينا عائشة رضيَّها كِسَاءَ مُلْبَدًا، وإزاراً غليظًا فقالت: قُبْض روح  
رسول الله ﷺ في هذين.

[بالكسر: ما يسر أعلى البدن] [خشنا]

مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی اور فتح مکہ کے بعد سے تو دوسرے سلاطین اور دوسرے ملکوں سے ہدایا اور نذر انوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ لیکن حضور ﷺ کا معمول اپنی معیشت کے لئے وہی قدیم طرز رہا اور جو کچھ آتا اس کو دوسروں پر تقسیم فرمادیتے، جس کا کچھ نمونہ ”حکایات صحابہ“ میں لکھ چکا ہوں۔ امام نووی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور اس جیسی حدیثیں اس طرف میری ہیں کہ حضور کو دنیاوی لذات اور تنعمات سے اعراض تھا۔ موتا کپڑا تو واضح اور انکسار کی طرف لے جاتا ہے، اور باریک عمدہ لباس با اوقات عجب و تکبر اور خود بینی پیدا کرتا ہے۔ مجھ سے میرے محترم بزرگ مولانا مولوی حکیم جبیل الدین صاحب گلگینوی ثم الدہلوی رضی اللہ عنہ نے حضرت اقدس فخر المحدثین مولانا گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا عجیب غریب قصہ نقل فرمایا کہ حضرت اقدس جب حج کو تشریف لے گئے تو مطاف کے کنارہ پر ایک نایینا بزرگ تشریف فرماتھے، جب حضرت طواف میں اس طرف گزرتے تو وہ (البس لباس الصالحين) مکلی آواز سے کہتے، اور جب حضرت طواف سے فراغت پر اس طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے خشن خشن (موتا موتا) فرمایا جس سے تنبیہ مقصود تھی کہ صلحاء کا لباس موتا کپڑا ہے۔ یہ اکثری لباس تھا اور بعض اوقات عمدہ کپڑا بھی پہننا ثابت ہے، جو بعض دینی مصالح کی وجہ سے نیز ترک تکلف کی وجہ سے تھا کہ جیسا مہیا ہو گیا پہن لیا، یہ نہیں کہ عمدہ کپڑے سے بالخصوص احتراز فرماتے۔

**أبي بردۃ:** كذا في النسخ بالموحدة والراء، فما في بعض النسخ من لفظ "أبي هريرة" غلط، نعم، يوجد في بعض النسخ بعد أبي بردۃ لفظ "عن أبيه" وهو أبو موسى الأشعري، وليس في أكثر النسخ المكتوبة والمطبوعة، إلا أنه جزم به المناوي في أصله، والصواب حذفه؛ لأن أبي بردۃ وإن ثبت روایته عن أبيه وعائشة رضي اللہ عنہم، لكن هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه بهذا السند بعينه، وأبوداود في اللباس، والبخاري فيه وفي الجهاد، والخطيب في المشكوة وغيرهم، وليس عند أحدهم لفظ "عن أبيه" وأبو بردۃ هذا جد أبي الحسن الأشعري الإمام المعروف في الكلام.

ملبَدًا: بتضديداً الموحدة المفتوحة، أي: مرقا، يقال: لبَدَت الثوب إذا رقعته، وقيل: التلبيد: جعل بعضه متزقاً ببعض كأنه زال وطأته ولينه لتراكم بعضه على بعض، قاله القاري، وقال المناوي: أصله الذي يجعل في رأسه لزوفاً من نحو صمغ لتلبيد شعره، والمراد هنا ما نحن وسطه حتى صار كاللبد، وقيل: المراد المرقع.

حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود، عن شعبة، عن الأشعث بن سليم، قال: سمعت عمّي فحدثت عن عمّها، قال: بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، فإنه أتفى وأبقى،

(۲) عبید اللہ بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، کہ میں نے ایک شخص کو اپنے پیچھے سے یہ کہتے نہ کہ: لئگی اوپر کو اٹھاؤ کہ اس سے نجاست ظاہری اور باطنی تکبر وغیرہ سے (نظافت بھی زیادہ حاصل رہتی ہے اور کپڑا زمین پر گھست کر خراب اور میلا ہونے سے) محفوظ رہتا ہے۔ میں نے کہنے والے کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو وہ حضور رسالت مآب ﷺ تھے، میں نے عرض کیا: حضور یہ ایک معمولی سی چوری ہے، اس میں کیا تکبر ہو سکتا ہے، اور کیا اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اگر کوئی مصلحت تیرے نزدیک نہیں تو کم از کم میراثت اتباع تو کہیں گیا ہی نہیں۔ میں نے حضور ﷺ کے ارشاد پر حضور القدس ﷺ کی لئگی کو دیکھا تو نصف ساق تک تھی۔

فائدہ: لئگی پاجامہ وغیرہ کے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ٹخنوں سے نیچے جتنے حصہ پر کپڑا لکھتا ہے وہ آگ میں جلایا جائے گا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے لئگی کے بارے میں استفار کیا، وہ فرمانے لگے کہ تم نے بڑے واقف سے سوال کیا، حضور نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کی لئگی آدھی پنڈی تک ہونا چاہئے اور اس کے نیچے ٹخنوں تک بھی کچھ مضاائقہ نہیں ہے، لیکن ٹخنوں سے نیچے جتنے حصہ پر لئگی لٹکے گی وہ آگ میں جلے گا، اور جو شخص متکبر انہ کپڑے کو لٹکائے گا قیامت میں حق تعالیٰ شانہ اس کی طرف نظر نہیں کریں گے (ابو داود) اس قسم کی وعیدیں اور احادیث میں بھی آئی ہیں، اس لئے اس کی طرف خاص طور سے توجہ کرنی چاہئے، اس کے بالعکس ہمارے اس زمانہ میں خاص طور سے کپڑا نیچے لٹکایا جاتا ہے۔ قالی اللہ الْمَشْعُرِ۔

عمّي: اسمها رُهْمٌ، بضم الراء وسكون الهاء، بنت الأسود بن خالد، كذا في التقريب، وقيل: بنت الأسود بن حنظلة. عمّها: أي: عم عمّة أشعث ابن سليم، اسمه عبید بن خالد المخاربي، سكن الكوفة، وأما ما قال العصام: أن الأصح ما في بعض النسخ "عم أبيها" أي: عم ابن الحنظلة، فغير صحيح مع أنه ليس موجوداً في النسخ، نعم، ذكر ميرك شاه أنه وقع في كتاب تهذيب الكمال "عن أبيه"، فالضمير المحروم إلى الأشعث، ولا يخفى أن عمّة الشخص عم أبيه، قاله القاري. قلت: وأياماً كان فالمراد به عبید بن خالد المخاربي. أتفى: أي: أقرب إلى سلوك التقوى، أو أوفق لللتقوى؛ للبعد عن الكفر والخيانة، أو للتنزه عن القاذورات، ويؤيد الآخر ما في بعض النسخ "أنقى" باللون أي: أنظف. قوله: "أبقى" أي: أكثربقاء.

فالتفت فإذا هو رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله! إنما هي بُرْدَة مَلْحَاء، قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: كان عثمان يأنزرا إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي - يعني النبي ﷺ - حدثنا قتيبة، أخبرنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة بن اليمان قال: أخذ رسول الله ﷺ

(٣) سلمة بن الأكوع كہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لگنگی نصف ساق تک رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہی ہیت تھی میرے آقا حضور اقدس سنتیم کی لگنگی کی۔

(٤) حذيفة بن میمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس سنتیم نے میری پٹدلي کے گوشت کا حصہ پکڑ کر یہ فرمایا کہ یہ حد ہے لگنگی کی، اگر تجھے اس پر قناعت نہ ہو تو اس سے کچھ پیچی کسی، اگر اس پر بھی قناعت نہ ہو تو لگنگی کا مخنوں پر کوئی حق نہیں، لہذا مخنوں تک نہیں پہنچانا چاہئے۔ فائدہ: مخنوں سے پیچی لگنگی یا پاجامہ وغیرہ کا لٹکانا حرام ہے، لیکن علماء نے ضرورت کو اس سے مستثنی کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے شخنے میں پھنسی ہو جس سے کمھی وغیرہ بیٹھتی ہے تو ایسے شخص کو اس کی حفاظت کے لئے لگنگی یا پاجامہ لٹکالینا جائز ہے جب تک کہ زخم اچھا ہو۔

ملحاء: بفتح الميم والراء المهملة وسكون اللام، المراد: بردة سوداء، فيها خطوط بيضاء، يلبسها الأعراب، ليست من الثياب الفاخرة، وكأنه أراد أن هذا ثوب مهنة لا ثوب زينة، فلا خيلاء فيه. أسوة: [أي: أليس لك في أسوة أي: اقتداء واتباع؟] إياس: بكسر الهمزة وتحقيق الياء، ابن سلمة بن عمرو بن الأكوع، فسلمة منسوب إلى جده، صحابي معروف شجاع. وقال: ظاهر فاعله عثمان رضي الله عنه، قال القاري والمناوي: القائل عثمان، ويختتم على بعد سلمة، وتكرار "قال" يرجح الأول. ووقع الغلط في النقل في الطبع الأول. والغرض أنه كذا كان فعله رضي الله عنه. وكذا فعل عثمان رضي الله عنه، فهذه سنة مستمرة، ولم أجد الحديث في السنن ولا المسانيد إلا ما ذكره صاحب كنز العمال عن الشعائر هذه، وابن أبي شيبة بهذا اللفظ يعنيه، فلم يتحقق عندي أحد من الاحتتمالين بعد. إزرة: بكسر أوله وسكون الزاء: اسم طبقة الإزار. يعني النبي ﷺ: [يقصد عثمان بصاحبي النبي ﷺ، وقائل ذلك سلمة]. نذير: بنون وذال آخره راء، مصغراً، وقيل: مكبراً، وفي نسخة: "يزيد" بفتح تحته وكسراً زاء آخره دال مهملة، ففي التقريب: مسلم بن نذير بنون مصغراً ويكال: ابن يزيد كوفي.

**بعضُلَة ساقِي أو ساقِه** فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبْيَتْ فأسفل، فإن أبْيَتْ فلَا حق للإزار في الكعبين.

بعضُلَة: كطلاحة، أو محركة: كل عصب له لحم بكثرة، والمراد هنا: اللحم المجتمع أسفل من الركبة من مؤخر الساق. ولفظ "أو ساقه" كذا بالشك عند المصنف وابن ماجة، والظاهر أنه شك من دون حذيفة، كيف! وهو صاحب القصة مع أن البيهقي أخرجها بدون الشك بلفظ "ساقِي"، والمعنى على الشك: أنه <sup>يَعْلَمُ</sup> أخذ بعضاً من ساق حذيفة، أو بعضُلَة ساق نفسه الشريفة. للإزار: هذا يقتضي أنه يحرم أن يبلغ به إلى الكعبين، ولذا قال الحنفي: يجب أن لا يصل إلى الكعبين، قال القاري: هو غير صحيح؛ لرواية البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار.

## بابُ ما جاء في مشية رسول الله ﷺ

حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي يونس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ﷺ، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحداً أسرع في مشية من رسول الله ﷺ، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا، وإنه لغير مكترٍ.

### باب۔ حضور اقدس ﷺ کی رفتار کا ذکر

فائدہ: حلیہ شریف کی روایات میں بھی حضور ﷺ کی رفتار کا ذکر تبعاً لذراً چکا ہے، اس باب میں صرف رفتار کی کیفیت کو مستقلًا بیان کرنا مقصود ہے۔

اس باب میں تین روایتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔

(۱) ابو ہریرہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا، چک اور روشنی گویا کہ آنتاب آپ ہی کے چہرہ میں چک رہا ہے۔ میں نے آپ سے زیادہ تیز رفتار بھی کوئی نہیں دیکھا، زمین گویا لپٹی جاتی تھی کہ ابھی چند منٹ ہوئے یہاں تھے اور ابھی وہاں۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ چلنے میں مشقت سے ساتھ ہوتے تھے اور آپ گویا اپنی معمولی رفتار سے چلتے تھے۔ فائدہ: یعنی آپ کی معمولی رفتار کے ساتھ بھی ہم لوگ انتہام سے ساتھ رہ سکتے تھے۔

مشیة: بالكسر كسدرة: ما يعتاده الإنسان من المشي، وقيل: هيئه المشي قاله المناوي. أبي يونس: اعلم أن المكتنى بهذه الكنية في الرجال خمسة نفر، والمراد هناك: سليم بن جبير مولى أبي هريرة. تجربى: شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن ونوره في وجهه ص، وعكس التشبيه مبالغة، وخاص الوجه بذلك؛ لأنه الذي به يظهر الحasan، لأن حسن البدن تابع لحسنه غالباً. في مشية: [المراد صفة مشيه ص العتاد من غير إسراع منه] بالكسر للهيئة، وفي نسخة بلفظ المصدر، وهو بفتح الميم بلا تاء، أي في كيفية مشيه قاله القاري.

لنجهد أنفسنا: [إنا لنتعب أنفسنا ونوقعها في المشقة في سيرنا معه ص]. وإنه لغير مكترٍ: [والحال أنه ص لغير مبال، ويشي على هيئته]. الالکرات: المبالغة، والمعنى: أنه ص غير مسرع بحيث تلحقه مشقة.

حدثنا علي بن حُجر وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن عبد الله مولى غُفرة قال: <sup>(١)</sup> حدثني إبراهيم بن محمد - من ولد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه - قال: كان عليّ إذا وصف النبي صلوات الله عليه قال: إذا مشى تَقْلِعَ كأنما يَنْحَطُ في صَبَبٍ. حدثنا سفيان بن وكيع، قال: أخبرنا أبي، عن المسعودي، عن عثمان بن مسلم بن هرمز، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه إذا مشى، تَكَفَّأْ تَكَفُّوا كأنما يَنْحَطُ من صَبَبٍ.

(٢) ابراهيم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت علی صلوات الله عليه جب آپ کا ذکر فرماتے تو یہ فرماتے کہ جب آپ چلتے تھے تو ہمت اور قوت سے پاؤں اٹھاتے۔ عورتوں کی طرح سے پاؤں زمین پر گھیٹ کر نہیں چلتے تھے۔ چلنے میں تیزی اور قوت کے لحاظ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اونچائی سے اتر رہے ہیں۔ فائدہ: یہ حدیث پہلے خلیفہ شریف میں مفصل گذرا چکی ہے۔

(٣) حضرت علی صلوات الله عليه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ جب تشریف لے چلتے تو کچھ جھک کر چلتے تھے گویا کہ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ فائدہ: یہ مضمون بھی گذشتہ احادیث میں چند جگہ آچکا ہے۔

غير واحد: منهم أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسِينِ، كَمَا تَقْدِمُ ذِكْرَهُمَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ جُزْءٌ مِّنْهُ، فَرَقَهُ الْمُصْنَفُ فِي الْمُوْضِعِيْنَ لِمَناسِبِ التَّرْجِمَةِ. غُفرة: بضم المثلثة فسكون فاء، تقدم في أول الكتاب. تقلع: بفتح اللام المشددة من قلع الشجرة إذا نزعها من أصلها، أي مشى بقوه؛ لأن التقلع رفع الرجل من الأرض بقوة. المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عقبة بن عبد الله بن مسعود، والحديث تقدم في الباب الأول من الشمائل برواية أبي نعيم عن المسعودي، وهذا مختصر منه. هرمز: بضم الهاء والميم، غير منصرف. صبب: [هو: ما انحدر من الأرض، كما في القاموس. و"من" معنى "في" كما في بعض النسخ. والحاصل: كأنما ينزل في موضع منحدر. وحمله على سرعة انطواء الأرض تحته خلاف الظاهر].

## باب ما جاء في تقنع رسول الله ﷺ

**حدثنا يوسف بن عيسى، أخبرنا وكيع، أخبرنا الربيع بن صبيح، عن يزيد بن أبىان، عن<sup>(١)</sup>**

### باب۔ حضرور اقدس ﷺ کے قناع کا ذکر

فائدہ: قناع وہ کپڑا کھلاتا ہے جس کو آنحضرت ﷺ سر مبارک پر عمامہ سے نیچے رکھ لیتے تھے تاکہ تیل کی وجہ سے عمامہ خراب نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی چند منافع علماء نے تحریر فرمائے ہیں۔  
اس باب میں ایک ہی حدیث ذکر کی گئی۔

(۱) حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرور اقدس ﷺ اپنے سر مبارک پر کپڑا اکثر رکھا کرتے تھے اور حضرور ﷺ کا یہ کپڑا چکناہٹ کی وجہ سے تیل کا کپڑا معلوم ہوتا تھا۔ فائدہ: یعنی جیسا اس کا کپڑا چکناہٹ ہتا ہے ایسا ہی یہ کپڑا بھی تیل کی کثرت استعمال سے چکناہٹ ہتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود نبی اکرم ﷺ کی خصوصیات میں یہ شمار کیا گیا ہے کہ حضرور کا یہ کپڑا امیلانہ ہوتا تھا۔

تقنُع: معروف، وهو: تغطية الرأس بطرف العمامة أو برداء، أعم من أن يكون فوق العمامة أو تحتها، لرواية البخاري في الهجرة: أنه **نَسْنَسَ** أتى بيت أبي بكر متقدعاً بشوبه، والظاهر أنه كان متغشياً به فوق العمامة، مستخفياً من أهل مكة، والمراد به هنا: هو إلقاء القناع على الرأس، وهو بكسر القاف: خرقه تلقى على الرأس بعد تدهينه؛ لثلا يصل أثر الدهن إلى القلسوة والعمامة. ثم جعله باباً مع أن حديثه سبق في "باب الترجل" لعله للتتبّيه عليه خاصة لاهتمامه **إِيَاهَا** قاله القاري، وقال المناوي: كثُرَ كلام الناس في الطيلسان، والحاصل أنه قسمان: محنك: وهو ثوب طويل عريض، قريب من الرداء، مربع، يجعل فوق العمامة، ثم يدار طرفه من تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعها، ثم يلقى طرافه على المنكبين، ومقوّر: وهو ما عدا ذلك، فيشمل المدور، والمثلث، والمربع والمسدول، وهو: ما يرخي طرافاه من غير ضمهما أو أحدهما، والأولى مندوب اتفاقاً، وينأى كل صلة وحضور جمعه وعيد وجمع، والثانية مكرهه بأنواعه؛ لأنه شعار أهل الذمة، ووقع في أكثر الأحاديث التعبر بالتطليس "بتقنيع"، وعن الطيلسان "بالقناع"، ومن ثم قال الحافظ ابن حجر في جميع المصطفى لبيت الصديق متنقعاً: أي مطليس رأسه، هذا أصل لبس الطيلسان، فما على الرأس مع التحنّيك الطيلسان، ويسمى رداء مجازاً، وما على الكتف هو الرداء الحقيقى، ويسمى طيلساناً مجازاً.  
الربيع: بن صبيح بالتكبير فيها، وهذا الحديث مكرر، تقدم بهذا السنّد بعينه وبهذا المتن بشيء من الزيادة في "باب الترجل" وحكموا على الحديث بالنکارة.

أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يُكثِرُ الْقِنَاعَ، كَانَ ثُوْبَهُ ثُوبٌ زَيَّاتٍ.

نے حضور کے کپڑوں میں جوں پر بھی تھی، نہ کھٹل خون کو چوس سکتا تھا۔ (قاری) علامہ رازی سے مناوی نے نقل کیا ہے کہ کمھی بھی آپ کے کپڑے پر کبھی نہیں بیٹھی۔

القِنَاعُ: [بكسر القاف: الخرقة التي تلقى على الرأس بعد استعمال الدهن؛ لتقي العمامة من الدهن]. ثوبه: قال القاري: أي: أعلى ثوبه أو قناعه الذي يستر به، وقال المناوي: كان طوق قميصه طوق قميص باائع الزيت، فإنه وإن ألقى القناع على رأسه يصل منه شيء إلى عالي ثوبه. قلت: والظاهر أن المراد من ثوبه هذا هو القناع، وحکاه المناوي في شرح باب الترجل عن شارح.

## باب ما جاء في جلسة رسول الله ﷺ

حدثنا عبد بن حميد، أئبنا عفان بن مسلم، أخبرنا عبد الله بن حسان، عن جدته، عن <sup>(١)</sup> قيلة بنت مخرمة، أنها رأت رسول الله ﷺ في المسجد،

### باب - حضور اقدس ﷺ کی نشست کا ذکر

فائدہ: یعنی حضور ﷺ کے بیٹھنے کی سیستمیں وارد ہوئی ہیں۔ اس باب میں تین احادیث روایت فرمائی ہیں۔

(۱) قید ﷺ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو مسجد (میں کچھ ایسی عاجزانہ صورت) میں گوٹ مارے بیٹھے دیکھا کہ میں رب کی وجہ سے کانپنے لگی۔ فائدہ: قرضاہ کی تصویر میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ دونوں رانیں کھڑی کر کے دونوں ہاتھوں سے ان کا احاطہ کرے اور سرین پر بیٹھے۔ اسی کو گوٹ مار کر بیٹھنا بھی کہتے ہیں۔ رب کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ یہ حالت فکر و رنج کی تھی، اور حضور کو فکر کسی معمولی بات سے ہونہیں سکتی تھی، اس لئے ان کو یہ خوف ہوا کہ مباداً امت پر کوئی عذاب تو نہیں آرہا، اس لئے کہ حضور کو امت کی فکر زیادہ رہتی تھی۔ یہ بظاہر وہی حدیث ہے جو حضور ﷺ کے لباس کے بارہویں نمبر پر تھوڑی سی گذر چکی ہے، وہاں بھی اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیا تھا۔ اس حدیث میں کچھ حصہ اور بھی ہے جس کو مصنف نے محضراً کر دیا ہے، وہ یہ کہ قید ﷺ کی یہ دہشت کی حالت دیکھ کر حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یا مسکینہ تو خوف زده ہو گئی۔ قید کہتی ہیں کہ میں حضور ﷺ کی پشت کی طرف تھی، حضور نے ادھر توجہ بھی نہیں فرمائی، زبان مبارک سے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ اے مسکینہ! سکون اختیار کر۔ حضور کا یہ فرمانا تھا کہ جس قدر خوف و دہشت مجھ پر تھی ساری جاتی رہی۔ بعض روایات میں یہ قصہ کسی مرد کے متعلق مذکور ہے، جیسا کہ حضور ﷺ کے لباس کے بیان میں گذر چکا ہے۔

جلسة: بكسر الجيم اسم النوع أي: هيئة جلوسه ﷺ، وظاهر الروايات الواردة ترداد الجلوس والقعود، وهو كذلك عرفا، وأما لغة ففي القاموس: قد يفرق فيجعل الجلوس لما هو من اضطجاع، والقعود لما هو من قيام قاله المناوي. قال القاري: والظاهر أن المراد بالجلسة المعونة: مقابلة القوم؛ ليشمل حديث الاستلقاء أيضاً. جدته: تقدم بعض الحديث في "باب اللباس" وذكر المصنف هناك اسم جدته: دحية وعليها، وتقدم هناك أن الصواب صفية ودحية بنى علية.

وهو قاعدُ الْقُرْفَصَاءَ، قالت: فلما رأيت رسول الله ﷺ التخشنع في الجِلْسَةِ أرجعتُ من الفرق. حدثنا  
بنفتح فاء وضمنها  
بالفاء والراء المفتوحين: الخوف<sup>(۲)</sup>  
سعید بن عبد الرحمن المخزومی وغیر واحد قالوا: أخبرنا سفیان، عن الزہری، عن عباد بن تمیم، عن

(۲) عباد کے چچا عبد اللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو مسجد میں چت لیٹھے ہوئے دیکھا، اس وقت حضور اپنے ایک پاؤں کو دوسرا پاؤں کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔

فائدہ: مسلم شریف کی روایت میں اس طرح لیٹھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ علماء نے دونوں کے درمیان میں مختلف طریقوں سے جمع فرمایا ہے۔ واضح توجیہ یہ ہے کہ اس طرح لیٹھنے کی دو صورتیں ہیں جو دونوں حدیثوں کا علیحدہ علیحدہ مصدق ہیں: ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں پاؤں پھیلا کر ایک قدم دوسرے قدم پر رکھ لے تو اس میں کچھ مضاائقہ نہیں اور یہ صورت اس حدیث کا مصدق ہے جو شاہکل میں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قدم کو دوسرے پاؤں کا گھٹنا کھڑا کر کے اس پر رکھے، یہ مسلم شریف کی روایت کا مصدق ہے۔ اس صورت میں ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں عام طور سے لنگی باندھنے کا دستور تھا، لنگی باندھ کر اس طرح لیٹھنے سے ستر کھل جانے کا احتمال قوی ہے اس لئے حضور ﷺ نے منع فرمایا۔ اس جگہ یہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ اس حدیث کو ہیئت نشست سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ علماء نے اس کی مخفف وجہ بتلائی ہیں، سہل یہ ہے کہ باب میں بیٹھنے سے مراد عام لیا جائے بیٹھنے اور لیٹھنے کو، اگرچہ لیٹھنے کی بعض روایات سونے کے بیان میں آئیں گی۔ یہ بھی ممکن ہے جو ابن حجر الشعیینے لکھی ہے کہ جب اس قسم کا لیٹھا (باوجود یہ کہ روایت میں اس کی ممانعت آئی ہے) مسجد میں جائز ہے تو بیٹھنا ہر قسم سے جائز ہوا۔

القرفصاء: بضم قاف وسكون راء وضم فاء فصاد مهملة، يمد ويقصر: جلسة الحتبى، يقال: قرفص الرجل إذا شد يديه تحت رجليه، والمراد ه هنا: أن يقع الرجل على أليته فيلتصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه، كما يحيى بالثوب، وقيل: أن يجلس على ركبته منكباً ويلتصق بفخذيه بطنه ويتأبّط كفيه قاله القاري. التخشنع: [أي: الخاشع خشوعاً تماماً.] الفرق: [شدة الخوف والهيبة] أي: من الخوف والفزع الناشي من علاه ﷺ من عظم المهابة والجلالة، أو من توهם نزول عذاب على الأمة، أو من غضب منه عليهم، أو للتأسي به؛ لأنه إذا كان معكم قربه من ربه غشيه من جلاله ما يصيره كذلك، فغيره يجب أن يرعد فرقاً، قاله المناوي. عباد: بفتح المهملة وتشديد الموحدة كشدّاد، وعنه هو عبد الله بن زيد بن عاصم، أخو تميم لأبيه، أو لأمه، يقال: هو الذي قتل مسيلمة الكذاب.

عمّه: أنه رأى النبي ﷺ مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا سَلْمَةُ بْنُ شَبَّابٍ، أَنَّبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَدْنِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

(۳) ابو سعيد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ جب مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو گوٹ مار کر تشریف رکھتے تھے فائدہ: گوٹ مار کر بیٹھنا یہ کھلاتا ہے کہ دونوں گھنٹوں کو کھڑا کر کے سُرین کے بل بیٹھے اور دونوں ہاتھوں سے پنڈلیوں پر حلقہ کر لے، با اوقات بجائے ہاتھوں کے کپڑا، لنگی، عمامہ وغیرہ اس طرح لپیٹا جاتا ہے کہ کمر اور پنڈلیوں پر لپٹ جائے۔ یہ بہت تواضع اور مسکنت کی نشست ہے، اس لئے حضور بھی اکثر ایسے ہی تشریف رکھتے تھے اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی، لیکن یہ مقصود نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی تشریف فرماتے تھے۔ اس لئے اب ابو داؤد کی اس روایت سے کچھ خلاف نہیں رہا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ صیحہ کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں چار زانو تشریف رکھتے تھے۔ ایسے ہی اور ان مختلف احادیث سے بھی خلاف نہیں رہا جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس طرح بیٹھنے میں علاوہ تواضع اور انکسار کے راحت بھی ہے، اس لئے ایک حدیث میں آیا ہے کہ گوٹ مار کر بیٹھنا عرب کی دیواریں ہیں،

مستلقیا: [الاضطجاع على القفا]. رجلیہ: قال القاري: أي مع نصب الأخرى أمامها، وهذا الحديث في الصحيحين، وهو بظاهره ينافي ما رواه مسلم عن حابر: أن النبي قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. قال الخطاطي: في الحديث الأول بيان جواز هذا الفعل، ودلالة على أن خبر النهي عنه إما منسوخ، وإما أن يكون علة النهي أن تبدوا العورة، وقيل: كان الفعل قبل النهي، أو لضرورة من تعب، أو لبيان الجواز، وقيل: وضع إحداها على الأخرى يكون على نوعين: أحدهما: أن تكونا ممدودتين إحداها فوق الأخرى، ولا بأس بذلك؛ لعدم الانكشاف حينئذ، والثاني أن ينصب إحداها ويضع الأخرى على الركبة المتصوبة، وهو محمل النهي. قال العسقلاني: والتأويل أول من ادعاه النسخ؛ لأنه لا يصار إليه بالاحتمال، وكذا القول: بأن الجواز من الخصائص؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال، ولأن بعض الصحابة كانوا يفعلون ذلك بعده ﷺ ولم ينكر عليهم مختصرًا. قال المناوي: وجمع بأن الجواز لمن أمن الانكشاف كالمتسرول، والنهي لمن لم يأمن كالمتسرر، وإنما أطلق النهي؛ لأن الغالب فيهم الاتساز. وهذا الجمع أولى كما للحافظ ابن حجر من ادعاء النسخ، وأما قول العصام: إنه كان لمرض، وإنما يتم إن عرف ذلك، ولم يرد. شیبیب: بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى، کطبیب. ربیع: براء مهملة فموحدة فحاء مهملة، مصغر ربع.

قال: كان رسول الله ﷺ إذا جلس في المسجد احتي بيديه. صلوات الله عليه.

یعنی جگل میں چونکہ دیواریں نہیں ہوتیں جس سے سہارا ہو سکے، اس لئے یہ قائم مقام دیوار کے ہے، بسا اوقات بجائے ہاتھوں کے کپڑا پیٹ لیا جاتا ہے جو مزید راحت کا سبب ہوتا ہے۔

احتی: [الاحتباء أن يجلس على أليته ويضم رجليه إلى بطنه بنحو عمامة يشدها عليهمما وعلى ظهره، واليدان بدل عما يختسي به من نحو عمامة، والاحتباء جلسة الأعراب] لا يخالف ما ورد من النهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب؛ لأن النهي جلب النوم، والإفضاء إلى انتقاض الوضوء، أو على إحداث الاحتباء، كما مال إليه الطحاوي، فهذا محمول على غير انتظار الصلوة، بل محمول على بعض الأوقات؛ لما في أبي داود برواية جابر: أنه عليه السلام كان إذا صلى الفجر جلس متربعاً، وكذلك في روايات أخرى، فهذا كلّه محمول على اختلاف الأوقات والتوضّع. صلوات: هكذا في بعض النسخ كما قاله القاري، وفي بعضها: صلوات الله وسلامه عليه.

## بابُ ما جاءَ فِي تُكَأَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

حدثنا عباس بن محمد الدُّورِي البغدادي، أخبرنا إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن سِمَاك بن حَرْبٍ، عن جابر بن سَمْرَة قال: رأيت رسول الله ﷺ مُتَكِّباً على وسادة على يساره. حدثنا حُمَيْدَ بْنَ مَسْعَدَةَ، أَخْبَرَنَا بِشْرٌ بْنُ الْمُفْضَلِ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ،

### باب۔ حضور اقدس ﷺ کے تکیہ کا ذکر

فائدہ: مصنف الشیعیہ نے اس باب میں چار حدیثیں ذکر فرمائی ہیں:

(۱) جابر بن سمرة نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو ایک تکیہ پر نیک لگائے ہوئے دیکھا، جو بائیں جانب رکھا ہوا تھا۔ فائدہ: تکیہ دائیں اور بائیں دونوں جانب میں جائز ہے۔ حدیث میں بائیں جانب کا لفظ کسی تخصیص کی وجہ سے نہیں، اتفاقی امر ہے، لیکن قواعدِ حدیث کے لحاظ سے بائیں کا لفظ یہاں مشہور روایات میں نہیں ہے، اس لئے امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے باب کے ختم پر اس لفظ پر کلام کیا ہے۔

تکاء: بضم أوله كـ "الْمَزَأَةَ": ما يتکأ عليه من وسادة وغيرها، أصلها "وَكَأَةٌ" أبدلت الواو تاءً. المراد هناك: ما أعد لذلك فخرج الإنسان منه، فإذا اتكأ عليه لا يسمى تكاء، ولذا ترجم المصنف لها ببيان فرقا بينهما، وقدم هذا؛ لأنه أصل في الاتقاء، وأما الاتقاء على الإنسان فعارض وقليل، والأوجه عندي أن هذه الترجمة تعم التكاء والاتقاء عليها، وغرض الترجمة الآتية جواز الاتقاء على الإنسان خاصة، فلا يشكل بالروايات الواردة فيها.

الدُّورِيَّ: بضم المهملة، قال شراح الشمائل: محله ببغداد، أو قرية من قراها، وقال صاحب المغني: قرية بعرق.  
وسادة: [ما يتوسد به من المخددة]. يساره: أي: حال كونها موضوعة على جانبه الأيسر، وهو بيان الواقع لا للتقيد، فيجوز الاتقاء على الوسادة بعينها ويساراً، وسيصرح المصنف بأن زيادة "على يساره" انفرد بها إسحاق، قال القاري والمناوي: لكنه مع ذلك محتاج به. الجريري: بضم الجيم وفتح الراء الأولى ففتحية ساكنة، هو سعيد بن إبليس الجريري.  
ابن أبي بكرة: [هو أول مولود ولد في البصرة، فهو بصرى تابعي.]

عن <sup>(۲)</sup> أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: ألا أحدثكم بأكابر الكافر؟ قالوا: بلى، يا رسول الله!

(۲) ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں کو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کہ ضرور یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ عزوجلّه کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کرنا۔ راوی کو شک ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی بات فرمائی تھی۔ اُس وقت حضور اقدس ﷺ کی چیز پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرماتھے، اور جھوٹ کا ذکر فرماتے وقت اہتمام کی وجہ سے بیٹھ گئے اور بار بار فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم لوگ یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش! اب حضور سکوت فرمادیں، بار بار ارشاد نہ فرمائیں۔ فائدہ: حضور ﷺ کے بار بار ارشاد فرمانے پر سکوت کی تمنا یا تو اُس عشق و محبت کی وجہ سے ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور ﷺ کے ساتھ تھی کہ حضور کو بار بار فرمانے پر تعجب ہو گا اور ہم لوگوں کے لئے ایک بار فرمانا بھی کافی ہے، اور ممکن ہے اس خوف سے ہو کہ حضور اقدس ﷺ پر ناراضی اور غصہ کے آثار ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس خطرہ سے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور ﷺ کوئی لفظ ایسا ارشاد فرمائیں کہ جو امت کے لئے باعث خرمان بن جائے۔ جن لوگوں کو کسی دینی یا دنیاوی دربار کی حاضری میسر ہوتی ہے وہ اس حالت سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ اور حضور ﷺ کا بار بار ارشاد فرمانا شدتِ اہتمام کی وجہ سے تھا کہ جھوٹ کی وجہ سے آدمی زنا، قتل وغیرہ بہت سے گناہوں میں بیٹھا ہو جاتا ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اُس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

أبيه: هو أبو بكرة نفيع ابن الحارث، صحابي مشهور. [ وإنما كثني بيكره؛ لأنه تدل على النبي ﷺ من حصن الطائف في بكرة لما نادى المسلمين: مَن نزل من المصادر فهو حرّ]. بأكابر الكافر: استشكل: بأن أكابر الكافر لا يكون إلا واحداً فكيف عدد هنها بضعاً؟ وأجيب بأجوبة شتى: منها أن المراد جنس معصية هي أكابر المعاصي الكبار، وقيل: إن الموصوف به إذا كان متعددًا كان المعنى متعددًا من الكافر كل منه أكبر من جميع ما عدا ذلك المتعدد، وقيل: يقصد بالأكابر الريادة على ما أضيف إليه لا الريادة المطلقة، كما بين في موضعه قاله القاري. واختلفوا أيضاً في معنى الكبيرة على أقوال كثيرة، محلها المطولات سيما شروح البخاري.

قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، قال: وجَلسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَكَبِّلاً - قال: وشهادة الزور - أو قول الزور - قال: فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا، حَتَّى قَلَنَا: لِيَتَهُ سَكَتَ! حَدَثَنَا قتيبة بن سعيد، حدثنا شريك، عن علي بن الأقمر،

کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کہ جھوٹ ایمان سے دور رہتا ہے۔ (اعتدال) اس حدیث شریف میں کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ شریعت میں گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں: ایک صغیرہ کہلاتے ہیں، جو وضو، نماز، روزہ، حج وغیرہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرے کبیرہ گناہ یعنی بڑے سخت گناہ کہلاتے ہیں، جن کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے ہرگز معاف نہیں ہوتے، البتہ حق تعالیٰ شانہ کسی کی رعایت فرمادیں تو یہ امر آخر ہے، مگر آئینی چیز یہی ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔

اس میں اختلاف ہے کہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ علماء نے مستقل تصنیف ان میں تحریر فرمائی ہیں۔ علامہ ذہبی رضی غیثیہ کی ایک کتاب اس مضمون میں مستقل ہے، جس میں چار سو کبیرہ گناہ گنوائے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسکری رضی غیثیہ نے بھی دو جلدیں میں ایک کتاب تصنیف کی ہے جو مصر میں چھپ گئی ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات وغیرہ ہر باب کے کبیرہ گناہ مستقل گنوائے ہیں، اور کل مجموعہ چار سو سر شہ مفضل شمار کرائے ہیں۔ ملا علی قاری رضی غیثیہ نے شرح شماکل میں مشہور کتاب رکو گنوایا ہے، جو حسب ذیل ہیں:

آدمی کا قتل کرنا، زنا کرنا، اغلام بازی، شراب پینا، چوری کرنا، کسی پر تہمت لگانا، سچی گواہی کا چھپانا، جھوٹی قسم کھانا، کسی کمال چھین لینا، بلا عذر کفار کے مقابلہ سے بھاگنا، سودی معاملہ کرنا، یتیم کا مال کھانا، رشتہ لینا، اصول یعنی والدین

متکبناً: أي: قبل الجلوس، والجملة حال، وهو يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس، وسبب الاهتمام كون الزور أسهل وقوعاً على الناس، والتهاون به أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع السليم، والخواطر على الزور كثيرة، كالعداوة والحسد وغيرهما، فاحتياج إلى الاهتمام به. وأشكل على الحديث: بأن الوارد فيه الاتكاء لا التكأة، فكان المناسب للباب الآتي. وأقصى ما قيل في دفعه: إنه يستلزم التكأة، وفيه ما فيه، هكذا قالت الشراح، ولا يشكل على عموم الترجمة كما تقدم. أو قول الزور: شك من الرواية، ورواية البخاري بدون الشك بلفظ: "الا وقول الزور، وشهادة الزور"، من عطف المخاص على العام.

وغیرہ کی نافرمانی کرنا، قطع رحمی کرنا، جھوٹی حدیث بیان کرنا، رمضان کا روزہ توڑ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، فرض نماز کو وقت سے آگے پیچھے پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، مسلمان کو یا کسی کافر کو جس سے معاہدہ ہونا حق مارنا، کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، غیبت کرنا بالخصوص کسی عالم کی یا حافظِ قرآن کی، کسی ظالم سے چغلی کھانا، دیوٹ پن کرنا یعنی اپنی بیوی بیٹی وغیرہ کے ساتھ کسی کے فخش تعلق کو گوارا کرنا، قرم سازی یعنی بھڑواپن کرنا کہ ابھی مرد عورت یا اس قسم کے دوسرا ناجائز تعلقات میں سعی کرنا، امر بالمعروف اور نهى عن المنکر چھوڑ دینا یعنی نیک کاموں کا حکم اور بُری باتوں سے روکنے کو باوجود قدرت کے چھوڑ دینا، جادو کا سیکھنا یا سکھانا، کسی پر جادو کرنا، قرآن پاک پڑھ کر بھلدا دینا، بلا مجبوری کسی جاندار کو جلانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید ہونا اور اُس کے عذاب سے نہ ڈرانا، عورت کا خاوند کی نافرمانی کرنا اس کی خواہش پر بلا وجہ انکار کرنا، چغلی کھانا۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے طور پر ان کو نقل کیا ہے۔ مظاہر حق ترجمہ مکھوۃ شریف کے شروع میں کہا رہا کہ مستقل باب ہے، اُس میں بھی ان کو اور اس قسم کے اور چند گناہوں کو گنوایا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک خواہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرے، یا عبادت میں، یا اُس سے استعانت حاصل کرنے میں، یا علم میں، یا قدرت میں، یا تصرف میں، یا پیدا کرنے میں، یا لپکرنے میں، یا کہنے میں، یا نام رکھنے میں، یا ذبح کرنے میں، یا نذر ماننے میں، یا لوگوں کے اس کی طرف امور سونپنے میں یعنی جیسے اللہ جل جلالہ کے سب کام سپرد ہیں اسی طرح اور کو بھی جانے۔ نیز امورِ ذیل بھی اس میں ذکر کیے ہیں:

گناہ پر اصرار کی نیت رکھنا، نشہ کی چیز بینا، اپنے محروم سے نکاح کرنا، جواہر لینا، کفار سے دوستی کرنا، باوجود قدرت کے جہاد نہ کرنا، مردار کا گوشت کھانا، نجومی اور کاہن کی تصدیق کرنا، قرآن پاک اور رسول اللہ ﷺ اور فرشتوں کو بُرا کہنا یا ان کا انکار کرنا، صحابہ کرام کو بُرا کہنا، بیوی اور خاوند میں لڑائی ڈلوانا، اسراف کرنا، فساد کرنا، کسی کے سامنے نگاہ ہونا (یعنی بیوی کے علاوہ)، بخل کرنا، پیشتاب اور منی سے پاک نہ کرنا یعنی اگر لگ جائیں تو نہ دھونا، تقدیر کو بھلانا، تکبر کی وجہ سے پانچھنخوں سے نیچے کرنا، نوحہ کرنا، بُرا طریقہ ایجاد کرنا، محسن کی ناشکری کرنا، کسی مسلمان کو کافر کہنا، حاضرہ سے صحبت کرنا، غہ کی گرانی سے خوش ہونا، جانور سے بد فعلی کرنا، امرد کو شہوت سے دیکھنا، کسی کے گھر میں جھاٹکنا، عالموں اور حافظوں کی حقارت کرنا،

عن<sup>(۱)</sup> أبي جعْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: أَمَا أَنَا فَلَا أَكُلُ مُتَكَبِّلًا. حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهَدِّيٍّ، أَخْبَرَنَا

اگر ایک سے زیادہ بیباں ہوں تو ان کے درمیان مساوات نہ کرنا، امیر سے عہد شکنی کرنا وغیرہ وغیرہ بتائے ہیں۔ ان کبار میں بھی درجات ہیں، اسی وجہ سے حدیث بالا میں کبار کے بڑے گناہ فرمایا گیا ہے اور مختلف احادیث میں موقع کے مناسب مختلف قسم کے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصرار کرنے سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے اور توبہ استغفار کرنے سے کبیرہ گناہ بھی باقی نہیں رہتا، معاف ہو جاتا ہے۔ اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے اس فعل پر واقعی ندامت ہو اور آئندہ کو اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ اب کبھی نہ کروں گا، چاہے اس کے بعد کسی دوسرے وقت وہ پھر سرزد ہی ہو جائے، اس سے وہ پہلی توبہ زائل نہیں ہوتی۔ توبہ کے وقت یہ پختہ ارادہ ہونا چاہئے کہ پھر کبھی نہیں کروں گا۔

(۲،۳) ابو جعیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ فائدہ: اس لئے کہ یہ صورت تواضع کے خلاف ہونے کے علاوہ بہت کھانا کھانے کی طرف مبخر ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلی بھی بڑھ جاتا ہے اور سُرعتِ ہضم بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اپناؤ ذکر حضور ﷺ نے اس لئے ارشاد فرمایا تاکہ اس کا اتباع کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ٹیک لگانے کی چار صورتیں ہیں اور چاروں اس میں داخل ہیں: اول یہ کہ دائیں یا باکیں پہلو کو دیوار یا تکیہ وغیرہ پر سہارا لگائے۔ دوسرے یہ کہ ہتھیلی سے زمین پر سہارا لگائے۔ تیسرا یہ کہ چوزانو یعنی چوڑکی مار کر کسی گدے وغیرہ پر بیٹھے۔ چوتھے یہ کہ کمر گاؤ تکیہ یا دیوار سے لگائے کہ یہ سب ہی صورتیں بفرقِ مراتب ٹیک میں داخل ہیں۔

أبي جعيفه: بضم الجيم وفتح الحاء المهملة، اسمه وهب بن عبد الله، صحابي صغير، توفي النبي ﷺ وهو لم يبلغ. أما أنا: "أَمَا" هنا مجرد التأكيد. قال القاري: سب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور في حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجه، قال: أهدىت للنبي ﷺ شاة، فجثا على ركبتيه يأكل، فقال الأعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال ﷺ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا عَنِيدًا. متكناً: [المتكىء: المائل إلى أحد الشقين معتمدًا عليه وحده، وحكمه كراهة الأكل متكناً: أنه فعل المتكبرين المكثرين من الأكل نهمة، والكرامة مع الاضطجاع أشد منها مع الاتكاء]. مهدي: بفتح ميم وسكون هاء، آخره ياء مشددة.

سفیان، عن علی بن الْأَقْمَرِ قَالَ: سَعَتْ<sup>(٤)</sup> أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَكُلُ مُتَّكِّئًا. حَدَثْنَا يُوسُفُ بْنُ عَيْسَى، حَدَثْنَا وَكِيعٌ، حَدَثْنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِيمَاكَ بْنَ حَرْبٍ، عَنْ<sup>(٥)</sup> جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِّئًا عَلَى وِسَادَةٍ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: لَمْ يُذْكُرْ وَكِيعٌ عَلَى يَسَارِهِ". وَهَكُذا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْرَائِيلٍ نَحْوَ رَوَايَةِ وَكِيعٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى فِيهِ "عَلَى يَسَارِهِ" إِلَّا مَارُوِيًّا إِسْحَاقَ بْنَ مُنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلِ.

(٥) جابر بن سمرة رضي الله عنه كتبته ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو ایک تکیہ پر نیک لگائے ہوئے دیکھا۔ فائدہ: یہ وہی حدیث ہے جو باب کے شروع میں گذر چکی۔ مصنف رضي الله عنه کو اس پر کلام کرنا مقصود تھا اس لئے مکرر ذکر فرمایا۔

سفیان: هو الثوري، ولعل المصنف ذكر هذا السنن لتقوية الرواية، فإن شريكا سيء الحفظ عندهم. قال أبو عيسى أخ: غرض المصنف زيادة لفظ "عن يساره" غريب، تفرد به إسحاق بن منصور المتقدم روایته في أول الباب، وكذا تكلم المصنف على هذه الزيادة في جامعه.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي اتْكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عمرو بن عاصم، أخبرنا هاد بن سلمة، عن <sup>(١)</sup> حميد،

**باب۔ حضور اقدس ﷺ کا تکیہ کے علاوہ کسی اور چیز پر ٹیک لگانے کا ذکر**  
**فائدہ:** تکیہ کا ذکر پہلے باب میں گذر چکا ہے۔ اس کے علاوہ حضور کا آدمیوں پر بیماری کی حالت میں سہارا اور ٹیک لگانا بھی ثابت ہے، بظاہر اسی لئے مصنف رسنیجیہ نے اس باب کو مستقل ذکر کیا۔  
 اس باب میں دو روایتیں ہیں:

(۱) حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کی طبیعت ناساز تھی اس لئے مجرہ شریفہ سے حضرت اسامہ رض پر سہارا کیے ہوئے تشریف لائے اور صحابہ رض کو نماز پڑھائی۔ حضور اقدس ﷺ اس وقت ایک یمنی متقدش چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ **فائدة:** یہ حدیث حضور اقدس ﷺ کے لباس کے بیان میں نمبر ۲ پر گذر چکی ہے۔

اتکاء: قال بعض الشرح: إن الغرض من الباب السابق بيان تككيته عليه، وفي هذا بيان الاتكاء المصدر، فالفرق بينهما بالمعنى المصدري وبيان ما اتكى عليه، ولذا قالوا لبعض الروايات المتقدمة في الترجمة السابقة الأولى: ذكره في الباب الآتي. والأوجه عندي في بيان الفرق في الترجيحتين: أن في الأولى كان ذكر الوسادة المعروفة أعم من بيانها وبيان الاتكاء عليها، وفي هذه الترجمة بيان الاستناد على غير الوسادة من الإنسان وغيره، بل يظهر من ملاحظة الروايات أن الغرض هنا الاتكاء على الإنسان خاصة، فكرامة الإنسان يوهم عدم جواز الاتكاء عليه، ولذا أفرد هذا الباب، فتأمل. ثم رأيت القاري وغيره مالوا إلى قريب من ذلك التوجيه، فللهم الحمد والمنة.

حمد بن سلمة: وانختلف في الحديث على حماد بن سلمة، فقد أخرجه أحمدر في مسنده برواية عبد الله بن محمد عن حماد عن حبيب بن الشهيد عن أنس: أن رسول الله ﷺ خرج وهو يتوكأ على أسامة بن زيد متتوشحاً في ثوب قطري فصلى بهم - أو قال: مشتملاً - وبهذا السند عن حماد عن حميد عن أنس مثله، وبرواية سليمان بن حرب عن حماد عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس قال: خرج رسول الله ﷺ يتوكأ على أسامة بن زيد متتوشحاً في ثوب قطري فصلى به - أو قال: مشتملاً -، وبرواية عفان عن حماد عن حميد عن الحسن وعن أنس فيما يحسب حميد: أن رسول الله ﷺ خرج، وهو متوكأ علىأسامة بن زيد، وهو متتوشح بثوب قطن، قد خالف بين طرفيه، فصلى بالناس.

عن أنس رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان شاكياً، فخرج يتوسكاً على أسامة، وعليه ثوب قطريٌ قد توشح به، فصلى بهم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا عطاء بن مسلم الخفا الحلبـي، أخبرنا جعفر بن بـرقـان، عن عطاء ابن أبي رباح، عن <sup>(٢)</sup> الفضل بن عباس قال: دخلت على رسول الله ﷺ في مرضه الذي توفي فيه،

(٢) فضل بن عباس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس سنتیہ کی خدمت میں آپ کے مرض الوفات کی حالت میں حاضر ہوا۔ حضور اقدس سنتیہ کے سر مبارک پر اس وقت زرد پٹی بندھی ہوئی تھی، میں نے سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے فضل! اس پٹی سے میرے سر کو خوب زور سے باندھ دو، پس میں نے تعمیل ارشاد کی، پھر حضور بیٹھے اور میرے مونڈھ پر نیک لگا کر کھڑے ہوئے اور مسجد تشریف لے گئے۔ اس حدیث میں مفصل قصہ ہے۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو درد کی وجہ سے پٹی باندھ رکھی تھی۔ بعض علماء نے بجائے پٹی کے عمامہ کا ترجمہ کیا ہے اور حضور اقدس سنتیہ کا مختلف رنگ کے عمامے باندھنا ثابت کیا ہے، منجملہ ان کے زرد عمامہ کا اس حدیث سے کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس قصہ کی طرف اشارہ کیا ہے، مجمع الزوائد میں یہ مفصل مذکور ہے۔ حضرت فضل رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے حضور کا ہاتھ پکڑا، حضور مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کروں۔ میں لوگوں کو اکٹھا کر لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و شکر کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا: میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آگیا ہے اس لئے جس کی کمرپ میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے،

شاكياً: أي: مريضا، والظاهر أنه كان مرض وفاته عليه. والحديث تقدم في اللباس برواية محمد بن الفضل عن حماد عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس. ثوب قطري: [وهو نوع من البرود اليمنية، يُتَّخذ من قطن، وفيه حرمة وأعلام، أو نوع من حلل جياد، تُحمل من بلد بالبحرين اسمها قطر]. توشح: [أي: تغشى به، بأن وضعه فوق عاتقه الذي هو موضع الرداء من المنكب، واضطبع به كالخرم، أو خالف بين طرفيه وربطهما بعنقه]. الخفاف: بشدید الفاء الأولى: صانع الخف أو باائعه، قاله القاري، وجزم السمعاني في أنسابه بالأول. كان رجلا صالحا، دفن كتبه فكان يحدث بالحفظ، فيتوهם كثيرا.

وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلّمت فقال: يا فضل! قلت: لَيْكَ يا رسول الله! قال: أشدُّ بهذه العصابة رأسي، قال: ففعلت، ثم قعد، فوضع كفه على منكبي، ثم قام فدخل في المسجد. وفي  
 فاتحاءً عليه اعتماده عليه في القيام  
 الحديث قصة.

بدلہ لے لے اور جس کی آبرو پر میں نے کوئی حملہ کیا، ہو میری آبرو سے بدلہ لے لے۔ جس کا کوئی مالی مطالبه مجھ پر ہو وہ مال سے بدلہ لے لے، کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھے (بدلہ لینے سے) رسول اللہ کے دل میں بعض پیدا ہونے کا ذرہ ہے کہ بعض رکھنا نہ میری طبیعت ہے نہ میرے لئے موزوں ہے۔ خوب سمجھ لو! کہ مجھے بہت محظوظ ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا معاف کر دے کہ میں اللہ جل شانہ کے یہاں بنشاشتِ نفس کے ساتھ جاؤں۔ میں اپنے اس اعلان کو ایک دفعہ کہہ دینے پر کفایت کرنا نہیں چاہتا، پھر بھی اس کا اعلان کروں گا، چنانچہ اس کے بعد منبر سے اُتر آئے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر منبر پر تشریف لے گئے اور وہی اعلان فرمایا، نیز بعض کے متعلق بھی مضمون بالا کا اعادہ فرمایا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمے کوئی حق ہو وہ بھی ادا کر دے اور دُنیا کی رُسوائی کا خیال نہ کرے کہ دُنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تین درہم آپ کے ذمے ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی مطالبه کرنے والے کی نہ تنذیب کرتا ہوں، نہ اس کو قسم دیتا ہوں لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہیں؟

عصابة: بكسر العين المهملة أي: خرقة أو عمامة، قال القاري: لكن قوله الآتي: "أشدد بها رأسي" يؤيد الأول، بل يعني، قال المناوي: وهو غير مرضى؛ إذا العمامة يشد بها الرأس كما لا يخفى اهـ. قلت: و يؤيد الأول ما في المواهب برواية الدارمي عن أبي سعيد قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن في المسجد وهو معصوب الرأس بخرقة. الحديث. قال الزرقاني: أي من أجل الصداع. أشدُّ: [أي: ليسكن الألم بالشد، فيخفّ إحساسه به. و يؤخذ من ذلك: أن شد العصابة على الرأس لا ينافي الكمال والتوكّل؛ لأن فيه إظهار الافتقار والمسكنة]. قصة: ذكرها في جمع الزوائد عن الفضل بن عباس قال: جاءني رسول الله فخرجت إليه فوجده موعوقاً قد عصب رأسه، قال: خذ بيدي يا فضل! فأخذت بيده حتى انتهى إلى المنبر، الحديث، رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وأبو علي بنحوه، وقال في آخره: فقام رجل فقال: يا رسول الله! ابن حبان، الحديث. وفي إسناد أبي يعلى عطاء بن مسلم، وثقة ابن حبان وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجال أبي يعلى ثقات، وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم. انتهى ما في جمع الزوائد.

انہوں نے عرض کیا کہ ایک سائل ایک دن آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے مجھ سے فرمادیا تھا کہ اس کو تین درہم دے دو۔ حضور نے حضرت فضل سے فرمایا کہ اس کے تین درہم ادا کر دو۔ اس کے بعد ایک اور صاحب اٹھے انہوں نے عرض کیا کہ میرے ذمہ تین درہم بیت المال کے ہیں، میں نے خیانت سے لے لئے تھے۔ حضور نے دریافت فرمایا کیوں خیانت کی تھی؟ عرض کیا: میں اس وقت بہت محتاج تھا۔ حضور نے حضرت فضل سے فرمایا کہ ان سے وصول کرو۔ اس کے بعد پھر حضور نے اعلان فرمایا کہ جس کسی کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرائے (کہ اب روانگی کا وقت ہے) ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، بہت سونے کا مریض ہوں۔ حضور نے دعا فرمائی یا رسول اللہ! اس کو سچائی عطا فرماء، ایمان (کامل) نصیب فرماء اور (زیادتی) نیزد کے مرض سے صحت بخش دے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں جھوٹا ہوں اور منافق ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ اپنے گناہوں کو پھیلاتے ہو۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا عمر! اچپ رہو، دنیا کی رسوانی آخرت کی رسوانی سے بہت بہکی ہے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ! اس کو سچائی اور (کامل) ایمان نصیب فرماء اور اس کے احوال کو بہتر فرمادے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجمع سے کوئی بات کہی، جس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر میرے ساتھ ہیں اور میں عمر کے ساتھ ہوں، میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے جدھر بھی وہ جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں بزدل ہوں، سونے کا مریض ہوں۔ حضور ﷺ نے ان کے لئے بھی دعا فرمائی۔ حضرت فضل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم دیکھتے تھے کہ ان کے برابر کوئی بھی بہادر نہ تھا۔ اس کے بعد حضور اقدس ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور اسی طرح عورتوں کے مجمع میں بھی اعلان فرمایا اور جو جو ارشادات مردوں کے مجمع میں فرمائے تھے یہاں بھی ان کا اعادہ فرمایا۔ ایک صحابیہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اپنی زبان سے عاجز ہوں۔ حضور نے ان کے لئے بھی دعا فرمائی۔ (مجموع الزواائد) ان حضرات کا اپنے کو منافق فرمانا اس وجہ سے تھا کہ اللہ کے خوف سے یہ حضرات بہت زیادہ متصف رہتے تھے، جس کے چند واقعات ”حکایاتِ صحابہ“ کے باب دوم میں لکھے جا چکے ہیں۔ اسی غلبہ خوف سے اپنے اوپر نفاق کا شبهہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو باتفاق اہل حق تمام امت میں افضل ہیں، یہ شبہ ہو جاتا تھا، جیسا کہ ”حکایاتِ صحابہ“ میں حضرت حنظہ رضی اللہ عنہ کے قصہ میں مذکور ہے۔ ابن الی ملیک کہتے ہیں

کہ میں نے تمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پایا ہے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے منافق ہونے سے ڈرتا تھا، کہ مبادا میں منافق تو نہیں ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ جو مشہور اکابر صوفیہ میں ہیں اور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو گذر چکے یعنی صحابہ کرام اور وہ مسلمان جو موجود ہیں یعنی بقیہ صحابہ اور تابعین کوئی بھی ان میں ایسا نہیں ہے جو اپنے نفاق سے نہ ڈرتا ہو اور گذشتہ زمانہ میں اور موجودہ دور میں کوئی بھی منافق ایسا نہیں ہے جو مسلمان نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یہ بھی مقولہ ہے کہ جو نفاق سے نہ ڈرتا ہو وہ منافق ہے۔ ابراہیم تیسی جو فقہاء تابعین میں ہیں، کہتے ہیں کہ جب بھی اپنی بات کو اپنے فعل پر پیش کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ جھوٹ نہ ہو۔ (بخاری شریف فتح الباری) یہی مطلب ہے ان سب حضرات کے نفاق سے خوف کا کہ اپنے اعمال کو بیچ اور کالعدم سمجھتے تھے اور پند و نصیحت وغیرہ احوال کے اعتبار سے ڈر رہتا تھا کہ یہ نفاق نہ بن جائے۔

## بابُ ما جاءَ فِي صَفَةِ أَكْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

حدثنا محمد بن بشّار، حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان<sup>بن عيسية</sup>، عن سعد بن إبراهيم، عن ابن لِكَعْبٍ بن مالكٍ، عن <sup>(أ)</sup> أبيه: أن النبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ ثَلَاثًا.

## باب۔ حضور اقدس ﷺ کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ

فائدہ: یعنی کھانا تناول فرمانے کے بعض آداب کا بیان۔ اس باب میں پانچ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں:

(۱) کعب بن مالک<sup>رض</sup> فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ اپنی انگلیاں تین مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے۔ فائدہ: کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے انگلیاں چاٹ لینا مستحب ہے، البتہ اس روایت کی بنا پر بعض کے نزدیک تین مرتبہ مستحب ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تین مرتبہ مراد نہیں بلکہ تین انگلیاں چانٹا مراد ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے، چنانچہ اسی باب میں خود کعب بن مالک<sup>رض</sup> کی روایت آگئے آرہی ہے، لیکن بعض شرح حدیث نے فرمایا ہے کہ یہ مستقل ادب ہے کہ تین مرتبہ چانٹے سے بالکل صفائی ہو جاتی ہے اور تین انگلیاں جو دوسری روایت میں آرہا ہے وہ مستقل ادب ہے۔

أَكْلٌ: هو إدخال الطعام الجامد من الفم إلى البطن، سواءً كان بقصد التغذى أو غيره كالتفكيره [الأَكْل بفتح الميم: إدخال جامد من الفم إلى البطن، والشراب: إدخال المائع، وقيل: الأَكْل: إدخال شيء من الفم إلى البطن بقصد الاغتناء، والأول أولى. سعد بن إبراهيم: هو الصواب، فما في بعض النسخ "سعید بن إبراهيم" سهو من الكاتب، قاله القاري. قلت: وليس في الرواية أَحَد اسمه سعید بن إبراهيم، فهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى. ابن لکعب: اختلف في اسمه فقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، قال القاري: جاء في رواية بالشك بينهما، قال ميرك: والصواب عبد الله. قلت: وجزم شيخنا في البذل: بأنه عبد الرحمن، ورواية الشك أخرى جها مسلم بطريقين، قال النووي: لا يضر الشك في الرواى إذا كان بين الثقتين، فإن ابنى لکعب هذان ثقنان. قلت: وأخرجها مسلم بطرق عن عبد الرحمن. يلعل: [أى: يلحسُها، فيسن ذلك ستة مؤكداً افتداء برسول الله ﷺ]. وجاءت علة لعن الأصابع في رواية، وهي: إذا أكل أحدكم طعامه فليلعنه أصابعه؛ فإنه لا يدرى في أينهن البركة.]

قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشّار هذا الحديث، قال: يلعقُ أصابعه الثلاث. حدثنا الحسن بن عليّ البَحَلَلِ، حدثنا عفان، حدثنا حمّاد بن سَلَمة، عن ثابت، عن أنس بن ميقون قال: كان النبي ﷺ إذا أكل طعاماً، لعِقَ أصابعه الثلاث. حدثنا الحسين بن عليّ بن يزيد الصَّدَائِيّ البغداديّ، حدثنا يعقوب بن إسحاق - يعني الحضرميّ - أخبرنا شعبة، عن سفيان الثوري، عن عليّ بن الأقمر، عن أبي جحيفة قال: قال النبي ﷺ: أما أنا فلا أكل متكتنا.

(٢) حضرت أنس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ فائدہ: حضور کی عادتِ شریفہ تین ہی انگلیوں سے کھانا نوش فرمانے کی تھی۔ اگرچہ بعض روایات سے پانچوں انگلیوں سے کھانا بھی معلوم ہوتا ہے لیکن تین انگلیاں جن میں انگوٹھا، مسجد (شهادت کی انگلی) اور سطی (در میانی انگلی) ہے، اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ تین انگلیوں سے کھانے کی مصلحت لقمه کا چھوٹا ہونا ہے تاکہ زیادہ مقدار میں نہ کھایا جائے۔ امام نووی رضی اللہ عنہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان احادیث سے تین انگلیوں سے کھانے کا استحباب معلوم ہوتا ہے، لہذا چو تھی یا پانچوں انگلی بلا ضرورت نہ شامل کرے، البتہ اگر ضرورت ہو یعنی کوئی ابھی چیز ہو جس کو تین انگلیوں سے کھانے میں وقت ہو تو مضائقہ نہیں ہے۔ ملا علی قاری رضی اللہ عنہ علیہ نے لکھا ہے کہ پانچوں انگلیوں سے کھانا حریصوں کی علامت ہے اور لقمه کے بڑا ہونے کی وجہ سے باوقات فم معدہ پر بوجھ اور حلق میں اٹک جانے کا سبب بھی ہو جاتا ہے۔

(٣) ابو جحيف رضي الله عنه كہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔

قال أبو عيسى: لعل غرض المصنف بيان أن لفظ: "يلعق أصابعه الثلاث" محفوظ دون "أصابعه ثلاثة" ولذا أيده برواية أنس الآية، وسيأتي رواية غير ابن بشار قريباً. قال القاري: الظاهر ما قاله ميرك من: أن التقدير ثلاثة من الأصابع؛ ليوافق رواية "أصابعه الثلاث"، ومن جعله قيداً لـ"يلعق"، وزعم أن معناه كل واحدة من أصابعه ثلاثة مرات فقد أبعد من المرام؛ فإنه لم يأت التصریح في رواية أنه يلعق أصابعه ثلاثة مرات، ووقع التصریح بـ"يلعق أصابعه الثلاث" في كثير من الطرق. یزید: بالياء في أوله، فما في بعض النسخ بدون الياء بلغط "زید" سهو من الناسخ، قاله القاري، وـ"الصدائی" بضم الصاد المهملة، نسبة إلى صداء بالمد: اسم قبيلة. الحضرمي: نسبة إلى "حضرموت" قبيلة باليمن، ويعقوب هذا أحد القراء العشرة المعروفة.

حدثنا محمد بن بشّار، حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ، حدثنا سفيان، عن عليّ بن الأقمر، نحوه.  
 حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانيّ، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عمروة، عن ابن لکعب بن مالک، عن <sup>(٤)</sup> أبيه قال: كان رسول الله ﷺ يأكل بأصابعه الثلاث، ويلعّقهنّ.

فتح العین

فائدہ: یہ حدیث ایک باب پہلے گزر چکی ہے۔

(۲) کعب بن مالک رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کی عادتِ شریفہ تین انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی اور ان کو چاٹ بھی لیا کرتے تھے۔ فائدہ: بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ پہلے نیچ کی انگلی چاٹتے تھے، اس کے بعد شہادت کی انگلی، اس کے بعد انگوٹھا۔ یہی تین انگلیاں تھیں جن سے کھانا تناول فرمانے کا معمول میرے آقا کا تھا۔ اس ترتیب میں بھی علماء نے متعدد مصادر بیان فرمائے ہیں: ایک یہ کہ انگلیاں چاٹنے کا دور اس طرح دائیں کو چلتا ہے کہ شہادت کی انگلی درمیانی انگلی کے دائیں جانب واقع ہوگی، دوسرے یہ کہ نیچ کی انگلی لمبی ہونے کی وجہ سے زیادہ ملوٹ ہوتی ہے اس لئے بھی اس سے ابتدا مناسب ہے۔ خطاب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض بے وقوف انگلیاں چاٹنے کو ناپسند اور قبیح سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو اتنی عقل نہیں کہ انگلیوں پر جو کھانا لگا ہوا ہے وہی تو ہے جو اتنی دیر سے کھایا جا رہا تھا اسی میں کیا تھی چیز ہو گئی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے فعل کو قبیح سمجھے تو اس کے متعلق کلام کیا جاسکتا ہے، حضور اقدس ﷺ کے کسی فعل کو قباحت کی طرف منسوب کرنے سے اندیشہ کفر ہے۔ (جامع الوسائل) درحقیقت ایسے امور میں عادت کو بڑا خل ہوتا ہے، جن کو عادت ہوتی ہے ان کو التفات بھی نہیں ہوتا، اس لئے اگر کسی کو کراہت طبعی اپنے فعل سے ہو بھی تب بھی عادت کی کوشش کرنا چاہئے۔ بندہ جب حجاز گیا تھا تو وہاں کے بعض احباب نے جو ہندوستان کبھی نہیں آئے تھے مجھ سے نہایت ہی تجھب اور بڑی حرمت سے یہ پوچھا تھا،

محمد: قال البيهقي تبعاً للمناوي في الفرق بين هذه الرواية ورواية الحسين والصدائي المتقدمة: أن الحديث مرسل في هذا الإسناد، وقال القاري: ظاهره أنه موقف عليه، ويحمل رفعه. وليت شعرى! كيف حكموا عليه بالإرسال أو الوقف وقد تقدم بهذا السند مرفوعاً متصلاً في "باب تكأة رسول الله ﷺ" وإنما كرره هنا لاختلاف ترجمة الباب، فتأمل. هارون: هذا هو الحديث الذي أشار إليه المصنف أن غير ابن بشار رواه: "يلعّق أصابعه الثلاث"، ولم يظهر لي وجه في الفصل بالأجنبي بين روایتی ابن کعب، وکان حقه أن یذکر معه، ومثل هذا یناسب إلى النساخ، وللتوجیه مساغ.

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْيَعَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِينَ، حَدَّثَنَا مُصْبَعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ<sup>(٥)</sup> أَنَسَّ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتْمَرًا فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُهُ وَهُوَ مُقْعِدٌ مِنَ الْجُمُوعِ.

ہم نے سنائے کہ ہندوستان میں کوئی پھل آم کھلاتا ہے، اس کے متعلق ایسی گندی بات سنی ہے کہ حیرت ہوتی ہے، اس کو منہ میں لے کر چوپا جاتا ہے پھر باہر نکالا جاتا ہے، پھر اس کو منہ میں لے کر پھوپھو سا جاتا ہے پھر اس کو نکال کر دیکھتے ہیں، پھر منہ میں لے لیتے ہیں، غرض اس انداز سے وہ گھناؤٹ سے تعبیر کر رہے تھے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو اس تذکرہ سے قے ہو جائے گی۔ لیکن کسی ہندی کو کراہیت کا خیال بھی نہیں آتا۔ ایک اسی پر کیا موقف ہے فیرینی کا چچہ سارا منہ میں لے لیا جاتا ہے، پھر اسی لعاب کے بھرے ہوئے کورکابی میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر دوبادہ اور سہ بارہ۔ اسی طرح اور سیکڑوں مناظر ہیں کہ ان کے عادی ہونے کی وجہ سے کراہیت کا وہم بھی نہیں ہوتا۔

(۵) انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجو ریں لائی گئیں تو حضور ان کو نوش فرمائے تھے اور اس وقت بھوک کی وجہ سے اپنے سہارے سے تشریف فرمائیں تھے بلکہ اکڑوں بیٹھ کر کسی چیز پر سہارا لگائے ہوئے تھے۔ فائدہ: یعنی کمر کو دیوار وغیرہ کسی چیز سے بیک رکھا تھا۔ کسی چیز پر بیک لگا کر کھانے کی احادیث میں ممانعت آئی ہے، لیکن اس جگہ پر چونکہ ضعف کے عذر سے تھا اس لئے نہ اس روایت پر ان احادیث کے خلاف کاشکال ہو سکتا ہے جن میں ممانعت آئی ہے اور نہ اس روایت سے بلاذر بیک لگا کر کھانے کا استحباب ثابت ہو سکتا ہے۔

مَقْعٌ: قال المناوي: أي: متساند إلى ما وراءه من الضعف الحاصل له بسبب الجموع، ففي القاموس: أقعى في جلوسه: تساند إلى ما وراءه، والجملة حال من فاعل "يأكل" وليس الإسناد من آداب الأكل؛ لأنَّ فعله للضرورة، وما تقرر عرف أنه ليس المراد هنا الإقامة المسنون في الصلة، وهو: أن يجلس على عقيبه، ولا المكروه في الصلة، وهو: أن يجلس على أليته ناصباً فحذيه. وسقط منه قول شارح: إن الأقعاء مكروه في الصلة دون هئنا. قال القاري: فإذا كان الإقامة له معان فيحمل إعماوه على ما ثبت من جلوسه عند أكله، وقد ثبت الاحتباء فتعين حمله عليه. ونقل الجوهرى عن اللغويين بالجمع بين هيئة الاحتباء والتساند إلى الوراء، فمعنى قوله: "مَقْعٌ مِّنَ الْجَمْعِ" أي: محتياً مستنداً إلى ما وراءه من الضعف الحاصل له بالجماع.

مِنَ الْجَمْعِ: يشكل عليه ما ورد في روايات النهي عن الوصال من قوله بِكُلِّ: إنَّ أَيْتَ يطْعَمُنِي رَبِّي وَيُسْقِيَنِي، وَجَمِيعُ بَنِيهِمَا بِوُجُوهٍ.

## بابُ ما جاءَ في صفةِ خبزِ رسول الله ﷺ

حدثنا محمد بن المثنى و محمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد، يحدث عن الأسود بن يزيد، عن <sup>(١)</sup> عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلوات الله عليه من خبز الشاعر يومين متتابعين،

### باب۔ حضور اقدس ﷺ کی روٹی کا ذکر

فائدہ: یعنی کس قسم کی روٹی کھانے کا آپ کا معمول تھا، اس باب میں آٹھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) حضرت عائشہ رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کی وفات تک حضور کے اہل و عیال نے مسلسل دو دن کبھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ فائدہ: یعنی کھجوروں سے اگرچہ اس کی نوبت آگئی ہو لیکن روٹی سے کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ مسلسل دو دن ملی ہو۔ لیکن اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، وہ یہ کہ روایات سے ثابت ہے کہ حضور اقدس ﷺ اپنی بیسیوں کا ایک سال کا نفقہ مرحمت فرمادیا کرتے تھے۔ اب ان دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض ہے۔ علماء نے اس کی مختلف توجیہیں فرمائی ہیں، منجمدہ آن کے یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں ”اہل“ کا لفظ زائد ہے اور مراد خود سرور کائنات ﷺ کی ذات بابرکات ہے اور اپنے لئے ذخیرہ ثابت نہیں۔ چنانچہ خود حضرت عائشہ رضي الله عنها کی روایت باب کے اخیر میں اسی مضمون کی آرہی ہے۔ بعض نے یہ بھی توجیہ فرمائی ہے کہ ذخیرہ تو حضور حوالہ فرمادیا کرتے تھے لیکن ازواج مطہرات بھی شوق ثواب میں سب صدقہ فرمادیتی تھیں۔ بندہ ناجیز کے نزدیک ان کے علاوہ دو توجیہیں اور ممکن ہیں لیکن چونکہ کسی بڑے کے

خبز: [هو اسم لما يصنع من الدقيق المعجون بالماء والملح والمنضج بالثار] بالضم اسم لما يؤكل، وبالفتح مصدر معنى اصطناعه، والمراد الأول. وقال ابن حجر: زعم أن في الترجمة حذفا، أي: خبز آل رسول الله ﷺ؛ ليطابق الحديث، باطل؛ لأن ما يأكله آله هو خبزه ويكون منسوباً إليه على أنه صلوات الله عليه داخل فيهم. آل محمد: يعني عياله الذين كانوا في مؤنته، وليس المراد هم من حرمت عليهم الصدقة. قال ميرك: ويتحمل أن لفظ الآل مقصوم، ويؤيده أن المصنف أخرجه في آخر الباب من طريق شعبية بلفظ: "ما شبع رسول الله ﷺ" فيحصل المطابقة بينه وبين الترجمة. قال المناوي: وما يأكله عياله يسمى خبزه، فالخبر مطابق للترجمة.

حتی قُبض رسول الله ﷺ. حدثنا عباس بن محمد الدُّورِی، حدثنا يحيى ابن أبي بکیر، حدثنا حَرِیز بن عثمان، عن سُلیمٍ بن عامر قال: سمعت<sup>(۱)</sup> أبا أمامة الباهلي يقول: ما كان يفضل عن أهل بيته رسول الله ﷺ خبز الشعير. حدثنا عبد الله بن معاوية الجُمَحِيُّ، حدثنا ثابت بن نيزيد، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن<sup>(۲)</sup> ابن عباس ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ يبيت الليل المتابعة طاويا هو وأهله،

کلام سے منقول نہیں اس لئے جدت نہیں تاہم محتمل ضرور ہیں: اول یہ کہ سال بھر کا نفقة اسی حساب سے ہو کے مسلسل دو دن کی روٹی کا حساب نہ بیٹھتا ہو بلکہ کبھی روٹی، کبھی سکھوریں، کبھی فاقہ۔ دوسرا توجیہ یہ کہ وہ نفقة کیا عجب ہے کہ سکھوریں ہوں، اس حدیث میں اس کی نفی نہیں بلکہ روٹی کی نفی ہے۔

(۲) ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضور القدس ﷺ کے گھر میں جو کی روٹی کبھی نہیں پختی تھی۔ فائدہ: یعنی جو کی روٹی اگر کبھی پختی تھی تو وہ مقدار میں اتنی ہوتی ہی نہیں تھی کہ پختی، اس لئے کہ پیٹ بھرنے کو بھی کافی نہیں ہوتی تھی اور اس پر حضور کے مہمانوں کی کثرت، اور اہل صفة تو مستقل طور سے حضور کے مہمان تھے ہی۔

(۳) ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ حضور القدس ﷺ اور آپ کے گھروالے کئی کئی رات پے درپے بھوکے گزار دیتے تھے کہ رات کو کھانے کے لئے کچھ موجود نہیں ہوتا تھا۔ اور اکثری غذا آپ کی جو کی روٹی ہوتی تھی (گو کبھی کبھی گیوں کی روٹی بھی مل جاتی تھی)۔ فائدہ: حضرات صحابہ میں اگرچہ بعض لوگ ایسے تھے جو اہل ثروت تھے لیکن حضور القدس ﷺ کے غایت اخفاء کی وجہ سے ان کو علم ہی نہیں ہوتا تھا، ایسے ہی اہل و عیال بھی اخفاء کرتے تھے۔

قبض: إشارة إلى استمرار تلك الحالة طول مدة إقامته بالمدينة، وهي عشر سنين. الدوري: بضم الدال المهملة وسكون الواو بعده راء مهملة، نسبة إلى موضعه، والدور محله وقرية أيضاً ببغداد. حریز: بفتح حاء مهملة وكسر راء وتحتية ساكنة آخره زاي، كان ثبتاً ناصبياً، وغلط من قال: له رؤبة قاله المناوي. ما كان يفضل: [ما كان نيزيد عن كفايتهم] كناية عن عدم شبعهم.

الجمحي: بضم الجيم وفتح الميم، نسبة لجمع جبل لبني نمير قاله المناوي عن القاموس، وقال في الأنساب للسمعاني: نسبة إلى بني جمع. قال صاحب المغني: هو جمع بن عمر. خباب: بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة الأولى. والحادي آخر جمه المصنف في جامعه بهذا السندي وقال: حسن صحيح. طاويا: أي: حالٍ البطن جائعاً، قال ميرك: طوي بالكسير يطوي: إذا جاع، وطوى بالفتح يطوي: إذا جوَّع نفسه قصداً.

لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عبيد الله بن عبد الجيد الحنفي، حدثنا عبد الرحمن - وهو ابن عبد الله بن دينار - حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعيد، أنه قيل له: أكل رسول الله ﷺ النقى؟ - يعني الحواري! - فقال سهل: ما رأى رسول الله ﷺ

(۲) سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اقدس شریعت کے کبھی سفید میدہ کی روٹی بھی کھائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور کے سامنے اخیر عمر تک کبھی میدہ آیا بھی نہیں ہوا۔ پھر سائل نے پوچھا کہ حضور کے زمانہ میں تم لوگوں کے یہاں چھلنیاں تھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں تھیں۔ سائل نے پوچھا پھر جو کی روٹی کو کیسے پکاتے تھے؟ (چونکہ اس میں تنکے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں) سہل نے فرمایا کہ اس کے آٹے میں پھونک مار لیا کرتے تھے، جو موٹے موٹے تنکے ہوتے تھے، وہ اڑ جاتے تھے باقی گوندھ لیتے تھے۔ فائدہ: اللہ الصمد، آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی زود ہضم بھی ہوتی ہے اور میدہ کی روٹی نہایت ثقل، لیکن پھر بھی تنغم کے زور میں بہت سے گھرانوں میں یہ فضول رواج جاری ہو گیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں آئی ہے وہ چھلنیوں کا رواج ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وہ بدعت ہے جو شرعاً سنت کے مقابل شمار کی جاتی ہے، بل کہ جدید رواج کے اعتبار سے بدعت کہہ دیا ہے، ورنہ اس کے جائز ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

عشاء: بالفتح، هو: طعام العشاء بالكسر وهو: آخر النهار، والمعنى: لا يجدون ما يأكلونه في الليل، قال المناوي: قال الشارح: فيه عدم الإثم في عدم إطعام الحاجع حيث رضي أعنياء الصحابة بكونهم جائعين وهو زمل، استغفر الله لقائهم، وكيف يظن عاقل بعikan الصحب وما كانوا عليه من بذلهم النفوس دونه ﷺ، أنه يبلغهم ذلك وسكنوا عنه، بل كان ﷺ لشرف نفسه يبالغ في ستر ذلك عنهم. الحنفي: نسبة لبني حنيفة قبيلة من ربيعة، سكنوا البمامنة في عهده ﷺ.

أكل: استفهام بحذف حرفه، وهي ثابتة في نسخة، قاله المناوي. النقى: [الخبز المنقى من النخالة أي: المتخول دقيقة] بفتح نون وكسر قاف وتشديد تختية، يقال له بالفارسية: "میده". الحواري: [ما حُور من الدقيق مراراً، فهو خلاصة الدقيق وأيضاً] مدرج من الراوي في تفسير اللفظ، وهو بضم الحاء المهملة وتشديد الواو وفتح الراء في آخره ألف مقصورة، ماحُور أي: يُؤْض من الدقيق بتحله مراراً، مأخوذه من التحوير، وهو: التبييض، وأخطأ من زعم تشديد الياء. سهل: بالسين المهملة أي: ابن سعد المذكور، فما في بعض النسخ بلفظ "مهل" تصحيف.

النبيّ حتی لقی اللہ تعالیٰ، فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: ما كانت لنا مناخل، قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه، فيطير منه ما طار، ثم نعجنه. حدثنا محمد بن بشّار، أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن يونس، عن قتادة، عن<sup>(٥)</sup> أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل النبي ﷺ على خوان، ولا في سُكْرُجة،

(٥) حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے کبھی میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا، نہ چھوٹی طشتیوں میں نوش فرمایا، نہ آپ کے لئے کبھی چپاتی پکائی گئی۔ یونس کہتے ہیں کہ میں نے قادہ سے پوچھا کہ پھر کھانا کس چیز پر رکھ کر نوش فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی چجزے کے دستر خوان پر۔  
فائدہ: یونس اور قادہ جن کا ذکر ترجمہ میں آیا ہے وہ اس حدیث کی سند میں دوروی ہیں۔ علامہ مناوی اور ملا علی قاری رضی اللہ عنہما نے لکھا ہے کہ میز پر کھانا کھانا ہمیشہ سے متکبر لوگوں کی عادت رہی ہے۔ ”کوب دڑی“ میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں چونکہ اس میں نصاریٰ کے ساتھ تشبیہ بھی ہے اس لئے مکروہ تحریکی ہے۔ تشبیہ کا مسئلہ نہایت ہی اہم ہے، احادیث میں بہت کثرت سے اس پر مختلف عنوانات سے تنبیہ کی گئی ہے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں حتیٰ کہ عبادات تک میں بھی اس سے روکا گیا ہے، جیسا کہ عاشورا کے روزے اور اذان کی احادیث میں کثرت سے یہ مضمون کتبِ حدیث میں مذکور ہے، مگر ہم لوگ اس میں خاص طور سے لا پرواہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُسْتَكْبَرُ

مناخل: جمع منخل بعض الميم والخاء، وفتح الخاء لغة، اسم الله على خلاف القياس، والمعنى: ما كانت لنا المناخل في عهد رسول الله، ولذا قيل: المناخل أول بدعة في الإسلام، وقد روی عن سهل في بعض طرق الحديث: مرأى رسول الله ﷺ من خلا من حين بعث إلى حين قبض. قال الحافظ ابن حجر: احترز به عن قبلبعث؛ لأنَّه توجَّه قبله الشام مرتين، والخبز النقي فيه كثير، وكذا المناخل. خوان: [مرتفع، يُهياً ليُوكِل الطعام عليه كالمائدة] قال القاري: المشهور فيه كسر المعجمة، ويجوز ضمها، وهو: المائدة مالم يكن عليه طعام، ويطلق في المتعارف على ماله أرجل ويكون مرتفعاً عن الأرض، واستعماله من صنيع المترفين؛ لثلا يفتقرُوا إلى خفض الرأس عند الأكل، فالأكل عليه بدعة. قلت: بل فيه تشبه بالنصارى أيضاً.  
سُكْرُجة: [إناء صغير يوضع فيه الشيء القليل، المشهور للطعام، الماخص له كالسلطة والمخلل] بضم السين المهملة والكاف والراء المشددة المهملة، وقيل: الصواب فتح راءه: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل.

ولا خُبْزٌ له مِرْقَقٌ. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. قال محمد  
بن بشّار: يونس هذا الذي روى عن قتادة، هو يونس الإسكاف. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا  
عبدّاد بن عبّاد المُهَلَّبي، عن مجاهدٍ، عن الشعبيّ، عن<sup>(٦)</sup> مسروق قال: دخلت على عائشة فدعتْ لي  
بطعام، وقالت: ما أشعّ من طعام فأشاء أن أبكي إلّا بكثي. قال: قلت: لم؟ قالت: أذكر الحال  
التي فارق عليها رسول الله ﷺ الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرّتين في يوم واحد.

(٦) مسروق كہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس گیا، انھوں نے میرے لئے کھانا ملگایا اور یہ فرمائے گئیں کہ میں  
کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتی مگر میرا رونے کو دل چاہتا ہے پس رونے لگتی ہوں۔ مسروق نے پوچھا کہ کیوں رونے کو دل  
چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور کی وہ حالت یاد آ جاتی ہے جس پر ہم سے مفارقت فرمائی ہے کہ کبھی ایک دن میں دو  
مرتبہ گوشت یارویٰ سے پیٹ بھرنے کی نوبت نہیں آئی۔

فعلی ما: كذا في بعض نسخ الشمائل، وفي أكثرها "على م" بعim مفردة، وحرف الجر إذا دخل على "ما" الاستفهامية  
حذف الألف لكتمة الاستعمال، لكن قد ترد في الاستعمالات القليلة على الأصل، وأيضاً إذا اتصل الجار بـ"ما"  
الاستفهامية المخدوفة الألف فيكتب بالألف، نحو: حتاب وعلام وإلام.

السفر: [جمع سفرة، وهي: ما يتحذى من جلد مستدير، وله معاليق تصنم وتترجرج فتسفر عما فيها]. يonus: لما لم يكن  
عند المصنف ليونس هذا إلا هذا الحديث الواحد نبه عليه ليتميز عن غيره، بينما يonus بن عبيد البصري أحد الثقات  
المكثرين، فإن طبقة كليهما - على ما قاله الحافظ في الفتح - واحد، فنقل عن شيخه محمد بن بشّار: أن يonus الذي  
روى عن قتادة في هذا السنّد هو يونس الإسكاف، أي ابن أبي الفرات. والإسكاف بكسر الهمزة وسكون السين المهمّلة  
لقبه، وهو صانع الخفاف والأحدية، وفي القاموس: الأسكف والإسكاف والأسكوف والسكاف والسيكف: الخفاف.  
المهلي: بتشدید اللام المفتوحة، نسبة إلى المهلب بن أبي صفرة أحد أجداده.

فأشاء: قال القاري: ما شاء أي: أريد أن أبكي بأن لا أدفع البكاء عن نفسي إلا بكثي للبكاء فيوجد مني فورا.  
الحضرۃ النبویۃ، وقال المناوی: مرادها أنه ما يحصل من شبع إلا تسبب عند مشيتي للبكاء فيوجد مني فورا.  
من خبز ولا لحم: أي: منهما، ولا من أحدهما كما يشير إليه إعادة "لا" في قوله: "ولا لحم" وقال القاري: توينهما للتذكير  
قصدًا للعموم، و"لا" زائدة لتأكيد النفي، وإذا لم يشبع منها فبالأولى أن لا يشبع من غيرها من الأعلى كما لا يخفى.

حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت الطيالسي<sup>(٧)</sup> عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قُبض. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن عمر و أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قادة، عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه على خوان، ولا أكل خبزاً مرققاً حتى مات.

(٧) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتي ہیں کہ حضور نے تمام عمر میں کبھی جو کی روئی سے بھی دودن پے درپے پیٹ نہیں بھرا۔ فائدہ: یہ وہی حدیث ہے جو شروع باب میں گزر چکی، اتنا فرق ہے کہ وہاں سب گھروں کا ذکر تھا یہاں خود حضور کی ذات و صفات کا ذکر ہے، مآل ایک ہی ہے کہ حضور کو اپنے اور اپنے گھروں کے لئے فقر ہی پسند تھا، اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ سب پیٹ بھر سکیں، جو کچھ ہوتا تھا وہ غرباء پر تقسیم ہو جاتا تھا۔

(٨) حضرت أنس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی اخیر تک میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا اور نہ کبھی چپاتی نوش فرمائی۔ فائدہ: یہ حدیث بھی اسی باب کے نمبر ۵ پر گزر چکی ہے۔ روایاتِ حدیث سے یہ بات تو تصریحًا ثابت ہے کہ حضور صلوات الله عليه وآله وسلامه نے فقر کی حالت خود پسند فرمائی تھی اور جب حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے کسی فرشتے کی زبانی حضور سے فقر و فاقہ اور ثروت و ریاست کے درمیان ترجیح پوچھی جاتی تو حضور پہلی ہی قسم کو پسند فرماتے، چنانچہ متعدد احادیث اس مضمون کی وارد ہیں۔ لیکن اس میں علماء کے دو قول ہیں کہ حضور صلوات الله عليه وآله وسلامه کے پسند فرمانے کی وجہ سے میسر ہی اتنا ہوتا تھا جس کا اوپر ذکر ہوا، یا باوجود میسر ہونے کے حضور تواضعًا تناول نہیں فرماتے تھے اور تقسیم فرمادیتے تھے۔

أبو معمر: عطف بيان لعبد الله بن عمرو، فما وقع في بعض النسخ بروايين المؤدي إلى أنهما راويان وبلفظ "قالا" بالتشية سهو من الكاتب، قاله القاري، وهو عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج المنقري المقدد البصري.

عبد الوارث: هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، خرج له الجماعة، فقصر نظر من قال: لم توجد ترجمته قاله المناوي. مرققا: الرقاد بالضم: الخبز الرقيق، والرقيق نقىض الغليظ.

## باب ما جاء في صفة إدام رسول الله ﷺ

كتاب، ما يوتدم به

حدثنا محمد بن سهل بن عسكر و عبد الله بن عبد الرحمن قالا: حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال، عن هشام بن عمروة، عن أبيه، عن <sup>(١)</sup> عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال: **نعم الإدام الحَلَّ.**

## باب - حضور القدس ﷺ کے سالن کا ذکر

فائدہ: اس باب میں تمیں سے زائد حدیثیں ہیں۔ بعض نسخوں میں اس باب میں ایک مضمون اور بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ سالن اور مختلف اشیاء کا ذکر جو حضور نے تناول فرمائی ہیں۔

(۱) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سر کے بھی کیسا اچھا سالن ہے! فائدہ: اس لحاظ سے کہ اس میں دقت و محنت نہیں ہوتی اور روٹی بے تکلف کھائی جاتی ہے، ہر وقت میسر آ جاتا ہے، نیز تکلفات سے بعید ہے اور دنیوی گزران میں اختصار ہی مقصود ہے۔ اس کے علاوہ سر کے میں خصوص فوائد بھی بہت سے ہیں: سیاست کے لئے مفید ہے، بلغم اور صفراء کا قاطع ہے، کھانے کے ہضم میں معین ہے، پیٹ کے کیڑوں کا قاتل ہے، بھوک اچھی لگاتا ہے۔ البتہ سرد مزاج ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کو مضر ہوتا ہے لیکن اس لحاظ سے کہ بہترین سالن ہر وقت میسر آ سکتا ہے،

باب إِلْخ: هكذا في النسخ الموجودة، زيد في الترجمة في بعض النسخ "وما أكل من الألوان" كما حكاه القاري عن بعض النسخ المصححة. إدام: [ما يساغ به الخبز ويصلح به الطعام فيشمل الجامد كاللحم بحسب اللغة، أما بحسب العرف فلا يسمى إداماً].  
**نعم الإدام الحَلَّ:** [لأن حصوله بدون جهد، متوفّر بسهولة، عدم ضياع الوقت، يهضم الطعام، يقتل ديدان البطن، يقطع حرارة السموم]. قال في الدر المختار: والإدام: ما يصطحب به الخبز إذا احتلط به كخل وزيت إلخ فالحديث موافق لمسلك الفقهاء، وقال ابن القيم: هذا ثناء عليه بحسب الوقت، لا لتفضيله على غيره؛ لأن سببه أن أهله قدموه له خبزا فقال: أما من أدم؟ قالوا: ما عندنا إلا حل فقال ذلك جبرا لقولهم، لا تفضيلا له على غيره، كذا في المناوي. قلت: وفيه أنه وقع مدحه في بعض الروايات بدون هذا السبب أيضاً. الحَلَّ: [ما حمض من عصير العنب وغيره].

قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: "نعم الأدم - أو الإدام - الخل" حدثنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب قال: سمعت<sup>(١)</sup> النعمان بن بشير يقول: ألسنم في طعام سلام بن سليم استفهام إنكارى وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم ﷺ، وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. حدثنا عبدة بن عبد الله الحذاعي<sup>(٢)</sup>، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن محارب بن دثار، الثوري

جتنی بھی مدح ہو قرین قیاس ہے۔ اسی لئے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور نوش فرماتے تھے اور یہ فرماتے تھے کیا ہی اچھا سالن ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے اس میں برکت کی دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ پہلے انتیاء کا بھی یہ سالن رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سر کہ ہو وہ محتاج نہیں ہیں، یعنی سالن کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔ جمع الوسائل میں ان روایات کو ابن ماجہ سے نقل کیا ہے۔

(٢) نعمان بن بشیر کہتے ہیں کیا تم لوگ کھانے پینے کی خاطر خواہ نعمتوں میں نہیں ہو؟ حالانکہ میں نے حضور القدس ﷺ کو دیکھا کہ معمولی قسم کی کھجوروں کی بھی اتنی مقدار نہ ہوتی تھی کہ جس سے شکم سیر ہو سکے۔ فائدہ: صحابی کا مقصود ترغیب دینا ہے حضور کے اتباع اور دنیا کی مختصر گیری کی۔ اور حدیث میں جب شکم سیر کھجوروں کی نفی ہو گئی تو روئی سالن کا کیا ذکر، لہذا ترجمۃ الباب سے منابع بھی ظاہر ہو گئی۔

قال عبد الله: هذا بيان الفرق في ألفاظ شيخيه محمد وعبد الله، بأن روایة محمد جازمة وروایة عبد الله بلفظ الشك، والمآل واحد. ما شئتم: قال المناوي: "ما" بمعنى الذي، بدل من "طعام وشراب"، والعائد محنوف أي: ما شئتموه، ووجهه القاري بتوجيهات. قال البيحوري: أي ألسنم معنمين في طعام وشراب بالمقدار الذي شئتم من السعة والإفراط، والخطاب للتابعين أو للصحابية بعده ﷺ. نبيكم: إضافة "النبي" إليهم إزاما لهم وتبكيتا وحثاً على التأسى به في الإعراض عن الدنيا ولذاتها، وإنما أنه ﷺ كما أنه نبي للمخاطبين نبي للقاتل أيضاً. وقتل خالد مالك بن نويرة لما قال له: كان صاحبكم يقول كذا، فقال: صاحبنا وليس بصاحبك؟ فقتله لم يكن يخرد هذه الكلمة، بل لأنه بلغه أنه أرتد، وتأكد ذلك بهذه الكلمة. قاله القاري والمناوي. ما يملأ إلخ: مفعول "يجد"، و"ما" موصولة، و"من الدقل" بيان لما تقدم عليه، و"الدقل" بفتحتين: التمر الرديء، وبإمسه. محارب: بصيغة اسم الفاعل، و"دثار" بكسر الدال المهملة وتحفيف المثلثة.

(۳) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: نعم الإدام الخلّ. حمدنا هنّاد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى فأتي بنا جهولين  
بلحم دجاج فتحى رجل من القوم، فقال: مالك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئاً نتناً،  
[أي خبيثاً ومستقدراً]

(۴) حضرت جابر رضي الله عنه بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سر کہ بھی کیا ہی اچھا سامن ہے!۔ فائدہ: ممکن ہے کہ جس وقت حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عائشہ رضي الله عنها اور حضرت جابر رضي الله عنه دونوں حضرات موجود ہوں۔ اور اقرب یہ ہے کہ مختلف اوقات میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔

(۵) زہدم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسی اشعری رضي الله عنه کے پاس تھا ان کے پاس کھانے میں مرغی کا گوشت آیا، مجھ میں سے ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ ابو موسی نے اس سے ہٹنے کی وجہ دریافت کی۔ اُس نے عرض کیا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا اس لئے میں نے مرغی نہ کھانے کی قسم کھار کھی ہے۔ حضرت ابو موسی نے فرمایا کہ آؤ اور بے تکف کھاؤ، میں نے خود حضور اقدس ﷺ کو نوش فرماتے دیکھا ہے، اگر ناجائز یا ناپسند ہوتی تو حضور کیسے تناول فرماتے۔

فائدہ: مقصود یہ ہے کہ مباح شرعی کی تحریم نہیں کرنی چاہئے، اس لئے اپنی قسم کو توڑو اور سفارہ دو۔ مرغی جمہور ائمہ کے نزدیک جائز ہے البتہ جلالہ (گندگی کھانے والی مرغی) کو علماء نے نکرده فرمایا ہے۔ مرغی حار رطب ہوتی ہے، سریع المضم ہے، اخلاط ایچھے پیدا کرتی ہے، دماغ اور جملہ اعضاے رئیسہ کو قوت دیتی ہے، آواز بھی صاف کرتی ہے اور رنگ بھی خوشنما پیدا کرتی ہے، عقل کو بھی قوت دیتی ہے۔

نعم: قال القاري: رواه أحمد و مسلم والثلاثة، وهو حديث مشهور كاد أن يكون متوتراً. أبي قلابة: بكسر قاف و تحفيف اللام وبعد الألف موحدة، اسمه عبد الله بن زيد. زهدم: بفتح الراء و سكون الهاء و فتح الدال المهملة. و "الجرمي" بالجيم المفتوحة والراء الساكنة: نسبة لقبيلة جرم كفلس. قال المصنف في الجامع: روی هذا الحديث من غير وجه عن زهدم، ولا نعرفه إلا من حديث زهدم. يعني مداره عليه. بلحم: فالخلفي: مفعول قام مقام فاعله، وردہ ابن حجر فقال: نائب الفاعل ضمير إلى أبي موسى، وزعم أنه بلحم دجاج غلط فاحش، وتعقبه القاري فقال: في كونه غلطًا فضلاً عن أن يكون فاحشاً نظر ظاهري وافق المناوي ابن حجر. دجاج: بكسر الدال المهملة و حركي فتحها و ضمها أيضًا.

رجل: قيل: هو زهدم بنفسه عبره بالغائب، وقيل: هو رجل آخر، ويؤيده الرواية الآتية، وسيأتي مفصلاً. مالك: استفهام متضمن للإنكار أي: أي باعث لك على ما فعلت من التحني؟

فحلفتُ أَن لَا أَكُلُّهُا، قَالَ: ادْنُ، فَإِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ. حَدَثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلَ الْأَعْرَجَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَقِيَّةَ، عَنْ أَيْهَ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حَبَارِيٍّ.

(۵) سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ حباری کا گوشت کھایا ہے۔ فائدہ: حباری ایک پرندہ ہے۔ اس کے ترجمہ میں علماء مختلف ہوئے ہیں، بعض نے ”تغیری“ کیا ہے، بعض نے ”بیڑ“ اور بعض نے ”سرخاب“ اور بعض متربجين نے ”چکا چکوئی“ کیا ہے۔ محیط اعظم میں لکھا ہے کہ حباری کو فارسی میں ”ہوبره“ اور ”شوات“ اور ”شوال“ کہتے ہیں۔ ترکی میں ”توغدری“ اور ہندی میں ”چجز“ کہتے ہیں۔ جنگلی پرندہ ہے جس کا رنگ خاکی اور گرد و بڑی اور پاؤں لمبے اور چونچ میں تھوڑی سی لمبا ہوتی ہے۔ بہت تیز لڑتا ہے، اس کو ”جرج“ بھی کہتے ہیں، یونانی لوگ اس کو ”غلوفس“ کہتے ہیں، جنہے میں کوئی اور مرغابی کے درمیان ہوتا ہے۔ صاحب لغات الصراح نے بھی حباری کا ترجمہ ”شوات“ لکھا ہے اور مظاہر حق میں ”تغیری“ لکھا ہے، حبلی کا ترجمہ اور حضرات نے بھی ”تغیری“ لکھا ہے اس لئے یہی صحیح ہے۔ صاحب غیاث نے ”تغیری“ اور ”چجز“ لکھا ہے، صاحب بحر الجواہر نے بھی ”تغیری“ اور ”چجز“ لکھا ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو ”سرخاب“ بھی کہتے ہیں۔ لیکن صاحب محیط نے سرخاب جس کو ”چکوہ“ بھی کہتے ہیں، دوسرا پرندہ لکھا ہے اور صاحب نقائس نے چکوہ اور سرخاب کی عربی ”نعمام“ لکھا ہے اس لئے اقرب یہی ہے کہ سرخاب دوسرا جانور ہے۔ سفینہ حضور ﷺ کے مولیٰ کا لقب تھا، ان کو سفینہ اس لئے کہتے تھے کہ کشتی کی طرح سے سفر میں بہت ساسماں اپنے اوپر لا دیتے تھے۔

لحم الدجاج: [حار رطب، خفيف على المعدة، سريع الهضم، جيد الخلط، يزيد في الدماغ، ولحم الديوك أصح من زجاجاً وأقل رطوبة]. الحباري: [طائر كبير العنق رمادي اللون على شكل الإوزة] ألفها للتأنيث يقع على الذكر والأثنى، والواحد والجمع، طائر طويل العنق، في منقاره بعض طول، رمادي اللون، شديد الطيران، يضرب به المثل فيقال: أطلب من الحباري. وهو أكثر الطيور حيلة في تحصيل الرزق، ولذا خصها في حديث أنس: أن الحباري ليموت هزاً بذنب ابن آدم، يعني أنه تعالى يحبس القطر. وإنما خصتها بالذكر؛ لأنها أبعد الطير بمحنة، ولحمه حار يابس، بطبيعة الانهضام، نافع لأهل الرياضة والتعب. قال القاري: وأهل مصر يسمون الحباري ”الجرج“ ويضرب به المثل في الحمق، وقيل: يوجد في بطنه حجر، إذا علق على شخص لم يختلم ما دام هذا عليه. وكذا قال الدميري.

حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى، قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر، كأنه مولى،  
بضم الراء

(۲) زہم کہتے ہیں کہ ہم ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، ان کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ مجمع میں ایک آدی قبیلہ بنو تیم اللہ کا بھی تاجو سرخ رنگ کا تھا، بظاہر آزاد شدہ غلام معلوم ہوتا تھا، اُس نے یکوئی اختیار کی۔ ابو موسی نے اُسے متوجہ ہونے کو کہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرغی تناول فرمانے کا ذکر کیا۔ اس نے عذر کیا کہ میں نے اس کو کچھ ایسی ہی چیز کھاتے دیکھا جس کی وجہ سے مجھے اس سے کراہت آتی ہے، اس لئے میں نے اس کے نہ کھانے کی قسم کھار کھی ہے۔ فائدہ: یہ وہی حدیث ہے جو پہلے مذکور ہوئی۔ اختلاف سند سے صورتاً قصہ میں کچھ اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ شماں میں دونوں حدیثیں مختصر ذکر کی گئیں۔ بخاری شریف میں یہ لباقصہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ نے پھر بھی یہی فرمایا کہ کھاؤ اور قسم کا سفارہ ادا کرو کہ حلال چیز کے نہ کھانے کی قسم کے کیا معنی۔

عن أيوب: اختلف في هذا الحديث على أيوب، فروى عنه القاسم كما هبنا، وتقديم قريباً عنه عن أبي قلابة، وقد أخرج البخاري في فرض الخمس برواية حماد بن زيد عن أيوب عنهمـ التميمي: يعيمين بينهما ياء، هو الصواب، وصححه في هامش المكتوبة، وما قال مولانا عاصم وتبعه العلامة المناوي من تصويب لفظ التميمي؛ إذ قال: وفي بعض النسخ: "التميمي" وهو الظاهر؛ لأن أيوب من رواة القاسم بل محمد التميمي أحد الفقهاء السبعة، ليس بصواب، بل القاسم هذا هو قاسم بن عاصم التميمي، ويقال: الكلبي بنون بعد التحتية، جزم به القاري، وبه جزم الحافظ في الفتح والعيني في شرح البخاري، وما قال المناوي: إن أيوب هذا من رواة القاسم بن محمد، فلا دليل فيه على أنه ليس من رواة قاسم بن عاصم، كيف! وقد عده في تلامذته أيضاً أصحاب الرجال، فتأمل. فقدم: بناء المجهول من التقديم أي: قدمه بعض خدمه.

تیم اللہ: أي: عبد الله من قوله: تیمه الحب أي: ذلّله وعبدہ، وهو تیم اللہ بن ثعلبة، هي من بني بكر. قيل: هذا دليل على أن الممتنع غير زهدم، فإن زهدم جرمي وهذا تیمي، ولا مانع من أنهما امتنعا معاً، لكن الحافظ ابن حجر بسط الكلام هنا ورجح كونهما واحداً، وجوز انتساب زهدم إليهما معاً، قال المناوي والقاري في جمع الوسائل: لم يصب من زعم أن المبهم هنا هو زهدم بنفسه وغير عن نفسه "برجل". قلت: لكن الحافظ في الفتح ذكر روایات عديدة فيها التصریح بأن صاحب الحلف والقصة هو زهدم بنفسه، فارجع إليه لو شئت التفصیل، وإليه مال العینی في شرحه.

قال: فلم يَدْنُ، فقال له أبو موسى: ادن، فإني قد رأيت رسول الله ﷺ أكل منه، فقال: إِنِّي رأَيْتُه يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدْرَتْهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعُمْهُ أَبْدًا. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري، وأبو نعيم  
<sup>(٧)</sup> قالا: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن رجل من أهل الشام - يُقال له: عطاء - عن أبي أَسِيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُوا الزَّيْتَ وَادْهُنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةِ مَبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ.

(٧) ابو اسید کہتے ہیں کہ حضرور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور ماش میں بھی، اس لئے کہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ فائدہ: اس درخت پر مبارک کا اطلاق کلام اللہ شریف کی اس آیت میں آیا ہے: **﴿مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾** (النور: ٣٥) اور بابرکت ہونے کی وجہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں: بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکثر شام میں پیدا ہوتا ہے اور وہ زمین اس لئے بابرکت ہے کہ اس میں ستر نبی مبعوث ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ برکت کا اطلاق اس لئے ہے کہ اس میں منافع بہت ہیں، چنانچہ ابو نعیم نے نقل کیا ہے کہ اس میں ستر یہاریوں کی شفا ہے جن میں سے ایک جذام بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی ہر چیز میں منافع ہیں، اس کا تیل جلانے کے کام میں آتا ہے، کھانے کے کام میں آتا ہے، دباغت کے کام میں آتا ہے، ایندھن جلانے کے کام میں لایا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی راکھ ریشم دھونے کے لئے خاص طور سے مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے درخت کی عمر بہت ہوتی ہے، چالیس سال کے بعد تو پھل لاتا ہے اور ایک ہزار برس کی عمر اکثر ہوتی ہے۔ اس کے منافع طب کی کتب میں بکثرت ذکر کیے گئے ہیں۔

فقال إِخْرَاجٌ: يخالف الرواية السابقة في أن قوله هناك متأخر لقول أبي موسى: إِنِّي رأَيْتُه يَأْكُلُ إِلَخْ والجمع ممكن بتعدد قوله: "ادن"، بل هو متعين؛ لأنه قال له حين تتحى: "ادن"، ولما تعلل بما تعلل قال له: "ادن فإنِّي" إِلَخْ، قاله القاري. رجل إِلَخْ: هو عطاء الشامي الراوي حديث الادهان، قال البخاري: لم يقم حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات. أبي أَسِيد: هذا بفتح الهمزة وكسر السين، ولا يصح ما قيل فيه: بضم الهمزة مصغراً، ليس له إلا هذا الحديث الواحد، وهو غير أبي أَسِيد الساعدي الصحابي المشهور. وقال المصنف في جامعه بعد هذا الحديث: هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث عبد الله بن عيسى. مباركة: [أَيْ أَوَّلْ شَجَرَةِ نَبْتَتْ فِي الدُّنْيَا، وَأَوَّلْ شَجَرَةِ نَبْتَتْ بَعْدَ الطَّوفَانِ، وَنَبَتَتْ فِي مَنَازِلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَرْضِ الْمَقْدِسَةِ، وَدَعَالَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا بِالْبَرَكَةِ، فَقَدْ قَالَ أَبْنَ عَبَّاسَ رضي الله عنه: في الرِّيزِيونِ منافع كثيرة، إِدَام، وَدَهَان، وَدَبَاغ، وَيُوقَدْ بِحَطْبِهِ، وَلَيْسْ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا وَفِيهِ مِنْفَعَةٌ حَتَّى الرَّمَادُ يَغْسِلُ بِهِ الإِبْرِيْسِمُ.

حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عمر عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: كلووا الزّيت وادهنوها به، فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث، فربماً أسنده، وربماً أرسله. حدثنا السنّجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنّجي، حدثنا عبد الرزاق، عن عمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي ﷺ نحوه، ولم يذكر فيه "عن عمر". حدثنا محمد بن بشّار، حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ يعجبه الديباء،

(٨) حضرت عمر رضي الله عنه بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زینون کا تیل کھاؤ اور ماش میں استعمال کرو اس لئے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ فائدہ: ان روایات کو حضور کے حضور کے معمولات میں ذکر کرنا اس وجہ سے ہے کہ جب حضور نے اس کی ترغیب دی ہے تو خود استعمال فرمانا ظاہر ہے۔

(٩) حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کو کدو مرغوب تھا۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس کھانا آیا، یا حضور کسی دعوت میں تشریف لے گئے (راوی کوشک ہے کہ یہ قصہ کس موقع کا ہے) جس میں کدو تھا۔ چونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضور ﷺ کو یہ مرغوب ہے اس لئے اس کے قتلے ڈھونڈ کر میں حضور کے سامنے کر دیتا تھا۔

عمر: بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكتة. وادهنوها به: [أي: في سائر البدن ملن وافق مزاجه وعادته وقرر على استعماله]. فرما إلخ: غرض المصنف: بيان الاضطراب في هذا الحديث، في وصله وإرساله، فروي أولاً موصولاً برواية يحيى عن عبد الرزاق، ثم ذكر بعده بطريق السنّجي عن عبد الرزاق مرسلا، وقال في جامعه: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن عمر، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث فرما ذكر فيه: عن عمر عن النبي ﷺ، وربما رواه على الشك فقال: أحسبه عن عمر عن النبي ﷺ، وربما قال: عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلاً.

السنّجي: بكسر السين مهملة وسكون التون: نسبة إلى سنج قرية من قرى مرو. و"معد" بفتح الميم وسكون العين مهملة وفتح الموحدة. الديباء: بضم الدال وتشديد الموحدة وباللد على الأشهر، وحكي القصر أيضاً وأنكر، وقيل: خاص بالمستدير منه.

فَأَتَيْ بِطَعَامٍ أَوْ دَعَى لَهُ، فَجَعَلَتُ أَتَبَعَهُ فَأَضْبَعَهُ بَيْنَ يَدِيهِ، لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْبِبُهُ، حَدَّثَنَا قُبَيْلَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصَ بْنُ غَيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ، عَنْ حَكَمَ بْنِ جَابِرٍ،

فَانكَدَهُ: اس سے معلوم ہوا کہ اگر برتن میں مختلف چیزیں ہوں تو اپنے علاوہ دوسری جانب سے بھی کسی مرغوب چیز کے اٹھا لینے میں کچھ حرج نہیں بشرطیکہ ساتھی کو کراہت نہ آئے۔ ذہونڈ کر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شور بازیادہ رکھنا کا معمول تھا۔ حضور نے اس کی ترغیب بھی فرمائی ہے کہ شور بازیادہ رکھا کرو کہ پڑوسی بھی متفق ہو سکے۔

أَوْ دَعَى: شَكَ مِنَ الرَّاوِي أَنَسَ أَوْ مِنْ دُونِهِ، وَالضمير لِلطَّعَامِ أَيْ: دَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. يَحْبِبُهُ: قِيلَ كَانَ سببَ محْبَتِهِ ﷺ لِهِ مَا فِيهِ مِنْ إِفَادَةٍ زِيادةُ الْعُقْلِ وَالرِّطْبَةِ الْمُعْتَدِلَةِ وَمَا كَانَ يَلحظُهُ مِنَ السُّرِّ الَّذِي أَوْدَعَهُ اللَّهُ فِيهِ إِذَا خَصَهُ بِالْإِنْبَاتِ عَلَى يُونُسَ ﷺ حَتَّى تَرَى فِي ظَلَّهُ فَكَانَ لَهُ كَالْأَمْ الحَاضِنَةُ لَوْلَاهَا. غَيَاثٌ: بِعِجمَةٍ مُكْسُوَةٍ فَتْحِيَةً ثُمَّ مُثْلَثَةً. حَكَمٌ: بِفَتْحِ حَاءِ مَهْمَلَةٍ وَكَسْرِ كَافٍ، قَلِيلُ الْحَدِيثِ.

عن <sup>(۱۰)</sup> أبيه، قال: دخلت على النبي ﷺ فرأيت عنده دباءً يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نُكْثَر به طعامنا. قال أبو عيسى: وجابر هذا: هو جابر بن طارق - ويقال: ابن أبي طارق - وهو رجل من أصحاب رسول الله ﷺ، ولا يُعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وأبو خالد اسمه سعد.

<sup>والد إسماعيل</sup>  
حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع <sup>(۱۱)</sup>

أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خيّاطاً دعا رسول الله ﷺ ل الطعام صنعه،

(۱۰) جابر بن طارق رضي الله عنه کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کدو کے چھوٹے ٹکڑے کیے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ اس سے سالن میں اضافہ کیا جائے گا۔ فائدہ: کدو کے فائدہ بھی علماء حدیث نے بہت سے لکھے ہیں، اور طب کی کتابوں میں بھی بہت سے منافع لکھے ہیں۔ مسجدہ آن کے یہ بھی ہے کہ عقل کو تیز کرتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے۔

(۱۱) حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دعوت کی، میں بھی حضور کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس نے حضور کی خدمت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شور با پیش کیا، میں نے حضور کو دیکھا کہ پیالہ کے سب جانبوں سے کدو کے ٹکڑے تلاش فرمائیں فرمائے ہیں۔ اس وقت سے مجھے بھی کدو مرغوب ہو گیا۔

فائدہ: حضرت انس رضي الله عنه کی خود بھی دعوت ہو گی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خادمیت میں چلے گئے ہوں گے، اس میں بھی کچھ مضائقہ نہیں پیر طیکہ دائی کو گراں نہ ہو۔ حضرت انس رضي الله عنه کا یہ ارشاد کہ مجھے اس وقت سے کدو سے رغبت ہو گئی،

يقطع: من التقطيع، وهو: جعل الشيء قطعة قطعة، وباب التفعيل للتكتير. قال أبو عيسى: لما كان جابر بن عبد الله هو المشهور من الصحابة، والمطلق يصرف إلى المشهور، تبَه المصنف على أن هذا رجل آخر، صحابي غير ذاك المشهور.

ويقال إنَّه: هو جابر بن طارق، فقد ينسب إلى أبيه وقد ينسب إلى جده فيقال: جابر بن أبي طارق، كذا في الإصابة قاله المناوي. ولا يعرف: ببناء المجهول على الغائب، وبيناء المعلوم على المتكلم روایتان. قلت: وفيه أن الحافظ ذكر له حدیثا آخر في الإصابة. خيّاطاً: قال العسقلاني: لم أقف على تسميته، لكن في روایة: أنه مولى المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاله القاري والمناوي. قلت: ولفظ البخاري برواية ثماة عن أنس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى مولى له خيّاطاً، الحديث.

فقال أنس: فذهبت مع رسول الله ﷺ إلى ذلك الطعام، فقربَ إلى رسول الله ﷺ خبراً من شعير، وَمَرْقاً فيه دُبَاءً وقدِيدٌ. قال أنس: فرأيت النبي ﷺ يتبعُ الدُّبَاءَ حَوَالِي الصحفة، فلم أزل أحب الدُّبَاءَ من يومئذٍ. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن عيّلان قالوا: أخبرنا أبوأسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن <sup>(١٢)</sup> عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يُحِبُّ الْخَلْوَاءَ وَالْعَسْلَ. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، أخبرنا حاج بن محمد قال: قال

ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف،

عبد الملك

اس محبت کا شمرہ ہے جو ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور اقدس اللہ علیہم السلام کے ساتھ تھی، اور محبت کا مقتضی یہی ہے کہ محبوب کی ہر ادا پسند ہو، اس کی ہربات دل میں جگہ کرنے والی ہو، جس درجہ کی محبت ہوگی اسی مرتبہ میں محبوب کے اثرات کے ساتھ شفف ہو گا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ آج حضور کے ساتھ محبت کے دعویداروں کو حضور جیسی صورت بنا بھی پسند نہیں۔ بین تفاوت رہا کجاست تاکجا۔

(١٢) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور اقدس اللہ علیہم السلام کو میٹھا اور شہد پسند تھا۔ فائدہ: بظاهر حدیث میں حلوے سے مراد ہر میٹھی چیز ہے لیکن بعض لوگوں نے اس سے متعارف حلوامراد لیا ہے جو مٹھائی اور گھنی وغیرہ سے بنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضي الله عنه بنا کر حضور اقدس اللہ علیہم السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا اور حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ یہ حلوہ آئے اور شہد اور گھنی سے بنایا گیا تھا۔ شکر کا اس زمانہ میں کچھ ایسا و ستور نہ تھا اس لئے میٹھی چیز عموماً شہد یا کھجور سے بنائی جاتی تھی۔

فذهبت: قال القاري: يعني بطلب مخصوص أو تبعا له لكونه خادما له ﷺ. حوالى: بفتح اللام وسكون التحتية، مفرد مثنى الصورة بمعنى الجوانب قاله المناوي، فهو مفرد لفظاً ومثنى صورة وجمع معنى، قال القاري: حوالى بفتح اللام وسكون الياء، وإنما كسر هنا لالتقاء الساكنين. الخلوء: بالمد ويجوز فصره جمعه الخلاوى، قيل: هو كل شيء فيه حلاوة، قوله "العسل" تخصيص بعد تعليم، وقيل: المراد بها الجميع، وهو: عمر يعجن باللبن، وقيل: ما صنع من الطعام بخلو، وقد يطلق على الفاكهة، وقال الخطاطي: تختص بما دخلته الصنعة. الزعفرانى: بفتح الفاء، منسوب إلى قرية يقال لها: الزعفرانية.

أن عطاء بن يسار أخبره<sup>(١٣)</sup>: أن أم سلمة أخبرته: أنها قربت إلى رسول الله ﷺ جنبًا مشوياً، فأكل منه، ثم قام إلى الصلوة وما توضأ. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن سليمان بن زياد، عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله ﷺ شواء في المسجد. حدثنا محمود بن غيلان، أبناها وكيع، حدثنا مسْعُر، عن أبي صخرة جامع بن شداد، عن المغيرة بن عبد الله، عن<sup>(١٤)</sup> المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

(١٣) حضرت ام سلمة ﷺ فلنجعلها فرماتی ہیں کہ انھوں نے پھلو کا بھنا ہوا گوشت حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے تناول فرمایا اور پھر بلا وضو کیے نماز پڑھی۔ فائدہ: بعض روایات سے آگ سے کپی ہوئی چیز کا ناقص وضو ہونا معلوم ہوتا ہے اور یہی نماز ہب بعض علماء متقدمین کا ہے، لیکن خلافتے اربعہ اور ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا نماز ہب یہ ہے کہ جو احادیث وجوب وضو پر دلالت کرتی ہیں وہ منسوخ ہیں یا موقوٰل ہیں۔ حضرت ام سلمة ﷺ کی یہ حدیث بھی جمہور کی تائید کرتی ہے کہ حضور ﷺ نے نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔

(١٤) عبد الله بن حارث رضي الله عنه کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس ﷺ کے ساتھ بھنا ہوا گوشت مسجد میں کھایا۔ فائدہ: اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں کھانا پینا جائز ہے بشرطیکہ ریزہ وغیرہ سے مسجد خراب نہ ہو ورنہ مکروہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ یہ حالت اعتکاف کا ذکر ہو کہ حضور کا معمول ہر سال اعتکاف کرنے کا تھا اور اس صورت میں مسجد میں کھانا پینا ظاہر ہے۔

(١٥) مغيرة بن شعبة رضي الله عنه کہتے ہیں کہ میں ایک رات حضور اکرم ﷺ کے ساتھ مہمان ہوا، کھانے میں ایک پھلو بھنا ہوا لیا گیا، حضور چاقو لے کر اس میں سے کاث کاث کر مجھے مرحمت فرمائے تھے، اسی دوران میں حضرت بلاط رضي الله عنه نے آکر نماز کی تیاری کی اطلاع دی، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلوہ ہوں اس کے دونوں ہاتھ، کیا ہوا اس کو کہ ایسے موقع پر خبر کی! اور پھر چھری رکھ کر نماز کے لئے تشریف لے گئے۔ مغيرة کہتے ہیں کہ دوسری بات میرے ساتھ یہ پیش آئی کہ میری موچھ بہت بڑھ رہی تھی، حضور ﷺ نے فرمایا کہ لاو مساوک پر رکھ کر ان کو کتر دوں، یا یہ فرمایا کہ مساوک پر رکھ کر ان کو کتر دو۔

Shawāء: بکسر أوله مددداً أي: مشوياً، والمراد: مع الخبر كما في رواية. قاله الفاري. صخرة: بفتح صاد مهملة وسكون خاء معجمة بعدها راء مهملة، قيل: وفي بعض الأصول أبو ضمرة بمعجمة وميم. قلت: وبالمهملة، كناه أهل الرجال.

کسی راوی کو الفاظ میں شک ہے کہ کیا لفظ فرمائے۔ فائدہ: اس حدیث میں چند مضمون قابلِ تنبیہ ہیں: اول یہ کہ حضور کے ساتھ مہمان ہوا، اس کے مطلب میں علماء کے دو قول ہیں اور روایات مختلف سے دونوں کی تائید ہوتی ہے: ایک یہ کہ ”ساتھ“ کا لفظ زائد ہے اور مقصود یہ ہے کہ میں حضور کا مہمان بنا اور حضور نے میزبانی کے مد میں پہلو کا گوشت بھنوایا اور کاٹ کر کھایا، جامع ترمذی شریف کی روایت اس مضمون کے کچھ زیادہ مناسب ہے اور ابو داؤد کی روایت تو گویا اس مضمون میں صریح ہے جس کے لفظ یہ ہیں کہ میں حضور ﷺ کا مہمان بنا۔ دوسرے یہ کہ میں اور حضور اقدس ﷺ دونوں کسی تیرے شخص کے مہمان ہوئے، ”ساتھ“ کا لفظ روایات میں اس کی تائید کرتا ہے، اس صورت میں حضور کا کاٹ کر کھانا تالیفِ قلوب کے لئے تھا۔ تیسرا مطلب بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے حضور کو اپنا مہمان کیا، مگر یہ صحیح نہیں۔ بندہ کے نزدیک اقرب یہ ہے کہ میں حضور کا مہمان تھا اور حضور اقدس ﷺ کی مع مہمانوں کے کسی جگہ دعوت تھی، جیسا عام دستور ہے کہ اکابر کی دعوت بین خدام و مہمان ہوتی ہے، اس صورت میں ابو داؤد اور ترمذی دو دو روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ اصل میں حضور کے مہمان تھے اور حضور کی اس وقت مع مہمانوں کے دعوت کی وجہ سے یہ اور حضور اقدس ﷺ دونوں دوسرے کے مہمان تھے۔ دوسرا مضمون چاقو سے کاشنے کے متعلق، ابو داؤد شریف اور نبیقی کی روایات میں چاقو سے کاشنے کی ممانعت بھی آتی ہے۔

علماء حدیث نے ان دونوں حدیثوں کے درمیان مختلف طریقوں سے جمع اور تطبیق فرمائی ہے۔ سہل یہ ہے کہ وہ ممانعت چاقو سے کھانے کی ہے، اور یہ واقعہ چاقو سے کاٹ کر ہاتھ سے کھانے کا ہے۔ اگر گوشت اچھی طرح نہ گلا ہو تو چاقو سے کاٹ کر ہاتھ سے کھانے میں کوئی مضاائقہ نہیں ہے۔ اور ضابطہ کی بات یہ ہے کہ جس چیز میں اجازت اور ممانعت دونوں پائی جاتی ہوں اور وجہ ترجیح میں سے کوئی وجہ نہ ہو تو قاعدہ کے موافق ممانعت کو ترجیح ہوا کرتی ہے۔ یہ ضابطہ مستقل ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس حدیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے اس کے لفظ یہ ہیں کہ چاقو سے گوشت نہ کاٹا کرو یہ عجمیوں کا (یعنی کفار کا) طریقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ممانعت اس طریق میں ہے جس میں کفار سے تشبیہ ہوتا ہو، مطلقاً چاقو سے کاشنے کی ممانعت نہیں ہے، اور کفار کے ساتھ تشبیہ سے بچنے کی تاکید تو سیکڑوں احادیث میں ہے۔ تیسرا بات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے یہ الفاظ تنبیہ سے ہے، ایسے الفاظ کے معنی مقصود نہیں ہوتے، ملامت اور تنبیہ مقصود ہوتی ہے۔ ہر زبان میں اس قسم کے الفاظ ڈانٹنے کے موقع میں مستعمل ہوتے ہیں۔

قال: ضِفْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لِيلَةٍ، فَأُتِيَ بِجَنْبَ مَشْوِيٍّ، ثُمَّ أَخْذَ الشَّفَرَةَ، فَجَعَلَ يَحْرُزُ لِي بِهَا مِنْهُ.  
الخر. معنى القطع

اگرچہ اس جگہ پر بعض علماء نے حضور کے الفاظ ہونے کی وجہ سے اس کے نفس نہیں معنی بھی بتائے ہیں، لیکن ظاہر صرف تنبیہ ہے، اور تنبیہ اس امر پر تھی کہ جب حضور اقدس ﷺ ایک مہمان کی وجہ سے اس کے اہتمام میں مشغول تھے تو اس کے درمیان میں اطلاع نہ کرنی چاہئے تھی بلکہ فراغت کا انتظار مناسب تھا جب کہ نماز کے وقت میں گنجائش بھی تھی۔ چو تھی بات بیوں کے کائنے کے متعلق، ظاہر بھی مطلب ہے جو ترجمہ میں لکھا گیا کہ مغیرہ کی لبیں بڑھی ہوئی تھیں اور حضور نے کٹکھے کے بجائے مسوک رکھ کر کائنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔

بعض شرائج حدیث اس طرف گئے ہیں کہ حضور کی اپنی لبیں مراد ہیں لیکن ابو داؤد شریف کی روایت میں تصریح ہے کہ میری لبیں بڑھی ہوئی تھیں جن کو حضور اقدس ﷺ نے کاٹ دیا۔ متعدد احادیث میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد مختلف الفاظ سے وارد ہوا ہے جس میں ڈاڑھی کے بڑھانے کا حکم ہے اور موچھوں کے کائنے میں مبالغہ کرنے کی تاکید ہے۔ اسی وجہ سے ایک جماعت علماء سلف کی اس طرف گئی ہے کہ موچھوں کا منڈانائست ہے، لیکن اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کتروناست ہے لیکن کتروانے میں ایسا مبالغہ ہو کہ مونڈنے کے قریب ہو جائے۔

صفت الح: معناه: نزلت أنا ورسول الله ﷺ ضيفين على إنسان، ولفظ أبي داود: صفت النبي ﷺ، وفي النهاية: صفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته، وأصفيته إذا أنزلته، وفي القاموس: صفتة أضيفه: نزلت عليه ضيفا، فظاهر لفظ أبي داود أن المغيرة كان ضيفا له عليه. قال القاري: الظاهر أن لفظ "مع" في رواية الترمذى مقصومة، وقال الشيخ في البذل تحت رواية أبي داود بلفظ: صفت النبي ﷺ: أي نزلت عليه ضيفاً؛ لأنه لم يكن من أهل المدينة ولا يأوي إلى أهل ولا مال. قلت: ويمكن الجمع بينهما عندي: بأن المغيرة كان ضيفه ﷺ كما هو نص لفظ أبي داود: وكان النبي ﷺ مع ضيوفه مدعوا عند أحد. قال القاري: وقد وقعت هذه الضيافة في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي ﷺ، كذا أفاده القاضي إسماعيل، وقال العسقلاني: يختتم أنها كانت في بيت ميمونة، وأما ما قاله بعضهم من أن المراد جعلته ضيفا لي حال كوني معه فغير صحيح؛ لما يأباه معن "صفت" لغة.

السفرة: بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء: هي السكين العريض الذي امتهن بالعمل، قال المناوي: هي السكين العريض العظيم، جمعه شفار ككلب وكلاب، وشفرات كمسجدة وسجدات. يحرز: بتشديد الزاء من الحز بمحاء مهملة، القطع، قال في المصباح وغيره: الحزة: القطعة من اللحم تقطع طولا.

قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلوة، فألقى الشفرة، فقال: ماله؟ تربت يداه. قال: و كان شاربه أى مغيرة بن شعبة قد وَفِي، فقال له: أقصه لك على سواك - أو قصّه على سواك. حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي حيّان التميمي، عن أبي زرعة، عن <sup>للسنة</sup><sup>(١٦)</sup> أبي هريرة <sup>رضي الله عنه</sup>

(١٦) ابو ہریرہ <sup>رضی اللہ عنہ</sup> فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی خدمت میں کہیں سے گوشت آیا، اس میں سے دست (یعنی بونگ) حضور ﷺ کے سامنے پیش ہوئی۔ حضور اقدس سنتی ﷺ کو دست یعنی بونگ کا گوشت پسند بھی تھا۔ حضور نے اس کو دانتوں سے کاث کر تناول فرمایا (یعنی چھری وغیرہ سے نہیں کاثا)۔ فائدہ: دانتوں سے کاث کر کھانے کے ترغیب بھی حضور نے فرمائی ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ گوشت کو دانتوں سے کاث کر کھایا کرو کہ اس سے ہضم بھی خوب ہوتا ہے اور بدن کو زیادہ موافق پڑتا ہے۔

يؤذنه: هذا وأمثاله دليل لجواز التسويف، وهو: الإعلام للصلوة بعد الأذان، قال صاحب الهدایة: التسويف في الفجر "حي على الصلوة حي على الفلاح" مرتين بين الأذان والإقامة حسن؛ لأنَّه وقت نوم وغفلة، وكـره فيسائر الصلوات، وهذا تسويف أحدـه علمـاء الكوفـة بعد عـهد الصحـابة؛ لتـغير الأحوال، وخـصـوا الفـجر بـه لما ذـكرـنا، والـماـخـرون استـحسـنـوه في الـصلـوـات كـلـهـا؛ لـظـهـورـ التـوـانـيـ فيـ الأمـورـ الـديـنيـةـ كـذـاـ فيـ الأـوـجزـ، وـفـيهـ أـيـضاـ عـدـةـ روـاـيـاتـ فيـ الـبـابـ تـدلـ عـلـىـ جـواـزـهـ.

يداه: أى لصقتا بالتراب من شدة الفقر، هذا أصله، قال الزمخشري: الأصل فيما جاء من كلامهم من هذا ونحوه، كــ"ـقـاتـلـكـ اللـهـ"ـ، وــ"ـأـخـرـاكـ اللـهـ"ـ للتعجب المشعر بأن ذلك الفعل بالغ من الندرة والغرابة المبلغ الذي يحق لسامعه أن ينافسه حق يدعو عليه تضحراً وتحسراً، ثم كثر حتى استعمل في كل موضع استعجـابـ أو زـجـرـ أو تـبـيـهـ. قال المناوي: فيـحـتـمـلـ أـنـ كــرـهـ تـأـذـيـنـهـ معـ بـقـاءـ الـوقـتـ لإـيـذـائـهـ الضـيـفـ وـكـسـرـ خـاطـرـهـ، وـقـالـ القـارـيـ:ـ كــأـنـهـ <sup>رسـلـ اللـهـ</sup>ـ كــرـهـ إـيـذـانـهـ بالـصـلـوـةـ وـهـوـ مشـتـغـلـ بـالـعشـاءـ،ـ وـالـحـالـ أـنـ الـوقـتـ مـتـسـعـ.ـ شـارـبـهـ:ـ الضـمـيرـ إـلـىـ الـمـغـيـرـةـ،ـ حـرـمـ بـهـ الـقـارـيـ،ـ وـقـالـ الـمـنـاوـيـ وـتـبـعـهـ الـبـيـحـورـيـ:ـ أـيـ مشـتـغـلـ بـالـعـشـاءـ،ـ وـالـحـالـ أـنـ الـوقـتـ مـتـسـعـ.ـ شـارـبـهـ:ـ الضـمـيرـ لـرـسـوـلـ اللـهـ،ـ وـمـعـنـ قـوـلـهـ:ـ أـقـصـهـ لـكـ أـيـ:ـ لـأـجـلـكـ تـبـرـكـ بـهـ.ـ قـلـتـ:ـ وـالـأـوـلـ الـمـعـيـنـ؛ـ لـمـاـ فيـ رـوـاـيـةـ لأـيـ دـاـودـ:ـ وـكـانـ شـارـبـيـ وـفـيـ قـصـهـ لـيـ عـلـىـ سـواـكـ.ـ قـدـ وـفـيـ:ـ [ـأـيـ:ـ طـالـ وـأـشـرـفـ عـلـىـ فـمـهـ].ـ أـيـ حـيـانـ:ـ بـعـمـلـةـ وـتـحـتـيـةـ مـشـدـدـةـ،ـ هوـ يـجـيـيـ بـنـ سـعـيـدـ الـكـوـفـيـ،ـ مـنـسـوـبـ إـلـىـ تـيمـ الـرـبـابـ،ـ كـذـاـ فيـ الشـرـوحـ وـالـنـسـخـ،ـ وـقـالـ القـارـيـ:ـ وـفـيـ نـسـخـةـ صـحـيـحةـ "ـالـتـمـيـيـ"ـ بـعـيـمـيـنـ.ـ أـيـ زـرـعـةـ:ـ بـضـمـ الزـاءـ الـمـعـجمـةـ وـسـكـونـ الرـاءـ الـمـهـمـلـةـ،ـ اـخـتـلـفـ فـيـ اـسـمـهـ عـلـىـ أـقـوالـ].ـ

قال: أتى النبي ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الْذِرَاعُ - وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ - فَنَهَسَ مِنْهَا. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
بَشَارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زُهْيرٍ - يَعْنِي أَبْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ،  
وَهُوَ الْأَخْدُ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَانِ  
عن ابن مسعود رضي عنه قال: كان النبي ﷺ يُعْجِبُهُ الذراع.<sup>(١٧)</sup>

(١٧) حضرت ابن مسعود رضي عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کو ذراع یعنی دست کا گوشت مرغوب تھا اور اسی میں حضور  
اقدس ﷺ کو زہر دیا گیا۔ گمان یہ ہے کہ یہود نے زہر دیا تھا۔ فائدہ: فتح خیر میں ایک یہودی عورت کو جب یہ معلوم ہوا  
کہ آپ کو دست کا گوشت یعنی بونگ مرغوب ہے تو ایک بکری کا گوشت بھونا اور اس میں بہت زیادہ زہر ملا دیا اور دست میں  
خصوصیت سے بہت زیادہ زہر قاتل بھر کر حضور ﷺ کی دعوت کی اور سامنے پیش کیا۔ حضور ﷺ نے لقمہ منه میں رکھا  
لیکن نگلنے کی نوبت نہیں آئی تھی یا کچھ نگل بھی لیا تھا کہ اس کو تھوک دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے اطلاع دی  
ہے کہ اس میں زہر ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ اثر پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ اس کا سی اثر کبھی زور کرتا تھا اور آخر میں یہی سی اثر  
حضور ﷺ کے وصال کے وقت عود کر کے حضور کی شہادت کا سبب ہا۔ اس حدیث میں گوشت کے خود اطلاع دینے کا ذکر  
ہے اور بعض روایات میں حضرت جبریل علیہ السلام کے اطلاع دینے کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی تعارض نہیں کہ اول گوشت نے  
مجزہ کے طور پر خود کہا ہو کہ مجھ میں زہر ہے، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی ہو۔ اس اطلاع  
کے بعد حضور ﷺ نے خود بھی ترک فرمادیا اور ساتھیوں کو بھی کھانے سے منع فرمادیا۔ اس کے بعد اس عورت کو بلا یا گیا  
اور اس سے پوچھا گیا کہ اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے زہر ملایا ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے اپنے  
لئے انتقام نہیں لیا، اس نے اس عورت کو اس وقت معاف فرمادیا گیا۔ لیکن چونکہ بشر بن براء صحابی رضی اللہ عنہ اس زہر سے شہید  
ہوئے اس نے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شہادت پر اس عورت کو قصاصاً یا تعزیراً قتل فرمایا۔ اس کے بارے میں  
مختلف روایتیں آتی ہیں، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ قصاص لیا، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں لیا، اور دونوں صحیح ہیں

فنهس اخ: إنما فعله ﷺ؛ لأنَّه أهنا وأمراً، ولأنَّه ينبع عن ترك التكبير والتکلف. يعني: زاد لفظ "يعني" رعاية للقطع الشيف؛  
لثلا يحمل على أن لفظ "ابن محمد" أيضاً زاده شيخه وبينه؛ لثلا يلتبس بزهير بن حرب وغيره. سعد: وفي نسخة: سعيد،  
قاله القاري، قلت: وهو غلط، ليس في الرواية أحد اسمه سعيد بن عياض، وسعد هذا الراوي لحديث الشاة معدود عندهم،  
 وإنما قال فيه سعيد بن منصور سعيد بن عياض، وهو وهم.

قال: وَسُمْ فِي النَّدْرَاعِ. وَكَانَ يُرِي أَنَّ الْيَهُودَ سَمُوْهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبْيَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي عَبِيدٍ قَالَ: طَبَخَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ قِدْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ النَّدْرَاعُ، فَنَوَّلْتُهُ النَّدْرَاعَ، ثُمَّ قَالَ: نَأَوَّلْنِي النَّدْرَاعُ فَنَوَّلْتُهُ،

جیسا کہ اصل واقعہ سے معلوم ہو گیا۔ ایسی صورت میں شرعاً قصاص واجب ہوتا ہے یادیت وغیرہ، یہ فقہی مسئلہ ہے جو ائمہ میں مختلف ہے اور علمی بحث ہے اس لئے ترک کر دی گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ”گمان یہ ہے کہ یہود نے زہر ملایا تھا“، یہ اُن کے خیال کی بنابر ہے، بظاہر ان کو محقق نہیں ہوا، ورنہ اصل واقعہ محقق ہو چکا اور یہود نے خود اقرار کیا کہ ہم نے ایسا کیا ہے جیسا کہ دوسری احادیث میں مفصل ذکور ہیں۔

(۱۸) ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کے لئے ہانڈی پکائی۔ چونکہ آقا نے نامدار ﷺ کو بونگ کا گوشہ زیادہ پسند تھا اس لئے میں نے ایک بونگ پیش کی۔ پھر حضور ﷺ نے دوسری طلب فرمائی، میں نے دوسری پیش کی۔ پھر حضور ﷺ نے اور طلب فرمائی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بکری کے دوہی بونگیں ہوتی ہیں۔

وسم: بناء المجهول، وكان ذلك في فتح خير، فجعل فيه سمه قاتل لوقته، فأكل منه لقمة فأخبره جبريل أو الدراع على الخلاف المعروف، ويمكن الجمع بأن الدراع أخرته أولا ثم نزل روح القدس بتصديقها. قاله المناوي. يُرِي: بضم الباء من الإراعة أي: يظن ابن مسعود، وإنما نسبة إلى اليهود لاتفاقهم ومشورتهم، وإلا فكانت المباشرة لذلك زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم اليهودي، وقد أحضرها النبي ﷺ فقال: ما حملك على ذلك؟ فقالت: إن كاننبياً لا يضره السم وإنما استرحتنا، فعفا عنها ولم يعاقبها. قال الزهرى وغيره: فأسلمت، فلما مات بشر بن البراء، وكان أكل معه منها، دفعها لورثته فقتلوها قوداً، وبه جمع القرطبي وغيره قاله المناوي. قلت: والقدو مختلف فيه بين الأئمة كما بسط في البذل. وما قالت: إن كاننبياً لم يضره" المراد، المضرة الخاصة وهي القتل كما حفظه الحافظ في الفتح، فلا ينافي المضرة الواقعة.

أبیان: بفتح الممزة وتخفیف الباء الموحدة، ابن یزید العطار. أبی عبید: کذا فی أكثر النسخ الموجودة عندی، وفي نسخة بالباء، وقال زین المحفوظ: کذا وقع فی ساعتنا من کتاب الشمائل بزيادة تاء التأنيث، وكذا ذکرہ المصنف فی جامعہ، والمعروف أنه بلا تاء، وهو مولی النبي ﷺ، ليس له إلا هذا الحديث الواحد. قاله المناوي. قلت: وهكذا فی النسخ التي عندنا من المكتوبة والمطبوعة بدون الماء، وكذا فی کتب الرجال، فزيادة الماء ليس بذلك، وما قاله المناوي: کذا ذکرہ المصنف فی جامعہ، المراد أنه ذکرہ فیمن فی الباب.

ثُمَّ قَالَ: نَأْوَلِنِي النِّرَاعُ فَقَلَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَمْ لِلشَّاهَ مِنْ ذِرَاعٍ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي يَدِهِ لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلَتِنِي النِّرَاعُ مَا دَعَوْتُ. حَدَّثَنَا الْحَسْنَ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَادَ،

حضور نے فرمایا: اُس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قادر تھے میں میری جان ہے! اگر تو چُپ رہتا تو میں جب تک مالکتار ہتا اس دیکھی سے بو نگیں نکلتی رہتیں۔ فائدہ: حضور اقدس ﷺ کا یہ مجزہ تھا۔ مسند احمد میں اس روایت کے ہم معنی ابو رافع سے منقول ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ قبضہ دونوں کے ساتھ پیش آیا، اس میں کچھ استجواب نہیں۔ اس قسم کے واقعات حضور کی سوانح حیات میں بکثرت ملتے ہیں، چند واقعات قاضی عیاض رضی اللہ عنہ نے شفایہ میں ذکر کیے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور ﷺ کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کی، اور انہا کھانا تیار کیا جو دو آدمیوں کو کافی ہو جائے۔ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا کہ شرفاء انصار میں سے تیس آدمیوں کو بلا لاوہ وہ بلا کر لے آئے اور ان کے کھانے کے بعد حضور نے فرمایا بس اس آدمیوں کو بلا کر لاوہ اور ان کے فارغ ہونے کے بعد اوروں کو بلا یا۔ غرض ایک سوا سی نفر کو یہ کھانا کافی ہو گیا۔ حضرت سرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ کے پاس کہیں سے ایک پیالہ میں گوشت آیا اور صبح سے لے کر رات تک مجمع آتارہا اور اس میں سے کھاتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تھیلی میں چند بھوریں دس دنوں سے کچھ زیادہ تھیں۔ حضور ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ چند بھوریں اس تھیلی میں ہیں، حضور نے اپنے دست مبارک سے اس تھیلی میں سے تھوڑی سی نکالیں اور ان کو پھیلایا اور دعا پڑھی اور فرمایا کہ دس دس نفر کو ملاتے رہو اور کھلاتے رہو۔ اس طرح پورے لشکر کو کافی ہو گئیں اور جو بچیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دی گئیں اور ارشاد فرمایا کہ اس تھیلی میں سے نکال کر کھاتے رہنا، اس کو اکٹ کر خالی نہ کرنا۔ چنانچہ یہ اس میں سے نکال نکال کر کھاتے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے زمانہ میں، حضرات شیخین جہاںzem کے زمانہ خلافت میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں نکال کر کھائی، اور متفرق اوقات میں اس میں سے نکال کر صدقہ بھی کرتا رہتا تھا جس کی مقدار کئی من ہو گئی ہو گی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حادثہ کے وقت وہ کسی نے مجھ سے زبردستی چھین لی اور مجھ سے جاتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے ایک ولیمہ میں میری والدہ نے ملیدہ تیار کیا اور ایک پیالہ میں میرے ہاتھ حضور ﷺ کی خدمت میں بھیجا، حضور نے فرمایا کہ اس پیالہ کو رکھ دو اور فلاں فلاں شخص کو بلا لاوہ اور جو تمہیں ملے اس کو بھی بلا لینا،

عن فُلَيْحٍ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَبَادٍ - يَقَالُ لَهُ: عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبَادٍ -  
 عن عبد الله بن الزبير، عن <sup>(۱۹)</sup> عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله ﷺ  
 ولكنكَنَّهُ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّهَمَّ إِلَّا غَبَّاً، وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا؛  
 أي يسرع

میں ان لوگوں کو بنا لے کر لایا اور جو ملتار ہا اس کو بھی بھیجا رہا، حتیٰ کہ تمام مکان اور اہل صفت کے رہنے کی جگہ سب آدمیوں سے پُر ہو گئی۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دس دس آدمی حلقة بنा کر بیٹھتے رہیں اور کھاتے رہیں۔ جب سب شکم سیر ہو گئے تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اس پیالہ کو اٹھا لو۔ حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پیالہ ابتداء میں زیادہ بھرا ہوا تھا یا جس وقت میں نے اس کو اٹھایا اُس وقت زیادہ پُر تھا۔ غرض اس قسم کے بہت سے واقعات حضور کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعات بڑے بڑے مجموعوں میں پیش آئے ہیں۔ ایسے واقعات کو خلاف واقع نقل کرنا بہت زیادہ دشوار ہے، جو لوگ ان واقعات میں شریک تھے وہ خلاف واقع نقل پر سکوت نہیں کر سکتے تھے۔ حدیث بالا میں حضرت ابو عبید کے اس کہنے پر کہ ”بُكْرِيَ كَمَ دَوَهُ بُكْرِيَ“ ہوتی ہیں ”آئندہ کا سلسلہ بند ہو جانا ملا علی قاری کے نزدیک اس بنا پر ہے کہ مجرمات کرامات اور اس قسم کے خوارق کا پیش آنا فناہ تامہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس جواب کی وجہ سے حضور کی وہ توجہ تام جو پہلے سے تھی باقی نہ رہی اور توجہ کے انقطاع کی وجہ سے یہ چیزیں منقطع ہو گئیں۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایک انعام الہی تھا، اگر یہ انقیاد تام کے ساتھ حضور کے ارشاد کی تعمیل کرتے رہتے تو وہ باقی رہتا، لیکن ان کی طرف سے اعتراض کی صورت پیدا ہوئی جو موقع کے مناسب نہ تھی اس لئے وہ اکرام تام بھی منقطع ہو گیا۔

(۱۹) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ بو نگ کا گوشت کچھ لذت کی وجہ سے حضور ﷺ کو زیادہ پسند نہ تھا بلکہ گوشت

فلیح: ولفظ المصنف في جامعه: حدثنا فليح بن سليمان، عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير.  
 ما كان إلخ: قال زين الحفاظ: كذا وقع في أصل سمعنا من الشمائيل باللفي، ووقع في سمعنا من الجامع بالإثبات، وليس بجيد؛ إذ الاستدارك بعد ذلك لا يناسب، فهو إما سقط لفظ "ما" من بعض الرواة، أو أصلحه بعض المتأجرين ليناسب بقية الأحاديث في كون الذراع كانت تعجبه مع أنه لا منافاة بينهما. قلت: لكن النسخ التي بأيدينا من الجامع فيها أيضاً بلفظ النفي.

لأنها أَعْجَلُهَا نَضْجًا. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مِسْعُرٌ قَالَ: سَمِعْتُ شِيخًا مِنْ فَهْمٍ قَالَ: سَمِعْتَ<sup>(۲۰)</sup> عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَطِيبَ اللَّحْمَ لَحْمَ الظَّهَرِ. حَدَّثَنَا سَفِيَّانَ بْنَ وَكِيعَ، حَدَّثَنَا زَيْدَ بْنَ الْحُجَّابَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤْمَلِ،

چونکہ گاہے گاہے پکتا تھا اور یہ جلدی گل جاتا ہے اس لئے حضور اس کو پسند فرماتے تھے تاکہ جلدی سے فارغ ہو کر اپنے مشاغل غلیا میں مصروف ہوں۔ فائدہ: حضور ﷺ کا دست کو پسند فرمانا روایات متعددہ سے معلوم ہوتا ہے لیکن وجوہ رغبت ممکن ہے کہ کئی ہوں، من الجملہ ان کے یہ بھی ہو جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تجویز فرمائی، اور جس رغبت کی نفی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ رغبت بظاہر میلان خاطر اور اشتبہاء کا درجہ ہے جو حضور والا کی شان کے مناسب نہیں ورنہ صرف پسندیدگی کا بظاہر انکار نہیں ہے۔

(۲۰) عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پیٹھ کا گوشت بہترین گوشت ہے۔

فائدة: یہ روایت ان روایات کے خلاف نہیں ہے جو دست کی پسندیدگی کے بارے میں گزری ہیں اس لئے کہ پسندیدگی اور عدمگی مختلف وجوہ سے دونوں میں ہو سکتی ہے، مثلاً قوت کے لحاظ سے یا ریشه نہ ہونے یا چکنا ہونے کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ۔ غرض مختلف لحاظ سے دو چیزیں پسندیدہ اور عدمہ ہو سکتی ہیں۔

لأنها أَعْجَلُهَا نَضْجًا: قيل: هذا بحسب ما فهمته <sup>عليهم السلام</sup>، والذي دلت عليه الأخبار الصحيحة أنه كان يحب حبة غريزة طبيعية، وكأنها أرادت تنزيه مقامه الشريف عن أن يكون له ميل إلى شيء من الملاذ، وفي إيهام قصور الفهم إلى هذه الصدقية العالمة، وقيل: لا منافاة لهذا الحديث بحقيقة أحاديث الباب؛ إذ يجوز أن تعجبه وليس بأحباب إليه. فهم: بفتح الفاء وسكون الماء كفهم، أبو قبيلة، واسم هذا الشيخ محمد بن عبد الله بن أبي رافع، وقيل: اسم أبيه عبد الرحمن. قال ميرك: أكثر ما يأتى في الحديث عن شيخ من فهم غير مسمى، قاله القاري. وقال البيحوري: ما ذكره بعض الشرائح أنه بالقاف والتاء فخطأ صريح وتحريف قبيح. لحم الظهر: وجه المناسبة بالترجمة بأن كونه أطيب يقتضي أنه <sup>عليه السلام</sup> لعله تناوله في بعض الأحيان، ثم لا مخالفة للحديث لما تقدم من روایات الذراع فلا حاجة إلى التوجيه بأن الرواية ضعيفة لمكان شیخ. الحباب: بضم الحاء المهملة وتحفیف المودحة كغраб، وتقدم في اللباس بلا لام ولا بد؛ فإن الأعلام المنقوله عن المصادر يجوز قرئها باللام وعدمه، فإن الحباب بالضم في الأصل مصدر بمعنى الحبب جعل علماء المؤمل: بتشدید الميم المفتوحة، وقيل: بكسرها. قاري.

عن ابن أبي مليكة، عن <sup>(۲۱)</sup> عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: نعم الإدام الخَلَّ. حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن ثابت أبي حمزة الشمالي، عن الشعبي، عن <sup>(۲۲)</sup> أم هانئ

(۲۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ فائدہ: یہ مضمون شروع باب میں متعدد روایات سے گزر چکا ہے۔

(۲۲) حضرت ام ہانئ رضی اللہ عنہا (حضور کی چپازو بہن) فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ (فتح مکہ میں) میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سوکھی روٹی اور سرکہ ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس میں سرکہ ہو۔

فائدہ: یہ قصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جس کو یہیق نے تحریج کیا ہے زیادہ مفصل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ فتح مکہ میں حضور اکرم رضی اللہ عنہ ام ہانی کے گھر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کو بھی رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور! سوکھی روٹی ہے جس کو پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لے آؤ، وہ لے آئیں۔ حضور نے اُن کے گلڑے کیے اور پانی میں بھگو کر نمک ملایا۔ پھر حضور رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کچھ سالن بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سرکہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ نے منگایا اور اس پر ڈال کر نوش فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ ام ہانی! جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں۔ اللہ اکبر! کیا سادہ زندگی تھی حضور کی۔ کاش!

حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف اور اپنے نبی کے طفیل سے ہم لوگوں کو بھی اس سادگی کا اتباع نصیب فرماتا۔ حق یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی نگاہ میں کھانلیبنا صرف اضطرار اور مجبوری ہی کا درجہ رکھتا تھا، ضرورت کے وقت جو میسر ہوا جیسا موجود ہوا نوش فرمایا کہ کھانا زندگی کی ضرورت سے تھا، نہ یہ کہ ہم لوگوں کی طرح سے زندگی کھانے پینے کی ضرورت سے،

ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة كطليحة، فهو منسوب إلى حده. أبي حمزة: وفي نسخة: ابن أبي حمزة، قاله القاري، قلت: والظاهر الأول، وهو ثابت بن أبي صفيحة الشمالي. الشمالي: بضم المثلثة وخفقة الميم، منسوب إلى ثلاثة، لقب عوف ابن أسلم، أحد أجداد أبي حمزة، لقب به؛ لأنَّه كان يسكنهم اللين بشمالته أي: رغوة، قاله القاري.

قالت: دخل علیّ النبي ﷺ فقال: أ عندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس و خل. فقال: هاتي، ما أفتر بيت من أدم، فيه حل. حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن مُرَّة الهمданى، عن <sup>(۲۲)</sup> أبي موسى رضي الله عنه الأشعري

جس میں اصل مقصد پیٹ کا پالنا بن جائے اور دینی مشاغل میں شمار ہو جائیں۔ وہاں مقصد زندگی دین کی اشاعت اور اس کو سر بز کرنا تھا اور یہ ضروریات بشریہ مجبوری کے درجہ میں پوری کر لی جاتی تھیں۔ نیز حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاں بے تکلفی ہو، تعلقات و سبق ہوں، سوال میں بھی مضافتہ نہیں ہے۔

(۲۳) ابو موسی اشعری رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ شرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ فائدہ: اس حدیث سے حضرت عائشہ رضي الله عنها کی فضیلت تمام عورتوں پر بھی ثابت ہوتی ہے اور شرید کی فضیلت تمام کھانوں پر بھی تکلفی ہے۔ شرید شوربے میں بھگوئے ہوئے ملکزوں کو کہتے ہیں جن میں علاوه لذت و قوت کے سہولت و سرعت ہضم، جلد تیار ہو جانا وغیرہ وغیرہ منافع ہیں۔ عرب میں اس کا دستور تھا اور سب کھانوں میں افضل شمار ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضي الله عنها کی فضیلت میں بہت سی روایات آئی ہیں، اس روایت میں علماء کا اختلاف ہے کہ عورتوں سے مرا سب عورتیں ہیں یا کچھ متشتمی ہیں، اسی بنا پر اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ رضي الله عنها کی فضیلت حضرت خدیجہ رضي الله عنها اور حضرت فاطمہ رضي الله عنها پر بھی ہے یا نہیں۔ کسی نے حضرت عائشہ رضي الله عنها کی افضليت بتائی ہے اور کوئی حضرت فاطمہ رضي الله عنها کی افضليت کا قائل ہے، کوئی حضرت خدیجہ رضي الله عنها کی افضليت عن الکل کی طرف مائل ہے۔ لیکن بندہ کے نزدیک ان میں سے ہر ایک کسی خاص فضیلت کے لحاظ سے سب سے افضل ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضي الله عنها فقاہت اور محبوبیت کے ساتھ اس امر میں بھی بڑھی ہوئی ہیں کہ وحی ان کے لباس میں نازل ہو جاتی تھی، حضرت خدیجہ رضي الله عنها پہلی بیوی پہلی مومنہ وغیرہ وغیرہ بہت سے امور کی بنا پر افضل ہیں، حضرت فاطمہ رضي الله عنها حضور ﷺ کا جگر گوشہ اور جنت کی سردار وغیرہ وغیرہ امور میں سب سے افضل ہیں۔

هاتی: بإثبات الياء بصيغة أمر، وما أجاد من قال: اسم فعل. **أفتر**: من القاف والفاء، القفار: الطعام بلا إدام كذا في الجمع، وقال أيضاً في الفاء مع القاف الفقار: هو الخبز وحده. قلت: وكذا يوجد النسختان معاً في الشمائل، لكن قال المناوي: **وهم من جعله بالفاء مع القاف**.

عن النبي ﷺ قال: فضل عائشة على النساء كفضل الشريد على سائر الطعام. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معاذ الأنصاري أبو طواله، أنه سمع <sup>(٢٤)</sup> أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: فضل عائشة على النساء كفضل الشريد على سائر الطعام. حدثنا قبية بن سعيد، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن <sup>(٢٥)</sup> أبي هريرة: أنه رأى رسول الله ﷺ توضأ من ثور أقطٍ،

(٢٢) حضرت أنس رضي الله عنه فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے شرید کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر۔ فائدہ: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ان روایات کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ حضور ﷺ کو شرید پسند تھا، چنانچہ مختلف روایات سے اس کے نوش فرمانے کا معمول معلوم ہوتا ہے۔

(٢٥) ابو هریرہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو ایک مرتبہ پیر کا گلزار نوش فرما کر وضو فرماتے دیکھا، اور پھر ایک دفعہ دیکھا کہ بکری کاشانہ نوش فرمایا اور وضو نہیں فرمایا۔ فائدہ: ابتدائے اسلام میں آگ سے کپی ہوئی چیز کھانے سے وضو ثبوت جاتا تھا بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ممکن ہے کہ حضور ﷺ نے پیر کے گلزار سے جس زمانہ میں وضو فرمایا ہو، وہ زمانہ آگ سے کپی ہوئی چیزوں سے وضو ثبوت جانے کا زمانہ ہو، یا کسی اور وجہ سے وضو فرمایا ہو۔

على النساء: أي مطلقًا، أو نساء زمامها، أو نساء رسول الله التي كان في زمامها، قاله القاري، وقال المناوي: من أطلق النساء ورد عليه خديجة، فإنها أفضل من عائشة على الصواب؛ لتصريحه بأنه لم يرزق خيراً من خديجة، قال القاري: في الحديث إشارة إلى أن الفضائل التي اجتمعت في عائشة ما توجد في جميع النساء من كونها امرأة أفضل الأنبياء، وأحب النساء إليه، وأعلمهن، وأنسبهن، وأحسبهن، وإن كانت خديجة وفاطمة وجوه أخرى من الفضائل، لكن الهيئة الجامعية في الفضيلة المشبهة بالشريد لم توجد في غيرها، وبسط القاري الكلام على روایات التفضیل بین خدیجہ وفاطمہ ومریم وآسیہ، فارجع إلیه لو شئت التفصیل.

الشريد إنما يعني كما أنه جامع لفوائد شتى من الغذائية واللذة والقوه حتى قيل: إنه يعيد الشيخ إلى صباح، كذلك هي بفتح الميم تجمع بين فضائل شتى من الفضل والفقه والفصاحة والفتانة وغيرها. أبو طواله: بضم الطاء المهملة كتماله، قاضي المدينة زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ثور: قيل: الثور قطعة من الأقط، بالإضافة على سبيل التجريد أو بيانه، وقيل: الثور: القطعة مطلقاً.

ثم رآه أكل من كَتِفْ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ。 حَدَثَنَا أَبْنَى عُمَرُ، حَدَثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ وَائِلَ بْنِ دَاؤِدَ، عَنْ أَبِيهِ - وَهُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلَ -، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوْ لَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى صَفَيْةٍ بَتْمِرٍ وَسُوْقِ.

مشائلاً وضواً پر وضو کا ارادہ فرمایا ہو یا پہلاً وضو کسی اور وجہ سے جاتا رہا ہو۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رض کے طرز بیان سے یہی مقصد معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں حضور ﷺ کی پکی ہوئی چیز سے وضو کرتے تھے، اسی لئے پنیر کے نوش فرمانے سے حضور اقدس ﷺ نے وضو کیا، بعد میں یہ حکم باقی نہیں رہا اسی لئے بکری کا گوشت نوش فرمایا کروضو نہیں کیا۔

(۲۶) حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت صفیہ رض کا ولیمہ بھجوڑ اور ستو سے فرمایا تھا۔ فائدہ: حضرت صفیہ رض حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ محرم سنہ ہجری میں جنگ خیبر میں باندی بن کر آئی تھیں۔ حضور رض نے ان کو آزاد فرمایا اور سفر ہی میں ان کا ولیمہ ہوا۔ ولیمہ میں کیا چیز تھی؟ اس میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں، بعض میں ”حیس“ جو ایک قسم کا طلا ہے، اس کا ولیمہ وارد ہوا ہے، بعض میں پنیر بھی آیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ چونکہ سفر کا موقعہ تھا اس لئے ناشتا وغیرہ میں جو کچھ حضور اقدس ﷺ کے اور خاص مخلصین کے پاس موجود تھا، سب ولیمہ میں شریک کر دیا۔

رأه: ظاهر السياق أن أبا هريرة أراد أن يبين أن الحكم السابق وهو الوضوء من ثور أقط قد نسخ بفعله صلوة آخره من أكله كف الشاة وعدم توضئه. وكانت مسألة الوضوء مما مست النار خلافية في السلف، ثم أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء منه، والظاهر من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن المصنف أراد أن يبين أنه صلوة أكل ثور الأقط وكف الشاة بطريق الاستدام، وليس في لفظ الخبر ما يدل عليه صريحاً إلا أن يقال: إنما من جملة الإدام عادة، فاعتبر العرف، وحمل عليه الحديث.

ابن أبي عمر: قيل: اسمه محمد بن يحيى بن أبي عمر، فهو منسوب إلى جده، وقيل: أبو عمر كنية أبيه يحيى. أبيه: كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها ”ابنه“ وهو صواب عندي، والمراد به ابنه بكر بن وائل، فهو من رواية الأكابر عن الأصغر، ولفظ ”أبيه“ تصحيف؛ لأن والد وائل وهو داود ليس من رواة الصحاح. والحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة بلفظ ”ابنه“ وابن ماجة بلفظ ”أبيه“ والعجب من الكل ما وقع في جامع المصنف بلفظ ”عن ابنه نوف“، فلفظ ”ابنه“ صحيح، لكن ليس في الرواة أحد اسمه نوف.

حدثنا الحسين بن محمد البصري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ قال: حدثنا عبيد الله بن علي، عن جدته سلمي: أن الحسن بن علي، وابن عباس، وابن جعفر، أتوا فقلوا لها: أصنعي لنا طعاماً مما كان يعجب رسول الله ﷺ،  
لأنما كانت عادة له طباعة  
ويعجب أكله، فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بل أصنعي لنا. قال: فقامت، فأخذت شيئاً من  
النكح  
شغف، فطحنته، ثم جعلته في قدر، وصببت عليه شيئاً من زيت، ودققت الفلفل والتوابل،

(٢٧) سلمي عن شعبان كہتی ہیں کہ امام حسن اور عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن جعفر رضي الله عنهما ان کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ حضور اقدس ﷺ کو جو کھانا پسند تھا اور اس کو رغبت سے نوش فرماتے تھے وہ ہمیں پا کر کھاؤ۔ سلمي عن شعبان نے کہا کہ پیارے بچو! اب وہ کھانا پسند نہیں آئے گا (وہ تنگی، ہی میں پسند ہوتا ہے) انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ضرور پسند آئے گا۔ وہ اٹھیں اور تھوڑے جو لے کر ہانڈی میں ڈالے اور اس پر ذرا ساز یون کا تیل ڈالا اور کچھ مرچیں اور زیرہ وغیرہ مصالحہ پیس کر ڈالا اور پا کر لارکھا کہ حضور کو یہ پسند تھا۔

الحسين بن محمد: وفي نسخة: سفيان بن محمد، قال ميرك: وهي غلط؛ لأن سفيان بن محمد لم يذكر في الرواية. قلت: ولذا لم يذكره الحافظ في تهذيبه. الفضيل: بضم فتح فتحية ساكتة، وفي بعض النسخ: الفضل، قال أصل الدين: كذا في أكثر النسخ وهو غلط، والصواب فضيل مصغراً. قلت: ليس فضل بن سليمان أحد من الرواية. فائد: بالفاء آخره دال مهملة. مولى: صفة لقوله: أبي رافع يعني: أبو رافع، كان مولى رسول الله ﷺ، وهو غلبت عليه كنيته، اختلف في اسمه على أقوال.  
 سلمي: بفتح أوله، زوجة أبي رافع، وهي كانت قبلة إبراهيم بن المصطفى ﷺ. الحسن: وفي نسخة: بدله الحسين مصغراً.  
 يعجب: بصيغة المعلوم، إما من الإعجاب برسول الله ﷺ مفعوله، والضمير المستتر فيه للموصول، أو من العجب بفتحتين من باب "علم" فرسول الله فاعله، وضمير الموصول في الصلة محنوفة أي: ما كان يعجبه ﷺ. ويعجب: من الإحسان، وفي نسخة من التحسين، و"أكله" بالنصب مفعوله، وهو بفتح المهمزة وسكون الكاف مصدر. لا تشتهيه: أفردت؛ لأنها خاطبت أعظمهم أو لأهم لا تحد بغيرتهم كانوا كواحد، قاله البيحوري، والمعنى: أن هذا الطعام لا تجده اليوم لتغير الحالة من العسر إلى اليسر.  
 والتوابل: بفتح الفوقة وكسر الموحدة: إبراز الطعام، وهي أدوية حارة يؤتى بها من الهند، وقيل: هو مركب من الكزبرة والزنجبيل والرازيانج والكمون، جمع تابل بمودعة مكسورة أو مفتوحة.

فقرّبته إلهم، فقالت: هذا مما كان يعجب النبي ﷺ، ويحسن أكله. حدثنا محمد بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن جابر بن عبد الله (٢٧) قال: أتانا النبي ﷺ في منزلنا، فذبحنا له شاةً فقال: كأفهم علموا أنا نحب اللحم، وفي الحديث قصة.

(۲۸) جابر بن عبد الله رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس اللہ علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم نے حضور کے لئے بکری ذبح کی۔ حضور ﷺ نے (لداری کے لئے انہاہ مسرت کے طرز پر) فرمایا کہ بظاہر ان لوگوں کو یہ علم ہے کہ ہمیں گوشت مرغوب ہے۔ ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اور بھی قصہ ہے جس کو مختصر کر دیا گیا۔

فائدہ: کہتے ہیں کہ یہ وہ قصہ ہے جو کتب حدیث میں غزوہ خندق کے قصہ میں مذکور ہے، جس میں آنحضرت ﷺ کے ایک مجھہ کا بھی ذکر ہے۔ وہ یہ کہ جابر رضي الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس اللہ علیہ السلام پر بھوک کا اثر محسوس کیا، گھر میں جا کر پوچھا کہ کچھ کھانے کو بھی ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور تھیلی میں تھوڑے سے جو ہیں۔ میں نے بکری کے بچہ کو ذبح کیا اور بیوی نے جو پیس کر آتا گوندھا۔ گوشت دیکھی میں پکنے کے لئے رکھ کر میں نے حضور اقدس اللہ علیہ السلام سے پکنے سے عرض کیا کہ تھوڑا سا کھانا موجود ہے، آپ اور چند رفقاء آپ کے ساتھ تشریف لے چلیں۔ حضور ﷺ نے یہ سن کر تمام الہ خندق کو جو تقریباً ایک ہزار آدمی تھے اعلان فرمادیا کہ جابر کے یہاں دعوت ہے سب چلیں۔ اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں دیکھی کوچولھے سے نہ آتا نا اور نہ روٹی پکانا۔ جب حضور تشریف لے گئے تو آئے اور دیکھی پر دم کیا جس کی وجہ سے اس قدر برکت ہوئی کہ اس دیکھی میں سے برابر سالن لکھتا رہا اور آئے سے برابر روٹیاں پکتی رہیں۔

**نبیح:** بضم النون والمودحة والباء المهملة مصغراً، وفي نسخة: ابن نبیح، المؤید بكتب الرجال هو الأول، وليس عندهم أحد يشتهر بابن نبیح. **العنزي:** بفتح العين المهملة والنون وبالراء، منسوب إلى بني العنزة، قبيلة من ربيع قاله القاري، وقال البيحوري: عنزة بفتحات حي من ربيعة. قصة: قال القاري: هي قصة جابر في غزوہ الخندق، إذ قال: انكفتات إلى امرأة فقلت: هل عندك شيء؟ فلما رأيت بالنبي عليه السلام جوعاً الحديث. أخرجه صاحب المشكوة برواية المتفق عليه. ويشكّل عليه: أن هذه الرواية تدل على أن ذبح الشاة بعد إيتانه عليه السلام ورواية المشكوة تدل على عكسه، والجمع بينهما هُنَّ، جمعهما القاري بثلاثة وجوه، وقال المناوي: هذا الحديث يدل على ذبح الشاة بعد مجيء النبي ﷺ منزّلهم، وفي حديث الخندق كان ذبح الشاة قبل المجيء، فالظاهر أن هذه القصة غيرها.

حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، أنه سمع جابرًا. قال سفيان: وأخربنا محمد بن المنكدر<sup>محمد</sup> عن جابر<sup>عليه السلام</sup> قال: خرج رسول الله ﷺ وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاةً، فأكل منها،

خدا کی قسم! ایک ہزار آدمی کھا کر چلے گئے اور دیگھی میں سالن جوش مارتارہا اور اس آٹے سے برابر روٹیاں پکتی رہیں۔ (الٹائیپ) (۲۹) حضرت جابر<sup>عليه السلام</sup> فرماتے ہیں کہ حضرور اقدس ﷺ ایک مرتبہ ایک انصاری عورت کے مکان پر تشریف لے گئے۔ میں بھی حضور کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے حضور ﷺ کے لئے بکری ذبح کی، حضور ﷺ نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا، اس کے بعد سمجھو کر کی چلگیری میں کچھ تازہ سمجھوئیں لا کیں، حضور ﷺ نے اس میں سے بھی کچھ تناول فرمایا، پھر ظہر کی نماز کے لئے حضور نے وضو کر کے نماز ادا کی، پھر واپس تشریف لانے پر انہوں نے باہی گوشت سامنے رکھا، حضور نے اس کو تناول فرمایا اور عصر کی نماز کے لئے دوبارہ وضو نہیں کیا، اسی پہلے وضو سے نماز ادا فرمائی۔ فائدہ: اس حدیث سے بھی آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو نہ ٹوٹنے پر استدلال کیا جاتا ہے، نیز دن میں دو مرتبہ کھانے کا اثبات بھی اس حدیث سے کیا جاتا ہے، لہذا جن احادیث میں دو مرتبہ کا انکار گزر ہے وہ کہنے والے کے اپنے علم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے کہ ان میں دو مرتبہ پیش بھرنے کا انکار تھا، دو مرتبہ کھانے کا انکار نہ تھا کہ تھوڑا ساد و بارہ کھالیا گیا۔

ابن المنکدر: هکذا رواه المصنف في الجامع، وصرح أبو داود بسماع ابن المنکدر عن جابر، إذ أخرج برواية ابن حريج: أخبرني محمد بن المنکدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قربت للنبي ﷺ خبزاً ولحماً، الحديث. فما في التلخيص الحبر عن الشافعي: أن ابن المنکدر لم يسمعه عن جابر بل بينهما واسطة عبد الله بن محمد بن عقيل مشكل، اللهم إلا أن يقال: إنه حديث آخر، وفيه ما فيه. امرأة: هكذا ذكره المصنف في الجامع والطحاوي والبيهقي وغيرهم، وخالفهم أبو داود فآخر حروبة ابن حريج عن محمد بن المنکدر، عن جابر يقول: قربت للنبي ﷺ خبزاً ولحماً، الحديث، وضبطه بعض شراح أبي داود بصيغة المتكلم فلم يجمع بوجه التأويل وهي محتملة قريبة، فرواية الترمذى أولى؛ لاتفاق غير واحد على هذا السياق، وسكتوا عن اسم المرأة، والظاهر عندي أنها عمرة، فقد قال الحافظ في الإصابة: عمرة بنت حرام بفتحتين، وقيل: بنت حزم بسكون الراء الأنصارية زوج سعد بن الربيع ذكرت في حديث جابر، أخرجه الطبراني وغيره من طريق يحيى بن أيوب، عن محمد بن ثابت البناي، عن محمد بن المنکدر، عن جابر، عن عمرة بنت حزم: أنها جعلت للنبي ﷺ في صورة نخل كبسنة ورثينة، وذبحت له شاة فأكل منها وتوضأ وصلى الظهر، ثم قدمت له من لحمها فأكل وصلى العصر ولم يتوضأ.

وأَتَهُ بِقَنَاعٍ مِنْ رُطْبٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظَّهَرِ، وَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاهَةِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. حَدَثَنَا العَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيِّ، حَدَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَثَنَا فُلَيْحَ بْنُ سَلِيمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبِ، عَنْ<sup>(٣٠)</sup> أُمِّ الْمَذْنَرِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ عَلَيْهِ الْمَسْكُونَ، وَلَنَا دَوَالٌ مَعْلَقَةٌ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ، وَعَلَيْهِ مَعَهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَيْهِ الْمَسْكُونَ: مَهْ، يَا عَلَيْهِ! إِنَّكَ نَاقِهُ. قَالَتْ: فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ.

(٣٠) أُمِّ الْمَذْنَرِ کہتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ میرے یہاں تشریف لائے۔ ہمارے یہاں بھور کے خوش لئے ہوئے تھے، حضور اقدس ﷺ ان میں سے تناول فرمائے گے۔ حضرت علیؓ جو حضور کے ساتھ تھے وہ بھی نوش فرمائے گے، حضور نے ان کو روک دیا کہ تم ابھی یہاری سے اٹھے ہو، تم مت کھاؤ۔ وہ رُک گئے اور حضور تناول فرماتے رہے۔ اُمِّ الْمَذْنَرِ کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جو اور چند رلے کر پکائے۔ حضور ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لئے مناسب ہے۔ فائدہ: اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسباب کی رعایت توکل کے منافی نہیں، چنانچہ احیاء العلوم میں اس کو مفصل لکھا ہے۔ اس کے ترجمہ میں جس کا دل چاہے تفصیلات دیکھ لے۔

بَقْنَاعٌ: بَكْسَرُ الْقَافِ: الْطَّبِيقُ الَّذِي يُؤْكَلُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الصَّاحَاجِ، وَقِيَدَهُ فِي الْقَامُوسِ بِأَنَّهُ طَبِيقٌ مِنْ سُعْدِ النَّخْلِ.  
بعلالة: بضم العين المهملة: أي بقية، قيل: فيه شبع من لحم في يوم مرتين، فما مر عن عائشة ؓ من نفي ذلك إنما هو باعتبار علمها أو باعتبار الغالب، لكن دعوى الشبع غير ظاهرة، نعم فيه دليل على حل الأكل ثانياً. أُمِّ الْمَذْنَرِ: يقال: اسمها سلمى بنت قيس، ويقال: هي إحدى حالات النبي ﷺ، قاله القاري، وسماها المناوي سلمة بالهاء لكن أهل الرجال على الأول. وكذا قال الحافظ في مذديه: يقال: إنها إحدى حالات النبي ﷺ لكن قال في الإصابة: قال الطبراني: اسمها سلمى بنت قيس اخت سليمان بن قيس من بنى مازن بن النجار، وعندى أنها غيرها إلى آخر ما بسط في الإصابة.  
دواال: بفتح الدال المهملة وتنوين اللام المكسورة، جمع دالية: هي العذق من النخلة، يقطع ذا بسر ثم تعلق فإذا رطب يؤكل، وواوه منقلبة عن ألف؛ إذ هو جمع دالية.

قالت: فجعلتُ لهم سِلْقاً وشعيراً، فقال رسول الله ﷺ لعليٍّ: مِنْ هَذَا فَأَصْبُ؟ فِإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ. حديثنا  
 (٣١) محمود بن غيلان، حديثنا بشر بن السريّ، عن سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن  
 عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُّ يَأْتِينِي فِي قَوْلٍ: أَعْنَدُكَ غَدَاءً؟ فَأَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ.

(٣١) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتي ہیں کہ حضور اقدس ﷺ میرے پاس تشریف لا کر دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کچھ کھانے کو رکھا ہے؟ جب معلوم ہوتا کہ کچھ نہیں تو فرماتے کہ میں نے روزہ کا ارادہ کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ تشریف لائے، میں نے عرض کیا کہ ایک ہدیہ آیا ہوا رکھا ہے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کھجور کا ملیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ کا ارادہ کر رکھا تھا، پھر حضور نے اس میں سے تناول فرمایا۔

فائدہ: اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ نفل روزہ کی نیت صحیح کے وقت بھی آؤ ہے دن تک ہو سکتی ہے، بشرطیکہ اس سے پہلے کوئی عمل روزہ کے منافی نہ کیا ہو۔ چنانچہ حضور ﷺ نے حضرت عائشة رضي الله عنها سے دریافت فرمانے پر نیت فرمائی۔ یہ مذهب حنفیہ شافعیہ رضی الله عنہم کا ہے اور امام مالک رضی الله عنہم کا مذهب یہ ہے کہ نفل روزہ کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلہ میں یہ حدیث ہمارے موافق ہے، لیکن جب ایک معتبر امام کا خلاف ہے تو تزویہ بہتر یہ ہے کہ نفل روزہ کی نیت بھی رات ہی کو کر لی جائے، البتہ کوئی عارض پیش آجائے تو دوپھر سے پہلے پہلے دن میں بھی نیت کرنے کا مضاائقہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نفل روزہ رکھے تو اس کے توزیعینے کا اختیار ہے، یہ مذهب شافعیہ کا ہے۔

هم: أي: لأضياف، وفي بعض النسخ: له، فقبل: الضمير لعليٍّ مرتب على قوله: ترك على أي: لما لم يأكل الرطب جعلت له هذا، والأوجه أن ضمير الواحد إليه ينتمي: لأنه الأصل المتبوع والباقي تبع، وهذا مرتب على ما تقدم منأكل الرطب وغيره. أوفق: قال ميرك: الظاهر أن صيغة التفضيل ورد هناك لحمد المواجهة؛ لأن تحقق المزية يتوقف على وجود الفضل في الطرف المقابل، اللهم إلا أن يقال بطريق الإمكان أو بحسب الحكمة قاله القاري، ثم لا تنافي بين نهيه عليا وبين رواية ابن ماجه: أنه عاد رجلا فقال: ماتشتكي؟ فقال: كعكا، وفي رواية: خبز بر فقال: من عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه الحديث. لأن المريض إذا اشتتد شهوته لشيء فتناول القليل منه لا يضر فصدق الشهوة تدفع مضرته قاله المناوي وغيره، قلت: وقد جربت ذلك على نفسي فوجدته هكذا، وهو الأوجه عندي، وفيه توجيهات أخرى. غداء: بفتح الغين المعجمة والدال المهملة والمد، هو الطعام الذي يؤكل أول النهار قاله القاري.

قالت: فأتانا يوماً فقلت: يا رسول الله! إنه أهدىت لنا هدية، قال: وما هي؟ قلت: حِيسٌ، قال: أما إني أصبحتُ صائماً، قالت: ثم أَكَلَ حَدَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصَةَ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَثْنَا أَبِي مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي أُمَّةِ الْأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُفَ  
نسبة إلى قبيلة أسلم

حفیہ کے نزدیک قرآن شریف کی آیت ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم﴾ (محمد: ۳۳) (اپنے اعمال کو باطل مت کرو) کی بنا پر روزہ نماز کوئی عمل توڑنا جائز نہیں، لیکن اس حدیث سے چونکہ روزہ کا توڑنا معلوم ہوتا ہے اس لئے دونوں چیزوں پر عمل اس طرح کیا جائے گا کہ اگر کوئی ضرورت اور مجبوری درپیش ہو تو اس حدیث کی وجہ سے اس میں گنجائش سمجھنی چاہئے اور بلا ضرورت توڑنا جائز نہیں۔ چنانچہ حضور اقدس ﷺ کے حال سے بھی یہی ظاہر ہے۔ بعض علماء نے حدیث کے اس جملہ کا کہ ”روزہ رکھنے کا ارادہ کر رکھا تھا“ اس کا مطلب یہ فرمایا ہے کہ پختہ نیت نہیں فرمائی تھی، البتہ ارادہ تھا کہ آج روزہ رکھ لون گا۔ لیکن بندہ کے نزدیک پہلی توجیہ اچھی ہے۔ مسئلہ: اگر کسی ضرورت سے نقل روزہ توڑ دینے کی نوبت آئے تو حفیہ کے نزدیک کسی دوسرے وقت قضا کرنا واجب ہے اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں اس کی تصریح ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ان کو ارشاد فرمایا تھا کہ کسی دوسرے دن قضا کر لینا۔

(۳۲) یوسف ﷺ نے اس کو ارشاد فرمایا تھا کہ کسی دوسرے دن قضا کر لینا۔

حیس: بحاء مهملا مفتتحة وتحتية ساکنة بعدها سین مهملا: هو التمر مع السمن والأقطط، وقد يجعل عوض الأقطط الدقيق أو الفتتت ثم يدللك حتى يختلط. وأصل الحیس: الخلط. ثم أَكَلَ: فيه جواز الفطر من أصبح صائماً، ويه قالـت الحنفية لمن عرض له عذر، وأوجبوا القضاء أيضاً لرواية عائشة عند المصنف في الجامع وأبي داود وغيرهما، ولفظ أبي داود: قالت: أهدى لي لحصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، فدخل رسول الله فقلنا له: يا رسول الله! إنا أهدىت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله ﷺ: لا، عليكما صوما مكانه يوماً آخر. والحديث سكت عليه أبو داود، ولفظ الترمذى: اقضيا يوما آخر مكانه، ورجح إرساله، والمسلم حجة، لا سيما إذا توبع، وقد تابعه حديث الباب؛ لما فيه من زيادة قوله: لكن أصوم يوماً مكانه. وصحح عبد الحق هذه الزيادة كما في هامش النسائي، وفي الباب أيضاً حديث أبي سعيد الخدري عند الطيالسي كما في هامش النسائي. یوسف: أححلسه رسول الله في حجره وسماه یوسف، روی عن رسول الله ثلاثة أحادیث كما قيل. وليس في بعض النسخ كالقلمية وغيرها زيادة ”عن عبد الله بن سلام“ فيكون الحديث من مقوله یوسف، وهو الأوجه عندي؛ لأن الحديث أخرجه أبو داود في سنته برواية یوسف، وكذا الحافظ ذكره في تهذیبه، وفي الإصابة في ترجمة یوسف.

بن عبد الله بن سلام، عن عبد السلام قال: رأيت النبي ﷺ أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة ثم قال: هذه إدام هذه فأكل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن حميدٍ، عن <sup>٣٣</sup> أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ كان يعجبه التفل.

قال عبد الله: يعني ما بقي من الطعام.  
هو شيخ الصنف

ایک کھجور کھی اور فرمایا کہ یہ سالم ہے اور نوش فرمائی۔ فائدہ: چونکہ کھجور کا سالم کے موقع پر کھانا متعارف نہیں تھا اس لئے حضور نے تشبیہ فرمادی کہ اس سے سالم کا کام بھی لیا جاسکتا ہے اور زندگی کے چند ایام کو اس طرح بھی گزارا جاسکتا ہے، اس لئے آدمی کو اپنی زندگی کے اوقات کو ایسے مشاغل میں خرچ کرنا جو ابدی اور سرمدی زندگی میں کارآمد ہوں، سمجھ کی بات ہے اور تمام اوقات کو حضن پیٹ پالنے میں ضائع کر دینا انتہائی ناجھی ہے کہ یہ چند ایام زندگی بہر حال گزر ہی جائیں گے اور موت ہر تکلیف کا خاتمہ ہے، لیکن جس تکلیف کے لئے موت بھی نہیں ہے وہ نہایت اہتمام کے قابل ہے۔

(۳۳) حضرت أنس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کو ہندی اور پیالہ کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا۔

فائدہ: یہ حضور اقدس ﷺ کے کمال تواضع کی بناء پر تھا کہ اوپر کا کھانا دوسروں کو اول کھلاتے اور بقیہ اپنے لئے پسند فرماتے، چنانچہ متعدد واقعات حدیث کی کتابوں میں اس کے شاہد ہیں۔ بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ نیچے کے کھانے میں وحنت کم ہونے کی وجہ سے ہضم میں سہولت ہوتی ہے۔

عبد الله بن سلام: هكذا في النسخ المطبوعة الهندية وبعض المصرية، وليس هذه الزيادة في القلمية ولا أكثر المصرية ولا في نسخ الشروح، وذكرها القاري نسخة؛ إذ قال: وفي نسخة صحيحة: زيادة عن عبد الله بن سلام. إدام: لا دليل فيه للشافعية ج. في من حلف لا يأكل إداماً يجثث به؛ لأن هذا من باب المحاز والتشبیه، كما هو ظاهر لا خفاء فيه مع أن مبني الآیمان على التعارف. عباد: بتتشدید المودحة، والعوام: بتتشدید الواو، وحميد: بالتصغير. التفل: بضم المثلثة ويكسر في الأصل: ما يرسب من كل شيء، وقد يطلق على ما بقي بعد الطعام، والمراد هناك: ما بقي في القدر أو في قصعة.

## بابُ ما جاء في صفة وضوء رسول الله ﷺ عند الطعام

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْعِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي مُلِيقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُتَقَبِّلِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَقُرِبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ، فَقَالُوا: لَا تَأْتِيكَ بِوضُوءٍ؟

## باب۔ حضور اقدس ﷺ کے کھانے کے وقت وضو کا ذکر

فائدہ: کھانے کے وقت سے مراد عام ہے کہ کھانے کے بعد ہو یا پہلے۔ وضو اصطلاحی تو ہی ہے جو نماز کے لئے شرط ہے اور نماز کے اوپر میں کیا جاتا ہے، سب اس کو جانتے ہیں لیکن لغت عرب میں صرف ہاتھ منہ دھونے کو بھی وضو کہا جاتا ہے اور یہ وضو لغوی کے نام سے مشہور ہے۔ اس باب میں دو طرح کی روایات وارد ہوئی ہیں، بعض روایات سے وضو کرنا معلوم ہوتا ہے، یہ دوسرا وضو ہے جو وضو لغوی کہلاتا ہے، اور بعض روایات سے وضو نہ کرنا معلوم ہوتا ہے یہ پہلا وضو ہے جو وضو اصطلاحی کہلاتا ہے۔

(۱) ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ جب کہ بیت الغلاء سے فراغت پر باہر تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا اور وضو کا پانی لانے کے لئے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وضو کا اسی وقت حکم ہے جب نماز کا ارادہ کروں۔ فائدہ: یعنی وضو اصطلاحی کا وجوب نماز ہی کے لئے ہے، کھانے کے لئے یا جب استنبج وغیرہ سے فراغت ہو فوراً وضو کرنا ضروری نہیں ہے، حضور ﷺ نے اسی لئے انکار فرمادیا کہ یہ ضروری نہ سمجھ لیا جائے کہ جب استنبج سے فراغت ہو تو وضو کیا جائے۔

وضوء: المراد به الوضوء اللغوي، كما يدل عليه قوله: "عند الطعام" أي: قبله وبعده، كما يدل عليه ما سيأتي في آخر الباب، وقيل: المراد الوضوء الشرعي: أي ما جاء في صفة الوضوء وجوداً وعدماً. وحاصل ما نقل السيد ميرك: أن الحديثين الأولين يدلان على أن الوضوء الشرعي ليس بمستحب، والحديث الثالث يدل على استحبابه، فلا بد أن يحمل على الوضوء اللغوي جمعاً بين الروايات. لأناتيك: بمحذف الهمزة الاستفهامية، وفي نسخة: بإثباتها.

قال: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَزْرُومِيُّ، حَدَّثَنَا سَفِيَّانَ بْنَ عَيْنَةَ، عَنْ عُمَرِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرَثٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ <sup>(۲)</sup> قَالَ: خَرْجُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْغَائِطِ، فَأَتَى بِطَعَامٍ، فَقَيلَ لَهُ: أَلَا تَوَضَّأُ؟ قَالَ: أَصْلَى فَأَتَوْضَأُ؟ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعْمَانَ، حَدَّثَنَا قَيْسَ بْنُ الرَّبِيعَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُرْجَانِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَادَانَ، عَنْ سَلَمَانَ <sup>(۳)</sup> قَالَ: قَرأتُ فِي التُّورَاةِ: إِنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ، فَارْسِي

(۲) ابن عباس رض سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ استنبج سے فارغ ہو کر تشریف لائے، حضور کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا وضو نہیں فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مجھے نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں؟ فائدہ: پہلی حدیث میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کھانے کے لئے وضو کرنا مستحب نہیں ہے، البتہ ویسے ہی ہر وقت باوضو ہنا اولیٰ اور بہتر ہے کہ ظاہری طہارت کا اثر باطن پر پڑتا ہے، اس لئے اگر استنبج وغیرہ سے فراغت پر وضو کر لیا جائے تو اولیٰ ہے۔

(۳) سلمان فارسی رض فرماتے ہیں کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ کھانے سے فراغت کے بعد وضو (یعنی ہاتھ دھونا) برکت کا سبب ہے۔ میں نے حضور اقدس سنتیم سے یہ مضمون عرض کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے

أمرت: استدل به على أنه صلی اللہ علیہ وسلم كان يجب الوضوء عليه لكل صلوة متظهاً وغير متظهر، وعند أبي داود: أنه كان أمر بذلك فلما شق عليه أمر بالسواك، قال القاري: المراد بالصلوة هي وما في معناها كمسجدة التلاوة ومس المصحف وإرادة الطواف، وكأنه بني الكلام على الأعم الأغلب. قال ميرك شاه: وليس في الحديث دلالة على غسل اليدين، فيتحمل أنه غسلهما، ويتحمل عدم الغسل بياناً للحجواز. أصلی: بمحذف همزة الاستفهام الإنكاری، وفي نسخة: يائباها، إنكار لما توهنه من إيجاب الوضوء للأكل أي: لا أصلی. فأتوضأ: بالنصب؛ لكونه بعد النفي وقدد المسببة، وبالرفع؛ لعدمهما.

الحرجاني: بضم الحييم الأولى قاضي جرجان، روى عن أبي حنيفة رض وغيره، وروى عنه الشافعي وغيره، هرب من القضاء فجاور عككة. أبي هاشم: على وزن فاعل، هو أبو هاشم الرماني، مختلف في اسمه، ووقع في بعض النسخ: أبو هشام، وهو غلط من الناصح. زادان: براء معجمة أول الحروف وبذال معجمة بين الألفين آخره نون. قرأت في التوراة: لا يخالف حديث نبیه صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب رض عن النظر في التوراة؛ لأنَّه ليس في حديث سلمان أنه قرأ في الإسلام، مع أنه صلی اللہ علیہ وسلم كان يجب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر، ثم أمر بمخالفتهم، فعلل هذا الحديث كان أولاً.

فذكرت ذلك النبي ﷺ، وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله ﷺ: بركة الطعام: الوضوء قبله والوضوء بعده.

قبل اور کھانے کے بعد وضو (یعنی ہاتھ منہ دھونا) برکت کا سبب ہے۔ فائدہ: ممکن ہے کہ توریت میں ایک ہی وقت کا ذکر ہو، اس صورت میں دوسرے وقت کا اضافہ شریعتِ محمدیہ کی زیادتی ہو گی کہ اس شریعت میں بہت سے احکام پہلی شریعتوں سے زیادہ ہیں، اور ممکن ہے کہ توریت میں بھی دونوں ہوں، لیکن چونکہ اس میں تحریف ہوئی ہے اس لئے ایک حکم یعنی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا مسئلہ اس میں غلطی سے نکل گیا ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ کھانے سے قبل ہاتھ دھونے میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ کھانے میں زیادتی ہوتی ہے کھانے والوں کا شکم سیر ہو جاتا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے برکت کا مفہوم یہ ہے کہ جن فوائد اور مقاصد کے لئے کھانا کھایا جاتا ہے وہ پورے ہوتے ہیں، بدن کا جزو بنتا ہے، نشاط پیدا کرتا ہے، عبادات اور عمدہ اخلاق پر تقویت کا سبب بنتا ہے۔

الوضوء إلخ: لعله إشارة إلى تحرير ما في التوراة، أو إيماء إلى أن شريعته زادت الوضوء قبله أيضاً استقبلاً للنعمـة بالطهارة المشعرة للتعظيم على ماورد: بعثت لأتم مكارم الأخلاق.

## بابُ ما جاءَ في قولِ رسولِ اللہ ﷺ قبلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَ مَا يَفْرَغُ مِنْهُ

حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن راشد بن جندل اليافعي، عن حبيب بن أوسٍ، عن أبي أيوب الأنصاري قال: كنا عند رسول الله ﷺ يوماً، فقرِبَ إِلَيْهِ طعام، فلم أر طعاماً كان أعظم بركة منه أَوْلَ ما أَكَلْنَا، وَلَا أَقْلَ بِرَبْكَةٍ فِي آخِرِهِ، قلنا: يا رسول الله! كيف هذا؟ قال: إِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللَّهِ حِينَ أَكَلْنَا، ثُمَّ قَعَدْ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسْمِ اللَّهَ تَعَالَى، فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانَ.

## باب۔ اُنْ کلمات کا ذکر جو حضور اقدس ﷺ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد فرمایا کرتے تھے

فائدہ: یعنی جو دعا میں وغیرہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد پڑھنے کا حضور ﷺ کا معمول تھا ان کا ذکر۔ اس باب میں امام ترمذی رض نے سات حدیثیں ذکر فرمائی ہیں:

(۱) ابوایوب الانصاری رض فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ کھانا سامنے لا یا گیا۔ میں نے آج جیسا کھانا کہ جو ابتداءً یعنی کھانے کے شروع کے وقت نہیات با برکت معلوم ہوتا ہو اور کھانے کے ختم کے وقت بالکل بے برکت ہو گیا ہو، کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لئے حیرت سے حضور اقدس ﷺ سے دریافت کیا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شروع میں ہم لوگوں نے بسم اللہ کے ساتھ کھانا شروع کیا تھا اور اخیر میں فلاں شخص نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھایا، اس کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو گیا۔ فائدہ: شیطان کا کھانا جمہور کے نزدیک حقیقت پر محول ہے اور اس میں کوئی محال بھی نہیں ہے کہ شیطان کھاتا پیتا ہو۔ اس حدیث میں صرف ”بِسْمِ اللَّهِ“ کا ذکر ہے اس وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر فقط اتنا ہی کلمہ یعنی ”بِسْمِ اللَّهِ“ پڑھے تو بھی کافی ہے لیکن بہتر اور اولی پوری ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ پڑھنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ”بِسْمِ اللَّهِ“ کو آواز سے پڑھنا اولی ہے تاکہ دوسرا ساتھی کو اگر خیال نہ رہے تو یاد آجائے۔

اليافعي: نسبة إلى يافع، وهو اسم موضع أو قبيلة من رعين، على ما في القاموس. أول: منصوب على الظرفية و "ما" مصدرية، ولو أريد المضي بالنسبة إلى تقريب الطعام لا بالنسبة إلى زمان التكلم، ويحمل على زمان قبل الخندق، فلا يشكل ببركة طعام جابر في غزوة الخندق.

حدثنا یحییٰ بن موسیٰ، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام الدستوائی، عن بُدْلِیل الْعَقِیلی، عن عبد الله بن عبید بن عمیر، عن أمّ کلثوم، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قال رسول الله ﷺ: إذا أكل أحدكم فنسیَ أَنْ يذكر اسم الله تعالى على طعامه، فليقل: بسم الله أوّله وآخره. حدثنا عبد الله بن الصّبّاح الهاشمي البصري، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، أنه دخل على رسول الله ﷺ وعنده طعام فقال: أدن، يا بُنْيَ! فَسَمَّ الله تعالى،

---

(۲) حضرت عائشة رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور قدس ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے درمیان جس وقت یاد آئے بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ کہہ لے۔

(۳) عمر بن ابی سلمی رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ حضور قدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا! قریب ہو جاؤ اور بسم اللہ کہہ کر دائیں ہاتھ سے اپنے قریب سے کھانا شروع کرو۔

---

الدستوائی: نسبة إلى دستواء، بلدة من الأهواز، نسب إليه؛ لأنَّه كان يبيع الثياب التي تجلب منها. فليقل: قال القاري: ندبا، وقال المناوي: ندباً مؤكداً إذا تذكر حال الأكل لا بعده، على ما عليه بعض الشافعية؛ لأن التسمية إنما شرعت لدفع الشيطان وبالفراغ فاتت، لكن رجع البعض خلافه؛ لأنها وإن شرعت لدفعه فقد شرعت أيضاً لicity ما أكله، وفصل البعض بين ما إذا تذكر حال الاشتغال بمصالح الطعام ولو بعد الأكل والبعد قريب وبين ما إذا بعد وانتقطعت التسمية.

أوله وآخره: بالنصب فيهما على الظرفية أي: في أو له وآخره، يعني على جميع أجزائه، فلا يقال: ذكرهما يخرج الوسط، ويمكن أن يقال: المراد "بالأول" النصف الأول و"بالآخر" النصف الثاني، أو على أنهما مفهولاً فعل محنوف أي: أكلت أوله وآخره مستعيناً به، وأورد عليه أنه في أول أكله ليس مستعيناً به، وأجيب: بأنه مستعين حكماً، لأن حال المؤمن و شأنه أنه مستعين به في جميع أحواله، وإن لم يجر اسم الله على لسانه نسياناً فهو معفو عنه، ويبدل عليه أن النسيان في ترك التسمية حال الذبح معفو مع أنها شرط، فكيف! وهي مستحبة ههنا، قاله القاري، وقال المناوي: إن الشرع جعله إنشاء استعana بسم الله في أوله، وليس هذا إنجاراً حتى يكذب، وهذا يشير مستعيناً في أوله ويترتب عليه ما يترتب على الاستعana في أوله. الصباح: بصاد مهملة وتشديد موحدة. يا بني: بصيغة التصغير شفقة، وكان ربیب النبي ﷺ من جهة أم سلمة.

وکل بیمنیک ممّا یلیک. حدثنا محمد بن غیلان، حدثنا أبو أحمد الزیری، حدثنا سفیان الثوری، عن أبي هاشم، عن إسماعیل بن ریاح، عن ریاح بن عبیدة،  
مصنفًا

فائدہ: بسم اللہ کہنا بالاتفاق سنت ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا جمہور کے نزدیک سنت ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے، اس لئے کہ ایک بائیں ہاتھ سے کھانے والے شخص پر حضور ﷺ نے بدعا فرمائی تھی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ جس کا عبرت انگیز واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھار ہاتھا، حضور ﷺ نے تنبیہ فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اُس نے کہہ دیا کہ میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، حضور ﷺ نے فرمادیا کہ آئندہ بھی نہ کھا سکو۔ اس کے بعد سے دایاں ہاتھ منہ تک نہیں جا سکتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ایک عورت کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو اس پر بدعا فرمائی اور وہ عورت طاعون میں مری۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اس لئے تم بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ بعض علماء کے نزدیک ان روایات کی بنا پر دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے۔ جمہور کے نزدیک گویہ سنت ہے لیکن ان روایات کی وجہ سے اہتمام ضروری ہے، آج کل لوگ اس سے غافل ہیں، بالخصوص پانی میں تو بائیں ہاتھ سے پانی پینے کی عام و با پھیل گئی ہے۔ حضور اقدس سنتی کا حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے پیو اس لئے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ اسی طرح تیرا مضمون یعنی اپنی جانب سے کھانا بھی بعض علماء کے نزدیک ان روایات کی وجہ سے واجب ہے، لیکن جمہور کے نزدیک سنت ہے۔

وکل: الجمہور علی اَن الْأَوَامِرُ الْثَلَاثَةُ لِلنَّدْبِ، وَقِيلَ: بِالْوُجُوبِ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ. قلت: وَلَعِلَ الْبَاعِثُ لِلْجَمِيعِ فِي حَمْلِهِمُ الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ مَا یلِيكُ عَلَى النَّدْبِ حَدِيثٌ: "تَبَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّبَّاءَ حَوْلَى الْفَصْعَدَةِ" وَهُوَ حَدِيثٌ مَعْرُوفٌ، وَالْبَاعِثُ فِي حَمْلِهِمُ الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ عَلَى النَّدْبِ مَا أَخْرَجَهُ الطَّرَابِيُّ بِسَنْدٍ ضَعِيفٍ: أَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرَ قَالَ: "رَأَيْتُ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ قَنَاءً وَفِي شَمَالِهِ رَطْبًا وَهُوَ يَأْكُلُ مِنْ ذَاهِرِهِ وَمِنْ ذَاهِرِهِ" ، وَأَخْرَجَ أَبُو نَعِيمَ فِي كِتَابِ الْطَّبِّ لَهُ بِسَنْدٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الرَّطْبَ بِيَمِينِهِ وَالْبَطْرِيخَ فِي يَسَارِهِ فَيَأْكُلُ الرَّطْبَ بِالْبَطْرِيخِ" ، ذَكَرَهُما الْقَارِئُ فِي بَابِ الْفَاكِهَةِ، وَحَمَلَهُ عَلَى تَبْدِيلِ مَا فِي يَدِيهِ؛ لَنْلا يَلْزِمُ الْأَكْلُ بِالشَّمَالِ. رِیاحٌ: بَکْسَرُ الرَّاءِ وَالْمَثَنَةِ التَّحْتَيْةِ، وَالدُّلُّ إِسْمَاعِیلُ الْمَذْكُورُ. وَ"عَبِيدَةَ" بَفْتَحٍ فَکَسْرٍ.

(٤) أَبِي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ. حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَثَنَا ثُورُ بْنُ يَزِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَّامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ

(٢) ابو سعيد خدری رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ (تمام تعریف اس ذات پاک کے لئے ہے جس نے ہمیں کھانا کھایا پائی پایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ فائدہ: کھانے پر حمد تو ظاہر ہے کہ کھانے سے فراغت ہوئی اور آیت ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُم﴾ (ابراهیم: ٧) (اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں عطا میں زیادتی کروں گا) کی بنا پر شکر کا موقع ہے ہی۔ مسلمان ہونے کو اس کے ساتھ اس لئے منضم فرمایا کہ انعاماتِ ظاہریہ کے ساتھ انعاماتِ باطنیہ بھی شامل رہیں، یا اس لئے کہ درحقیقت کھانے پینے پر شکر اور حق تعالیٰ جل جلالہ کی حمد اسلام ہی کا شمرہ ہے اس لئے اس کو بھی شامل کیا۔

(٥) ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے سامنے سے جب دستِ خوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرُ مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْفَى عَنْهُ رَبَّنَا (تمام تعریف حق تعالیٰ جل جلالہ کے لئے منحصر ہے، ایسی تعریف جس کی کوئی انہا نہیں ہے، ایسی تعریف جو پاک ہے ریا وغیرہ اوصافِ رذیلہ سے، جو مبارک ہے، ایسی حمد جو نہ چھوڑی جاسکتی ہے اور نہ اس سے استغنا کیا جاسکتا ہے۔ اے اللہ! (ہمارے شکر کو قبول فرماء۔)

أَطْعَمَنَا: صيغة الجمع باعتبار شركة الأهل أو الأضيف أو أمنته الضعيفة، فيبني التأسي بهذه الألفاظ تشيريًّاً للمسلمين. وَسَقَانَا: أردفه به؛ لأنَّه من تتمة الطعام؛ لأنَّه لا يخلو عن الشرب في أثنائه غالباً. مسلمين: هكذا في جميع النسخ الموجودة من الهندية والمصرية، وفي بعض المحواشي بطريق النسخة: "من المسلمين" أي: الموحدين والمناقدين لجميع أمور الدين. قيل: لما كان الحمد يستحلب به المزيد أتى به ﷺ تحريضاً لأمنته على التأسي به، وتحممه بقوله: "وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ"؛ للجمع بين الحمد على النعم الدنيوية والأخروية، وإشارة إلى أنَّ الأولى أن لا يجرد حمده إلى دقائق النعم، بل ينظر إلى جلالتها، وأن الإيمان بمحمه من نتائج الإسلام، وأن المدار على حسن الخاتمة مع ما فيه من الإنقياد في الأكل والشرب وغيرهما.

المائدة: قد فسروها بأنها: خوان عليه طعام، وتقدم رواية أنه ﷺ لم يأكل على خوان قط، فقيل: أكل عليه بعض الأحيان لبيان الجواز، ووجه أيضاً بأن المثبت مقدم، وبأن المائدة تطلق على كل ما يوجد عليه الطعام ولا يختص بصفة مخصوصة، وقد تطلق المائدة ويراد بها الطعام وبقائه وإناءه فلا تعارض، قاله القاري.

من بین یدیہ یقول: **الْحَمْدُ لِلّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرُ مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبِّنَا**. حدثنا أبو بكر محمد بن أبيان، حدثنا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أم كلثوم، عن عائشة بنت النبي ﷺ قال: كان النبي ﷺ يأكل الطعام في ستة مصادر بالصرف وبعده مصراً مصراً مصراً مصراً مصراً مصراً أي في المقتنيين كما في نسخة ماد قال: لو سمى لكفافكم. حدثنا هناد محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبوأسامة، عن زكريا بن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي بودة، عن أنس بن مالك بنبيه قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله ليرضي عن العبد أن يأكل الأكلة، ويشرب الشربة، فيحمده عليها.

(۱) حضرت عائشة بنت النبي ﷺ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس بنت النبي ﷺ چھ آدمیوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے کہ ایک بدھی آیا اور اُس نے دو لقوں میں سب کو نمائادیا، حضور بنت النبي ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بسم اللہ پڑھ کر کھاتا تو یہ کھانا سب کو کافی ہو جاتا۔ فائدہ: یعنی اس کے بسم اللہ نہ پڑھنے سے شیطان کی شرکت ہوئی اور وہ سب کو نمائیا جس سے بے برکتی ہو گئی۔

(۲) حضرت انس بن مالک نے حضور اکرم بنت النبي ﷺ سے نقل کیا کہ حق تعالیٰ بل ثابتندہ کی اس بات پر بہت ہی رضا مندی ظاہر فرماتے ہیں کہ ایک لقمه کھانا کھائے یا ایک گھونٹ پانی پیے اور حق تعالیٰ بل ثابت کا اس پر شکر ادا کرے۔ اللهم لك الحمد ول لك الشكر لا أخصني ثناءً عائلاً.

غير مودع: الضمير يرجع إلى الله عزوجل، أو إلى الحمد، أو إلى الطعام الذي يدل عليه السياق. قاري. ربنا: روی بالرفع والنصب والجر، فالرفع على تقدير: هو أو أنت ربنا، اسم حمدنا ودعائنا، أو على أنه مبتدأ وخبره لفظ "غير" بالرفع مقدم عليه، والنصب على أنه منادي، حذف حرف النداء، والجر على البدلية من اسم الحاللة. قالت: يتحمل أن يكون هذا ووقعة أي أیوب بنبيه متحدة، ويتحمل التعدد وهو الظاهر، وكذا يتحمل أن تكون عائشة رأت ذلك المنزل بعينها قبل نزول الحجاب، ويتحمل أن يكون من مراسيل الصحابة. قاري. بردة: بضم الموحدة وسكون الراء، اسمه عامر.

ليرضى: أي يرحمه ويشيه، واللام في "العبد" للجنس أو الاستغراف. أن يأكل: علة ليرضى أي: بسبب أن يأكل أو وقت أن يأكل، أو مفعول به لـ"يرضى" أي: يجب أن يأكل. (جمع الوسائل) الأكلة: بفتح الممزة أي: المرة من الأكل، وبروى بالضمة أي: اللقمة، وهي أبلغ في بيان اهتمام أداء الحمد، لكن الأول أوفق مع قوله: الشربة؛ فإنه بالفتح لا غير، قاله القاري.

## بابُ ما جاءَ فِي قَدْحِ رَسُولِ اللَّهِ

حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي، حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا عيسى بن طهمان، عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشبٍ غليظاً مضبباً بجديد فقال: يا ثابت! هذا قدح رسول الله ﷺ. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عمرو بن العاصم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا حميدٌ وثبت، عن أنس رضي الله عنه

### باب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالہ کا ذکر

فائدہ: پیالہ سے مراد جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے وہ پیالہ ہے جس سے پانی تناول فرماتے تھے۔

(۱) ثابت کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہم کو ایک لکڑی کا موتا پیالہ جس میں لوہے کے پتے لگ رہے تھے، نکال کر دکھلایا اور فرمایا کہ اے ثابت! یہ حضور اکرم ﷺ کا پیالہ ہے۔ فائدہ: کہتے ہیں کہ حضرت نفر بن انس رضی اللہ عنہ کی میراث سے یہ پیالہ آٹھ لاکھ درہم میں فروخت ہوا تھا اور امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں اس پیالہ سے پانی بھی پیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اور پیالہ تھا۔

(۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیالہ سے پینے کی سب انواع: پانی، نبیذ، شہد، دودھ سب چیزیں پلائی ہیں۔ فائدہ: نبیذ یہ کہلاتی ہے کہ کھجور کشش وغیرہ پانی میں بھگوڈی جائے اور جب اس کا اثر اچھی طرح آجائے تو

قدح: القدح بفتحتين: ما يشرب منه، وقال ابن الأثير: هو إناء بين إناءين لا صغير ولا كبير، وربما وصف بأحدهما، جمعه أقداح. قال ابن القيم: كان للنبي ﷺ أقداح: واحد منها يسمى الربال، والآخر مغيثاً، والآخر مضبباً بسلسلة من فضة، قاله المناوي. قلت: لكن الآتي في الحديث مضبب بجديد، وسيأتي قريباً. الحسين: بن علي بن الأسود، منسوب إلى جده، وقد ينسب إلى أبيه، والمشهور الأول. مضبباً: بالنصب على أنه صفة قدح، والمضبب: المشدود بالضبات جمع ضبة: وهي حديثه العريضة التي يضبب بها، قال المناوي: الضبة ما يشعب به الإناء من حديد أو غيره. قال ميرك: وقد ثبت في الصحيح: أن قدح النبي ﷺ الذي كان عند أنس هو قدح حيد عريض، طوله أقصر من عرضه، وفي الصحيح أيضاً: أنه قد اندفع فسلسل بعضه بعض بفضة، قاله القاري.

قال: لقد سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْقَدْحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْمَاءُ وَالنَّبِيذُ وَالْعَسَلُ وَاللَّبَنُ.

وہ پانی نبیذ کہلاتا ہے۔ مقوی اور مفرح ہوتا ہے۔ حضور کے لئے شب کو کھجوریں وغیرہ بھگو دی جاتی تھیں اور صبح کو حضور ﷺ نوش فرمائیتے اور کبھی دوسرے دن تک بھی جب تک کہ اُس میں سکر (نشہ) کا اندیشہ نہ ہوتا تھا، کام میں لا یا جاتا تھا۔

کله: أي: أنواعه كلها، وأبدل الأربعـة المذكورة بـدل بعض اهتماماً بشأنها؛ لكونـها أفضـل المشـروبات، أو لكونـها أشهرـ أنواعـه.

## باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله ﷺ

حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاروي، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر <sup>(١)</sup>  
 قال: كان النبي ﷺ يأكل القناء بالرطب. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصريي، حدثنا  
 معاوية بن هشام، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ  
 كان يأكل البطيخ بالرطب. حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا  
 أبي قال: سمعت حميدا يقول -أو قال: حدثني حميد- قال وهب: وكان

## باب - حضور اقدس ﷺ کے سچلوں کا ذکر

فائدہ: یعنی حضور اقدس ﷺ نے کیا کیا سچل تناول فرمائے ہیں۔ اس باب میں پانچ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں:

(۱) عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کڑی کو کھجور کے ساتھ نوش فرماتے تھے۔

فائدہ: کڑی چونکہ مٹھنڈی ہوتی ہے اور کھجور گرم، اس طرح سے دونوں کی اصلاح ہو کر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کی چیزوں میں ان کے مزاج کی رعایت رکھنا مناسب ہے، یعنی کڑی پھیکی ہوتی ہے اور کھجور میٹھی جس کی وجہ سے کڑی میں بھی مٹھاں آ جاتی ہے۔

(۲) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ تربوز کو تازہ کھجوروں کے ساتھ نوش فرماتے تھے۔

فائدہ: ترمذی وغیرہ کی روایت میں اس قصہ میں تصریح ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کی مٹھنڈ ک اس کی گرمی کو اور اس کی گرمی کو زائل کر دے گی۔

الفزاری: بفتح الفاء والزاء المحفقة، منسوب إلى بني فزار، قبيلة من غطفان. القناء: بكسر القاف ويضم وتشديد المثلثة ممدوداً قاله القاري، وقال المناوي: الكسر أشهر من الضم، نوع من الخيار أخف منه. البطيخ: قال القاري: اختلقو في المراد منه، فقيل: هو الأصفر المعبر عنه في الرواية الآتية بالخبر، وقيل: هو الأخضر وهو الأظهر. أو قال حديثي: ظاهره إظهار الشك في لفظ الشيخ بأنه قال بلفظ "سمعت" أو بلفظ "حدثني" قال القاري: المقصود غاية الاحتياط في عبارة الرواية وإلا فمرتبة السماع والقول واحدة عند الحدثين في اصطلاحهم. قال وهب إلخ: قال القاري: معناه كان حميد صديقاً لوهب أو بالعكس. والأوجه عندي أن يقال: قال وهب: وكان جرير صديقاً لحميد كما هو الظاهر، ولا يصح ما خلط الشرح في هذا الكلام.

صَدِيقًا لَهُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمِعُ بَيْنَ الْخَرْبِزِ وَالرُّطْبِ.  
حدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ، حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنُ الصَّلَتِ،  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ رُوْمَانَ، عَنْ عُرُوهَةَ

(۳) حضرت انس رضي الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو خربوزہ اور کھجور اکٹھے کھاتے ہوئے دیکھا۔ فائدہ: بعض علماء نے اس جگہ بھی بجائے خربوزہ کے تربوز کا ترجمہ کیا ہے اور مثلاً پہلی روایت کی بنا پر اس کا ٹھنڈا ہونا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہاں خربوزہ متعارف ہی مراد ہے اور کھجور سے کھانے کی وجہ ظاہر اس کا پھیکا پن ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی مصلحت سب جگہ جاری کی جائے، ممکن ہے کہ کسی جگہ کوئی اور مصلحت ہو، اس لئے بندہ ناقچیر کے نزدیک تربوز کو کھجور سے کھانے کا قسم مستقل ہے اور اس کی مصلحت دونوں کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنا ہے کہ تربوز ٹھنڈا ہوتا ہے، اور خربوزہ کو کھجور سے کھانے کا قسم مستقل ہے اور اس کی مصلحت خربوزہ کا پھیکا ہونا ہے کہ بسا اوقات اس کے پھیکے ہونے کی وجہ سے شکر ڈال کر اس کو کھایا جاتا ہے، اس لئے دونوں حدیثوں کو ایک پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

صَدِيقًا لَهُ: وَهُوَ بِالْتَّحْفِيفِ بِعْنَى: الْحَبِيبُ الصَّادِقُ فِي الْمَسَافَةِ، وَفِي نَسْخَةِ بَكْسَرِ الصَّادِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ بِعْنَى كثیر الصدق، لكن لا يلائمه إذا لفظ له إلا أن يقال: إن المعنى: كان حميد مصدقاً لوهب قاله القاري. قلت: وفي مرجعي الضميرين نظر كما تقدم، والصواب: كان جريراً مصدقاً لحميد. الخربز: قال القاري: بكسر الحاء المعجمة وسكون الراء وكسر المودحة في آخرها زاء، هو البطيخ بالفارسية على ما في النهاية، والظاهر أنه مغرب "الخربزة" وهي بفتح الحاء والباء في آخرها هاء، وهو الأصفر، فيحمل على نوع منه لم يتم نصحه، فإن فيه برودة يعدمها الرطب، فاندفع قول من زعم أنه الأخضر محتاجاً بأن الأصفر فيه حرارة على أن للأصفر بالنسبة للرطب برودة، وقال المناوي: المراد الأصفر، والقول: بأنه الأخضر لأن الأصفر فيه حرارة، ليس بمناسب، لأن القصد التعديل أو بأن الأصفر غير النضيج غير حار، والحار ماتناهى نصحه، وقال زين الحفاظ العراقي: المراد هنا الأخضر لا الأخضر كما وهم؛ لأن الخربز اسم للأصفر بأرض الحجاز. وحکی شیعی الوالد عن شیخه مولانا الشیخ الگنگوہی فی الكوکب الدری: أن المراد بالحرارة والبرودة حرارة الحس واللمس لا حرارة المزاج، وقال: ما أحباب بعضهم بأنه: كأنه نيا غير نضيج، فيأتي عنده أنه لا يؤثر كل عادة. قلت: وهذا كله على ما هو المشهور عند الأطباء أن طبع الخربز حار، و ما حکی صاحب الحیط الأعظم عن أبي علي بن سينا أن طبع الخربز بارد، فلا حاجة إلى الجواب، فإنه يصح حيثما يكسر حر هذا ببرد هذا بلا تردد.

(٤) عائشة رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الْبَطِّيخَ بِالرُّطْبِ. حَدَّثَنَا قُتْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ حَوْلَهُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ (٥) أَبِي هَرِيرَةَ رضي الله عنه قال: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أُولَئِكَ الْشَّمْرَ، جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخْذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَمْرَنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا،

(٦) حضرت عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ تربوز کو ترکھوروں کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔

(٧) ابو ہریرہ رضی الله عنه کہتے ہیں کہ لوگ جب کسی نے چھل کو دیکھتے تو اس کو حضور کی خدمت میں لا کر پیش کرتے تو حضور یہ دعا پڑھتے: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَمْرَنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَفِي مَدْنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمَثَلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمَثَلُهُ مَعَهُ۔

اس کے بعد جس چھوٹے بچے کو دیکھتے اس کو مرحمت فرمادیتے۔ (ترجمہ دعا) اے اللہ! ہمارے چھلوں میں برکت فرما اور ہمارے شہر میں برکت فرما اور ہماری اس چیز میں جو صاف اور مد سے ناپی جاتی ہو (یہ دوپیانے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کھجوریں وغیرہ سب چیزیں ان سے ناپ کر فروخت کی جاتی تھیں) ان میں برکت فرم۔ اے اللہ! واقعی حضرت ابراہیم تیرے بندے اور تیرے دوست اور تیرے نبی تھے اور بیٹک میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں (چونکہ موقع تواضع کا تھا اس لئے اپنے حبیب ہونے کا ذکر اس جگہ نہیں فرمایا) انہوں نے (جن چیزوں کی) دعا (اپنے آباد کردہ) شہر مکہ مکرمہ کے لئے کی ہے (جس کا بیان آیت ﴿فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْقَهُمْ مِنَ الشَّمَرَاتِ﴾ [ابراهیم: ٣٧] میں ہے کہ لوگوں کے قلوب مکہ کی طرف مائل فرمادے اور چھلوں کی روزی ان لوگوں کو میسر فرما) وہی دعا اس سے دو چند مقدار میں میں مدینہ منورہ کے لئے کرتا ہوں۔

إِلَيْهِنَّ أَيْثَارًا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى أَنفُسِهِمْ، وَحَبَّا لَهُ، وَتَعَظِيمًا لِجَنَابِهِ، وَطَلَبًا لِلبرَّكَةِ فِيمَا جَدَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ نَعْمَهِ بِرَكَةً وَجُودَهُ، وَبِرَوْنَهُ أُولَئِنَّا النَّاسُ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ مِنْ رِزْقٍ رَهِمُوهُمْ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خَلْفَاؤُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأُولَيَاءِ كَذَلِكَ قَالَهُ الْقَارِيُّ، وَقَالَ الْمَنَawiُّ: فِيهِ أَنَّ الْبَاكُورَةَ يَنْدَبُ الإِتِيَانَ بِهَا لِأَكْبَرِ الْقَوْمِ عِلْمًا وَعَمَلاً.

وبارك لنا في صاعنا، وفي مدننا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنى عبدك ونبيك، وإنه دعاك لملائكة، وإنني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به الملائكة، ومثله معه. قال: ثم يدعوا أصغر وليدٍ يراه فيعطيه ذلك الشمر. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا إبراهيم بن المختار، عن محمد بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر، عن <sup>(١)</sup> الربيع بنت معاذ بن عفرا قال: <sup>(٢)</sup> بعثني معاذ بقناع من رطب،

(١) زبیع بن عیناً کہتی ہیں کہ مجھے میرے چچا معاذ بن عفرا نے تازہ کھجوروں کا ایک طبق جن پر چھوٹی چھوٹی روئیں دار گلزاریاں بھی تھیں، لے کر حضور کی خدمت میں بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ کو گلزاری مرغوب تھی۔ میں جس وقت گلزاریاں لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں حضور والا کے پاس بھریں کے کچھ زیورات آئے ہوئے رکھے تھے، حضور نے ان میں سے ایک ہاتھ بھر کر مجھے مرحمت فرمایا۔ فائدہ: گلزاری کھجور کے ساتھ علاوه مذکورہ فوائد کے بدن کو فربہ بھی کرتی ہے۔

صاعنا: المراد به الطعام الذي يكال بالصبعان والأمداد، فيكون دعاء لهم بالبركة في عموم أوقافهم قاله القاري، وقال المناوي: في صاعنا ومدننا بحيث يكفي المكيال فيها من لا يكفيهم أضعافه في غيرها، ثم قال: وبختمن أن تكون البركة المذكورة في الحديث دينية، وهي ما يتعلق بهذه المقاصد من حقوق الله تعالى في الزكوة والكافارات.

عبدك: توسل بعبوديته ونبوته، وقدم الأولى؛ لأنها لا شرف أعلى منه، ولم يقل: خليلك وإن كان خليلاً كما ورد في عدة الأخبار، بل خص بمقام الحبة الأرفع من مقام الخلة؛ لأنها في مقام التواضع؛ إذ هو اللازم بمقام الدعاء، وأدباً مع أبيه الخليل، كذلك في المناوي بتغير ومتله معه: يعني أدعوك ضعفي ما دعاك خليلك إبراهيم عليه الصلوة والسلام، ولا حجة في الحديث على المسئلة الخلافية في تحريم المدينة كما ترى.

وليد: في رواية: أصغر من يحضر، وفي أخرى: فيدعوا أصغر وليد له. فحمل بعضهم الروايتين المتقدمتين على هذه الرواية، ومنهم من أول قوله "له" أي: للمؤمنين، وليس المراد من أهل بيته. والظاهر عندي في الجمع بينها أن ذلك بحسب ما اتفق له من حضور صغير أو دعاء أحد من أهل قرابته. ووجه ترجيح الصغير للباكرة شدة حرصهم وكثرة تطلبهم. عبيدة: بزيادة الناء في آخره، فما في بعض النسخ من حذفه تحريف. الربيع: بضم الراء وفتح الموحدة بشدید التحتانية المكسورة، بنت معاذ بشدید الواو وفتحها على الأشهر، وجزم الوقشی أنه بالكسر.

وعلیه أجر من قثاء زُغْبٍ - وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْقِثَاءَ - فَأَتَيْتُهُ بِهِ، وَعِنْهُ حِلْيَةٌ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَمَلَأَ يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيهِ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ الرُّبِيعِ بْنِ مُعَاوِذٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطْبٍ وَأَجْرٍ زُغْبٍ، فَأَعْطَاهُنِي مِلْءَ كَفَّهٖ حُلْيَاً، أَوْ قَالَتْ: ذَهَبًاً.

چنانچہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی کے وقت میری والدہ کو خیال ہوا کہ اس کا بدن کچھ فربہ ہو جائے تاکہ اٹھان کچھ اچھا ہو جائے تو مجھے کگڑی تازہ کھجور کے ساتھ کھلائی، جس سے میرے بدن میں اچھی فربی آگئی۔ ایک ضعیف حدیث میں حضرت عائشہؓ سے یہ بھی نقل کیا گیا کہ حضور اقدس ﷺ کگڑیاں نمک سے نوش فرمایا کرتے تھے۔ اس میں کوئی مانع نہیں کہ کبھی نمک سے تناول فرماتے ہوں کبھی کھجور کے ساتھ کہ رغبت کی وقت میٹھے کی ہوتی ہے کسی وقت نمکین کی۔

(۷) رُبِيعٌ هِيَ سَيِّدُ الْمُرْوَى ہے کہ میں حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ایک طبق کھجوروں اور چھوٹی چھوٹی روئیں دار کگڑیوں کا لے کر گئی، تو حضور نے مجھ کو ایک ہاتھ بھر کر سونا یا زیور مرحمت فرمایا۔ فائدہ: یہ وہی پہلا قصہ ہے، اس حدیث میں منصر کر دیا۔ سونے اور زیور میں کسی راوی کو شک ہوا۔

أجر: بفتح الميم وسكون الجيم وراء منون مكسور جمع جرو بكسر الجيم، وهو: الصغير من كل شيء حق المختلط والبطيخ، والمراد هناك القثاء كما هو مبين بـ"من" البيانية في هذه الرواية. قاله القاري. زُغْبٌ: بضم الزاء وسكون الغين المعجمة، جمع أزغب من الزغب بالفتح: هو صغار الريش أول ما طلع، شبيه به ما على القثاء من الزغب. البحرين: أي من خراج البحرين، وهو على لفظ الثنائيه موضع بين البصرة وعمان.

## باب ما جاء في صفة شراب رسول الله ﷺ

حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن معمراً، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: حديثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن معمراً، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله ﷺ الحلو البارد. حديثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا عليّ رضي الله عنه بن زيد، عن عمر - هو ابن أبي حرملا - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله ﷺ أنا و خالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله ﷺ

## باب - حضور اقدس ﷺ کے پینے کی چیزوں کے احوال

فائدہ: اس باب میں مصنف الشیعیہ نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں:

(۱) حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کو پینے کی سب چیزوں میں میٹھی اور مٹھنڈی چیز مرغوب تھی۔ فائدہ: بظاہر تو اس حدیث سے مٹھنڈا اور میٹھا پانی مراد ہے۔ چنانچہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں بالصریح وارد ہے اور یہ بھی محتمل ہے کہ اس سے شهد کا ثربت یا کھجوروں کی نیز مراد ہو جیسا کہ پیالہ کے باب میں گزر چکا۔ حضور اقدس ﷺ کے دربار میں کھانے کا اہتمام کچھ ایسا نہ تھا، جو حاضر ہوتا، ہی تناول فرمائیتے لیکن میٹھے اور مٹھنڈے پانی کا خاص اہتمام تھا۔ سقیا جو مدینہ طیبہ سے کئی میل پر ہے وہاں سے میٹھا پانی حضور کے لئے لا یا جاتا تھا۔ حضور اقدس ﷺ نے حضرت داؤد رضی الله عنه کی دعا کے الفاظ میں یہ بھی نقل فرمایا کہ اے اللہ! اپنی ایسی محبت مجھے عطا فرماجو میرے لئے اپنی جان و مال اور اہل و عیال سے اور مٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ ہو۔

(۲) ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں اور خالد بن الولید دونوں حضور اقدس ﷺ کے ساتھ حضرت میمونہ رضی الله عنها کے گھر گئے (ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی الله عنها ان دونوں حضرات کی خالہ تھیں) وہ ایک برتن میں دودھ لے کر آئیں۔ حضور رضی الله عنه نے اس میں سے تناول فرمایا۔ میں دائیں جانب تھا اور خالد بن ولید بائیں جانب۔ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اب

وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا، فقلت:

ما كت لأؤثر على سؤرك أحدا، ثم قال رسول الله ﷺ: من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك

لنا فيه وأطعمنا خيراً منه، ومن سقاه الله لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه،

پسندید کا حق تیرا ہے (کہ تو دوائیں جانب ہے) اگر تو اپنی خوشی سے چاہے تو خالد کو ترجیح دے دے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے جھوٹے پر میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو حق تعالیٰ شان کوئی چیز کھلائیں تو یہ دعا پڑھنی چاہئے: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه (اے اللہ! تو اس میں برکت عطا فرم اور

الشربة لك: لأنك صاحب اليمين، ومن على اليمين أقدم بجوارته ملك الشمال، ولذا ورد: الأيمن فالأيمن، رواه مالك وأحمد وأصحاب السنة عن أنس. قال العراقي: وهل تقديم الأيمن في الشرب خاصة أو يعم كل مطعمون كفاكهة ولحم؟ نقل عن مالك: التخصيص، وأنكره بعضهم قاله المناوي، وقال أيضاً فيه: إن السنة البداءة في الشرب ونحوه من عن يمين الكبير ولو صغيراً مفضولاً بالنسبة لمن على يساره، وهذا اتفاق لكنه على الاستحساب عند الجمهور، وذهب ابن حزم إلى وجوبه فقال: لا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذنه، فإن قيل: يعارض هذا الحديث ما رواه أبو يعلى بإسناد صحيح: كان رسول الله ﷺ إذا سقى قال: ابدوا بالأكبير أو قال بالأأكبير، قلنا: ذلك محمول على ما إذا لم يكن عن يمينه أحد، بل كانوا أمامه أو وراءه. قلت: وقال الحافظ في الفتح لحديث أبي يعلى: إسناده قوي، وجمع بينهما بوجوه.

آثرت بها خالداً: لكونه أشرف منك مراعاة للأكبير، وفي نسبة المشية إليه تطبيب لخاطره، وتبنيه عليه على أن الإيثار أولى له. ثم الحديث مستدل الحنفية في جواز الإيثار بالقرب، وقالت الشافعية: الإيثار بالقرب مكره؛ لما فيه من الإعراض بالقربة، وقيد الشامي جوازه بما إذا عارض تلك القرابة ما هو أفضل منها، كاحترام أهل العلم والأشياخ، كما في هذا الحديث. ويتفเรغ على هذا الخلاف مسائل: منها ما لو سبق أحد إلى الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سناً أو أهل علم ينبغي له أن يتأنّى ويقدمه تعظيماً له، ثم لا يشكل على الحديث بأنه عليه استاذ ابن عباس فيه ولم يستاذن الأعرابي كما جاء في المتفق عليه من حديث أنس أن عمر ؓ قال: أعطه أبا بكر يا رسول الله! فأعطى الأعرابي، ثم قال: الأيمن فالأيمن؛ لأن بين القصتين من الخصائص التي لا تخفي.

لنا: أي: عشر المسلمين أو جماعة الأكلين، والظاهر أن يأتي بهذا اللفظ وإن كان وحده؛ رعاية لللفظ الوارد وملاحظة لعلوم الأخوان فإنه ورد: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

ثم قال: قال رسول الله ﷺ: ليس شيء يُحرِّز مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ الْبَنِ.

قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمراً، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمراً، عن الزهرى، عن النبي ﷺ مرسلاً، ولم يذكروا فيه: عن عروة، عن عائشة، وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهرى، عن النبي ﷺ مرسلاً. قال أبو عيسى: وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ هي حالة خالد بن الوليد،

اس سے بہتر چیز عطا فرمایا اور جب کسی کو حق تعالیٰ شانہ دودھ عطا فرمائیں تو یہ دعا پڑھنا چاہئے: اللهم تبارك لنا فيه ورزقنا منه (اے اللہ! اس میں برکت عطا فرماء اور زیادتی نصیب فرماء)۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہر چیز کے بعد اس سے بہتر کی دعا اور دودھ کے بعد اس میں زیادتی کی دعا اس لئے تعلیم فرمائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ دودھ کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کھانے اور پانی دونوں کا کام دیتی ہو۔

ثم قال: ثم قال ابن عباس: قال رسول الله: ليس شيء إلَّا عَنْزَلَة التَّعْلِيلَ لِمَا تَقْدَمَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْبَنِ بِالْمَزِيدِ، وَفِي غَيْرِ الْبَنِ بِاستِدْعَاءِ الْخَيْرِ مِنْهُ. قال أبو عيسى: غرض المصنف بيان الكلام على الحديدين المتقدمين، وهذا ما يتعلق بالحديث الأول. وحاصله أن سفيان بن عيينة جعل هذا الحديث موصولاً متصلًا، والصواب إرساله، فإن عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد من تلامذة معمراً جعلوه عن الزهرى مرسلاً، وكذلك يونس وغير واحد من تلامذة الزهرى جعلوه أيضاً مرسلاً، فالحق إرساله. وقال المصنف في جامعه بعد تخريج الحديث: هكذا رواه غير واحد عن ابن عيينة، وال الصحيح ماروى الزهرى عن النبي ﷺ مرسلاً، وهذا أصح من حديث ابن عيينة، انتهى ملقطاً.

قال أبو عيسى: هذا بيان للحديث الثاني، بين أولاً وجه دخولهما عليها بأنها كانت محمرة لهما وذكر كونها حالة يزيد بن الأصم استطراداً لتمام الفائدة، ثم ذكر الكلام على هذا الحديث بقوله: واحتفظ الناس إلَّا، وحاصله أن تلامذة علي بن زيد بن جدعان اختلفوا في بيان اسم شيخه فروي بعضهم عمر بن أبي حرملة بدون الواو، وروي بعضهم عمرو بن حرملة بذكر الواو، وحذف لفظ "أبي" وهو غلط بوجهين، والصواب عمر بن أبي حرملة بدون الواو وبذكر لفظ التكيني، قال القاري: الصحة في الموضعين كما ذكره البهقهى: الأول عمر بلا واء، والثانى أبي على الكنية. =

و حالہ ابن عباس، وحالہ یزید بن الأصم رض و اختلف الناس في روایة هذا الحديث عن علی بن زید بن جُدْعَان، فروی بعضهم عن علی بن زید، عن عمر بن أبي حَرْمَلَة، وروی شُعبَة عن علی بن زید فقال: عن عمرو بن حَرْمَلَة، والصحيح: عن عمر بن أبي حَرْمَلَة.

فائدہ: حضور ﷺ نے دودھ مرحمت فرمانے میں ابن عباس رض کا حق اس لئے فرمایا کہ وہ دائیں جانب تشریف فرماتھے اور خالد بائیں جانب اور پیالہ کا دور جیسا کہ متعدد روایات میں آیا ہے جناب چنان چاہئے، اور خالد کی ترجیح کو اس لئے ارشاد فرمایا کہ وہ عمر میں بڑے تھے، نیزاں ابن عباس رض کی تعلیم مقصود تھی کہ حق اگرچہ ان کا ہے مگر خود ان کو چاہئے کہ بڑے کی ترجیح کی رعایت کریں، لیکن حضرت ابن عباس رض کے لئے حضور کے جھوٹ کی اہمیت اور اس کا شغف غالب ہوا جو حضور کے ساتھ غایتِ عشق کا شمرہ تھا۔

= قال المصنف في جامعه: وقد روی بعضهم هذا الحديث عن علی بن زید فقال: عن عمر بن حرملا، وقال بعضهم: عمرو بن حرملا ولا يصح. أي: لا يصح أحد من القولين، بل الصواب عمر بن أبي حرملا.

## باب ما جاء في صفة شرب رسول الله ﷺ

<sup>(١)</sup> حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا عاصم الأحول ومغيرة، عن الشعبي، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ شرب من زَمْزَمْ وهو قائم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن جعفر،

### باب - أن احاديث كاذك جن میں حضور اقدس ﷺ کے پینے

#### کا طرز وارد ہوا ہے

فائدہ: اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دس حدیثیں ذکر فرمائی ہیں:

(۱) ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے زمزم کا پانی کھڑے ہونے کی حالت میں نوش فرمایا۔

فائدہ: حضور اقدس ﷺ سے کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت بھی آئی ہے، چنانچہ دوسری حدیث کے ذیل میں اس کا مفضل ذکر آئے گا۔ اس بنا پر بعض علماء نے زمزم پینے کو بھی اس ممانعت میں داخل فرمایا کہ حضور ﷺ کے اس نوش فرمانے کو ازدحام کے عذر، یا یا بیان جواز پر حمل فرمایا ہے۔ لیکن علماء کا مشہور قول یہ ہے کہ زمزم اُس نبی میں داخل نہیں، اس کا کھڑے ہو کر بینا افضل ہے۔

شرب: بتلثیث الشین مصدر بمعنى التشرب، وهو المراد هنا لكن الكسر في معنى النصيـب أشهر، وقد يأتي بمعنى المشروب أيضاً وليس بمراد هناك؛ لعله يتكرر مع الترجمة السابقة. وهو قائم: الظاهر في حجـة الوداع، وفي رواية الشـعـبـين: قال: أتـيـتـ النبي ﷺ بـدـلـوـ مـنـ مـاءـ زـمـزـمـ فـشـرـبـ وـهـوـ قـائـمـ، وفي رواية ابن ماجـةـ: قال عـاصـمـ: فـذـكـرـتـ ذـلـكـ لـعـكـرـمـةـ فـحـلـفـ أـنـهـ مـاـ كـانـ حـيـنـدـ إـلـاـ رـاكـباـ، وـعـنـدـ أـلـيـ دـاـوـدـ مـنـ وـجـهـ آـخـرـ: عـنـ عـكـرـمـةـ، عـنـ اـبـنـ عـبـاسـ أـنـ النـبـيـ طـافـ عـلـىـ بـعـيرـهـ، ثـمـ أـنـاحـهـ فـصـلـيـ رـكـعـتـينـ، فـلـعـلـ شـرـبـهـ مـنـ زـمـزـمـ، كـانـ حـيـنـدـ قـبـلـ أـنـ يـعـودـ إـلـىـ بـعـيرـهـ، وـيـخـرـجـ إـلـىـ الصـفـاـ، وـهـذـاـ هوـ الـذـيـ يـتـعـينـ الـصـبـرـ إـلـيـهـ؛ لـأـنـ عـمـدـةـ عـكـرـمـةـ فـيـ ذـلـكـ إـنـاـ هـوـ مـاـ ثـبـتـ أـنـهـ طـافـ عـلـىـ بـعـيرـهـ وـسـعـىـ كـذـلـكـ، لـكـنـ لـاـ بـدـ مـنـ تـخـلـلـ رـكـعـتـيـ الطـوـافـ بـينـ ذـلـكـ، وـقـدـ ثـبـتـ أـنـهـ صـلـاـهـاـ عـلـىـ الـأـرـضـ فـمـاـ الـمـانـعـ مـنـ كـوـنـهـ شـرـبـ مـنـ زـمـزـمـ وـهـوـ قـائـمـ، كـذـاـ حـقـقـهـ الـقـسـطـلـانـيـ، وـهـوـ جـمـعـ جـيدـ لـاـ غـبـارـ عـلـيـهـ، وـمـاـ وـقـعـ فـيـ حـدـيـثـ جـابـرـ فـيـ سـيـاقـ حـجـجـ النـبـيـ ﷺـ مـنـ أـنـهـ استـقـىـ بـعـدـ طـوـافـ الـرـيـارـةـ عـنـ إـنـامـ الـمـنـاسـكـ لـاـ يـنـفـيـ هـذـاـ التـأـوـيـلـ، غـاـيـةـ مـاـفـيـهـ يـلـزـمـ مـنـ كـوـنـ الـشـرـبـ مـنـ زـمـزـمـ وـقـعـ فـيـ الـحـجـ مـرـتـيـنـ، وـلـاـ بـعـدـ فـيـهـ. قـالـهـ الـقـارـيـ.

عن حُسْنِ الْمَعْلُومِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ شَعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
 يَشْرُبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا.<sup>(۲)</sup>

(۲) عمرو بن شعيب اپنے باپ سے اور وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو کھڑے اور بیٹھے دونوں طرح پانی پینے دیکھا۔ فائدہ: حضور ﷺ سے کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت میں بہت سی روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ ؓ سے روایت آئی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کوئی شخص پانی نہ پیے، اگر بھول کر پی لے تو قے کر دے۔ علماء نے حضور کے اس فعل میں اور ممانعت میں چند وجوہ سے جمع کیا ہے: بعض علماء کی رائے ہے کہ ممانعت بعد میں وارد ہوئی اس لئے یہ ناخ ہے، بعض علماء اس کا عکس فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینے کی روایتیں ناخ ہیں ممانعت کے لئے۔ لیکن مشہور قول یہ ہے کہ ممانعت حکم شرعی اور تحریکی نہیں بلکہ آداب کے طریقہ سے ہے، نیز شفقت اور رحمت کے باب سے بھی ہے اس لئے کہ این قیمۃ الشیعیہ وغیرہ نے کھڑے ہو کر پانی پینے کی چند مضرات بتائی ہیں۔ الغرض حضور ﷺ کا کھڑے ہو کر نوش فرمانا بیانِ جواز کے لئے ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ممانعت کی وجہ سے کھڑے ہو کر پانی بینا حرام نہیں بلکہ خلاف اولیٰ اور مکروہ ہے۔

عن أبيه عن جده: اختلف النقاد كثيراً في هذا السندي فقيل: لا يحتاج به؛ لأن ضمير "جده" إن يرجع إلى "عمرو" فالمراد به محمد، وهو ليس بصحابي فالحديث مرسلا، وإن أرجح إلى "شعيب" فالمراد به عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صحابي مكثراً، لكن لقاء شعيب عن جده خفي، وقيل: هو صحيفه، ولذا قال أبو داود لما سئل عنه عمرو بن شعيب عندك حجة؟ قال: لا ولا نصف حجة، وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: حدديث عندنا واه، وقال الآخرون: هذا سندي محتاج به، وضمير "جده" إلى "شعيب" لا غير، وسماعه من عبد الله بن عمرو صحيف ثابت صرحاً بسماعه عنه في أماكن، ووقع في سن أبي داود والنمسائي: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله والسند لا مطعن فيه. قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق وعامة أصحابنا يتحججون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين. قلت: وحق الاحتجاج به القاري والحلبي من الحنفية. قال المناوي: ولا خلاف أن الأكثراً من فعله المستقر المعروف من أحواله الشرب قاعداً ففعل غيره لبيان الجواز، فليس تقديم القيام لكثرة كما وهم، بل لأنه أحق بالاهتمام لما فيه من الرد على المنكر، وأخرج النسائي من عائشة ؓ: رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائماً وقاعداً، ويصلني حافياً ومتعلماً الحديث، قال العراقي: وإنستاده جيد، قال القاري: وما قيل من أن النبي ﷺ منزه من فعل المكروه فكيف شرب قائماً، فمردود؛ لأنه إذا كان لبيان الجواز فواجب عليه فكيف يكون مكروهاً.

حدثنا علي بن حجر، حدثنا ابن المبارك، عن عاصم الأحول، عن الشعبيّ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي ﷺ من زَمَّامَ فشرب وهو قائم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء و محمد بن طريف الكوفي قالا: أربأنا ابن الفضيل، عن الأعمش، عن عبد الملك بن ميسرة،

<sup>(٤)</sup> عن النزال بن سبرة  
بفتح فسكون

(٣) ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو زمزم کا پانی پلایا اور حضور نے کھڑے ہوئے نوش فرمایا۔  
فائدہ: باب کی پہلی حدیث میں اس کا ذکر گزر چکا۔

(٤) نزال بن سبرة کہتے ہیں کہ حضرت علي رضي الله عنهما کے پاس جب کہ وہ مسجد کوفہ کے میدان میں (جو ان کا دارالقنا تھا) تشریف فرماتھے، ایک کوزہ پانی لایا گیا۔ انہوں نے ایک چلوپانی لے کر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور پھر اپنے منہ پر اور ہاتھوں پر، سر پر مسح کیا، پھر کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا کہ یہ اس شخص کا وضو ہے جو پہلے سے باوضو ہو۔ ایسے ہی میں نے حضور اقدس ﷺ کو کرتے ہوئے دیکھا۔

فائدہ: یہ حدیث مختصر ہے مفصل مشکوہ شریف میں برداشت بخاری منقول ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی احتمال ہے کہ منه ہاتھ وغیرہ پر حقیقتاً مسح کیا ہو۔ اس صورت میں اس کو وضو کہنا مجاز ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے اس کو وضو کہہ دیا، چنانچہ پاؤں کا ذکر اس میں ہے ہی نہیں، یہ قرینہ اسی احتمال کا ہے۔ دوسری توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس حدیث میں ہلکے سے دھونے کو مجازاً مسح سے تعبیر کر دیا، اور پاؤں کا ذکر اس قصہ میں بعض روایات میں آتا ہے۔

ابن عباس: قال القاري: وقد تقدم فالمراد بتعدد الإسناد قوة الاعتماد، وفي سياق هذا الحديث إشارة إلى تعدد شربه بفتح فسكون وإيماء إلى أن أحد هما كان ييد ابن عباس.

طريف: بفتح الطاء وكسر الراء المهملتين. ابن الفضيل: وفي نسخة: ابن الفضل قاله القاري، قلت: والمؤيد بكثب الرجال هو الأول، فإنه محمد بن فضيل بن غروان. ميسرة: بفتح ميم وسكون ياء ففتاحات. والنزال: بفتح نون وتشديد زاء معجمة. وسبرة: بفتح سين مهملة وسكون موحدة فراء فباء تأنيث.

قال: أَفِي عَلَىٰ رَبِيعَهِ بَكُوزٌ مِنْ مَاءٍ - وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ - فَأَخْذَ مِنْهُ كَفَّا فَغَسَلَ يَدِيهِ، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعِيهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ شَرَبَ مِنْهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَضْوَءٌ مِنْ لَمْ يُحَدِّثُ، هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّ. حَدَثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيُوسُفُ بْنُ حَمَادٍ قَالَا: حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَصَمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبِيعَهِ:

اس توجیہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مسح کی جگہ بعض روایات میں منه ہاتھ دھونے کا ذکر ہے اس صورت میں اس حدیث میں تجدید وضو مراد ہے اور یہی توجیہ بندہ ناجائز کے نزدیک اولیٰ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر بینا جائز ہے، کتب فقہ میں اس کے اور آب زم زم کے کھڑے ہو کر پینے کے جواز کی تصریح ہے، بلکہ علامہ شامی رضی اللہ عنہ نے تو وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینے کو بعض بزرگوں سے شفاء امراض کے لئے علاج مجرب نقل کیا ہے، اور ملا علی قاری رضی اللہ عنہ نے شرح شماکل میں اس کا استحباب نقل کیا ہے۔

(۵) حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ پانی پینے میں تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس طریقہ سے بینا زیادہ خوشگوار ہے اور خوب سیراب کرنے والا ہے۔ فائدہ: پانی ایک سانس میں پینے کی ممانعت بھی آئی ہے

أَنَيْ إِنْ: ولفظ النسائي في سننه: قال: رأيت علياً صلي الله عليه وآله وسليه وآله وسليه الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصراً بيور من ماء. الحديث.  
الرحبة: بفتح الراء والراء المهمليتين، المكان المتسع، قال في المغرب: أما في حدیث علي فإنه دكان وسط مسجد الكوفة وكان علي يقعد فيه ويعظ. قلت: وقد تقدم من روایة النسائي ما يوافقه. ومسح: قال القاري: أي غسلها غسلا خفيفا، فالمراد الوضوء الشرعي، ويؤيده ما وقع في بعض الروایات الصحيحة: أنه غسلها، ويتحمل أنه لم يغسلها، فالمراد الوضوء العرفي، ويؤيده ترك ذكر الرجلين في الأصل فيحمل خلاف الروایتين على تعدد الواقعه في الرحبة.

فعل: قال القاري: شربه قائما يتحمل أن يكون لبيان الجواز، وأن يكون للاستحباب بخصوص هذا الماء وهو مختار مشائخنا، ويؤيده عمل علي رضي الله عنه بعده عليه السلام؛ لأنه لو كان فعله عليه السلام لبيان الجواز لكان تركه أفضل. أبي عاصم: بكسر أوله، وفي نسخة: أبي عاصم وهو ضعيف قاله القاري. قلت: اختلف الرواة في ذكر هذا الرواية فذكره الجمهور بلفظ: أبي عاصم، وقال بعضهم: أبو عاصم، وبسط الكلام عليه الحافظ في هذيبه في ترجمة أبي عاصم، فما قيل: لم توجد ترجمته، ليس بوجيه.

أن النبي ﷺ كان يتنفس في الإناء ثلاثاً إذا شرب، ويقول: هو أمرء وأروى.  
 حدثنا عليّ بن خَشْرِمٍ، أخبرنا عيسى بن يونس، عن رشدين بن كُريب، عن أبيه،  
بكر فسكن معهم كمسكين  
 عن <sup>(٦)</sup> ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ كان إذا شرب تنفس هرقين. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا  
 سفيان، عن يزيد بن جابر، عن عبد الرحمن بن أبي عمّرة،  
وافق اسمه اسم أبي

علماء نے ایک دفعہ ہی پینے کی بہت سی مضر تین بھی لکھی ہیں، بالخصوص ضعفِ اعصاب کا سبب بتایا ہے، نیز معدہ اور گجر کے لئے بھی مضرت کا سبب ہے۔

(۶) ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ جب پانی نوش فرماتے تو دو دفعہ سانس لیتے تھے۔ فائدہ: اس حدیث میں یا تو پانی دو سانس میں پینا مراد ہے اور یہی ظاہر قریب ہے، اس لئے کہ ابن عباس رضي الله عنهما کی قولی حدیث میں ہے کہ پانی ایک دفعہ ہی نہ پیا کرو بلکہ دو یا تین سانس میں پیا کرو۔ اس صورت میں یہ حدیث بعض اوقات پر محسوب ہے کہ حضور اقدس ﷺ بعض اوقات اقل درجہ کے بیان فرمانے کے لئے دو سانس میں بھی پینے تھے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں پانی کے درمیان میں دو مرتبہ سانس لینا مراد ہے اور جب پانی کے درمیان میں دو مرتبہ سانس لیا تو تمام پانی تین سانس میں ہو گیا۔ اس صورت میں اور روایات سے کچھ تعارض ہی نہیں رہا۔

في الإناء: في الصحيحين: عن أبي قتادة أنه عليه السلام نهى أن يتنفس في الإناء، فالمعنى أنه كان يشرب ثلاث مرات، وفي كل ذلك بين الإناء عن فيه فيتنفس ثم يعود، والمعنى عنه هو التنفس في الإناء بدون الإبانة، ويدل عليه قوله: "هو أهنا" وقال القرطبي: أما زعم بعضهم إجراء الحديث على ظاهره، وإن فعله لبيان الجواز ولكنونه لا يستقدر منه وغير صحيح؛ بدليل بقية الحديث وهو قوله: "أمرأ". أمرء: بالهمز أفعل من مرة الطعام مثلثة الراء إذا وافق المعدة، قال المناوي: مرأ الطعام أو الشراب في جسده إذا لم يثقل على المعدة، والحدر عنها طيباً بلذة ونفع، ومنه قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا هَنِيباً مِّرْيَا﴾ [النساء: ٤] وقال القاري: أمرأ: أسوغ وأهضم، وقوله: أروى أي أكثر ربا لأنه أقمع للعطش.

خشrum: بفتح خاء وسكون شين معجمتين يصرف ولا يصرف. مرتين: قال المناوي: هذا الحديث وإن كان ضعيفاً، لكن له شواهد عند المصنف في حاممه وغيره، وأحاديث الثلاثة أقوى وأصح، وقال الشارح: لا ينافي ما سبق؛ لأنه في بعض الأحيان لبيان الجواز، أو أراد التنفس أثناء الشرب وأسقط الثالثة؛ لأنها بعد الشرب.

عن <sup>(۴)</sup> حدته كَبِشة قالت: دخل على رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فشرب من في قِرْبَةٍ معلقةً قائماً، فقمت إلى فيها فقطعته. حدثنا محمد بن بشّار، حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ، حدثنا عزْرَةُ بْنُ ثَابَتُ الْأَنْصَارِيُّ،

(۷) كَبِشة ضَلَّتْ جَمِيعَهَا كَهْتَى ہیں کہ حضور اقدس ﷺ میرے گھر تشریف لائے وہاں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا، حضور ﷺ نے کھڑے ہوئے اس مشکیزہ کے منہ سے پانی نوش فرمایا، میں نے انھوں کو مشکیزہ کے منہ کو کتر لیا۔

فائدہ: امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کرنے کی دو وجہ نقل کی ہیں: ایک تو تبریگ کہ اس حصہ کو جس پر نبی کریم ﷺ کا دہن مبارک لگا تھا تبریگ کے طور پر اپنے پاس رکھنے کے لئے کتر لیا۔ دوسرے یہ کہ جس جگہ کو حضور اقدس ﷺ کا دہن مبارک لگا ہے دوسرا کوئی اس کو استعمال نہ کرے، یعنی مقصود یہ کہ ادا اُس جگہ کو کتر لیا کہ کسی دوسرے کا منہ اُس جگہ لگانا بے ادبی تھی۔ اس حدیث میں دو گفتگو ہیں: ایک کھڑے ہو کر پانی پینے کی، وہ پہلے گزر چکی۔ دوسری یہ کہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مشک کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے اس لئے اس حدیث کو بیان جواز پر حمل کریں گے یا اُس ممانعت کی روایت کو خلاف اولی پر حمل کریں گے، نیز حضور ﷺ کے اس پینے کو اُس نبی کی وجہ سے ضرورت پر بھی حمل کیا جاسکتا ہے۔ ایک حدیث میں ایک قصہ آیا ہے کہ ایک شخص مشکیزہ کو منہ لگا کر پانی پی رہے تھے کہ اس میں سے ایک سانپ نکل آیا، اس پر حضور اقدس ﷺ نے اس طرح پانی پینے کی ممانعت فرمادی۔ اس حدیث کی بنا پر اس طرح پانی پینے کے واقعات بظاہر ابتدائی ہیں۔ ایک شخص کامنہ ایسا نہیں ہوتا جس کے اس طرح پانی پینے میں منجمدہ دوسرے وجہوں کے ایک وجہ ممانعت یہ بھی ہے کہ ہر شخص کامنہ ایسا نہیں ہوتا جس کے گھڑے یا مشک وغیرہ کے لگنے سے دوسروں کو گھن نہ آئے، لیکن بعض منہ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کا لعاب بیاروں کو شفا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ لذیذ اور ہر فرحت کی چیز سے زیادہ سرور پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔

عتاب لب لعاب دہن شربت وصال نسخہ چاہئے ترے بیمار کے لئے

اس لئے حضور اقدس محبوب و دو عالم کے مشکیزے سے پینے کو دوسروں کے پینے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

كبشة: بنت ثابت بن المنذر الأنصارية أخت حسان قاله القاري والبيهوري، وجزم المناوي بأنها بنت كعب بن مالك الأنصاري، وجعل الحافظ في هذيه هذه الرواية لكبشة بنت ثابت، ورواية أبي قتادة في الموضوع من سور المرة لكبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية زوجة ابنه عبد الله بن أبي قتادة. عزرة: عبهملة مفتوحة فرای ساکنة فراء مفتوحة بعدها هاء، وثمانة بضم المثلثة.

عن <sup>(٨)</sup> ثُمَّامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، وَزَعْمَ أَنَّسَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِنِ جُرْيَعَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ زَيْدٍ - أَبْنَةِ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ - عَنْ <sup>(٩)</sup> أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَيْمٍ وَقَرْبَةَ مُعْلَقَةً، فَشَرَبَ مِنْ فِمِ الْقِرْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَامَتْ أُمُّ سَلَيْمٍ إِلَى رَأْسِ الْقِرْبَةِ فَقَطَعَتْهَا. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْنِيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوَيُّ،

(٨) ثامنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رض پانی تین سانس میں پینے تھے اور کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

(٩) حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ام سلیم کے گھر تشریف لے گئے، وہاں ایک مشکیزہ لیکا ہوا تھا۔ حضور نے کھڑے ہی ہوئے اس میں سے پانی نوش فرمایا۔ ام سلیم کھڑی ہو گئی اور اس مشکیزہ کے منہ کو کتر کر رکھ لیا۔ فائدہ: حضرت کبشتہ کی حدیث بھی اسی نوع کی ابھی گزر چکی ہے۔ لئکہ ہوئے مشکیزہ سے بیٹھ کر پانی پینا دیے بھی مشکل ہے، اس لئے ضرورت کے درجہ میں بھی یہ واقعات داخل ہیں۔ ام سلیم رض کا قصہ میں بعض حدیثوں میں اس کی تصریح ہے کہ انہوں نے مشکیزہ کترتے ہوئے یہ کہا کہ حضور کے بعد اب کوئی اس کو منہ لگا کر نہیں پی سکتا، جس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے ادب اکثر لیا۔

ثلاثاً: قال المناوي: وهذا الحديث رواه الطبراني أيضاً بزيادة، فقال: كان يتنفس في الإناء ثلاثة أنفاس يسمى عند كل نفس، وبشكل عند آخرهن. ابن: بالألف محور على البديلة من "ابن زيد"، أو صفة ثان مضادا إلى "ابنة أنس"، فيبين أن أبوه زيد وأمه بنت أنس، فلا بد من تحرير حرف الألف على لفظ ابن. أم سليم: [والدة أنس بن مالك]. فقطعتها: التأنيث باعتبار المضاف إليه أو لكونها قطعة، وفي نسخة: قطعته، وهي القياس. والحديث أخرجه ابن حبان في "كتاب أخلاق النبي ﷺ" وزاد فيه: وقالت: لا يشرب منها أحد بعد شرب النبي ﷺ. الفروي: بفتح فاء وسكون راء، منسوب إلى جده أبي فروة كذا، قاله القاري والبيجوري، مما في المناوي نسبة لأبي قروة جده بفتح القاف وسكون الراء ، وهم من الناسخ فإنه بالفاء وهو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي المدني الأموي كما في تذكرة الحافظ.

حدثنا عبيدة بنت نائل، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، عن أبيهما: أن النبي ﷺ كان يشرب قائمًا. وقال أبو عيسى: وقال بعضهم: عبيدة بنت نابل نسخة بالموحدة

(۱۰) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كتبته ہیں کہ حضور اقدس سرور ﷺ کھڑے ہوئے پانی نوش فرمائیتے تھے۔ فائدہ: یہ عادت شریفہ نہیں بلکہ گاہے گاہے کسی ضرورت سے ایسا کرتے تھے۔ چنانچہ پہلے مفصل گزر چکا ہے۔

عبيدة: قال المناوي بالتصغير عند الجمهرور، وبالتصغير ضبطها القاري. نائل: هكذا بالهمزة ه هنا في النسخ الموجودة وكذا ضبطه القاري، وقال الحافظ في تقريره وقذيفه: عبيدة بنت نابل، ولم يضبط بشيء. قال أبو عيسى: الظاهر في غرضه أنه وقع الاختلاف في نسب عبيدة، فقيل: بنت نائل بالهمزة قبل اللام، وقيل: نابل بالموحدة بدل الهمزة، وجزم المناوي أنها بالباء الموحدة، وصححه الأمير أبو نصر بن ماكولا. قلت: واجתذفوا في ضبط عبيدة أيضًا، فالجمهرور على أنه عبيدة بالتصغير وصححه ابن ماكولا، وقال بعضهم: عبيدة بفتح العين وكسر الموحدة، قال القاري: هو خلاف تصحيح ابن ماكولا، وظاهر كلام المناوي أن المصنف أراد الإشارة إلى هذا الاختلاف أيضًا؛ لأنه جعل عبيدة في السنن المذكور مصغراً وهناك ضبطه بفتح أوله، فقال: قال بعضهم مخالفًا لما من أن عبيدة مصغراً عبيدة بفتح أوله بنت نابل بباء موحدة بعد الألف، وقال زين الحفاظ العراقي: المشهور أنها عبيدة مصغرة، ونابل أوله نون وبعد الألف موحدة. والحديث إسناده حسن.

## بابُ ما جاء في تعطر رسول الله ﷺ

حدثنا محمد بن رافع، وغير واحد قالوا: أخبرنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا شيبان، عن عبد الله بن مصفرًا بن فراح المختار، عن موسى بن أنس بن مالك،

### باب۔ حضور اقدس اللہ علیہ السلام کے خوشبو لگانے کا ذکر

فائدہ: حضور اقدس اللہ علیہ السلام کے بدن شریف سے خود خوشبو مہکتی تھی، گو حضور خوشبو کا استعمال نہ فرمائیں، چنانچہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ میں نے کوئی خوشبو (غیرہ نہ مشک نہ کوئی اور خوشبو) حضور اکرم اللہ علیہ السلام کی خوشبو سے زیادہ عمدہ نہیں سو نگھمی۔ ایسے ہی اور بہت سی روایات اس ضمون پر دال ہیں۔ حضور اللہ علیہ السلام کا پیسہ خوشبو کے بجائے استعمال کرنے کے بارے میں متعدد واقعات حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، چنانچہ امام شیعیم کی روایت مسلم شریف وغیرہ میں وارد ہوئی ہے، کہ ایک مرتبہ سونے کی حالت میں نبی اکرم اللہ علیہ السلام کے جسدِ اطہر سے پیسہ نکل رہا تھا، انہوں نے اس کو ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا، حضور کی آنکھ کھل گئی۔ حضور نے دریافت فرمایا: یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگیں کہ اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے، یہ سب سے زیادہ معطر ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس اللہ علیہ السلام نے اپنے دستِ مبارک پر دم فرمایا کہ حضرت عقبہ بن ثابت کی کمر اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا جس سے اس قدر خوشبو ہو گئی تھی کہ ان کے چار یہیں تھیں، ہر ایک بید خوشبو لگاتی کہ ان کے برابر خوشبو ہو جائے مگر ان کی خوشبو غالب رہتی۔

گھٹتِ گل راچہ کنم اے نیم      بوئے آں پیر ہنم آرزواست

تعطر: [كان رسول الله ﷺ طيب الرائحة وإن لم يمس طيبا، كما جاء في الأخبار الصحيحة، لكنه كان يستعمل الطيب زيادة في طيب الرائحة. يتأكد الطيب للرجال في نحو يوم الجمعة، والعيددين، وعند الإحرام، وحضور الجمعة، والمحافل، وقراءة القرآن، والعلم، والذكر] هو استعمال العطر، وهو بالكسر الطيب، ورجل معطر أي: كثير التعطر.

محمد بن رافع: حکی المناوی: بعث إِلَيْهِ أَبُو طَاهُرَ بِخَمْسَةِ آلَافٍ فَرَدًا إِلَيْهِ مَعَ فَقْرَهُ، زَادَ الْقَارِيُّ: بعث إِلَيْهِ بَعْدَ الْعَصْرِ بِخَمْسَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَهُوَ يَأْكُلُ الْحَبْزَ مَعَ الْفَجْلَ فَلَمْ يَقْبِلْ، وَقَالَ: بَلَغَتِ الشَّمْسُ رَؤُوسَ الْحَيْطَانَ أَيْ: قَرِبَتْ أَنْ تَغْرِبَ.

عن<sup>(١)</sup> أئمَّةِ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُكَّةٌ يَتَطَبَّبُ مِنْهَا. حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابَتٍ، عَنْ<sup>(٢)</sup> ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ لَا يَرُدُّ الطَّيْبَ، وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطَّيْبَ.

ابو یعلیٰ وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ جس کوچہ سے حضور اکرم ﷺ گزرتے تھے، بعد کے گزرنے والے اس کوچہ کو خوشبو سے مہلتا ہوا پا کر سمجھ لیتے تھے کہ حضور کا بھی اس راہ سے گزر ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ روایات کثیرہ اس مضمون پر دال ہیں لیکن باوجود اس کے بھی حضور اقدس ﷺ خوشبو کا استعمال اکثر فرماتے تھے۔

اس باب میں مصنف رَشِيقُ الْعِلَمِ نے چھ حدیثیں ذکر کی ہیں:

(۱) انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے پاس سُكَّہ تھا، اس میں سے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ فائدہ: سُكَّہ کے معنی میں علماء کے دو قول ہیں: بعض تو اس کا ترجمہ عطر دان اور اس ڈبہ کا بدلاتے ہیں جس میں خوشبور کھی جاتی تھی۔ تب تو یہ معنی کہ اس عطر دان میں سے نکال کر استعمال فرماتے تھے۔ میرے استاذ رَشِيقُ الْعِلَمِ نے بھی ترجمہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرکب خوشبو ہے، چنانچہ قاموس وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے اور صاحب قاموس نے اس کے بنانے کی ترکیب بھی مفصل لکھی ہے۔

(۲) ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خوشبو کو رد نہیں کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس ﷺ بھی خوشبو کو رد نہ فرمایا کرتے تھے۔

سُكَّة: [أَنْوَعُ مِنَ الطَّيْبِ لَوْنَهُ أَسْوَدٌ، وَبِرْجَحِ أَنَّهُ وَعَاءٌ يَوْضِعُ فِيهِ الطَّيْبَ] بضم سين مهملة وتشديد كاف، ضرب من الطيب، يتخذ من مسك وغيره، وقيل: عصارة الأملج، قال القاري: الظاهر أن المراد منه ظرف فيها طيب، قال ميرك: إن كان المراد بها نفس الطيب فالظاهر أن كلمة "من" للتبعيض ليشعر بأنه يستعمل بدفعتان، بخلاف ما لو قال: بها، فإنه يوهم أن يستعملها بدفعة واحدة، وإن كان المراد بها الوعاء فـ "من" للابتداء، وقال صاحب القاموس: السُّكَّ طيب يتخذ من الرامك، مدقوقاً متخلولاً، معجوناً بالماء، ويعرك شديداً، ويمسح بدهن الحنري؛ لثلا يلتتصق بالإلأاء، ويترك ليلة، ثم يسحق المسك، ويبلقمه ويعرك شديداً، ويقرص، ويترك يومين، ثم يثقب بمسلة، ويتنظم في خطيط ويترك سنة، وكلما عتنق طابت رائحته. لا يرد: وقد ورد النهي عن رده مقورونا ببيان الحكمة في حديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة، والمراد بالحمل الحمل أي: ليس بثقيل.

حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي فُدَيْكَ، عن عبد الله بن [مسلم بن] جنْدَب، عن أبيه، عن <sup>(٣)</sup> ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاَث لَا تُرَدَّ: الْوَسَائِدُ، الْدَّهْنُ، وَالْطَّيْبُ، وَاللَّبَنُ. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الحَفْرِيُّ، عن سفيان، عن الجُرَيْرِيِّ، عن أبي نصرة، عن رجل - عن <sup>(٤)</sup> أبي هريرة رضي الله عنه  
سعید بن ابیاس

(٣) ابن عمر رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں نہیں لوٹانی چاہئیں: تکیہ اور تیل، خوشبو اور دودھ۔ فائدہ: ان چیزوں کو اس لئے ذکر فرمایا کہ ہدیہ دینے والے پر بار نہیں ہوتا اور لوٹانے سے اس کو بعض اوقات رنج ہوتا ہے۔ انھیں چیزوں کے حکم میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو نہایت مختصر ہوں کہ جن سے ہدیہ دینے والے پر بارہنہ ہو۔ تکیہ سے مراد بعض علماء نے ہدیہ کے طور پر تکیہ کا دینا بتایا ہے کہ اس میں بھی کچھ ایسا بار نہیں ہے اور بعض علماء نے ویسے ہی استعمال کے لئے کسی لینے یا بیٹھنے والے کے پاس عارضی طور پر تکیہ رکھ دینا اور اس پر سر رکھنا یا یہ لگا لینا مراد بتایا ہے۔

(٤) ابو ہریرہ رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مردانہ خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو بھیتی ہوئی ہو اور رنگ غیر محسوس ہو (جیسے گلب، کیوڑہ وغیرہ) اور زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو مغلوب (جیسے حنا،

أبي فديك: بالفاء والدال المهملة، اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك. ثلاَث: [أي: ثلاَث من المدحَايَا لا يردها المهدى إِلَيْهِ إِلَى الْمَهْدِيِّ] اختلف النسخ في تفصيل هذه الثلاَثة، ففي بعضها: الْوَسَائِدُ وَالْطَّيْبُ وَاللَّبَنُ، وفي بعضها: الْوَسَائِدُ وَالْدَّهْنُ وَالْطَّيْبُ، فيحتمل أنه ذكر أولاً الثلاَث وزاد الرابع تفضلاً، والأوجه أن يقال: إن لفظ "الْطَّيْبُ" على تسليم صحته وأمنه من تصرف الساخن تفسير لقوله: "والدَّهْنُ" فإن الحديث أخرجه المصنف في جامعه بهذا السنَدِ والمعنى وليس فيه لفظ "الْطَّيْبُ" بل فيها الْوَسَائِدُ وَالْدَّهْنُ، قال القاري: لعل المراد بالدَّهْن هو الذي له طيب فغير تارة عنه بالطيب وأخرى بالدَّهْن. فتأمل. الْوَسَائِدُ: [جمع وسادة، واللَّبَنُ، قال القاري: ما تجعل تحت الرأس عند النوم، وسميت وسادة؛ لأنها يتوضَّد بها يعتمد بها بالجلوس والنوم، وتسمى مخدَّة أيضاً].

والدَّهْنُ: [كل ما يدهن به من زيت أو غيره، لكن المراد هنا ما فيه طيب]. الحفرى: بحاء مهملة ثم فاء مفتوحة، منسوب إلى حفر محلة بالكوفة، كان ينزلها، قاله القاري. قلت: وكان أبو داود هذا رجلاً زاهداً ورعاً. قال عثمان بن أبي شيبة: كنا عنده في غرفة وهو يعلي، فلما فرغ قلت له: اترب الكتاب قال: لا الغرفة بالكرياء. أبي نصرة: بفتح النون وسكون الصاد المعجمة، اسمه المنذر بن مالك. رجل: ذاك هو الطفاوي الآتي في الرواية الآتية، وفي نسخة هناك أيضاً الطفاوي، ولم يدر اسمه، فهو مجھول في كل حال. والحديث حسن المؤلف في جامعه، فعلله لأنه تابعي، والراوي عنه ثقة فجهالته تغفر من هذا الوجه قاله القاري.

قال: قال رسول الله ﷺ: طيب الرجال: ما ظهر ريحه وخفى لونه، وطيب النساء: ما ظهر لونه وخفى ريحه. حدثنا عليّ بن حُجر، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الجُريري، عن أبي نصرة، عن الطُّفَوَّيِّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ مثله بمعناه. حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن عليّ قالا: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حاجاج الصواف، عن حنان، عن أبو عثمان النهدي بشذوذ الواو

زعفران وغيره). فائدہ: مطلب یہ ہے کہ مردوں کو مردانہ خوشبو استعمال کرنا چاہئے کہ رنگ ان کی شان کے مناسب نہیں ہے اور عورتوں کو زنانہ خوشبو استعمال کرنا چاہئے کہ دور اجنبیوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچ۔

(۵) ابو عثمان نہدی تابعی کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو ریحان دیا جائے اس کو چاہئے کہ لوٹائے نہیں، اس لئے کہ (اس کی اصل) جنت سے نکلی ہے۔

فائدة: ریحان سے خاص یہی قسم مراد ہے یا ہر خوشبوری حان کھلاتی ہے، اہل لخت کے دونوں قول ہیں اور دونوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ حق تعالیٰ جنہیں نے جنت کی خوشبوؤں کی نقل دنیا میں اس لئے پیدا فرمائی ہے کہ یہ جنت کی طرف ترغیب کا سبب بنے اور زیادتی شوق کا ذریعہ ہو، کہ خوشبو کی طرف طبعاً غبت پیدا ہوتی ہے اور طبیعت کو ادھر کشش ہوتی ہے،

ظهور ریحہ: [كماء الورد والمسك والعنبر والكافور]. خفي ریحہ: [كالزعفران والصندل، فإن مروهن على الرجال مع ظهور رائحة الطيب منهی عنه]. الطفاوي: بضم الطاء المهملة، منسوب لطفاوة، حي من قيس غilan، وهو المعرف بالرجل في الرواية المتقدمة لم يدر اسمه أيضاً فهو مجھول، قال الحافظ في ترمذیه: لم یسم.

حنان: بفتح الحاء المهملة وتحقيق التون الأولى، وفي نسخة بفتح أوله فموحدة فمحففة أي: حبان، وفي أخرى: حباب. موحدتين وكتب الرجال يؤيد الأول. قال الحافظ في ترمذیه: حنان الأسدی روی عن أبي عثمان عن النبي مرسلا في الریحان، وعنه حاجاج بن أبي عثمان، قال الترمذی: لا یعرف له غير هذا الحديث.

النهدی: بفتح نون وسکون هاء، منسوب إلى بني نهد قبيلة من اليمن، واسم عبد الرحمن بن مل بثليث ميم ولام مشددة، مشهور بكنته محضرم من كبار الثانية، أسلم في عهد النبي ﷺ ولم يلقه، فالحدث مرسلا كما صرخ به السیوطی في الجامع الصغیر، وقال: رواه أبو داود في مرساشه، والترمذی عن أبي عثمان مرسلا قاله القاری.

قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال  
يعني أصل الطيب من الجنة  
أبو عيسى: ولا نعرف لخنان غير هذا الحديث، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب  
"الجرح والتعديل": حنان الأَسْدِيَّ من بني أسد بن شُرَيْك، وهو صاحب الرَّقِيق، عمُ والد  
مُسَدِّدٍ، وروى عن أبي عثمان التَّهْدِيِّ، وروى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصَّوَاف. سمعت أبي  
يقول ذلك. حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني، حدثنا أبي، عن بيانٍ، عن  
قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله قال: عرضتُ بين يدي عمر بن الخطاب،  
إسماعيل

لیکن دُنیا کی خوبیوں کو جنت کی خوبیوں سے کیا نسبت! کہ ان کی مہک اتنی دور پہنچتی ہے کہ پانچ سو برس میں وہ راستہ  
لے ہو۔

(۲) جریر بن عبد الله بغلی حضرت عمر بن الخطاب کی خدمت میں (معائنة کے لئے) پیش کیے گئے۔ انہوں نے چادر لہار کر صرف

الريحان: هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشروم على ماء النهاية. قال ميرك: وأهل المغرب يخصوصه بالأَسْ، والظاهر أنه هو المراد في الحديث الصحيح: "ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر" وأهل العراق والشام يخصوصه بالحبق، والحبق قيل: الفوذج، وقيل: ورق الخلاف، وقيل: الشاهيرم قاله القاري: وقال المناوي: الريحان نبت طيب الريح، أو كل نبت طيب الريح، كذا في القاموس واحتار ابن الأثير الثاني.

خرج من الجنة: [يتحمل أن يذره خرج من الجنة، وليس المراد أنه خرجت عينه من الجنة، وإنما خلق الله الطيب في الدنيا، ليذكر به العباد طيب الجنة]. الأَسْدِيَّ: بفتح التاء وفتح الراء، وقد يسكن ثانية، ويقال: في هذه النسبة الأَسْدِيَّ بالسین، والأَزْدِيَّ بالراء، والكل صحيح؛ فإنه من بني أسد بن شريك من أولاد الأزد بن يغوث، ويقال للأَزد: الأَزد.

شريك: بضم الشين المعجمة وفتح الراء ابن مالك بن مالك بن فهم. الرقيق: بفتح الراء وكسر القاف، اشتهر بهذه الصفة، ولعله لكونه كان يبيع الرقيق قاله البيحوري. عم: يعني حنان عم مسرهد. سمعت: مقوله عبد الرحمن. بيان: بفتح الموندة وتحفيف التحتية، الظاهر هو بيان بن بشر الأحسبي البجلي أبو بشر الكوفي المعلم، وهو غير بيان بن بشر الطائي المجهول. جریر: [جریر بن عبد الله البجلي صحابي مشهور، أسلم في السنة التي فارق فيها أبي: الدنيا التي ﷺ، روی عنه خلق کثیر]. عرضت: [أَيْ: عرضني من تولی عرض الجيش على الأمير ليعرفهم ويتأملهم، هل فيهم حلادة وقوة على القتال أو لا؟].

**فَالْقَى جَرِيرٌ رِّدَاءَهُ وَمَشَى فِي إِزَارٍ فَقَالَ لَهُ: خُذْ رِدَائِكَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ: مَا رأَيْتَ رِجْلًا أَحْسَنَ صُورَةً مِّنْ جَرِيرَ؟**

لنگی میں جل کر اپنا امتحان کرایا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ چادر لے لو (معائنہ ہو چکا) پھر قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں نے جریر سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی کو نہیں دیکھا، سو ائے حضرت یوسف عليه السلام کی صورت کے جیسا کہ ہم تک پہنچا۔ فائدہ: یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے قسم جو ہم تک پہنچے ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جریر سے زیادہ حسین ہونگے، ورنہ ان کے علاوہ ان سے زیادہ حسین کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے جہاد کے موقع پر لشکر کا تفصیلی معائنہ فرمایا، ہر ایک کا امتحان لیا جن میں یہ بھی پیش ہوئے۔ اس حدیث میں چند اشکالات ہیں جو اختصار آترک کیے جاتے ہیں، منجملہ ان کے ایک اشکال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا استثناء کیا لیکن حضور اقدس سنتی کے جل کر اپنا امتحان کرایا۔

**فَالْقَى: كَانَ الْقِيَاسُ: فَالْقَيْتُ رِدَائِيَ وَمَشِيتُ، فَهَذَا النَّفَاتُ مِنَ النَّكْلِ إِلَى الْغَيْبَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ قَيْسٍ كَمْلُهُ كَلَامٌ جَرِيرٌ، أَوْ نَقْلٌ بِالْمَعْنَى. وَالْعَرْضُ هَذَا هُوَ كَعْرُضُ الْجَيْشِ عَلَى الْأَمْرِيْرِ لِيَعْرِفُهُمْ وَيَتَأَمَّلُهُمْ حَتَّى يُرِدُّهُمْ لَا يُرِضِيُهُ. وَكَانَ جَرِيرٌ لَا يَشْتَتِ عَلَى الْخَيْلِ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَصَالَهُ بِنْحُو أَرْبَعِينَ يَوْمًا صَدَرَهُ فَعَادَهُ التَّشْتِتُ. وَأَشْكَلُ: بِأَنَّهُ لَا تَحْقِيقُ تَبَيِّنَتِهِ عَلَى الْخَيْلِ بِدَعَائِهِ لَمْ يَكُنْ لِامْتَحَانَهُ وَجْهٌ، وَرَدَ: بِأَنَّ الْعَرْضَ إِنَّمَا كَانَ بِالْمَشِيتِ لَا بِالْكَوْبِ.**

**فَقَالَ عُمَرُ: أَيْ بَعْدَ مَا خَاطَبَ جَرِيرًا، وَمَعْنَى مَا رأَيْتَ إِلَيْهِ أَيْ: فِي مَاعِدَاهُ فَإِنَّهُ كَانَ كَالْمَسْتَنِي عَقْلًا، قَالَ الْمَنَاوِي: لَمْ كَانَ قَدْ اسْتَقِرَّ فِي الْأَذْهَانِ أَنْ صُورَةَ الْمَصْطَفَى أَجْلٌ مِّنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ حَتَّى مِنْ صُورَةَ يُوسُفَ عَنْهُ أَيْضًا لَمْ يَيْلَعْ عَمَرٌ بِعَنْهُ بِإِفْهَامِ عَبَارَتِهِ أَنْ صُورَةَ جَرِيرٍ أَحْسَنَ مِنْ صُورَتِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَشْكُلُ أَيْضًا بِمَا وَرَدَ فِي دَحْيَةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَلَدًا خَرَجَ لِرَؤْيَتِهِ حَتَّى الْعَدْرَاءَ مِنْ خَدْرَهَا؛ لَأَنَّ دَحْيَةَ كَانَ أَجْلَلُ وَجْهَهُ وَجَرِيرًا كَانَ أَجْمَلُ بَدْنَاهُ، بِدَلِيلِ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ تَبَرُّدِهِ. ثُمَّ لِامْنَاسِيَّةِ لِلْحَدِيثِ بِالْبَابِ إِلَّا أَنْ يَقَالُ: إِنَّهُ مِنْ مَلْحَقَاتِ النَّسَاخَةِ، أَوْ يَقَالُ: إِنَّ حَسَنَ الصُّورَةِ يَلْزَمُهُ غَالِبًا طَبَّ الرِّيحِ، أَوْ يَقَالُ: إِنَّهُ فِي التَّرْجِمَةِ حَذْفًا، تَقْدِيرَهُ: وَحْسَنَ صُورَةُ الْأَصْحَابِ وَعَرَضُهُمْ عَلَى ابْنِ الْخَطَابِ، قِيلَ: الْأَخْيَرُ أَقْرَبُ. قَلْتُ: بَلْ هُوَ الْأَ بَعْدَ مَا فِيهِ مِنْ طَوْلِ الْحَذْفِ، وَالْأَوْجَهُ عِنْدِي هُوَ الثَّانِي، قَالَ امْرُؤُ الْقِيَاسِ:**

إِذَا قَامَتَا تَضُوعُ الْمَسْكِ مِنْهَا نَسِيمُ الصَّبَاءِ جَاءَتْ بِرِيَا الْقَرْنَفُلِ

وَقَالَ الْمَنَاوِي: قَلَقُ الْمَلِحَةِ وَهِيَ مَسْكٌ هَتَّكَهَا إِلَيْهِ

وَقَالَ عَنْتَرَةَ:

وَكَانَ فَارَةٌ تَاجِرٌ بِقَسِيمَةٍ

سَبَقَتْ عَوَارِضَهَا إِلَيْكَ مِنْ الْفَمِ

إِلَّا مَا بَلَّغَنَا مِنْ صَوْرَةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

کے جمال مبارک کا استثناء نہ کیا، مگر کھلی ہوئی بات ہے کہ جب حضور کا جمال و کمال حضرت یوسف سے بڑھا ہوا تھا تو ان کے استثناء کرنے سے حضور کے جمال کا استثناء خود ہی ہو گیا، اس کے علاوہ حضور کا پورا جمال عام طور سے مستور ہی تھا، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا۔ دوسرہ اشکال یہ ہے کہ اس حدیث کو باب سے بھی کچھ مناسب نہیں، اس کے جوابات میں ایک توجیہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ خوبصورتی کو خوشبو لازم ہوتی ہے، جو شخص جس درجہ کا حسین ہوتا ہے ویسے ہی متنہ خوشبو اس کے بدن و لباس سے مہکا کرتی ہے۔ حضور اقدس سنتیت کا اجمل الخلوقات اور بدر المبدور ہونا مسلم ہے اس لئے اس کو طبعی خوشبو لازم ہے۔

صورة يُوسُفَ: [أي: لبراعة حسنـه و جمال صورـتـه علـيـهِ السـلـامـ].

## باب كيف كان كلام رسول الله ﷺ

حدثنا حميد بن مساعدة البصري، حدثنا حميد بن الأسود، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله ﷺ يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصلٍ، يحفظه من جلس إليه. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو قتيبة، سلم بن قتيبة، عن عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يعيد الكلمة ثلاثة،

## باب - حضور اقدس ﷺ کی گفتگو کیسی ہوتی تھی

فائدہ: اس باب میں تین حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔

(۱) حضرت عائشہ رضي الله عنها کہتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کی گفتگو تم لوگوں کی طرح سے لگاتار جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف، ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔

فائدہ: یعنی حضور کی گفتگو مجمل یا جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی کہ کچھ سمجھ میں آئے کچھ نہ آئے، بلکہ ایسی اطمینان کی واضح گفتگو ہوتی تھی کہ مخاطبین اچھی طرح سمجھ جاتے تھے۔

(۲) حضرت انس رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ (بعض مرتبہ) کلام کو (حسب ضرورت) تین تین مرتبہ دہراتے،

باب كيف كان إلخ: هذا كما وقع في أول البخاري: باب كيف كان بدء الوحي، وأطال الشرح الكلام على إعرابه وتركيبه حتى كتب القاري فيه رسالة مستقلة، والإجمال أنه بإضافة باب إلى ما بعده لكنه على تقدير مضاف أي: باب جواب كيف كان إلخ وسبب التقدير أن لفظ "باب" لا يضاف إلى الجملة على الصواب، ولذا قيل: إن إضافته إلى الجملة كلا إضافة، وأيضاً بترك الإضافة يعني مع التنوين حرمتاً مذوف، ويتحمل تسكيته أيضاً على التعداد، وـ"كيف" مبني على الفتح في محل نصب على أنه حرر كان إن كانت ناقصة، أو حال إن كانت تامة.

كلام: [يعني التكلم، أو بمعنى ما يتكلم به، بيان كيفية ما يتكلم به]. يسرد: [يأتي بالكلام على الولاء، يتابعه ويستعمل فيه،] بضم الراء من السرد: وهو الإتيان بالكلام على الولاء، منصوب على أنه مفعول مطلق أو بنزع الخافض؛ لما في بعض النسخ: كسر دكم. والمعنى: لم يصل بعضه بعض بحث لا يتبع بعض حروفه لسامعه. سردكم هذا: [أي: الذي تفعلونه، حيث يورث ليسا على السامعين]. فصل: [مفصول ممتاز بعضه من بعض].

لِعُقْلَ عَنْهُ. حَدَّثَنَا سَعْيَانَ بْنَ وَكِيعَ، أَبْنَاءُ جَمِيعٍ بْنَ عُمَرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِجْلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ - مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةِ زَوْجِ خَدِيجَةَ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ أَبْنَاءِ أَبِي هَالَةِ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ خَالِيَ هَنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةِ - وَكَانَ وَصَافَا - فَقُلْتُ: صِفَ لِي مِنْطَقَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

تاکہ آپ کے سننے والے اچھی طرح سمجھ لیں۔

فائدہ: یعنی یہ کہ اگر مضمون مشکل ہوتا تو غور و تدبر کے لئے، یا مجمع زیادہ ہوتا تو تینوں جانب متوجہ ہو کر تین مرتبہ مضمون بیان فرماتے، تاکہ حاضرین اچھی طرح محفوظ کر لیں۔ تین مرتبہ غایتِ اکثر یہ ہے ورنہ دو مرتبہ کافی ہو جاتا تو دو مرتبہ فرماتے۔  
 (۳) حضرت امام حسن شیعیہ کی گفتگو کی کیفیت سمجھ سے بیان فرمائیے، انہوں نے فرمایا کہ حضور (آخرت کے) متواتر غنوم میں مشغول رہتے تھے (ذات و صفات باری یا امت کی بہبود کے متعلق) ہر وقت سوچ میں رہتے تھے، ان امور کی وجہ سے کسی وقت آپ کو بے فکری اور راحت نہیں ہوتی تھی (یا یہ کہ امورِ دنیویہ کے ساتھ آپ کو راحت نہ ملتی تھی بلکہ دینی امور سے آپ کو راحت اور چیلن ملتا تھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے) اکثر اوقات خاموش رہتے تھے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ آپ کی تمام گفتگو ابتداء سے انتہائی منہ بھر کر ہوتی تھی (یہ نہیں کہ نوکِ زبان سے لکھتے ہوئے حروف کے ساتھ آدمی بات زبان سے کہی اور آدمی متكلّم کے ذہن میں رہی، جیسا کہ موجودہ زمانہ کے ملکبیرین کا دستور ہے) جامع الفاظ کے ساتھ (جن کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معانی بہت ہوں) کلام فرماتے تھے (چنانچہ ملا علی قاری رشیلی نے ایسی چالیس حدیثیں اپنی شرح میں جمع کی ہیں جو نہایت مختصر ہیں، عربی حاشیہ پر نقل کر دیں، جو یاد کرنا چاہیے اس کو دیکھ کر یاد کر لے)

لِعُقْلَ عَنْهُ: [أي: لتفهم عنه وثبت في ذهن السامعين] تعليل للإعادة تنبئها على أن الإعادة كانت في مقام الحاجة. جعیں بن عمرو: تقدم أول الحديث بهذا السندي في مبدء الكتاب، وتقدم هناك أن الصواب فيه "عمير" بالتصغير كما اختاره الحافظ في التقریب، وكذا أورد المزري وغيره. زوج: بالجر على أنه بدل من أبي هالة، وكان زوجها قبل النبي ﷺ. خالی: أي: أخا أمي من الأم. وصافا: [كثير الوصف لرسول الله].

فقلت: بیان لسؤال وصف أمر من الوصف، والسؤال عن كيفية النطق وهيئة السکوت المقابل له كما يدل عليه الجواب.

قال: كان رسول الله ﷺ متوالٰل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة طويلاً السكت،  
 لا يتكلّم في غير حاجة، يفتح الكلام ويختمه بأشدّ أقه، ويتكلّم بجموع الكلم،

فهي شهود جلال الله تعالى وكبرياته [الصوت]

آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضولیات ہوتی تھیں نہ کوتاہیاں کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ نہ سخت مزاج تھے نہ کسی کی تزلیل فرماتے تھے۔ اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اس کی نعمت نہ فرماتے تھے۔ البتہ کہانے کی اشیاء کی نہ نعمت فرماتے نہ زیادہ تعریف (نعمت نہ فرمانات و ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جل جلالہ کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لئے تھا کہ اس سے حرص کا شہبہ ہوتا ہے، البتہ اظہارِ رغبت یا کسی کی ولداری کی وجہ سے کبھی کبھی خاص خاص چیزوں کی تعریف بھی فرمائی ہے) دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ کو کبھی غصہ نہ آتا تھا

**متواصل الأحزان:** [يعني لا يمضي حزن إلا ويعقبه حزن، والتواصل يفيد معنى الديمومة.] **الفكرة:** [الفكر لغة: تردد القلب بالنظر والتذير لطلب المعاني، وأصطلاحاً: ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها إلى مطلوب علمي أو ظني.] **بأشدّ أقه:** جمع شدق: وهو طرف الفم، والمراد بالجمع ما فوق الواحد، وذلك لأنّ البيان إنما يصلّى برحب الشدّقين، بخلاف ضده فإنه لا يفهم منه المقصود، وفي بعض النسخ بدلـه "باسم الله" وعلى هذا اعتماد القراري والمناوي والبيجوري في شروحهم، وليس المراد البسمة خاصة بل المراد مطلق ذكر الله عزوجل، ويحتمل أن يكون أحدـها معرفـا من الآخرـ. والحديث أخرجه القاضي عياض في الشفا بطولـه، وفيه: "ويختمه بأشدّ أقه" وعليـه بنـي القراري ثمـ شـرحـه وـ لمـ يـذـكـرـ "بـاسـمـ اللهـ".

**بمجموع الكلم:** أي: بكلمات قليلة الحروف، جامعة لمعان كثيرة، وقيل: المراد القواعد الكلية الختامية على الفروع الكثيرة، وقيل: المراد به القرآن، فمالـه آية ﴿وَمَا يَنْطُقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النجم: ٣] قالـه المنـاوي، قالـه القرـاري: وقد جـمع جـمع من الأئـمة من كلامـه المفرد الموجـز البـديع أحـادـيث كـثـيرـة فـاستـخـرـتـ اللـهـ فـي جـمعـ أـربعـينـ مـنـ هـذـاـ الـبـابـ، وهـيـ هـذـهـ:

- (١) الأئـمـةـ الـأـيـمـنـ (٢) الإـيمـانـ يـمـانـ (٣) أـخـيرـ تـقـلـهـ (٤) أـرـحـامـكـمـ أـرـحـامـكـمـ (٥) اـشـفـعـواـ توـجـرـواـ (٦) أـعـلـنـواـ النـكـاحـ
- (٧) أـكـرـمـواـ الـخـبـزـ (٨) أـلـزـمـ بـيـتـكـ (٩) تـهـادـواـ تـحـبـبـواـ (١٠) الـحـربـ خـدـعـةـ (١١) الـحـمـىـ شـهـادـةـ (١٢) الـدـينـ النـصـيـحةـ
- (١٣) سـدـدـواـ وـقـارـبـواـ (١٤) شـرـارـكـمـ عـزـابـكـمـ (١٥) الصـبـرـ رـضاـ (١٦) الصـومـ جـنـةـ (١٧) الطـيـرةـ شـرـكـ (١٨) العـارـيـةـ مـؤـدـاةـ
- (١٩) الـعـدـدـ دـيـنـ (٢٠) الـعـيـنـ حـقـ (٢١) الـغـنـمـ بـرـكـةـ (٢٢) الـفـخـذـ عـورـةـ (٢٣) قـفلـةـ كـغـزوـةـ (٢٤) قـيدـ وـتـوـكـلـ
- (٢٥) الـكـبـيرـ الـكـبـيرـ (٢٦) مـوـالـيـناـ مـنـاـ (٢٧) الـمـؤـمـنـ مـكـفـرـ (٢٨) الـمـخـتـكـرـ مـلـعونـ (٢٩) الـمـسـتـشـارـ مـؤـمـنـ (٣٠) الـمـتـنـعـ رـاكـبـ
- (٣١) نـصـيرـ وـلـاـ نـعـاقـبـ (٣٢) النـارـ جـبارـ (٣٣) الـنـبـيـ لـاـ يـورـثـ (٣٤) النـدـمـ تـوـبـةـ (٣٥) الـوـتـرـ بـلـيلـ (٣٦) لـاـ تـمـنـواـ الـمـوـتـ
- (٣٧) لـاـ تـغـضـبـ (٣٨) لـاـ ضـرـرـ وـلـاـ ضـرـارـ (٣٩) لـاـ وـصـيـةـ لـوـارـثـ (٤٠) يـدـ اللـهـ عـلـىـ الـجـمـاعـةـ. وـذـكـرـ الـقـارـيـ مـسـانـيـدـهـ وـتـخـريـجـهـاـ.

کلامہ فصل، لا فضول ولا تقسیر، لیس بالجافی ولا المہین، یعظم النعمة وإن دقت، لا یذم منها شيئاً، غير أنه لم يكن یذم ذواقاً ولا يمدحه، ولا یُغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا یُعدّي الحق، لم یقم لغضبه شيء حتى یتصر له، ولا یغضب لنفسه، ولا یتصر لها، إذا أشار أشار بکفه كلها، وإذا تعجب قلباها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحة اليمى بطن إهمامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جُلٌ ضحِّكه التبسم،

اعرض حدا

(چونکہ آپ کو ان کی پرواد بھی نہ ہوتی تھی اس لئے کبھی دنیوی نقصان پر آپ کو غصہ نہ آتا تھا) البتہ اگر کسی دینی امر اور حق بات سے کوئی شخص تجاوز کرتا تو اس وقت آپ کے غصہ کی کوئی شخص تاب نہ لاسکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا یہاں تک کہ آپ اس کا انتقام نہ لیں۔ اپنی ذات کے لئے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی وجہ سے کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے (اس کی وجہ بعض علماء نے یہ بتلائی ہے کہ انگلیوں سے اشارہ تو اوضع کے خلاف ہے اس لئے حضور ﷺ پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، اور بعض علماء نے یہ تحریر فرمائی کہ حضور ﷺ کی عادت شریفہ انگلی سے توحید کی طرف اشارہ فرمانے کی تھی۔ اس لئے غیر اللہ کی طرف انگلی سے اشارہ نہ فرماتے تھے) جب کسی بات پر تجب فرماتے تو ہاتھ پلٹ لیتے تھے اور جب بات کرتے تو (کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے)

المہین: بضم المیم من الإهانة أي: لا یہین ولا یخقر أحداً، فالمیم زائدۃ، وبروی بالفتح من المہانة: وهو الحقارۃ، فالمیم اصلیۃ أي: لم یکن حقیراً ذمیماً بل کان کبیراً عظیماً یغشاہ من أنوار الوقار والمهابة ما ترتعد منه فرائص الكفار، والأنساب الأول. غير أنه: رفع وهم نشا من قوله: "یعظم النعمة". ذواقا: فعل بمعنى مفعول، أي: منوقة مأكولا ومشروبا. تعدی: بصیغة المجهول من التعدي أي: إذ تجاوز أحد عن الحق. أعرض: أي: عمما یقتضيه الغضب، وعدل عنه إلى الخلق والکرم، وعفا عنه ظاهراً وباطناً، وأشاح بشين معجمة وحاء مھملة: جد في الإعراض وبالغ فيه، كما قاله القاري والمناوي، وقال القاضی في الشفا: أشاح: مال وانقض. جل: بضم الجیم وتشدید اللام أي: معظمہ وأکثرہ، وجل کل شيء، معظمہ، وجوز شارح هننا کسر الجیم أيضًا، كما في حدیث: اللہم اغفر لی ذنبی کله دقه وجله. والتبسیم: بشاشة في الوجه من غير تأثر تام في هيئة الفم، وإنما قال: "جل"؛ لأنہ ربما ضحلک حتی بدلت نواجذہ.

یفتر عن مثل حب الغمام.

اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندر ولی حصہ پر مارتے اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اُس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہ فرماتے یاد رکزر فرماتے اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں گویا بند فرمائیتے۔ آپ کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی، اس وقت آپ کے دندان مبارک اولے کی طرح چکدار سفید ظاہر ہوتے تھے (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمالہ و کمالہ)۔ فائدہ: یہ حدیث اُسی حدیث کا بقیہ ہے جو سب سے پہلے باب میں ساتویں نمبر پر گزری ہے۔ اس کا ہر ہر لکڑا نہیت غور سے پڑھنے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کے قابل ہے کہ ہر ادا تواضع اور اخلاق کا کمال لئے ہوئے ہے۔

یفتر: بسکون الفاء وتشدید الراء من افتر فلاں: ضحك ضحكا حستنا حتى بدت أسنانه من غير قهقهة، فقوله "عن مثل حب الغمام" متعلق به، والغمام: السحاب، وحبه: البرد بفتحتين، الذي يشبه اللؤلؤ، شبه ما يظهر من أسنانه حين التبسم بذلك في البياض والصفاء والمعان والبريق، ومن قال كالدلجي: حبه قطرة الماء، شبه ما يطفو على الثنيا من البريق فقد وهم، لأن الثنيا ليس عليه عادة إلا البيل، ولو اجتمع فلا حسن فيه، وقيل: حب الغمام: اللؤلؤ؛ لأنه يحصل من ماء المطر النازل من الغمام، قال القاري: هو أنساب في باب التشبيه؛ لما فيه من زيادة تشبيه الفم بالصدف والريق بماء الرحمة، ورده المناوي لمحالفته اللغة بغير حاجة، وليس صفاء البرد دون صفاء اللؤلؤ.

## بابُ ما جاء في ضِحْكِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُنْعِي، حَدَّثَنَا عَبْدَاللَّهِ بْنُ الْعَوَامِ، أَخْبَرَنَا الْحَجَاجُ - وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاهُ - عَنْ سِيمَاكِ  
ابْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرُونَ قَالَ: كَانَ فِي سَاقِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمُوشَةً، وَكَانَ  
لَا يُضْحِكُ إِلَّا تَبَسِّمًا، فَكَنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قَلْتُ: أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، وَلَيْسَ بِأَكْحَلٍ.

## باب۔ حضور اقدس ﷺ کے ہنسنے کا ذکر

فائدہ: اس باب میں نو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔

(۱) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کی پنڈلیاں کسی قدر باریک تھیں اور آپ کا ہنسنا صرف تبسم ہوتا تھا۔ میں جب حضور اقدس ﷺ کی زیارت کرتا تو دل میں سوچتا کہ آپ سرمه لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ اُس وقت سرمہ لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ فائدہ: بلکہ طبعاً آپ کی آنکھیں سُرگیں تھیں۔

**ضِحْكٌ:** [أَيْ: الْبَسْطُ الْوَجْهِ، وَهُوَ يَنْشَا مِنْ سَرُورٍ بِعِرْضِ الْقَلْبِ، وَالضِّحْكُ: تَعْبِيرُ عَنِ السَّرُورِ بِوَاسِطَةِ حَرْكَةِ الشَّفَتَيْنِ]  
ساقی: بصيغة الثناء في أكثر النسخ الموجدة، وفي بعضها بالإفراد، وبه ضبط القاري، إذ قال بالإفراد للتعريم، وفي  
نسخة صحيحة بصيغة الثناء كما في المشكوة برواية الترمذى. حُمُوشَة: [أَيْ: دقة، وهي: مَا يَمْتَدِحُ بِهِ الْإِنْسَانُ] قال  
القاري: بضم الحاء المهملة والميم أي: دقة، ودقتها مما يتمدح به، وقد أكثر أهل القيافة من ذكر محسن ذلك، وضبط  
المناوي وابن حجر والعصام بضم أوله المعجم، وقال المناوي: أي: دقة، وأصل الخمس الأثر، ورده القاري بأنه مخالف  
للأصول ومعارض للغة على ما يشهد به القاموس والنهاية، ومغير للمعنى؛ فإن الخمس بالمعجمة: هو خدش الوجه  
ولطمته. قلت: وبالمهملة في المشكوة برواية الترمذى.

**لَا يُضْحِكُ:** قال المناوي: جعله من الضحك مجاز؛ إذ هو مبذُؤه، فهو مُنْزَلَةُ السَّنَةِ مِنَ النَّوْمِ، قال القاري: ومنه قوله تعالى:  
«فَتَبَسَّمَ حَسَاحِكَاهُ» [النمل: ۱۹] أي: شارعاً في الضحك، وهذا الحصر يحمل على غالب أحواله ﷺ: لما سبق من أن جل  
ضحكه التبسم، ولما سينافي من أنه ضحك حتى بدأ نواحذه، وقيل: ما كان يضحك إلا في أمر الآخرة، وأما في أمر الدنيا  
فلم يزد على التبسم وهو تفصيل حسن. **أَكْحَلٌ:** [أَيْ: يَلْعُو جَفْوَنَهُ سَوَادَ نَاشِئَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْكَحْلِ، وَهُوَ بِحَسْبِ بَادِئِ الرَّأْيِ].  
وَلَيْسَ بِأَكْحَلٍ: [أَيْ: كَحْلًا جَعْلِيَا، وَهُوَ النَّاثِئُ مِنْ التَّكْحُلِ، فَلَا يَنْافِي أَنَّهُ كَانَ أَكْحَلٌ كَحْلًا جَلْقِيَا].

حدثنا قتيبة بن سعید، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحداً أكثر تبسمًا من رسول الله ﷺ. حدثنا أحمد بن الخالد الخلال، حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحياني، حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله ﷺ إلا تبسمًا. قال أبو عيسى: أي: في غالب أرقائه  
هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد.

(۲) عبد الله بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ سے زیادہ تمسم کرنے والا نہیں دیکھا۔

فائدہ: اس حدیث میں یہ اشکال ہے کہ اس سے پہلے باب کی اخیر حدیث میں یہ گذر چکا ہے کہ حضور اقدس ﷺ دام الفکر اور پے در پے غوم میں بنتا رہتے تھے، یہ بظاہر اس کے معنی ہے اس لئے اس حدیث کی دو توجیہیں کی گئیں: ایک تو یہ کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تمسم آپ کے ہنسنے سے زیادہ ہوتا تھا، ایسا کوئی اور شخص نہیں دیکھا جس کا تمسم اس کے ہنسنے سے زیادہ ہو۔ چنانچہ آئندہ حدیث جوانہی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کی جا رہی ہے اُس میں یہی مطلب متعین ہے۔ دوسرا توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ: حضور اقدس ﷺ باوجود طبع غوم کے صحابہ کی دلداری اور انبساط کے خیال سے خدا ان پیشان اور تمسم فرماتے ہوئے پیش آتے تھے اور یہ کمال درجہ اخلاق و تواضع ہے۔ اسی باب کے نمبر ۶۵ پر حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور اقدس ﷺ مجھے دیکھتے تمسم فرماتے یعنی خندہ پیشانی سے ممکراتے ہوئے ملتے تھے۔ اب پہلی حدیث سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی رنج و فکر میں بنتا ہوتا ہے لیکن دوسروں کی دلداری یا ضرورت سے اُس کو خندہ پیشانی سے ملنے کی نوبت آتی ہے، جو لوگ دل میں عشق کی چوٹ کھائے ہوئے ہیں ان کو اس کا تجربہ بہت ہوتا ہے۔

جزء: بفتح الجيم وسكون الزاي بعدهما همزه۔ الخلال: بفتح خاء معجمة فتشدید لام، يحتمل أن يكون بايع الخلل أو صانعه۔  
السيلحياني: بفتح السين المهملة وسكون الياء التحتانية وفتح اللام وفتح الهمزة بعدها ألف، نسبة لسليمان قريبة بقرب بغداد۔  
قال أبو عيسى: قال المعتبرون بحل الشسائل: غرابته ناشئة من تفرد الليث، وهو يجمع على إمامته وحالته، فهو غرابة في  
السند لاتنافي صحة الحديث.

حدثنا أبو عمّار الحسين بن حُريث، أَبْنَا وَكِيع، حدثنا الأعمش، عن المعور بن سُويد،

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّ لِأَعْلَمِ الْجَنَّةِ أَوْلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ،

(۳) عبد الله ابن حارث رضي الله عنه کی یہ بھی روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا ہنسنا تبسم سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔

فائدہ: یعنی اکثر اوقات تبسم اور مسکرانا ہی ہوتا تھا، ہنسنے کی نوبت بہت کم آتی تھی۔

(۲) ابوذر رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اُس شخص کو خوب جانتا ہوں جو سب سے اول جنت میں داخل ہوگا اور اُس سے بھی واقف ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی دربار الہی میں حاضر کیا جائے گا، اُس کے لئے یہ حکم ہوگا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جائیں اور بڑے بڑے گناہ غافلی رکھے جائیں۔ جب اُس پر چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے کہ تو نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیے ہیں تو وہ اقرار کرے گا اس لئے کہ انکار کی گنجائش نہیں ہوگی اور اپنے دل میں نہایت خوف زدہ ہوگا کہ ابھی تو صغاری کا نمبر ہے کبائر پر دیکھیں کیا گزرے، کہ اس دوران میں یہ حکم ہوگا کہ اس شخص کو ہر ہر گناہ کے بد لے ایک ایک نیکی دی جائے تو وہ شخص یہ حکم سنتے ہی خود بولے گا کہ میرے تو ابھی بہت سے گناہ باقی ہیں جو یہاں نظر نہیں آتے۔ ابوذر رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ اُس کا مقولہ نقل فرمائی ہے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ ہنسی اس بات پر تھی کہ جن گناہوں کے اظہار سے ڈر رہا تھا ان کے اظہار کا خود طالب بن گیا۔

المعور: بفتح ميم وسكون عين مهملة وضم راء، أبو أمية الكوفي عاش مائة وعشرين سنة. أول رجل: قال القاري: وفي بعض النسخ المصححة المكتوب عليه "صوابه آخر رجل". ففي رواية الترمذى ه هنا وهم، والصواب "آخر رجل" فإنه هكذا رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر قاله القاري أيضاً. قلت: والحديث أخر حجه الخطيب في المشكوة برواية مسلم، ولفظه: إنَّ لِأَعْلَمِ الْجَنَّةِ أَوْلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خروجاً مِنْهَا، الحديث. وعلى هذا فالرجلان متهدنان يعني مصداقهما واحد، وأما على النسخة التي بأيدينا فهما مختلفان، ومصداق أول رجل يدخل الجنة على الإطلاق هو النبي ﷺ، ويحتمل أن يراد: أول رجل يدخل الجنة من عصاة المؤمنين فهو رجل آخر مذنب يخرج من النار ولم يسم، والمقصود بذلك العلم هؤلاء الرجال زيادة الوثوق فيما أحير به، وعلى هذا فقوله: يؤتى بالرجل إن استينا، لا تعلق له بما سبق كما حزم به المناوي، وذكره القاري احتمالاً، وأما على رواية مسلم وغيره فيحتمل أن يكون استينا، أيضاً، ويحتمل أن يكون بياناً لهذا الرجل الذي هو آخرهم خروجاً من النار ودخولها الجنة.

وآخر رجل يخرج من النار: يؤتى بالرجل يوم القيمة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنبه - وتخبا  
عن عصاة المؤمنين  
عنه كبارها - فيقال له: عملت يوم كذا، كذا وكذا، وهو مُقرّ لا ينكر، وهو مُشفق من كبارها،  
عائق  
فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها هنالا! قال أبو ذر:  
فقلقد رأيت رسول الله ﷺ ضاحكاً حتى بدت نواجذه. حدثنا أحمد بن منيع،

فاكده: يہ شخص جس کا مفضل حال بیان فرمایا وہی شخص ہے جس کو اول مجمل جنت میں آخری داخل ہونے والا ارشاد فرمایا تھا یا کوئی اور شخص ہے، شرح کی تحقیق یہ ہے کہ یہ کوئی اور شخص ہے اور جنت میں آخری داخل ہونے والا شخص وہ ہے جس کا قصہ اسی باب کے نمبرے پر آ رہا ہے۔

يؤتى بالرجل: قال القاري بيان للرجل الأول فيحصل بالمدنبين، إذ أول ددخل على الإطلاق هو النبي ﷺ. ويحمل أن يكون بياناً للرجل الثاني، لكن الأصح أن آخر رجل يخرج من النار هو الذي ذكر في حديث ابن مسعود الآتي، وهذا استيفان وبيان الحال رجل ثالث غير المذكورين. قال البيحوري في تأييده: وفي بعض الروايات بواو الاستيفان، فحيثئذ لا وهم في رواية الترمذى هذه أيضاً، وبالاستيفان جزم المناوى؛ إذ قال: ليس قوله: "يؤتى بالرجل" تفصيل لـ"أول رجل يدخل الجنة" كما وهم، بل هو استيفان لا تعلق له بما قبله، إذ أول ددخل هو المصطفى ﷺ ولا ذنب له.

فيقال: أي: يقول الله عز وجل لملائكته، و"اعرضوا" همزة وصل وكسر راء أمر من العرض. وتخبا: بصيغة الواحد المؤنث في المتون، والمذكر في الشروح، وعلى كل فهو بناء المجهول من الخبر بالهمز. قال المناوى: عطف على "اعرضوا" إذ هو خبر بمعنى الأمر مبالغة فيه كما قرره العصام، ودفع به ما قيل: فيه عطف على خبر على إنشاء، ولذا اختاره الشارح عطفه على يقال. مختصرأ، وقال القاري: الظاهر أنه جملة حالية، وأغرب ابن حجر إذ قال: عطف جملة على جملة "اعرضوا". ومعنى الخبر: پنهان كردن. أعطوه: قال المناوى: لتوبة النصوح، أو لغلبة طاعاته، أو لكونها عزمات ولم تفعل، أو لغير ذلك مما يعلمه الله. زاد القاري: أو لكونه مظلوماً. قلت: أو بجدد فضله بلا استحقاق.

ههنا: [أي: في مقام العرض أو في صحيفة الأعمال، وإنما يقول ذلك مع كونه مشفقاً منها؛ لأنه لما قوبلت صغارها بالحسنات، طمع أن تقابل كبارها بما أيضاً، وزال خوفه منها فسأل عنها لتقابل بالحسنات أيضاً]. ضحك: [أي: تعجب من الرجل حيث كان مشفقاً من كبار ذنبه ثم صار طالباً لرؤيتها]. بدت نواجذه: [أي: بالغ في الضحك حتى ظهرت نواجذه، وهي: أقصى أضراسه].

حدثنا معاویة بن عمرو، حدثنا زائدة، عن بیان، عن قیس بن أبي حازم، عن جریر بن عبد الله رحمۃ اللہ علیہ قال: ما حَجَبَنِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْذَ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَأَیْ إِلَّا صَحْكٌ. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا معاویة بن عمرو، حدثنا زائدة، عن إسماعیل بن خالد، عن قیس، عن جریر قال: ما حَجَبَنِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْذَ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَأَیْ إِلَّا تَبَسَّمٌ. حدثنا هنّاد بن السّرِّی، حدثنا أبو معاویة، عن الأعمش، عن إبراهیم، عن عُبیدة السَّلَمَانِی، عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عز وجل عنہ

(۶،۵) جریر بن عبد الله رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے میرے مسلمان ہونے کے بعد سے کسی وقت مجھے حاضری سے نہیں روکا اور جب مجھے دیکھتے تھے تو ہنستے تھے اور دوسری روایت میں ہے کہ تبسم فرماتے تھے۔ فائدہ: یہ دوسری روایت اس لئے ذکر کی گئی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی حدیث میں ہنسی سے تبسم فرمانا ہی مراد ہے، اور یہ تبسم اظہارِ مسرت کے لئے ہوتا تھا کہ خندہ پیشانی سے ملتا دوسرا کے لئے انبساط کا سبب ہوتا ہے۔ میں نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ بسا اوقات آنے والوں کے ساتھ ایسی بشاشت اور خندہ پیشانی سے ملتے تھے جس سے ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے آنے کی بڑی خوشی ہوئی۔

(۷) عبد الله بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے اخیر آگ سے نکلے گا، وہ ایک ایسا آدمی ہو گا کہ زمین پر گھستتا ہوا دوزخ سے نکلے گا (کہ جہنم کے عذاب کی سختی کی وجہ سے سیدھے چلنے پر بھی قادر نہ ہو گا)۔ اس کو حکم ہو گا کہ حاجت میں داخل ہو جا۔ وہاں جا کر دیکھے گا کہ لوگوں نے تمام

ما حجیبی: [أَيْ: مَا مَنَعَنِي مِن الدُّخُولِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ]. منذ أَسْلَمْتُ: وَكَانَ إِسْلَامَهُ فِي السَّنَةِ الَّتِي تَوَفَّ فِيهَا عَلَيْهِ قَبْلَ وَفَاتَهُ بِأَرْبَعِينِ يَوْمًا، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ. وَتَعْقِيْبُهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ أَسْلَمَ فِي سَنَةِ الْوَفُودِ سَنَةً تَسْعَ، وَوَهْمُ مِنْ قَالَ: أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ وَفَاتَهُ بِأَرْبَعِينِ يَوْمًا. وَجَرِيرُ هَذَا هُوَ الَّذِي قَالَ فِيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابُ: إِنَّهُ يُوسُفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

إسماعیل: هذا اختلاف بين السندين، فزائدة يروي عن بیان في السندي المتقدم وعن إسماعیل في هذا السندي، وقد أخرج البخاري في الجهاد برواية ابن إدريس عن إسماعیل، وفي المناقب برواية خالد عن بیان، فعلل زائدة سمع عنهما معاً.

عُبیدة: بفتح مهملة وكسر موحدة. السلماني بفتح السين وسكون اللام ويفتح، منسوب إلى بني سلمان قبيلة من مراد.

قال: قال رسول الله ﷺ: إِنِّي لَا عُرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خَرْوَجًا: رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ، فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَذَهِبُ لِي دُخُولُ الْجَنَّةِ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخْدُوا الْمَنَازِلَ فَيَرْجِعُ فِي قَوْلِهِ: يَا رَبِّ! قَدْ أَخْدَى النَّاسَ الْمَنَازِلَ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذَكِّرُ الرَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ، قَالَ: فَيَتَمَنِّي، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّتْ وَعَشَرَةً أَصْعَافَ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْخَرِي

جگہوں پر قبضہ کر رکھا ہے، سب جگہیں پر ہو چکی ہیں، لوٹ کر بارگاہِ الہی میں اس کی اطلاع کرے گا۔ وہاں سے ارشاد ہو گا: کیا دنیوی منازل کی حالت بھی یاد ہے؟ (کہ جب جگہ پر ہو جائے تو آنے والوں کی گنجائش نہ ہو اور پہلے جانے والے جتنی جگہ پر چاہیں قبضہ کر لیں اور بعد میں آنے والوں کے لئے جگہ نہ رہے۔ اس عبارت کا ترجمہ اکابر علماء نے یہ ہی تحریر فرمایا۔ مگر بندہ ناچیز کے نزدیک اگر اس کا مطلب یہ کہا جائے تو زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کیا دنیا کی وسعت اور فراخی بھی یاد ہے کہ تمام دنیا کتنی بڑی تھی؟ اور یہ اس لئے یاد دلایا کہ آئندہ تمام دنیا سے دس گناہ اکد اس کو عطا فرمانے کا اعلان ہونے والا ہے، تو ساری دنیا کا ایک مرتبہ تصور کرنے کے بعد اُس عظیمہ کی کثرت کا اندازہ ہو) وہ عرض کرے گا کہ رب العزت! خوب یاد ہے۔ اس پر ارشاد ہو گا کہ اچھا کچھ تمنائیں کرو۔ جس نوع سے دل چاہے وہ اپنی تمنائیں بیان کرے گا۔ وہاں سے ارشاد ہو گا کہ اچھا تم کو تمہاری تمنائیں اور خواہشات بھی دیں اور تمام دنیا سے دس گناہ اکد عطا کیں۔ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ!

رجل: قيل: اسمه جهينة أو هناد الجهيبي قاله الشراح. زحفاً: مفعول مطلق بغير لفظه أو حال أي: زاحفاً، والزحف: المشي على الإست مع إشراف الصدر، وفي رواية: حبوا بفتح الحاء وسكون الموحدة، وهو: المشي على اليدين والرجلين، أو الركبتين، أو المقعد، ولا تناهى بين الروايتين؛ لأن أحدهما قد يراد به الآخر، أو أنه يزحف تارة ويجب أخرى، قيل: يمشي هكذا لضعفه بعذاب النار أو لتواريته من ملائكة العذاب.

أخذ الناس المنازل: [كانه ظنَّ أنَّ الْجَنَّةَ إِذَا امْتَلَأَتْ بِسَاكِنِيهَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَادِمِ فِيهَا مَنْزِلٌ فَيَحْتَاجُ أَنْ يَأْخُذْ مَنْزِلًا مِنْهُمْ].  
تمن: [أي: اطلب ما تقدر في نفسك وتصوره فيها]. أتسخرني: قوله: "بِي" بالموحدة، وفي نسخة: بالتون بدل الموحدة وهم رواياتان، لكن الأصول المعتمدة والنسخ المصححة على الأولى، قاله القاري، قال المناوي: يقول ذلك دهشا لما قاله من السرور يبلغ مالم يخطر بباله، ولم يكن ضابطا لما قاله، ولا علاما بما يترتب عليه، بل حرى على عادته في مخاطبة المخلوق، فهو كمن قال ﷺ في حقه: إنه لم يضبط نفسه من الفرح في الدعاء فيقول: أنت عبدي وأنا ربك.

وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه. حديثنا قتيبة بن سعيد، أبناً أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن <sup>(٨)</sup> عليّ بن ربيعة قال: شهدت عليّاً رضي الله عنه أتي بذلة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله،

آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہو کر مجھ سے تمسخر فرماتے ہیں کہ وہاں ذرا سی بھی جگہ نہیں ہے اور آپ تمام دنیا سے دس گنا زائد مجھے عطا فرمائے ہیں۔ ابن مسعود رضي الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے حضور القدس ﷺ کو دیکھا کہ جب اُس شخص کا یہ مقولہ نقل فرمائے تھے تو آپ کو ہنسی آگئی حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ فائدہ: حضور القدس ﷺ کا ہنسنا یا تو اللہ جل جلالہ کے اس اکرام و انعام پر خوشی اور مسرت کی وجہ سے ہے کہ جب ایسے شخص کو جو جہنم سے سب سے اخیر میں نکالا گیا جس سے اُس کا سب سے زیادہ گناہگار ہونا بدیکی ہے، اس قدر زیادہ عطا و انعام ہوا تو سارے مسلمانوں پر بالخصوص تلقی اور پرہیز گاروں پر کیا کچھ الظافر کی بارش نہ ہوگی۔ اور امیتیوں پر جس قدر انعام ہوا اتنا ہی حضور کے لئے مسرت کا سبب ہے، اور ممکن ہے کہ یہ ہنسی اس شخص کی حالت پر ہو کہ کس قدر عذاب اور مصائب برداشت کر کے تو نکلا ہے اور پھر یہ جرأتیں کہ تم نہیں اور اللہ سے یہ کہے کہ آپ تمسخر کر رہے ہیں۔

(۸) ابن ربيعة کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس (آن کے زمانہ خلافت میں) ایک مرتبہ (گھوڑا وغیرہ) کوئی سواری لائی گئی۔ آپ نے رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے بسم اللہ کہا اور جب سوار ہو چکے تو الحمد للہ کہا، پھر یہ دعا پڑھی: سُبْحَانَ اللَّهِيْ سَمْعَرَلَنَا هَذَا وَمَا كَانَ لَهُ مُقْرِنٌ وَإِنَّا إِلَيْ رَبِّنَا لَمْ نَتَقْلِبُونَ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہدایے لئے مسخر فرمادیا ورنہ ہم کو اس کو مطیع بنانے کی طاقت نہ تھی اور واقعی ہم سب لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں

الملك: بکسر اللام، وليست السخرية من دأب الملوك، وأنا أحقر من أن يسخري ملك الملوك. وهذا نهاية الخضوع وتبعد نفسه عن أن يكون محل هذا الإنعام. بدت: تعجبا من دهش الرجل، أو من عظيم رتبة التواضع، أو من غلبة رحمته على عذابه قاله المناوي. أتى: بالبناء للمجهول أي: حضرته حال كونه حيء بداعية أتاها بعض خدمه. بداعية: أصلها: كل ما يدب على الأرض، كما في قوله تعالى: **﴿فَوَمَا مِنْ دَاءٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهُ﴾** [هود: ۶] ثم خصها العرف العام بنحوات الأربع، وأكثر ما يطلق على فرس أو بغل أو حمار.

فَلَمَا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿سُبْحَانَ اللَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كَنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمْ نَقْلِبُونَ﴾ [الزخرف: ۱۴، ۱۳] ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ - ثَلَاثَةٌ - وَاللَّهُ أَكْبَرُ - ثَلَاثَةٌ - سُبْحَانَكَ  
إِنِّي ظَلَمَتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحَّكَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ أَيِّ شَيْءٍ  
ضَحَّكَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعًا كَمَا صَنَعْتَ ثُمَّ ضَحَّكَ، فَقُلْتُ: مَنْ  
أَيِّ شَيْءٍ ضَحَّكَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي،  
يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ أَحَدٌ غَيْرِي.

(علماء فرماتے ہیں کہ سواری چونکہ اس باب ہلاکت سے ہے اس لئے سواری کے تسبیر پر حق تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ اپنی موت  
کے ذکر کو بھی متصل فرمادیا کہ ہم آخر کار مرنے کے بعد اُسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں) پھر حضرت علیؓ نے الحمد  
الله تین مرتبہ کہا، پھر اللہ اکبر تین مرتبہ کہا، پھر سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمَتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ تیری  
ذات ہر عیب سے پاک ہے اور میں نے تیری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے میں اور اوامر کی اطاعت نہ کرنے میں اپنے ہی نفس پر  
فلم کیا ہے، پس یا اللہ! آپ میری مغفرت فرمائیں کیونکہ مغفرت تو آپ کے سوا اور کوئی کرہی نہیں سکتا۔ اس دعا کے بعد  
حضرت علیؓ نے بھی کہتے ہیں کہ میں نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ حضور اقدس ﷺ نے بھی  
اسی طرح دعائیں پڑھی تھیں اور اُس کے بعد حضور نے بھی تبسم کی وجہ پوچھی تھی جیسا  
کہ تم نے مجھ سے پوچھی تو حضور اطہر و اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حق تعالیٰ بندہ کے اس کہنے پر کہ میرے گناہ تیرے سوا  
کوئی معاف نہیں کر سکتا، خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی شخص گناہ معاف نہیں کر سکتا (اللَّهُمَّ  
رَبَّ اغْفِرْ لِي وَلَوَالِدِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اللَّهُمَّ لَا أَخْصِنِ شَاءَ عَلَيْكَ لَكَ الْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ۔)

الحمد لله: شکرًا على نعمة الرکوب، وتذليل هذا الوحش النافر، وإطاعته لنا على رکوبه. يعلم: حال من ضمير "قال" أي  
قال ذلك حال كونه يعلم، وهذا على نسخة "غيره" بالغائب، وأما على نسخة "غيري" بالياء المتلكلم فيجعل مقولاً لقول  
محذوف أي قائلًا ذلك، فيجعل حالاً من فاعل "يعجب" أي يعجب الرب عزوجل قائلًا يعلم إنه لا يغفر الذنب غيري.

حدثنا محمد بن بشّار، أبناه محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا ابن عون، عن محمد بن محمد بن ينكران محمد

<sup>(٩)</sup> الأسود، عن عامر بن سعد قال: قال سعد: لقد رأيت رسول الله صاحب يوم الخندق حتى ابن أبي وفا

بدت نواجهه، قال: قلت كيف كان ضاحكه؟ قال: كان رجل معه ثُرْسٌ، وكان سعد رامياً،  
أي لسعد أو لعامر سعد أو عامر

وكان يقول كذا وكذا بالترس، يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم،  
[خذلا من السهم]

(٩) عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میرے والد سعد نے فرمایا کہ حضور اقدس سنتی غزوہ خندق کے دن ہنسے حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ عامر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کس بات پر ہنسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک کافر ڈھال لئے ہوئے تھا اور سعد گو بڑے تیر انداز تھے لیکن وہ اپنی ڈھال کو اوہر ادھر کر لیتا تھا جس کی وجہ سے اپنی پیشانی کا بچاؤ کر رہا تھا (گویا مقابلہ میں سعد کا تیر لگنے نہ دیتا تھا حالانکہ یہ مشہور تیر انداز تھے) سعد نے ایک مرتبہ تیر نکالا (اور اُس کو کمان میں کھینچ کر انتظار میں رہے)

الخندق: قال المناوي: مغرب؛ لأن الخاء والدال والقاف لا يجتمع في الكلمة عربية، وقال القاري: كجعفر، حغير حول أسوار المدينة، مغرب كندة على ما في القاموس. سعد: الظاهر أنه من كلام سعد، وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة، أو رواية بالمعنى، وهذا إذا كان الضمير في "قال" الثاني إلى سعد، وإن كان الضمير فيه إلى عامر فهذا أيضاً من كلامه، غاية ما فيه أنه عبر أباه باسمه، ولم يقل: وكان أي، وهذا معروف في الأسانيد.

وكان: قالوا: هذا من كلام سعد على كل تقدير أي، وكان الرجل المذكور يفعل كذا وكذا، والعرب يجعل القول عبارة عن جميع الأفعال فتقول: قال بيده أي أحد، وقال برجله أي مشى، وقال بملاء على يده أي قلب، وقال بشوبه أي رفعه وقال بالترس أي أشار، وغفل الخنفي عن هذا المعنى، وقال في قوله: "يقول كذا وكذا" أي ما لا يناسب لحناب رسول الله ﷺ ولا لأصحابه قاله القاري. قلت: واحتار هذا المعنى المناوي أيضاً، إذ قال: يقول كذا وكذا، أي ما لا يليق بحناب المصطفى وصحبه، كفى به استقباحاً للذكره. و"بالترس" متعلق بقوله: "يغطي" جملة حالية من فاعل يقول، ذكره العصام وغيره، وتفسير الشارح يقول بيفعل ليس على ما ينبغي. قلت: والظاهر عندي ما قال القاري. كذا وكذا: أشار بالترس يميناً وشمالاً، هذا على رأي القاري، وأما على رأي المناوي وغيره المراد به: الكلمات التي كان يقولها. بالترس: [ما يضر به حال الحرب] متعلق بقوله: "يقول" على رأي القاري، وعلى هذا قوله: "يغطي جبهته" استئناف بيان الإشارة، ومتعلق بـ"يغطي" على رأي المناوي كما تقدم.

فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَمَاهُ فَلَمْ يَخْطُئْ هَذَا مِنْهُ - يَعْنِي: جَبْهَتَهُ - وَانْقَلَبَ وَشَالُ بِرْجَلِهِ، فَضَحَّكَ الرَّبِيعَ مِنَ الرَّجُلِ أَوِ الْعَدُوِّ ارتفع رجله والباء للتعميد  
رسول الله ﷺ حتی بدأ نواجذه، قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل.

جس وقت اُس نے ڈھال سے سر اٹھایا فوراً ایسا لگایا کہ بیٹھانی سے چوکا نہیں اور فوراً گر گیا، تانگ بھی اوپر کو اٹھ گئی، پس حضور اقدس ﷺ اس قصہ پر ہنسے۔ میں نے پوچھا کہ اس میں کونسی بات پر؟ انہوں نے فرمایا کہ سعد کے اس فعل پر۔ فائدہ: چونکہ اس قصہ میں اس کا شبهہ ہو گیا تھا کہ اُس کے پاؤں اٹھنے اور ستر کھل جانے پر قبسم فرمایا ہواں لئے مکرر دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی۔ انہوں نے فرمادیا کہ یہ نہیں بلکہ میرے حسن نشانہ اور اُس کے باوجود اتنی احتیاط کے تیر لگ جانے پر کہ وہ تو ہوشیاری کر ہی رہا تھا کہ ڈھال کو فوراً ادھر ادھر کر لیتا تھا مگر سعد نے بھی تدبیر سے ایسا جڑا کہ فوراً گی اور مہلت بھی نہ ملی۔

**وانقلب:** [أي: صار أعلاه أسفل وسقط على إسته]. فعله: قال ميرك: أي: ضحك من قتلته عدوه لا من الانكشاف كذا قيل، وفيه تأمل، قال القاري: من الواضح الجلي أنه لم يضحك من كشف عورته؛ لأنَّه ليس من مكارم أخلاقه، بل إنما ضحك فرحا بما فعله سعد بعدوه. قال المناوي: أي: ضحك من رمية سعد وغرابة إصابته فرحا بذلك وسرورا لا من رفعه رجله حتى بدت عورته. وفيه أنه يمتنع السخرية والهزء بالكافر ولو حربياً بكشف سوءته إلا أن قياس مذهب الشافعي الجواز زيادة في النكال وإغاظة لأهل الضلال.

## بابُ ما جاء في صفة مزاح رسول الله ﷺ

بِالضَّمْ وَالْكَسْرِ مَزَاحٌ كَرْدَنْ

حدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْلَانَ، أَبْيَانًا أَبُو أَسَمَّةَ، عَنْ شَرِيكِ،

## باب۔ حضرور اقدس ﷺ کے مزاح اور دل لگی کے بیان میں

فائدہ: حضرور اقدس ﷺ سے مزاح ثابت ہے اور ممانعت بھی وارد ہوئی۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ امام نووی رضی اللہ عنہ نے دونوں میں اس طرح تطیق فرمائی ہے کہ کثرت مزاح جو باعث قساوت قلب کا بن جائے یا اللہ کے ذکر و فکر سے روک دے یا ایذا مسلم کا سبب بن جائے یا وقار و ہیبت گرا دے یہ سب ممانعت میں داخل ہے اور جو ان سب سے خالی ہو، محض دوسرا کی دلداری اور اس کے انبساط کا سبب ہو وہ مستحب ہے۔ چنانچہ عبد اللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرور اقدس ﷺ سے زیادہ خوش طبعی کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرور اقدس ﷺ کی خوشی طبعی بجائے گرانی کے مایہ فخر و ناز تھی۔

گر طمع خواہد ز من سلطانِ دین  
خاک بر فرقِ قاتع بعد ازیں

نیز نبی کریم ﷺ کے لئے مزاح کی ایک خاص ضرورت بھی تھی وہ یہ کہ حضرور اقدس ﷺ کا ذاتی وقار اتنا بڑھا ہوا تھا کہ ایک مہینہ کے سفر کی دوری تک آپ کا رعب پہنچتا تھا، اس لئے اگر حضور تبسم اور مزاح کا اہتمام نہ فرماتے تو حاضرین کو رعب کی وجہ سے پاس رہنا مشکل بن جاتا اور انتقام کے اسباب مسدود ہو جاتے، نیز قیامت تک آنے والے مشائخ و اکابر جو حضور کی اتباع میں جان توڑ کو شش کرتے ہیں وہ قصدً تبسم و مزاح سے گریز کرتے اور ان کے جملہ خدام کے لئے

مزاح: المزاح بضم الميم على أنه اسم، وبكسرها على أنه مصدر مازحه، ومعنىـه: الانبساط مع الغير من غير إيداعـ، وبه فارق المهوـ والـسـخـرـيـةـ، ويـشـكـلـ عـلـىـ أحـادـيـثـ الـبـابـ ماـ روـيـ أـنـهـ قـالـ: لـاتـمـارـ أـحـاكـ وـلـاـ تـماـزـحـهـ، أـخـرـجـهـ المـصـنـفـ فـيـ الـجـامـعـ مـنـ حـدـيـثـ اـبـنـ عـبـاسـ وـقـالـ: هـذـاـ غـرـيبـ، لـاـ نـعـرـفـ إـلـاـ مـنـ هـذـاـ الـوـجـهـ، وـقـالـ الشـيـخـ الجـزـرـيـ: إـسـنـادـهـ جـيدـ، فـقـدـ روـاهـ زـيـادـ بـنـ أـبـيـ يـوـبـ، عـنـ عـبـدـ الرـحـمـنـ بـنـ مـحـمـدـ، عـنـ لـيـثـ بـنـ أـبـيـ سـلـيـمـ، عـنـ عـبـدـ الـلـكـ بـنـ أـبـيـ بـشـرـ، عـنـ عـكـرـمـةـ، عـنـ اـبـنـ عـبـاسـ، وـهـذـاـ إـسـنـادـ مـسـتـقـيمـ. وـلـيـثـ وـإـنـ كـانـ فـيـهـ ضـعـفـ مـنـ قـبـلـ حـفـظـهـ لـكـنـ روـيـ لـهـ مـسـلـمـ مـقـرـونـاـ قـالـهـ الـفـارـيـ.

عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود: قال أبوأسامة: يعني: يُمَازِحُهُ.

حدثنا هنّاد بن السّرّي، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي التّياح،  
بھی مشائخ کا یہ طرز مشکلات کا سبب بنتا۔ حق تعالیٰ شانہ بے انتہا درود وسلام اُس پاک ہستی پر نازل فرمائے جو امت کی ہر  
سوالت کا دروازہ کھول گئے۔ سفیان بن عینہ سے جو بڑے محدث ہیں کسی نے کہا کہ مذاق بھی ایک آفت ہے۔ انھوں نے  
کہا بلکہ سنت ہے مگر اُس شخص کے حق میں جو اس کے موقع جانتا ہو اور اچھامداق کر سکتا ہو۔

(۱) حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے اُن کو ایک مرتبہ مزاحاً ياذالاذنين فرمایا (او دو کانوں  
والے)۔ فائدہ: کان تو سب ہی کے دو ہوتے ہیں، ان کو جو دو کانوں والا فرمایا تو کوئی مقامی خصوصیت ہوگی، مثلاً: ان کے  
کان بڑے ہوں گے یا تیز ہوں گے کہ بات دُور سے سُن لیتے ہوں گے، یہی اقرب ہے۔

(۲) حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ہمارے ساتھ میل جوں مزاح فرماتے تھے، چنانچہ میرا ایک چھوٹا  
بھائی تھا، حضور اُس سے فرماتے یا باعمر! مافعل النّغير؟ ارے ابو عمر! وہ نغیر کہاں جاتی رہی؟۔ فائدہ: نغیر ایک جانور ہے  
جس کا ترجمہ علماء ”لال“ سے کرتے ہیں۔ صاحب حیۃ الحیوان نے ”بلبل“ لکھا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ  
اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے اُس بچہ کو کنیت سے تعبیر فرمایا۔ اُس نے ایک جانور پاں رکھا تھا، وہ  
مر گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ رنجیدہ بیٹھا تھا، حضور اقدس ﷺ نے اس کو چھیڑنے کے لئے پوچھا کہ وہ نغیر کیا ہوا؟  
حالانکہ حضور اقدس ﷺ کو معلوم تھا کہ وہ مر گیا۔ یہ حدیث ایک مسئلہ مختلف فیہا میں حنفیہ کی تائید بھی ہے، وہ مسئلہ یہ  
ہے کہ حرم مدینہ کا شکار شافعیہ کے نزدیک حرم مکہ کے شکار کے حکم میں ہے اور حنفیہ کے نزدیک دونوں میں فرق ہے،

يا ذا الأذنين: قال القاري: وجه المزاح أنه سماه بغير اسمه مما قد يوهم أنه ليس له من الحواس إلا الأذنان، أو هو مختص  
بها لا غير مع احتمال كون أذنيه طويتين أو قصيرتين أو معيوبتين. والله أعلم.

قال محمود: نقل المصنف عن شیخه: أن قوله عليه السلام هذا كان معمولا على المزاح، فهذا ننزلة تفسير الحديث عن شیخه.  
أبي التیاح: بفتح المثناة الفوکانیة وتشدید الیاء وبالحاء المهملة، اسمه یزید بن حید.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخَّ لِي صَغِيرٌ: يَا بَابَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ التَّغْيِيرَ؟ قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِيقَهُ هَذَا الْحَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمَازِحُ، وَفِيهِ: أَنَّهُ يَقْرَأُ بِالْأَلْفِ وَلَا يَكْبُرُ قَبْلَ صَغِيرِ الْمَقَارِ أَحْمَرَ الرَّاسِ حَالَةً مَازِحَهُ كَنَّى غَلَامًا صَغِيرًا فَقَالَ لَهُ: يَا بَابَا عُمَيْرٍ، وَفِيهِ: أَنَّهُ لَا يَأْسُ أَنْ يَعْطِي الصَّصِيَ الطَّيْرَ لِيَلْعَبَ بِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ لِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَابَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ التَّغْيِيرَ؛ لَأَنَّهُ كَانَ لَهُ تَغْيِيرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَحَزَنَ الْغَلَامُ عَلَيْهِ،

حرم مکہ میں شکار جائز نہیں بخلاف حرم مدینہ کے کہ وہاں جائز ہے، چنانچہ حضور اقدس ﷺ کا اس پر انکار نہ فرمانا منسجم دلائل کے ایک دلیل ہے، اور تفصیل کتب فقه و حدیث میں موجود ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ ابو عمیر ان کی پہلے ہی سے کنیت تھی یا حضور اقدس ﷺ نے ہی ابتداء گنیت سے تعبیر فرمایا۔ بعض علماء نے اس حدیث میں سو سے زائد مسائل اور فوائد بتائے ہیں۔ اُس ذات کے قربان جس کے ایک مذاق فقرہ میں سو سو مسائل حل ہوتے ہوں اور ان علماء کی قبروں کو حق تعالیٰ شانہ سراپا نور بنائے جنہوں نے اپنے رسول کے کلام کی اس قدر خدمت کی کہ ایک ایک حدیث سے کتنے کتنے مسائل استنباط کیے، ان کو محفوظ رکھا اور پھیلایا۔ اس حدیث میں ایک اشکال یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں جانور کا پیغمبر وغیرہ میں بند کرنا اور بچ کا اُس سے کھلیتاوارد ہے۔

لِيَخَالِطُنَا: [أَيْ: يَمَازِحُنَا مَعَ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَهْلِ بَيْتِهِ]. حَقٌّ: قَالَ النَّوْوَى: غَايَةُ لِقَوْلِهِ: "لِيَخَالِطُنَا" أَيْ: انتهِي مَخَالِطَتِهِ بِأَهْلِنَا كَلَهَا حَتَّى الصَّيْ. لَأَخَ لِي: [أَيْ: أَخَ مِنَ الْأَمْمِ، اسْمُهُ حَفْصٌ، وَقَبْلَهُ: كَبْشَةُ بْنُ أَبْو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَمْمَهُ أُمُّ سَلِيمٍ]. التَّغْيِيرُ: [طَائِرٌ كَالْعَصَفُورِ أَحْمَرِ الْمَقَارِ]. أَنَّهُ كَنَّى: هَذَا إِذَا كَانَ ابْتِداءُ التَّكْنِيَّةِ عَلَى لِسَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الصَّحِيحِيْنِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسَ خَلْقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ، وَكَانَ لَهُ تَغْيِيرٌ يَلْعَبُ بِهِ الْحَدِيثُ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي بِهِ مِنْ أُولَى الْأَمْرِ، إِلَّا أَنَّ فِي خَطَابِهِ إِيَّاهُ بِالْكَنْيَةِ تَقْرِيرًا لَهُ وَحْجَةٌ لِلْجَوازِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْكَذْبِ؛ لَأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ التَّكْنِيَّةِ التَّعْظِيمُ وَالتَّفَاؤُلُ لَا حَقِيقَةُ الْلَّفْظِ مِنْ إِثْبَاتِ الْأَبْوَةِ وَالْبَنْوَةِ.

لَا يَأْسَ إِلَّا: قَالَ الْقَارِيُّ: مَحْلُهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْذِبُهُ يَعْنِي: فَلَا يُشَكِّلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَعْذِيبٌ لِلْحَيْوانِ، وَقَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْهُ. قَالَ الْمَنَاوِيُّ: إِنْ قَامَتْ قَرِينَةُ قُوَّةٍ عَلَى أَنَّ الصَّيْ لَا يَفْعُلُ بِهِ مَا فِيهِ تَعْذِيبٌ بَلْ يَلْعَبُ لَعْبًا مَبَاحًا وَيَقُومُ بِمَؤْنَتِهِ جَازٌ، وَإِلَّا لَا. قَالَ الْقَارِيُّ: وَفِيهِ جَوازُ اسْتِعْمَالِ الصَّغِيرِ وَإِدْخَالِ السَّرُورِ عَلَيْهِ وَالتَّقْيِيدُ بِالصَّغِيرِ يَفِيدُ أَنَّ الْكَبِيرَ مَنْعُوْمٌ مِنَ الْلَّعْبِ بِالْطَّيْرِ؛ لَمَا وَرَدَ: مِنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ فَقَدْ غَفَلَ.

فما زحه النبي ﷺ فقال: يا با عمر! ما فعل النغير؟ حديثنا عباس بن محمد الدُّوري، أخبرنا علي بن الحَسَن بن شقيق، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن سعيد المقري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبنا؟ فقال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقاً، تداعبنا يعني تمازحنا. حديثنا قتيبة بن سعيد، حديثنا خالد بن عبد الله، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلاً استحمل رسول الله ﷺ، فقال: إني حاملك على ولد ناقة،

یہ جانور کو عذاب دینا اور ستانا ہے، اور جانور کو عذاب دینے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مخف بند کرنا یا اس سے دل بہلانا اور کھلینا عذاب دینا نہیں ہے، ستانا اور عذاب دینا و سری چیز ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جانور کا رکھنا اُسی کیلئے جائز ہے جو اس کو ستائے نہیں، اس کی خیر خبر کے اور جو بچہ نا سمجھ ہو یا سخت دل ہو کہ جانور کو تکلیف پہنچاتا ہو اس کے لئے جائز نہیں ہے۔

(۳) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام! آپ ہم سے مذاق بھی فرمائیتے ہیں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہاں، مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ فائدہ: صحابہ کے سوال کا منشاء یہ تھا کہ حضور ﷺ نے مذاق سے منع بھی فرمار کھا ہے اور ویسے بھی بڑائی کی شان کے خلاف ہے کہ یہ وقار کو گرا تا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمادیا کہ میری خوش طبی اس میں داخل نہیں ہے، چنانچہ شروع باب میں اس کی کچھ تفصیل گزر چکی ہے۔

(۴) حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضور اقدس ﷺ سے درخواست کی کہ کوئی سواری کا جانور مجھے عطا فرمادیا جائے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ایک اوپنی کا بچہ تم کو دیں گے۔ سائل نے عرض کیا کہ حضور! میں بچہ کو کیا کروں گا؟

فما زحه: وذلك لأنه رآه حزيناً فقال: ما لك؟ فقيل: مات نغير. علي بن الحسين: كذا صوبه المناوي، قال: وفي نسخة ضعيفة: الحسين بالتصغير، قال ميرك: وهو غلط. قلت: وليس في الرواية أحد اسمه علي بن الحسين بن شقيق. تداعبنا: مدرج من كلام المصنف أو أحد مشايخه، وكرره ليفسره، وهو بالدال والعين المهمليتين والباء الموحدة. قال الرمخشري: الدعاية كالفكاهة والمراحة مصدر، وفي المصباح: دعب يدعب كمزح يمزح وزناً ومعنى. استحمل: [طلب من الرسول ﷺ أن يحمله أى يعطيه حمولة يركبها] أى: سأله أن يحمله على دابة، والمراد أن يعطيه حمولة يركبها.

فقال: يا رسول الله! ما أصنع بولد الناقة؟ فقال: وهل تَلِدُ الإبلَ إِلَّا التُّوقُ؟!. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ثابت، عن أنس<sup>(٥)</sup> بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً من أهل البادية، كان اسمه: زاهراً و كان يُهدي إلى النبي ﷺ هدية من الـبادـيـة، فـيـجـهـزـهـ النـبـيـ ﷺ إـذـاـ أـرـادـ أـنـ يـخـرـجـ، فـقـالـ النـبـيـ ﷺ: إـنـ زـاهـرـاـ بـادـيـتـاـ، وـنـحـنـ حـاضـرـوـهـ، وـكـانـ رـسـولـ اللـهـ ﷺ يـحـبـهـ، وـكـانـ رـجـلـاـ دـمـيـمـاـ،

(مجھے تو سواری کے لئے چاہئے)۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی اونٹی کا پچھہ ہوتا ہے۔ فائدہ: ساکن کا گمان یہ ہوا کہ وہ چھوٹا ناقا قابل سواری ہو گا۔ اس حدیث میں علاوہ مزاح کے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آدمی کو گفتگو میں دوسرے کی بات کمال غور و فکر سے سنبھلی چاہئے۔

(۵) حضرت انس رضي الله عنه کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگل کے رہنے والے، جن کا نام زاہر بن حرام تھا، وہ جب حاضر خدمت ہوتے تو جنگل کے ہدایا سبزی، ترکاری وغیرہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے اور وہ جب مدینہ منورہ سے واپس جانے کا ارادہ کرتے تھے تو حضور اقدس ﷺ سامان خود و نوش کا ان کو عطا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زاہر ہمارا جنگل ہے اور ہم اُس کے شہر ہیں۔

ولد الناقة: توهם أن المراد بولدهما هو الصغير من أولادها كما هو المبادر إلى الفهم. الإبل: أي: صغرت أو كبرت، والمعنى: ما تلدھا جميعاً. التوق: بضم التون جمع الناقة، وهي أشيء لإبل. وحاصله: أن جميع الإبل ولد الناقة صغيراً كان أو كبيراً. زاهراً: هو ابن حرام الأشعبي شهد بدرأً. من الـبـادـيـةـ: أي: حاصلة منها مما يوجد فيها من الأزهار والأثمار والنبات. فـيـجـهـزـهـ: [أـيـ: يـعـطـيـهـ مـاـ يـتـجـهـ بـهـ إـلـىـ أـهـلـهـ مـاـ يـعـيـنـهـ عـلـىـ كـفـائـتـهـمـ].

بـادـيـتـاـ: أي تستفيد منه ما يستفيد الرجل من بـادـيـتـاـ من أنواع النبات، فصار كـأنـهـ بـادـيـةـ. وـقـيلـ: من إطلاق اسم المـحلـ علىـ الحالـ أوـ علىـ حـذـفـ المـضـافـ أيـ: سـاـكـنـ بـادـيـتـاـ كـمـاـ حـقـقـ فـيـ [ـوـأـسـأـلـ الـقـوـيـةـ]ـ [ـيـوـسـفـ: ٨٢ـ]ـ، وـقـيلـ: تـاؤـهـ للـمـبـالـغـةـ، وـيـؤـيـدـهـ ماـ فيـ بـعـضـ النـسـخـ: بـادـيـنـاـ. وـالـبـادـيـ: هوـ المـقـيمـ بـالـبـادـيـةـ. دـمـيـمـاـ: [ـأـيـ: أـنـهـ غـيرـ حـسـنـ الصـورـةـ وـالـشـكـلـ مـعـ كـوـنـهـ مـلـيـعـ السـيـرـةـ]ـ بـالـدـالـ الـمـهـمـلـةـ أيـ: قـبـيعـ الـوـجـهـ كـرـيـهـ الـمـنـظـرـ.

فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَوْمًا وَهُوَ يَبِعُ مَتَاعَهُ وَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَلَا يُبِصِّرُهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ أَرْسِلْنِي!

فَالْتَّفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ لَا يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهِيرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَرَفَهُ،  
[لا يقص]

حضرور اقدس اللہ تعالیٰ کو ان سے خصوصی تعلق تھا، زاہر کچھ بد شکل بھی تھے۔ ایک مرتبہ کسی جگہ کھڑے ہوئے وہ اپنا کوئی سامان فروخت کر رہے تھے کہ حضرور اقدس اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور پیچھے سے اُن کی کوئی ایسی طرح بھری کہ وہ حضرور اقدس اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سکیں، انہوں نے کہا اسے کون ہے؟ مجھے چھوڑ دے! لیکن جب کن انکھیوں وغیرہ سے دیکھ کر حضرور کو پہچان لیا تو اپنی کر کو بہت اہتمام سے پیچھے کو کر کے حضرور اقدس اللہ تعالیٰ کے سینہ مبارک سے ملنے لگے (کہ جتنی دیر بھی تلبیس رہے ہزار نعمتوں اور لذتوں سے بڑھ کر ہے) حضرور اقدس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کون شخص ہے جو اس غلام کو خریدے؟ زاہر نے عرض کیا کہ حضرور! اگر آپ مجھے فروخت فرمادیں گے تو کھونا اور کم قیمت پائیں گے۔ حضرور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نزدیک تو تم کھوئے نہیں ہو بلکہ بیش قیمت ہو۔ فائدہ: حضرور اقدس اللہ تعالیٰ کا پیچھے سے تشریف لا کر کوئی بھر لینا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لینا تو مزاح تھا یہی یہ ارشاد بھی مزاح ہی تھا کہ اس غلام کا کوئی خریدار ہے، اس لئے کہ حضرت زاہر غلام نہ تھے، آزاد تھے مگر حضرور کا یہ ارشاد بطور فرض اور تشییہ کے تھا۔ بعض شرائح نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صورتِ مزاح میں ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے بڑی حکمتیں اور اسرار اس میں ہیں، اس لئے کہ جب حضرور نے ان کو اپنے سامان کی فروختگی میں نہایت مشغول پایا تو حضرور کو اس میں انہاک اور ان کی توجہ الی اللہ کی کمی کا بظاہر خوف ہوا اس لئے اول کوئی بھری کہ حضرور کے ساتھ تلبیس رجوع الی اللہ کا ذریعہ ظاہر ہے اور پھر تشییہ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اس غلام کا کوئی خریدار ہے، اس لئے کہ جو شخص غیر اللہ میں اس قدر مشغول ہو وہ گویا اپنی خواہشات کا بندہ ہے، لیکن حضرور کے ساتھ اس تلبیس سے انبات الی اللہ یعنی اللہ کی طرف توجہ تام حاصل ہو چکی تھی اس لئے حضرور نے پھر ان کو مژده سنایا کہ اللہ کے نزدیک تم کم قیمت نہیں ہو بلکہ بیش قیمت ہو۔

متاع: [وَكَانَ مَتَاعَهُ قَرْبَةً لَبْنَ وَقْرَبَةَ سَمْنَ]. فاحتضنه: عطف على "أَتَاهُ" وفي المشكوة بالفاء، كما في بعض النسخ ه هنا أيضاً، وهو الأنساب أي: أدخله في حضنه قاله القاري. والمعنى: ما دون الإبط إلى الكشح، والمعنى: أدخل يديه تحت إبط زاهر فاعتنته، "ولا يبصره" جملة حالية. ما أَلْصَقَ: لفظ "ما" مصدرية أي: لا يقص في لزق ظهره بصدر مصدر الفيوض تبركاً وتلذذاً.

فجعل النبي ﷺ يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل: يا رسول الله! إذا والله تجدي  
كاسداً، فقال النبي ﷺ: لكنَّ عند الله لستَ بِكاسدٍ أو قال: أنت عند الله غال. حدثنا  
عبد بن حميد، حدثنا مُصْعَبٌ<sup>٦٦</sup> بن المقدام، حدثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن قال: أنت  
عجوزُ النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله! أدع الله أن يدخلني الجنة، فقال: يا أم فلان!  
إن الجنة لا يدخلها عجوز، قال: فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز،

(١) حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! دعا فرمادیجھے کہ حق تعالیٰ جنَّةَ مجھے جنت میں داخل فرمادے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت روئی ہوئی لوٹنے لگی۔ حضور نے فرمایا: اس سے کہہ دو کہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ حق تعالیٰ جنَّةَ سب الہی جنت عورتوں کو نُو عمر کواریاں بناویں گے۔ اور حق تعالیٰ کے اس قول ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَا هُنَّ أَبْكَارًا﴾ [الواقعة: ٣٥-٣٦] میں اس کا بیان ہے،

هذا العبد: قيل: معناه: من يشتري مثل هذا العبد في الدمامه، أو من يستبدله مني بأن يأتي بمثله، أو من يقابل هذا العبد الذي هو عبد الله بالإكرام والتعظيم، والكل متتكلف قاله المناوي، قال القاري: فالوجه أن الاشتراء على حقيقة، وإن العبد فيه تورية، ولا يلزم من هذا القول - لا سيما المقام مقام المزاح - إرادة تحقق بيعه ليشكل على الفقيه بأن بيع الحر غير جائز اهـ. تجدي كاسداً: [الرخيص الذي لا يرغب فيه أحد] أي: إذا عرضتني على البيع إذاً تجدي متعاراً رخيصاً أو غير مرغوب فيه، وفي بعض النسخ: "تجدوني" بلفظ الجمع لتعظيمه ﷺ أو الضمير له والأصحاب، قال المناوي: والأوفق بقواعد العربية الإفراد. مصعب: بصيغة المفعول من الأصعب بالصاد المهملة، وفي نسخة بدله منصور، قال ميرك: وهو خطأ. والمقدام بكسر الميم وسكون القاف. وفضالة بفتح الفاء. والحسن البصري التابعي المعروف، فالحديث مرسل. عجوز: أي: امرأة كبيرة السن، ولا تقل: عجوزة إذ هي لعنة: ردية على ما في القاموس. قيل: اسمها صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام وعمة النبي ﷺ قاله الشراح. فلان: قال الراوي: نسي الاسم الذي حرى على لسانه ﷺ فأقام لفظ "فلان" مقامه قاله القاري. قلت: ولعله ﷺ قال: يا أم الزبير؛ لأن صفيه هذه أمه كما تقدم.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْسَانَ فَجَعَلْنَا هُنَّ أَبْكَارًا﴾ [الواقعة: ٣٥-٣٧]

جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں (بیان القرآن) یعنی ہمیشہ کنواریاں ہی رہتی ہیں، صحبت کے بعد پھر کنواریاں بن جاتی ہیں۔

يقول: اختلفوا في تفسير الآية كما بسط في محله، وما يناسب المقام ما في جمع الوسائل، إذ قال: وفي الحديث: هن اللواتي قضن في دار الدنيا عجائز خلقهن الله بعد الكير فجعلهن عذاري متعشقات إلى آخر ما بسطه. إنشاء: [أي: إنا حلقنا النسوة خلقاً جديداً من غير توسط الولادة]. أبكاراً: [أي: عذاري وإن وطئن كثيراً، فكلما أنثاها الرجل وجدها بكرأ].

## بابُ ما جاء في صفة كلام رسول الله ﷺ في الشعر

حدثنا عليٌّ بن حُمَر، حدثنا شريك، عن المقدام بن شُريح، عن أبيه،

### باب۔ حضور اقدس سنتی ﷺ کے ارشادات در بابِ اشعار

فائدہ: یعنی حضور اقدس سنتی ﷺ کا جن اشعار کو پڑھنا یا سننا راویات میں آیا ہے ان کا ذکر۔ شعر اُس کلام کو کہتے ہیں جو قصداً مقتّیٰ و موزوں بنایا گیا ہو، یعنی ارادہ سے شعر کی طرز پر بنایا گیا ہو۔ حضور اقدس سنتی ﷺ کا شاعر نہ ہونا قطعی ہے، کلام اللہ شریف میں صاف طور سے مذکور ہے، بلکہ کفار کے ان مقولوں کو جو وہ حضور اقدس سنتی ﷺ کے متعلق جادوگر یا شاعر یا مجنون ہونا بیان کرتے تھے، نہیت تجуб سے ذکر کیا گیا اور آپ کی شاعری کے متعلق صاف ارشاد فرمادیا: ﴿وَمَا عَلِمْنَاهُ الشِّعْرُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ [سید: ۶۹] ہم نے ان کو یعنی محمد کو شاعری کا علم نہیں دیا اور یہ علم شاعری ان کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے۔ پھر جو حضور کے کلام میں کہیں کہیں کلام موزوں پایا جاتا ہے وہ بلا قصد پر محظوظ ہے اور کلام میں بلا قصد موزوںیت اگر آجائے تو وہ شعر نہیں کہلاتا۔ بندہ ناجیز کے نزدیک درحقیقت یہ بھی ایک مجھہ ہے کہ حضور اقدس سنتی ﷺ کا شاعر نہ ہونا عجز کی وجہ سے نہیں ہے، اس لئے کہ جس شخص کے کلام میں بلا ارادہ موزوںیت آ جاتی ہو وہ اگر قصدًا موزوں بنائے تو کس قدر بے تکلف اور بہترین بنا سکتا ہے، لیکن حق تعالیٰ نے آپ کی شان کو اس سے بہت ارفع بنایا تھا اس لئے کبھی اس طرف توجہ نہیں فرمائی۔

اشعار کی تعریف اور مذمت کے بارے میں روایات مختلف آئی ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شعر اچھی چیز ہے اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ممنوع اور بُرا ہے، لیکن قولِ فعل بھی ایک حدیث میں خود ہی وارد ہو گیا ہے کہ نفسِ شعر میں

الشعر: قيل: أصله الشعر بفتحتين، وسمي الشاعر شاعرًا، لفظنته ودقة معرفته، فالشعر في الأصل علم للعلم النفيق، وصار في المتعارف اسمًا للموزون المقتّى من الكلام، والشاعر المختص بصناعته كما قاله الراغب، وقيل: الشعر: هو كلام موزون مقفىًّا قصدًا، فخرج بهذا القيد ما صدر منه ﷺ من الكلام الموزون، أما ما وقع في الكتاب المكتون فلا شك أنه مقورون بالإرادة والمشية التي هي معنى القصد؛ لأنَّه لا يقع في الكون شيء دون المشية. ولعل الجواب: أنه ليس مقصوداً بالذات وأنَّه وقع تبعاً كما حرق في بحث الخير والشر قاله القاري. أبيه: [أي: شريح الكوفي من أصحاب عليٍّ رضي الله عنه، أدرك زمن النبي ﷺ، وقتل مع أبي بكرة بسجستان].

عن عائشةَ زَوْجِهِ قالت: قيل لها: هل كان رسول الله ﷺ يتمثّل بشيءٍ من الشّعر؟ قالت: كان يتمثّل بشعر ابن رواحة، ويتمثّل ويقول: ويأييك بالأخبار من لم تزود. حدثنا محمد بن بشّار، الأنصاري أسمه عبد الله

کچھ بھلائی یا براہی نہیں ہے، مضمون صحیح اور مفید ہے تو شعر ابھی چیز ہے اور مضمون جھوٹ یا غیر مفید ہے تو جو حکم اس مضمون کا ہے وہی حکم شعر کا بھی ہے، یعنی جس درجہ میں وہ مضمون ناجائز ہے یا حرام یا مکروہ ہے یا خلاف اولی ہے اسی درجہ میں شعر بھی ہے، لیکن بہتر ہونے کی صورت میں بھی اس میں انہاک اور کثرت سے مشغولی ممنوع ہے۔  
اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) حضرت عائشہ زَوْجِهِ سَلَّمَ کیا حضورُ الْقَدِيسِ عَلَيْهِ السَّلَامُ کبھی شعر بھی پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! مثال کے طور پر کبھی عبد اللہ بن رواحة کا کوئی شعر بھی پڑھ لیتے تھے (اور کبھی کبھی کسی اور شاعر کا بھی) چنانچہ کبھی (طرفہ کا) یہ مصرع بھی پڑھ دیا کرتے تھے: ويأييك بالأخبار من لم تزود. یعنی تیرے پاس خبریں کبھی وہ شخص بھی لے آتا ہے جس کو تو نے کسی قسم کا معاوضہ نہیں دیا۔ یعنی واقعات کی تحقیق کے لئے کسی جگہ کے حالات معلوم کرنے کے لئے تنخواہ دینا پڑتی ہے، سفرِ خرچ دے کر آدمی کو حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا پڑتا ہے، مگر کبھی گھر بیٹھے بٹھائے کوئی آکر خود ہی سارے حالات سن جاتا ہے، کسی قسم کا خرچ بھی اس کے لئے کرنا نہیں پڑتا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی

قالت: أي عائشة، وفي عدة النسخ: قال، فالضمير لشريعة. يتمثل: أي يستشهد، يقال: تمثل أي أنشد شعراً، وتمثل شيء: ضربه مثلاً. ويتمثل: يشكل عليه: أن الظاهر المتباذر من الحديث أن هذا البيت من کلام ابن رواحة، ويزيد الإشكال ما في نسخة أخرى بلفظ: "ويتمثل بقوله" وقد اتفقوا على أن هذا البيت من کلام طرفة. والجواب أن قوله: "ويتمثل" کلام مستأنف، والضمير المخور في قوله: "بقوله" راجع إلى القائل أو الشاعر، فهو معاد إلى غير المذكور لشهرة قائله بينهم، فيكون معنى الحديث: قالت: كان أحياناً يتمثل بشعر ابن رواحة وأحياناً يتمثل بقول الشاعر هذا. ويأييك: وهو من قصيدة طرفة بن عبد، المعلقة على الكعبة من جملة المعلقات السبع، وصدر البيت: ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلاً. قال القاري: الظاهر أنه عليه الصلة والسلام مثل بالمصراع الأخير، أراد بإيكان الأخبار من غير التزويد نفسه الشريفة كما يشير إليه قوله عز اسمه: ﴿فَلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرِ﴾ [الفرقان: ۵۷].

(۱) حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ، حدثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.

مثال ارشاد فرمائی کہ بلا کسی اجرت اور معاوضہ کے گھر بیٹھے جنت، دوزخ، آخرت، قیامت، پچھلے انبیاء کے حالات اور آئندہ آنے والے واقعات سنتا ہوں پھر بھی یہ کافر قدر نہیں کرتے۔ اس حدیث میں دو شاعروں کا ذکر ہے: حضرت عبد اللہ بن رواحہ تھے مشہور صحابی ہیں، حضور کی بھرت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے اور حضور کے سامنے ہی غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تھے۔ طرفہ عرب کا مشہور شاعر ہے، اوب کی مشہور کتاب ”سبع معلقة“ میں دوسرا معلقة اسی کا ہے، اس نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔

(۲) ابو ہریرہ رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سچا کلمہ جو کسی شاعر نے کہا وہ لبید بن ربیعہ کا یہ کلمہ ہے: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، آگہ ہو جاؤا اللہ جل جلاله کے سو دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور امیہ بن أبي الصلت قریب تھا کہ اسلام لے آئے۔ فائدہ: لبید ایک مشہور شاعر تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد سے شعر کہنا چھوڑ دیا تھا، یہ کہتے تھے کہ مجھے حق تعالیٰ نے اشعار کا نعم البدل عطا فرمادیا یہ کرم صحابہ میں ہیں، ایک سو چالیس یا اس سے کچھ زیادہ عمر ہوئی۔ اس کا دوسرا مصرعہ یہ ہے: وكل نعيم لا محالة زائل۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت کسی نہ کسی وقت میں زائل ہو نیوں والی ہے۔

لبید: بن أبي ربیعة العامري، وفَدَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَسْنَ إِسْلَامِهِ، نَزَلَ الْكُوفَةَ، وَمَاتَ سَنَةً إِحْدَى وَأَرْبَعينَ، وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ مِائَةٌ وَأَرْبَعونَ سَنَةً، وَقَيْلٌ: مِائَةٌ وَسَبْعٌ وَحُمْسَوْنَ سَنَةً، وَقَيْلٌ غَيْرُ ذَلِكَ، مُشْهُورٌ مِنْ فَصَحَّاءِ الْعَرَبِ وَشَعَرَائِهِمْ، وَلَا أَسْلَمَ لِمَ يَقُلْ شِعْرًا، وَقَالَ: يَكْفِيَنِي الْقُرْآنُ. بَاطِلٌ: الْمَرَادُ بِهِ الْفَانِي، وَإِنَّمَا كَانَ كَلَامَهُ أَصَدِقُ؛ لَأَنَّهُ وَاقِفٌ أَصَدِقُ الْكَلَامِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ۸۸] وَتَمَامُ الْبَيْتِ: وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةٌ زَائِلٌ. وَالْمَرَادُ بِالنَّعِيمِ نَعِيمُ الدُّنْيَا؛ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: نَعِيمُكَ فِي الدُّنْيَا غَرُورٌ وَحَسْرَةٌ. وَأَنْتَ قَرِيبًا عَنْ مَقْبِلِكَ رَاحِلٌ.

أبی الصلت: أمیة بالتصغیر، ابن أبی الصلت بفتح فسکون أبی: ابن ربیعة النقفي، كان ینطق بالحقائق، وقد كان متبعداً في الجاهلية ويتدين، ويؤمن بالبعث لكنه أدركه الإسلام ولم یسلم قاله القاري، رثا من قتل بيدر من الكفار، ثم مات أيام حصار الطائف كافراً سنة ثمان، وقيل: تسع.

حدثنا محمد بن المثنى، أباؤنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، عن جُندب بن سُفيان البجلي قال: أصاب حجر إصبع رسول الله ﷺ

اميمه بن أبي الصلت بھی ایک مشہور شاعر تھا جو اپنے اشعار میں حقائق باندھتا تھا، قیامت کا قائل تھا لیکن توفیق ایزدی شامل حال نہ ہوئی اس لئے مسلمان نہیں ہوا۔ آٹھویں حدیث کے ذیل میں اس کی کسی قدر تفصیل بھی آرہی ہے۔

(۳) جندب بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پتھر حضور اقدس اللہ علیہ السلام کی انگلی میں لگ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ خون آلوہ ہو گئی تھی تو حضور نے یہ شعر پڑھا جس کا حاصل ترجمہ یہ ہے: تو ایک انگلی ہے جس کو اس کے سوا کوئی مضرت نہیں پہنچی کہ خون آلوہ ہو گئی اور یہ بھی رائیگاں نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف پہنچی جس کا ثواب ہو گا۔

فائدہ: اس حدیث میں بھی وہ اشکال کیا جاتا ہے کہ حضور اقدس اللہ علیہ السلام نے شعر کیسے فرمایا؟ اس کا مختصر جواب گزر بھی چکا ہے، اس خاص جگہ پر یہ بھی ایک جواب دیا جاتا ہے کہ یہ رجز کھلاتا ہے، شعر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ایک آدھ شعر کہنے سے آدمی شاعر نہیں ہوتا، لہذا یہ آیت: ﴿هُوَ مَا عَلِمَنَاهُ الْشِّعْرُ﴾ [بس: ۶۹] کے خلاف نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ دمیت اور لقیت کی تاء ساکنہ ہے مکسورہ نہیں، اس صورت میں موزونیت سے بھی نکل گیا۔ بندہ ناقیز کے نزدیک اگر اس کی توجیہ یہ کی جائے کہ یہ شعر حضور اقدس اللہ علیہ السلام کا نہیں بلکہ منقول تھا کسی دوسرے شاعر کے کلام سے تو اس صورت میں کسی اور توجیہ کی ضرورت نہیں رہے گی، چنانچہ واقدی نے اس شعر کو ولید بن ولید کا بتایا ہے اور ابن ابی الدینیا نے اپنی کتاب ”محاسبۃ النفس“ میں ابن رواحہ کی طرف نسبت کیا ہے۔ دو شاعروں سے کسی ایک شعر کا اور وہ ممنوع نہیں اس لئے ممکن ہے کہ دونوں نے یہ شعر کہما ہو۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ قصہ کب کا ہے؟ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ جنگ احمد کا ہے اور بعض لوگ اس کو هجرۃ سے قبل بتاتے ہیں۔

جندب بن سفیان: ہو جد جندب بضم حیم و دال و یفتح، ابن عبد اللہ، فهو منسوب إلى جده. والبجلي بفتحتين: نسبة إلى بجالة. أصاب: اختلفوا في أنه كان في بعض غزواته كما هو المشهور أو كان قبل الهجرة، وقيل: كان عليه يمشي إلى الصلاة، وقيل: كان في الغار؛ لما في رواية مسلم: كان في غار فدمیت إصبعه، قال الباقي: لعله غازياً، فقصص؛ لما في الرواية الأخرى: ”في بعض المشاهد“. وتعقب بأن القول بالتصحیف لا يصلح لفظاً ولا معنی، ومثل هذا الطعن لا یجوز في حديث مسلم. قال القاري: فالتحقيق أنه كان في غار من جبل أحد، ولا مانع من الحمل على تعدد الواقعه.

**فَلَمِيتُ** فَقَالَ: هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعْ دَمِيتِ - وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لِقِيتِ. حَدَثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَنْدِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجْلَيِّ نَحْوَهُ. حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَيْبَارٍ، حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَثَنَا سَفِيَانُ الثُّوْرَيِّ، حَدَثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ<sup>(٤)</sup> قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَفْرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَبا عُمَارَةَ؟ قَالَ: لَا،

بِيَوْمِ حَنْينٍ

(۴) برلن بن عازب رضي الله عنه سے کسی نے پوچھا: کیا تم سب لوگ حضور اقدس سنتیم کو چھوڑ کر جنگ حنین میں بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، حضور اقدس سنتیم نے پشت نہیں پھیری بلکہ فوج میں سے بعض جلد بازوں نے (جن میں اکثر قبلہ بنی سلیم اور مکہ کے نو مسلم نوجوان تھے) قبیلہ ہوازن کے سامنے کے تیروں کی وجہ سے منہ پھیر لیا تھا۔ حضور اقدس سنتیم (جن کے ساتھ اکابر صحابہ کا ہونا ظاہر ہے، اپنی) خچرہ پر سوار تھے اور ابوسفیان بن الحارث اُس کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے۔ حضور اُس وقت یہ فرم� رہے تھے: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذَبٌ. أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ۔ مِنْ بَلَّاشَكَ وَشَبَهَ نَبِيٍّ هُوَ اُوْلَادُ (پوتا) ہوں۔ فائدہ: حضور اقدس سنتیم نے اپنے آپ کو بجائے باپ کے اپنے دادا عبد المطلب کی طرف اس لئے نسبت کیا کہ انہوں نے حضور کے غلبہ کی اطلاع کفار قریش کو دی تھی اور یہ وقت گویا اس کی تصدیق کا تھا۔ بعض نے یہ وجہ بتائی ہے کہ چونکہ آپ کے والد کا انتقال زمانہ حمل ہی میں ہو گیا تھا اس لئے آپ ابن عبد المطلب ہی کے ساتھ مشہور تھے۔ نیز یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ عبد المطلب مشہور سردار تھے اس لئے شہرت کی وجہ سے اُس طرف نسبت فرمائی۔ حافظ ابن حجر الشیعی نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ کفار میں یہ بات مشہور تھی کہ عبد المطلب کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہو گا جس سے لوگوں کو ہدایت ہوگی، وہ خاتم النبیین ہو گا اس لئے حضور اقدس سنتیم نے اس نسبت کے ساتھ ان لوگوں کو یہ مشہور چیز یاد دلائی۔

**فَدَمِيتُ**: بفتح الدال و كسر الميم يقال: دميـت إصـبـعـهـ وـأـدـمـيـتـهاـ وـدـمـيـتـهاـ. مـالـقـيـتـ: "ما" مـوـصـوـلـةـ مـبـنـداـ وـ"فـيـ سـبـيلـ اللـهـ" خـبرـهـ، يـعـنيـ: فـلاـ تـبـالـيـ بـلـ اـفـرـحـيـ، وـقـضـيـةـ كـسـرـ لـلـيـ قـدـحـ الـجـنـونـ شـهـيرـةـ، وـأـمـاثـلـاـ فـيـ سـيـرـ الـحـبـ وـالـحـبـوبـ كـثـيرـةـ.

سَفِيَانُ: عَنْ سَفِيَانَ، أَعْدَادُ الْحَدِيثِ بِسَنَدِ آخَرَ؛ لِيَدُلُّ عَلَى أَنْ جَنْدِبَ بْنَ سَفِيَانَ الْمَذْكُورَ فِي السَّنَدِ السَّابِقِ هُوَ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا.

رَجُلٌ: جَاءَ فِي رِوَايَةِ أَنَّهُ مِنْ قَيْسٍ لَكِنْ لَا يَعْرِفُ اسْمَهُ. أَفْرَرْتُمْ: [أَيْ: أَهْرَبْتُمْ مِنَ الْعَدُوِّ يَوْمَ حَنْينٍ]. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ: مَتَعْلَقٌ بِمَحْنَوْفٍ أَيْ: مَعْرُضِينَ عَنْهُ وَتَارِكِينَ لَهُ، أَوْ مَنْكَشِفِينَ عَنْهُ بِوَضْوِحٍ أَنْ فَرَارَهُمْ كَانَ عَنِ الْكُفَّارِ لَا عَنِّهِ [أَيْ: عَمَارَةً: بِضمِ الْعَيْنِ] الْمَهْمَلَةَ وَتَخْفِيفِ الْمَيْمَنَةِ الْبَرَاءَ. لَا: [أَيْ: لَمْ تَفْرُ كلَّنَا بِلْ بَعْضُنَا، لَأَنْ أَكَابِرَ الصَّحَابَ لَمْ يَفْرُوا].

والله ما ولّى رسول الله ﷺ، ولكن سَرَعَانَ النَّاسُ، تلقَّهُمْ هوازِنَ الْبَنَلِ، وَرَسُولُ الله ﷺ عَلَى بَعْلَتِهِ، وَأَبُو سَفِيَّانَ بْنَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ الْمَطْلَبِ أَخَذَ بِلِجَامِهَا، وَرَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذَبٌ – أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ.

غزوہ حنین سنہ ۸ ہجری میں ہوا ہے۔ قائل عرب ایک زمانہ سے اپنے اسلام لانے میں فتح مکہ کے منتظر تھے کہ اگر حضور ﷺ نے اس پر تقدیم کر لیا تب تو سمجھو کر آپ غالب ہیں اور بے چوں و چرا گاطاعت کرو اور اگر مکہ مکرمہ فتح نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ لوگ غالب نہیں ہو سکتے۔ بالآخر جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو قبیلہ هوازن وغیرہ نے بھی جو مواضع حنین وغیرہ کے رہنے والے تھے، اپنی قسمت آزمائی کا فیصلہ چاہا اور چند قبائل نے مل کر سیکھائی لڑائی کے خیال سے حنین پر جو مکہ مکرمہ سے طائف و عرفات کی جانب میں تقریباً دس میل کے فاصلہ پر واقع ہے، وہاں مجتمع ہوئے۔ ہر چند کہ بعض تجربہ کار بوڑھوں نے ان کو اس ارادہ سے روکا مگر بعض جوشی نے نوجوانوں نے نہ مانا اور یہ کہہ کر کہ مسلمانوں کو اب تک تجربہ کار لڑنے والوں سے سابقہ نہیں پڑا تھا اس لئے غالب ہوتے جا رہے ہیں مباداہم پر بھی حملہ کریں اس لئے خود ہی ابتداء کرنی چاہئے، میں ہزار سے زیادہ

رسول الله: سئل عن فرارهم فأجاب بعد عدم فراره عليه، إما لأنَّه يلزم من ثبات الرسول عدم فرار أكابر الصحابة، وإما لأنَّ فرارهم يوهم تولية الرسول عليه بعد ثباته منفرداً، ولم ينقل أنه عليه اهتزَم في موطن قط، ومن ثم أجمعوا على أنه لا يجوز الاهتزام عليه قط، فمن زعم أنه اهتزَم وقدَّم التقيص كفر، وإن لم يقصد أدب تأديباً عظيماً عند الشافعي، وقتل عند مالك قاله المناوي. قلت: والأوجه عندي في الجواب أن مدار فرار الحميس على القلب، والنبي ﷺ كان في القلب، وعلى هذا يطابق الجواب السؤال، ويصح الاستدراك أيضاً. والمعنى: أن القلب يعني النبي ﷺ ومن معه لم يتولوا بل تولى سرعان الناس الذين كانوا في المقدمة. سرعان: بفتح السين والراء ويسكن: أوائلهم، وأطال الكلام في ضبطه المناوي.

هوازن: [قبيلة مشهورة بالرمي لا تحظى سهامهم]. بغلته: [أي: البيضاء التي أهدتها له المقوس، وهي دليل مات في زمن معاوية عليه]. وأبو سفيان: [ابن عم رسول الله وأخوه من الرضاعة، كان يألفه قبلبعثة، كان شاعراً فارساً، فلما بعث عليه آذاه، ثم أسلم وحسن إسلامه]. يقول: قال الحافظ ابن حجر: أحجب عن مقالته هذه بأحوجة: منها أنه نظم غيره وأنه كان فيه: أنت النبي لا كذب - أنت ابن عبد المطلب. فذكره بلفظ: أنا في الموضعين، ومنها أنه رجز ليس بشعر، وهذا مردود، ومنها أنه لا يسمى شعرًا حتى يتم قطعة، وهذه كلمات يسيرة ولا تسمى شعرًا، ومنها أنه خرج موزوناً ولم يقصد به الشعر، وهذا أعدل الأحوجة.

مجمع لڑائی کے لئے جمع کر لیا۔ حضور ﷺ کو جب اس کا علم ہوا تو دس بارہ ہزار کا مجمع جس میں مہاجرین و انصار اور فتح مکہ کے نو مسلم شریک تھے، نیز ایک جماعت کفار مکہ کی بھی شریک تھی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان میں سے بعض لوگ غنیمت کے لائق سے شریک ہوئے تھے اور بعض لوگ محض لڑائی کا نظارہ دیکھنے گئے تھے۔ حضور اس لشکر کے ساتھ ۶ شوال سنہ ۸ ہجری کو حنین کی جانب روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کو حنین تک پہنچنے کے لئے ایک نہایت تنگ گھٹائی سے گزرنا پڑتا تھا۔ دشمنوں نے اپنے لشکر کو اُن پہاڑوں میں چھپا کر کھاتھا، جیسے ہی مسلمان وہاں کو گزرے انہوں نے دفعۃٰ تیروں کا نشانہ بنایا۔ مسلمان اس بے خبری کے حملہ سے سخت گھبرائے اور پریشان ہو کر ادھر اُدھر متفرق ہو گئے۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ مسلمانوں کے ابتدائی حملہ میں کفار کو ہزیست ہوئی اور وہ چھپے بھاگے۔ یہ لوگ غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے کہ دفعۃٰ ان لوگوں نے جو پہاڑیوں کے درمیان چھپے ہوئے تھے چاروں طرف سے حملہ کر دیا، یہ مجمع نہایت پریشانی کی حالت میں ادھر اُدھر منتشر ہو گیا۔ حضور اقدس سنتی ﷺ کے ساتھ بجز چند اکابر صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، وغیرہ وغیرہ چند حضرات کے کوئی بھی نہیں رہا تھا، اس پریشانی کی حالت میں بعض ضعیف الاسلام لوگوں کا عقیدہ بھی متزلزل ہوا اور بعض نے آوازیں اور فقرے کسانا شروع کئے۔

بعض لوگ بھاگ کر کر مکہ واپس آگئے اور مسلمانوں کے مغلوب ہو جانے کا مشردہ ان لوگوں کو سُنایا جو مسلمان نہ ہوئے تھے یا ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور کا ہاشمی خون اس وقت جوش پر تھا، آپ نے اس خوف ناک منظر میں اپنی سواری سے اتر کر پا پیادہ اُنَّا اللَّهُ لَا كَذِيبَ کہتے ہوئے دشمنوں کی فوج کا رُخ کیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مہاجرین انصار اور اصحاب شبرہ کو علیحدہ علیحدہ ایک آواز دی کہ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ۔ آواز کا سُننا تھا کہ پریشان حال متفکر جماعت لبیک کہتی ہوئی ایسی جوشِ محبت میں لوٹی جیسے اوٹھنی اپنے بچت کی طرف لوٹتی ہے۔ مسلمانوں کا لوٹنا تھا کہ طرفین میں ایک گھسان کی لڑائی ہوئی۔ حضور اقدس سنتی ﷺ نے زمین سے کچھ مٹی کلکریاں وغیرہ اٹھا کر شاہت الْوُجُوه کہتے ہوئے مقابل پر پھینکی۔ تھوڑی دیر لڑائی کا یہ منظر رہا اُس کے بعد لڑائی کا رُخ ایسا پھرا کہ جس میدان میں مسلمان پریشان نظر آرہے تھے اب کافر بد حواس بھاگتے ہوئے نظر آنے لگے اور اپنا مال و متاع، اہل و عیال مسلمانوں کے لئے مال غنیمت بنا کر ایسے بھاگے کہ ادھر کا رُخ بھی نہ کیا۔ قصہ حسب ضرورت مختصر طور سے لکھا گیا جو صاحبِ مفصل دیکھنا چاہیں کسی اردو اسلامی تاریخ میں دیکھے میں۔

**تنبیہ :** یہاں پر ایک امر پر تنبیہ اشد ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی واقعہ کے متعلق صرف ایک دو روایت دیکھنے سے کسی قسم کا اشکال پیدا کر لینا یہ علم کی کوتاہی ہے، کسی ایک دو حدیث میں اکثر واقعہ کی پوری تفصیل نہ آسکتی ہے نہ مقصود ہوتی ہے، ہر واقعہ کے متعلق اگر کوئی رائے قائم کرنا ہو تو جب تک اُس واقعہ کے پورے حالات سامنے نہ ہوں رائے زندگی بے محل ہے۔ اسی جنگ حنین کے متعلق کسی مختصر تاریخ کو دیکھ کر یا ایک دو حدیثوں کا ترجمہ دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ حضرات صحابة کرام رض کی ساری جماعت یا یہ پورا لشکر دس ہزار کا بھاگ گیا تھا اور بجز دو چار نفر کے حضور کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہا تھا، واقعہ کے خلاف ہونے کے علاوہ عقل سے بھی دور ہے۔ کفار کی جماعت جو بیس ہزار سے زیادہ تھی اُس کو کیا مشکل تھا کہ دو چار نفر کا حاصلہ کر لیتے جب کہ سب بھاگ پکے تھے، چہ جائیکہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور تھا تھے، کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ زیادہ تجھب ان لوگوں پر ہے جو لڑائیوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، لشکروں کی ترتیب اور حملہ کے حالات پر بصیرت رکھتے ہیں وہ کسی ایسی روایت سے متجب یا متأثر ہوں۔

لشکر کی عام ترتیب کے موافق پانچوں حصوں پر حضور اقدس مدحیہ نے اس لشکر کی بھی ترتیب فرمائی تھی، مقدمہ الجیش (لشکر کا اگلا حصہ) میمنہ میسرہ (دایاں بایاں حصہ) قلب یعنی درمیانی حصہ جس میں امیر لشکر کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے اور پانچواں حصہ لشکر کا پچھلا حصہ، اس کے علاوہ ہر جماعت کا مستقل حصہ تھا جس کا ایک امیر مستقل جنڈہ لئے ہوئے تھا، اُس کی جماعت اُس کے ساتھ تھی۔ مہاجرین کا جنڈہ حضرت عمر رض کے ہاتھ میں تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سعد بن ابی وقار، اسید بن نضر، خباب بن منذر رض وغیرہ وغیرہ حضرات ایک ایک جماعت کے امیر بنے ہوئے اپنی اپنی مقررہ جگہ پر مامور تھے۔

مقدمہ الجیش میں قبیلہ بنی سلیم کی جماعت تھی جس کا جنڈہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھا، یہ جماعت لشکر کا اگلا حصہ تھا، اسی جماعت کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ جب یہ لگھائیوں کے درمیان سے نکلے تو دشمنوں نے اول پسپائی اختیار کی جس کی وجہ سے ان کو آگے بڑھنے اور اپنے کو غالب سمجھ کر مالِ غنیمت کی طرف متوجہ ہونے کا موقعہ ملا اور چھپے ہوئے دشمنوں نے چاروں طرف تیر بر سانا شروع کر دیے۔ ایسی صورت میں اس جماعت کی پسپائی بھی فطری چیز تھی اور ان کی پسپائی سے تمام لشکر میں تشویش انتشار اور ہر دوڑنا ضروری تھا، لیکن اس کا مطلب یہ لینا کہ سارا ہی لشکر بھاگ گیا تھا، پورے حالات پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

چنانچہ عبد الرحمن ایک شخص کا بیان نقل کرتے ہیں جو اس وقت کافر تھا کہ ہم نے جب مسلمانوں پر حسین میں حملہ کیا اور ان کو پیچھے ہٹانا شروع کیا تو وہ ہمارے مقابلہ کی تاب نہ لاسکے اور پیچھے ہٹتے رہے، ہم لوگ ان کا تعاقب کرتے رہے اور آگے بڑھتے بڑھتے ہم ایک ایسے شخص تک پہنچے جو سفید چتر پر سوار تھے اور نہایت حسین چہرہ والے، لوگ ان کے گرد جمع تھے۔ انہوں نے ہم کو دیکھ کر شَاهِتِ الْوُجُوهِ ارجُمُوا کہا، یہ کہنا تھا کہ ہم مغلوب ہونا شروع ہو گئے اور وہ جماعت ہم پر جڑھ گئی۔

اسی ہنا پر حضرت براء نے شماں کی روایت میں جو اوپر گزری یہ کہا کہ حضور نے منه نہیں پھیرا بلکہ کچھ تیز رو لوگ جو تیروں کو برداشت نہ کر سکے بھاگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ قصہ بھی پیش آیا کہ حضور اقدس سنتی ﷺ نے جس راستے سے بڑھ رہے تھے اُس کو ترک فرمایا کہ جانب کو بڑھنا شروع کیا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اس انتشار کی حالت میں لشکر کے اکثر حصہ کو کیسے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ حضور نے اس وقت کس جانب کو بڑھنے کا ارادہ کیا، ایسی حالت میں حضور کے قریب ایک وقت میں سو آدمیوں کا رہ جانا جیسا کہ ایک روایت میں وارد ہے اور ایک موقعہ پر اتنی کارہ جانا جیسا کہ دوسری روایت میں وارد ہے، حتیٰ کہ جب حضور نے چتر کو تیزی سے بڑھایا تو سامنے سے لوگ ہٹتے رہے اور صرف بارہ آدمی رہ گئے، اور اس کے بعد صرف وہ چار شخص رہ گئے جو چتر کی باگ اور رکاب تھا میں ہوئے تھے یا رکاب وغیرہ پکڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جب چتر بھی حضور کی غشا کے موافق نہ بڑھ سکا تو حضور اُس پر سے اتر کر تن تھا کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر ان کی طرف بڑھ گئے، یہی وقت ہے جس کو بخاری شریف کی روایت میں اس سے تعبیر کیا کہ حضور تھا تھے کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک اجمالی مضمون اپنے ذہن میں یہ ہونے سے کہ اس جگہ میں لوگ بھاگ گئے تھے یہ تجویز کر لینا کہ سارے ہی صحابہ حضور کے علاوہ بھاگ گئے تھے، پورے واقعات پر نظر نہ ہونے کا ثمرہ ہے۔

چونکہ پورے لشکر میں انتشار تھا اور یقیناً بہت سے لوگ بھاگ بھی رہے تھے بلکہ بعض لوگ اس ہزیت سے خوش بھی ہو رہے تھے، جیسا کہ مفضل واقعات میں مذکور ہے، ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی، جیسا کہ انتشار کے وقت کا لازمی نتیجہ ہے، اس لئے حضور نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جو نہایت بلند آواز تھے، لوگوں کو آوازیں دلوائیں اور مہاجرین، انصار اصحاب شجرہ وغیرہ جماعتوں کو علیحدہ علیحدہ آواز دلوائی جس کے سنبھل پر وہ سب پھر حضور کے گرد جمع ہو گئے، اور دوسرے حملہ میں میدان مسلمانوں کے ہاتھ تھا۔

حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا جعفر بن سليمان، أنساً ثابتاً، عن<sup>(٥)</sup>

أنس رضي الله عنه: أن النبي ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو  
عبد الله

بہر حال اس مضمون میں کہ حضور اقدس اللہ علیہ السلام کے ساتھ اُس وقت کتنے آدمی تھے، مختلف روایتیں ہیں اور ہر روایت اپنے اپنے موقع پر چپاں ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی روایت کہ حضور تن تھا تھے کوئی ساتھ نہ تھا، بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جب حضور نے نجیر سے اتر کر آگے بڑھ کر ان پر کٹکریاں یا مٹی چھینکی تو سب ہی اُس وقت پیچھے رہ گئے تھے اور حضور تھا بڑھے چلے جا رہے تھے، لیکن کسی روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ جتنے کسی وقت حضور کے قریب تھے ان کے علاوہ باقی سب ہی بھاگ گئے تھے۔

(۵) انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس اللہ علیہ السلام عمرة القضاۓ کے لئے مکرمہ تشریف لے گئے تو عبد الله بن رواحة اپنی گردان میں تلوار ڈالے ہوئے حضور اقدس اللہ علیہ السلام کی اوٹنی کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے خلؤايني الکفار الخ كافر زادوا! ہٹو، آپ کا راستہ چھوڑو، آج حضور اقدس کے مکرمہ آنے سے روک دینے پر جیسا کہ تم گزشتہ سال کرچکے ہو، ہم تم لوگوں کی ایسی خبر لیں گے کہ کھوپڑیوں کو تن سے جدا کر دیں گے اور دوست کو دوست سے بھلا دیں گے۔ حضرت عمر رضي الله عنه نے ابن رواحة کو روکا کہ اللہ کے حرم میں اور حضور اقدس اللہ علیہ السلام کے سامنے شعر پڑھتے جا رہے ہو! حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر! روکو مت، یہ اشعار ان پر اثر کرنے میں تیر بر سانے سے زیادہ سخت ہیں۔

القضاء: أي قضاء عمرة الحديبية، وهو صريح لما قاله علماؤنا من أن المحصر يجب عليه القضاء، سواء كان حجه فرضاً أو نفلاً، أو كان إحراماً لعمرة قاله القاري. قلت: يعني أن تسميتها بعمرة القضاء مؤيد لنا، وما أوله الشافعية من أن المراد به القضية بمعنى المقاضاة لايساعدنا للفظ.

وابن رواحة: أي: عبد الله بن رواحة، وكان من أحد شعرائه عليه، والحديث أخرجه المصنف في جامعه، ثم قال: وروي في غير هذا الحديث أن النبي ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء، و Kubayn bin Malik بين يديه، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث؛ لأن ابن رواحة قتل يوم موتة وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. وتعقبه الحافظ في الفتح كما ذكر في هامش الكوكب الدرري؛ إذ قال: ما حكى قول الترمذى هذا ذهول شديد وغلط مردود، وما أدرى كيف وقع الترمذى في ذلك مع وفور معرفته إلى آخر ما ذكره. وحاصله: أن عمرة القضاء قبل سرية موتة التي استشهد فيها ابن رواحة.

يقول: خَلُوا بَنِ الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ - الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ - ضَرْبًا يُزْلِيلُ الْهَامَ عن  
الخلية: دست بازداشن [الرؤوس]  
مَقِيلَهُ - وَيُدْهِلُ الْخَلِيلَ عنْ خَلِيلِهِ. فقال له عمر: يا ابن رواحة! بین يدی رسول الله ﷺ  
وفي حرم الله تعالى تقول الشعر! فقال النبي ﷺ خل عنہ يا عمر! فلهی اسرع فیهم من  
نَضَحَ النَّبْلِ. حدثنا علي بن حُجر، أَبُنَا شَرِيكَ، عَنْ سِماكَ بْنَ حَرْبَ،  
لی رمی السهم

فائدہ: سنہ ۶ ہجری میں حضرور اقدس سنت یعنی نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تھا لیکن کفار مکہ نے حضرور کو موضع حدیبیہ میں روک دیا تھا۔ اس وقت جو شرائط فریقین میں ٹھہری تھیں ان میں یہ بھی تھا کہ سال آئندہ آکر اپنا عمرہ پورا کر لیں۔ اس معاملہ کی بنا پر ذی قعده سنہ ۷ ہجری میں حضرور اقدس سنت یعنی نے عمرہ کا ارادہ فرمایا۔ یہ عمرہ حنفیہ کے نزدیک پہلے عمرہ کی قضاء ہے اور اس عمرہ کا نام عمرۃ القضاء ہونا بھی حنفیہ ہی کی تائید کرتا ہے۔ بعض ائمہ شافعیہ وغیرہ کا اس میں خلاف ہے، اس کی بحث شروح حدیث میں مفصل مذکور ہے۔ اسی سفر میں حضرور اقدس سنت یعنی نے حضرت میمونہؓ سے نکاح کیا اور باعزت و شوکت عمرہ سے فراغت فرمایا کہ حسب قرار داد تین دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا اور پھر مدینہ منورہ کو واپسی ہو گئی۔ حضرت عمر بن الخطاب نے حضرور کے اوب اور حرم کے احترام کی رعایت سے این رواحہ کو منع فرمایا لیکن حضرور اقدس سنت یعنی نے مقامی اور وقتی مصلحت سے کہ اشعار بھی لسانی جہاد ہے، اس کو باقی رکھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت کعب ؓ نے حضرور اقدس سنت یعنی نے عرض کیا کہ حق تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں شعر کی مذمت نازل فرمائی، تو حضرور نے ارشاد فرمایا کہ مومن توارے سے بھی جہاد کرتا ہے

يقول: اختلفت الروايات في ألفاظ هذه الآيات وترتيب مصاريعها كما بسطه الحافظ في الفتح. خلوا: [خلوا له مكة؛ لأن المشركيين خرجوا من مكة يومئذ إلى رؤوس الجبال]. تنزيله: قال القراري: أي: بناء على كونه ﷺ رسولاً منزلاً عليه الوحي، أو بناء على تنزيلكم إياه وإعطاء العهد والأمان، وعلى كل فالضمير في كلا المصارعين إلى رسول الله وهو الظاهر، وأبعد ابن حجر حيث جعل الضمير إلى القرآن. قلت: وهذا هو المعروف عند شراح الحديث، وقال المناوي: قوله: "على تنزيله" أي: على تنزيل النبي ﷺ في مكة، ولا نرجع كما رجعنا في عام الحديبية، أو على تنزيل القرآن وإن لم يتقدم له ذكر. عن مقيله: [عن محله الذي هو الأعناق]. ويدهل: [أي: ويشغل ويبعد الحب عن حبيبه لشدة]. فقال له عمر: [على سبيل اللوم والتوبيخ]. سماك: بكسر السين وتحقيق الميم.

(۱) عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي ﷺ أكثر من مائة مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشّعر ويتذاكرُون أشياءً من أمر الجاهلية وهو ساكتٌ، وربما تبسم معهم.

اور زبان سے بھی، اور یہ زبانی جہاد بھی ایسا ہی ہے گویا کہ تم تیر بر سار ہے ہو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اشعار بھی جہاد کے حکم میں ہیں مگر شرائط اور قواعد کی رعایت جیسا کہ اس جہاد میں ضروری ہے اس میں بھی ہے۔

(۲) جابر بن سمرة رضي الله عنه کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں سو مجلسوں سے زیادہ بیٹھا ہوں جن میں صحابہ اشعار پڑھتے تھے اور جاہلیت کے زمانہ کے قصے قصائص نقل فرماتے تھے، حضور اقدس ﷺ (ان کو روکتے نہیں تھے) خاموشی سے سنتے تھے، بلکہ کبھی کبھی ان کے ساتھ ہنسنے میں شرکت فرماتے تھے۔

فائدہ: یعنی ان تذکروں میں کوئی بھی کی بات ہوتی تو حضور بھی قبسم فرماتے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ سکوت اور خاموشی ندارضی یا گرانی سے نہ تھی بلکہ توجہ باطنی کی وجہ سے ہوتی تھی، اس لئے کوئی بات ایسی ہوتی تو حضور بھی قبسم فرماتے۔ حضرت زید بن ثابت رضي الله عنه کاتب و محدث فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پڑوس میں رہتا تھا، جب وہی نازل ہوتی تو مجھے طلب فرمائیں کو لکھوادیا کرتے تھے۔ ہم لوگ جب دنیا کے تذکرے کرتے تو حضور بھی دنیا کا تذکرہ فرماتے تھے اور جب ہم آخرت کے متعلق تذکرہ کرتے تو حضور بھی آخرت کا تذکرہ فرماتے، جب ہم کھانے کا کوئی تذکرہ کرتے تو حضور اُسی نوع کا تذکرہ فرماتے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نوع کا تذکرہ صحابہ کرام کرتے تھے حضور اقدس ﷺ کمال شفقت و رأفت کی وجہ سے اُسی نوع کے تذکرے ان کی دلداری کے لئے فرماتے، یہ نہ تھا کہ حضور کی مجلس میں صرف دین ہی دین کا تذکرہ ہو اور کوئی تذکرہ حضور کی مجلس میں نہ آئے کہ ان مختلف انواع کے تذکروں سے حضور کے ساتھ محبت اور موافقت بڑھتی تھی، اور جب ایک ہی نوع کا ذکر ہر وقت رہے تو بسا اوقات تو حش کا سبب بن جاتا ہے، بالخصوص اجنبی کے لئے کہ اجانب عموماً دنیاوی اغراض لے کر آتے ہیں اور یہی تذکرے ان کے تعلقات اور موافقت کا سبب بنتے ہیں۔

يَتَناشدون: أي: يطلب بعضهم بعضاً أن ينشد الشعر الحمود، والإنشاد: هو أن يقرأ شعر الغير. وفي بعض النسخ: يَتَناشدون من باب المفاعة قاله القاري، وقال المناوي: التناشد والمناشدة: قراءة البعض على بعض شعراً.

الجاهلية: [زمن ما قبل الإسلام]. ساكت: أي على عادته الشريفة، كما تقدم في باب كلامه صلوات الله عليه من حديث ابن أبي هالة من أنه كان طوبل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، أو المعنى ساكت عنهم لا يمنعهم من إنشاد الشعر.

حدثنا عليّ بن حُجر، أباًنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (رضي الله عنه)، عن النبي ﷺ قال: أشعر كلامٌ تكلمت بها العرب: كلمة لبيد: لا كل شيء ما خلا الله باطل.  
 حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية، عن عبد الرحمن الطائي، عن عمرو بن الشريد عن أبيه <sup>(١)</sup> قال: كنت رذف رسول الله ﷺ فأنشدته مائة قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنسدته بيتأ قال لي النبي ﷺ: هيء حتى أنسدته مائة، يعني: بيتأ، فقال النبي ﷺ: إن كاد ليسلم.  
مختصر من الفيلة

(٧) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس اللہ علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ شاعر ان عرب کے کلام میں بہترین کلمہ لبید کا یہ مقولہ ہے: الا کُلْ شَيْءٍ مَا خَلَأَ اللَّهُ بَاطِلٌ۔ فائدہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اسی باب کے نمبر ۲ پر گزر چکی ہے۔  
 (٨) حضرت شرید کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچے بیٹھا ہوا تھا، اُس وقت میں نے حضور کو امیتہ کے سو شعر سنائے، ہر شعر پر حضور ارشاد فرماتے تھے کہ اور سنا۔ اخیر میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اُس کا اسلام لے آنا بہت ہی قریب تھا۔ فائدہ: اس کی وجہ پہلے گزر چکی ہے کہ اُس کے اشعار میں توحید، اعتراف، قیامت وغیرہ امور حق و نصائح زیادہ ہوتے تھے، یہی وجہ حضور اقدس اللہ علیہ السلام کے سنتے کی تھی اور یہی وجہ اس کے قریب عن الاسلام ہونے کی تھی۔

أشعر: أي: أحسنها وأدقها وأجودها. العرب: [العرب العارية والعرب العباء، وهم خلاف العجم، وهم أولاد إسماعيل عليه السلام].  
 عمرو: بالواو على الصواب، وفي نسخة بدون الواو ولا يصح؛ إذ ليس في الرواية أحد اسمه عمر بن الشريد وهو عمرو بن سويد الثقفي. قال عاصم: لم أجده ترجمته وتعقبه المناوي. ردد: [أي: راكباً خلف رسول الله ﷺ على الدابة].  
 فأنشدته: هكذا في المتن الموجودة عندي، وزاد في بعض الشرح بعد قوله: كنت ردد النبي ﷺ فقال: هل ملك من شعراً مية بن أبي الصلت شيء؟ فقلت: نعم، فقال: هيء، فأنشدته بيتأ فقال: هيء، حتى أنسدته مائة  
 بيتأ فأنشدته مائة قافية، الحديث. والظاهر أن هذه ليست بنسخة بل وقع التخلط في المتن والشرح واحتلطاً روایة بالأخرى.  
 قافية: المراد بها البيت، أطلق الجزء وأراد الكل مجازاً. هيء: بكسر الهاء وإسكان الياء وكسر الهاء الثانية، قالوا: والهاء الأولى  
 مبدلٌ من الهمزة، والأصل: "إيه" للاستزاده من الحديث المعهود، وتستعمل للاستزاده من غير معهود اسم فعل معنى حدث، وهي بسكون الهاء كلمة زجر معنى: "حسبك" مما في بعض الأحوال من ضبطها ه هنا بالسكون مشكل قاله المناوي.

حدثنا إسماعيل بن موسى الفَارَيِّ، وعلىّ بن حُجْر - المعنى واحد - قالا: أَبَنَا عبد الرحمن بن أبي الزَّناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْعُفُ لِحَسَانَ بْنَ ثَابَتَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا، يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو قَالَ: يَنْفَعُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَؤْيِدُ حَسَانَ بِرُوحِ الْقَدْسِ مَا يَنْفَعُ مَادِمًا

بعض علماء نقل کیا ہے کہ حضور کا یہ ارشاد اس شعر پر تھا:

لَكَ الْحَمْدُ وَالنِّعَمَ وَالْفَضْلُ رِبِّنَا  
فَلَا شَيْءٌ أَعْلَى مِنْكَ حَمْدًا وَلَا مَجْدًا

اے ہمارے رب! آپ ہی کے لئے سب تعریفیں ہیں اور آپ ہی کے لئے ملک کی تمام فضیلیں ہیں اور آپ ہی کے لئے سب فضیلیں ہیں، نہ آپ سے زیادہ کوئی تعریف کے قابل ہے نہ آپ سے زیادہ کوئی بڑائی والا ہے۔

(۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ علیہ کے لئے مسجد میں منبر رکھایا کرتے تھے تاکہ اُس پر کھڑے ہو کر حضور کی طرف سے مفاخرہ کریں، یعنی حضور کی تعریف میں فخریہ اشعار پڑھیں یا حضور کی طرف سے مدافعت کریں یعنی کفار کے الزمات کا جواب دیں (یہ شکر راوی ہے) اور حضور یہ بھی فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ شانہ روح القدس سے حسان کی امداد فرماتے ہیں جب تک وہ دین کی امداد کرتے ہیں۔ فائدہ: جہاد ہر وقت اور ہر زمانہ میں مختلف انواع سے ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک جہاد سیفی تھا کہ تلوار سے باہم فیصلہ ہو جائے، دوسرا جہاد لسانی تھا کہ وقتیہ اشعار و تصانیف پڑھے جائیں اور ان اشعار میں مقابلے ہوتے تھے اپنے فخر کے واقعات ذکر کئے جاتے تھے جیسا کہ آج کل مناظروں کا طرز ہے۔

حسان: ضبط منصرفًا وغير منصرف بناء على أنه فَعَالُ أو فَعْلَانُ، والثاني هو الأظهر قاله القاري، وقال أيضًا: هو حسان ابن ثابت بن المنذر بن عمرو بن حرام الأنباري، عاش مائة وعشرين سنة، نصفها في الإسلام، وكذا عاش أبوه وجده وجد أبيه المذكورون. وفي الحديث دليل على جواز الإنشاد في المسجد للضرورة.

منبراً: أي آلة النير وهو الارتفاع، وكل شيء رفع فقد نير. يفاخر: أي: يذكر مفاخر رسول الله صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسلم. ينافع: أي: يخافهم ويدافع من نفتح الدابة: ضربت برجلها. بروح القدس: أي: جبريل، وقد جاء في حديث مصرحاً. وسمي به؛ لأنَّه يأْتِي الأنبياء بما فيه الحياة الأبدية، وإضافته إلى القدس وهو الطهارة؛ لأنَّه خلق منهاهما. والمراد بتأييده: إمداده بأبلغ جواب، أو أنه يحفظه عن الأعداء.

أو يفاخر عن رسول الله ﷺ. حدثنا إسماعيل بن موسى، وعليّ بن حُجْر قالا: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ مثله.

ایک مرتبہ بخوبی کا وفد آیا، ان کے ساتھ ان کا شاعر اقرع بھی تھا، انہوں نے آکر حضور کو مناظر انہ دعوت اشعار اور فخر یہ مضمائیں بیان کرنے کی دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت نہ تو اشعار کے لئے ہے نہ فخر کے لئے، تاہم یہ مناظر بھی کرو، اول ان کا مقرر کھڑا ہوا تو حضور نے حضرت ثابت بن قيس رض کو حکم فرمایا کہ مقابلہ پر تقریر کریں، اُس کے بعد ان کا شاعر کھڑا ہوا جس کے جواب کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو حکم فرمایا، دونوں مناظروں میں مسلمانوں کو غلبہ رہا اور سب سے اول ان کا شاعر مسلمان ہوا۔ غرض اشعار کا مقابلہ اُس وقت کا عام دستور تھا اور یہ اشعار کثرت سے نقل کئے جاتے تھے اور یہ اشعار ان پر موثر بھی ہوتے تھے، چنانچہ اسی باب کی پانچویں حدیث میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ مسلم شریف میں برداشت حضرت عائشہ رض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وارد ہے کہ ہجوج (نمذمت بیان کرنا) قریش کے لئے تیر بر سانے سے زیادہ نافع ہے۔ مغلکہ شریف میں استیعاب سے نقل کیا ہے کہ حضرت کعب رض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اشعار کے بارے میں استمزاج کیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور زبان سے بھی۔ اسی قصہ کی ایک روایت میں ہے کہ والله! یہ اشعار ان پر اپیسے جا کر لگتے ہیں جیسے تیر۔

يفاخير: شك من الرواи على طبق الشك السابق، إلا أنه نشر لا على طريق اللف. مثله: أي: مثل الحديث المتقدم، والفرق بين الإسنادين: أن في الأول رواية عبد الرحمن عن هشام عن عروة، وهذا رواية عبد الرحمن عن أبيه عن عروة، بدل هشام عن عروة، والسندان متصلان، وذكرهما للتقوية قاله القاري.

## بابُ ما جاءَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ فِي السَّمَرِ

حدثنا الحسن بن صباح البزار، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل التقفي: عبد الله بن عقيل، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله ﷺ ذات ليلة نساءه حديثاً فقالت امرأة منهن: [ازواجها]

## باب۔ حضرور اقدس ﷺ کا کلام رات کو قصہ گوئی میں

فائدہ: یعنی حضور نے جو قصہ کہانی نقل فرمائے ہیں ان کا نمونہ۔ دو حدیثیں مصنف رسانی نے اس میں ذکر فرمائی ہیں:

(۱) حضرت عائشہ رضي الله عنها کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرور اقدس ﷺ نے اپنے گھر والوں کو ایک قصہ سُایا۔ ایک عورت نے کہا: یہ قصہ حیرت اور تججب میں بالکل خرافہ کے قصور جیسا ہے (عرب میں خرافہ کے قسم ضرب المثل تھے) حضور نے دریافت فرمایا کہ جانتی بھی ہو خرافہ کا اصل قصہ کیا تھا؟ خرافہ بنو عذرہ کا ایک شخص تھا جس کو جنات پکڑ کے لے گئے تھے، ایک عرصہ تک انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا پھر لوگوں میں چھوڑ گئے، وہاں کے زمانہ قیام کے عجائب وہ لوگوں سے نقل کرتا تھا تو وہ متاخر ہوتے تھے، اس کے بعد سے لوگ ہر حیرت انگیز قصہ کو حدیث خرافہ کہنے لگے۔ فائدہ: ممکن ہے کہ اس شخص کا نام پکھ اور ہو۔ اس کے قصور کو لوگ جھوٹ اور من گھڑت سمجھتے تھے اس لئے وہ شخص خرافہ سے مشہور ہو گیا۔

السمر: [هو الحديث بالليل، والمقصود من هذا الباب أنه ﷺ جوز السماء] بفتح السين المهملة وسكون الميم، حديث الليل، من المسامرة وهي الحادثة، وفي النهاية: الرواية بفتح الميم، ورواوه بعضهم بسكون الميم. وأصل السمر ضوء لون القمر، سمي به؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه قاله القاري، وقال البيحوري: هو بفتح الميم أي حديث الليل، وجوز بعضهم تسکینه على أنه مصدر بمعنى المسامرة وهي الحادثة. وقال المناوي: السمر بفتح الميم حديث الليل. وأصله الليل وحديثه وظل القمر كما في القاموس. مقصود الباب أنه ﷺ جوز السماء وسمه و فعله.

البزار: بتشدد الرأي آخره راء مهملة، قال المناوي: البزار كلمة معجمتين إلا ثلاثة: هذا وخلف بن هشام وأبو بكر بن عمر صاحب المسند. أبو النضر: بفتح النون وسكون الضاد المعجمة سالم بن أبي أمية، أو هو هاشم بن قاسم الترمي قاله المناوي وتبعه البيحوري. ذات ليلة: [في ساعات ذات ليلة].

کائن الحدیث حدیث خرافۃ؟ فقال: أتدرُونَ مَا خرافۃ؟ إِنْ خرافۃً كَانَ رجلاً مِنْ عَذْرَةِ أَسَرَّتُهُ  
الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهراً ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدّث الناس بما رأى فيهم من  
الأعاجيب، فقال الناس: حدیث خرافۃ. حدیث ام زرع: حدثنا عليّ بن حجر،  
[ازمنا طوبلا]

ساکنة بقرية من قرى مكة وقيل من قرى من

زمانہ جاہلیت میں جنات کا نہایت غلبہ اور زور تھا، وہ نہایت کثرت سے لوگوں کو ستاتے تھے، لے جاتے تھے، ان سے باقیں کرتے تھے، عورتوں سے صحبت کرتے تھے، جن کے واقعات مشہور ہیں۔ اسلام کے بعد ان کا زور گھٹ گیا حتیٰ کہ بعض لوگ تو اس کے قائل ہو گئے کہ جنات کا وجود پہلے تھا بہی نہیں، لیکن یہ صحیح نہیں، البتہ یہ صحیح ہے کہ ان کا وہ زور نہیں رہا۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ کے اس عالم میں تشریف آوری کے وقت کے واقعات اور جنات کی حیرانی پر بیشانی اور گریہ و نوحہ کے واقعات اس کے شاہد ہیں، بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کاہن کی محبوبہ جنیہ کے حسرت بھرے اشعار اور جنات کی ذلت و نجابت کا حال ذکر کیا ہے، سیوطی نے خصائص کبری میں بہت سے واقعات اس کے ذکر کئے ہیں۔

(۲) حدیث ام زرع: یہ باب مذکور کی دوسری حدیث ہے، لیکن چونکہ اس کا تصریح طویل ہے اور نیز مشہور ہے،

خرافۃ: بضم الماء المعجمة وتحقيق الراء المهملة، ولا تدخله "أَلْ" كما في الصحاح؛ لأنَّ معرفة إلا أن تزيد به الخرافات الموضعية من حدیث اللیل. قال ابن حجر وتبعه المناوي: لم ترد المرأة ما يراد من هذا اللفظ، وهو الكناية عن ذلك الحديث بأنه كذب مستعمل؛ لأنَّها عاملة بأنه لا يجري على لسانه يَقِنُّ إِلَى الْحَقِّ، وإنما أرادت أنه حدیث يستعمل فحسب، وذلك لأن حدیث خرافۃ يستعمل على وصفين: الكذب والاستصلاح، فالتشبيه في أحدهما لا في كليهما، وقال القاري: الأظهر أن يقال: إن حدیث خرافۃ يطلق على كل ما يكتذبونه من الأحادیث، وعلى كل ما يستعمل ويتعجب منه على ما في النهاية، فاستعمل ههنا على المعنى الثاني فلا إشكال.

أتدرُونَ: تذکیر الضمير باعتبار کمال عقوہن، ويحتمل أن يكون هناك بعض المحارم من الرجال، وفي بعض النسخ: أتدرین، ولما كانت العرب يكتذبون أحادیثه كلها حتى ضرب المثل بأحادیثه في الكذب خير النبي ﷺ على حقيقة أمره. عذرۃ: بضم عین مهملة وسكون ذال معجمة، قبيلة مشهورة من اليمن، وهي قبل بعنته يَقِنُّ إِلَى قاله القاري. أسرته الجن: [اختطفته الجن في أيام الجاهلية، وهي ما قبلبعثة، وكان اختطاف الجن للإنس كثيراً إذ ذاك]. الأعاجيب: [جمع أعنجهة: الأشياء التي يتتعجب منها]. حدیث خرافۃ: [قال الناس ذلك فيما سمعوه من الأحادیث العجيبة والحكایات الغریبة مع أن الرجل كان صادقاً لا كاذباً]. أم زرع: [هي إحدى النساء الإحدی عشرة، والزرع الولد أضيفت إليه في كنیتها، واسمهما عاتکه]. [بزای مفتواحة وراء =

أخبارنا عیسیٰ بن یونس، عن هشام بن عُروة، عن أخیه عبد اللہ بن عُروة، عن عائشة رضی اللہ عنہا  
قالت: جلست إحدی عشرة امرأة، فتعاهدن وتعاقدن ألا يکثمن من أخبار أزواجهن شيئاً.

فقالت الأولى: <sup>(۱)</sup> زوجي لحم جمل غثٌ، على رأس جبل وعِرٍ،  
اسماها مهرو

چنانچہ اس پر مستقل تصانیف بھی کی گئی ہیں، اس لئے امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو ذرا ممتاز کر دیا۔ اس حدیث کے نام بھی مختلف ہیں مگر مشہور نام یہی ہے۔ چونکہ قصہ طویل ہے اس لئے ہر ہر عورت کا قصہ علیحدہ علیحدہ من اس کے فائدے کے بیان کیا جاتا ہے۔

(۲) حضرت عائشة رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ گیارہ عورتیں یہ معاهدہ کر کے بیٹھیں کہ اپنے اپنے خاوند کا پورا پورا حال سچا سچا بیان کر دیں، کچھ چھپائیں نہیں۔ فائدہ: ان گیارہ عورتوں کے نام صحیح روایات سے ثابت نہیں، اگرچہ بعض روایات میں بعض کا نام آتا ہے، یہ عورتیں یعنی یا حجازی تھیں، ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے اس لئے نام حذف کر دیے گئے۔ ان کے خاوند دوسری جگہوں پر اپنی اپنی ضروریات میں گئے ہوئے تھے، یہ خالی تھیں دل بہلانے کو باقی شروع ہو گئیں اور یہ معاهدہ قرار پایا کہ ہر عورت اپنے خاوند کا صحیح صحیح حال بیان کرے۔

قالت: (۱) ایک عورت اُن میں سے بولی کہ میرا خاوند ناکارہ ذبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے (گویا بالکل گوشت

= ساکنة وعين مهملة واحدة من النساء المذكورات في الحديث، أضيف إليها الحديث؛ لأن معظم الكلام فيه يتعلق بها.  
وهذا الحديث ألقاب أشهرها هذا، وأفرده أئمة بالتأليف، منهم القاضي عياض والرافعي في مؤلف جامع، وساقه بتمامه في تاريخ قرويين، وآخرهم مولانا فيض الحسن الأديب السهارنفوری شرحه في مؤلف سماه "التحفة الصديقية". قال الحافظ ابن حجر: روی هذا الحديث من أوجه: بعضها موقوف وبعضها مرفوع، ويقوى رفعه ما في آخره: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع" متفق على رفعه، وذلك يقتضي أنه عليه سمع القصة وأقرها فيكون كله مرفوعاً من هذه الحبيبة قاله المناوي.

جلست: [أي: جلسن من بعض قرى مكة أو اليمن]. امرأة: كن حجازيات أو يمنيات قولان، ومن قال: كن من خضم فليس بقول ثالث؛ فإن خضم بطن من اليمن. فتعاهدن: [أي: ألم من أنفسهن عهدا]. ألا يکثمن: [أن لا يخفين شيئاً من أخبار أزواجهن مدعى أو ذمياً، بل يظهرن ويفصلن]. لحم جمل: تشبيه بلغ كأنه لحم لاحياة فيه، ثم لحم جمل، أدون اللحوم. والمقصود المبالغة في قلة نفعه والرغبة عنه ونقار الطبع منه. غث: مهزول وشديد الردي. بالجز صفة جمل، وبالرفع صفة لحم. والوعر بفتح فسكون صفة جبل. معنی: صعب. فيتحقق أي يختار للأكل، وفي نسخة: فيتقبل. وعِرٍ: [أي: صعب، فيشق الوصول إليه، والمقصود منه المبالغة في تکبره وسوء خلقه].

لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقِي، وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقِي<sup>۱</sup>. قَالَتِ الشَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبْثِ خَبْرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذْرَهُ،  
إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجْرَهُ وَبُحْرَهُ.

کا ایک نکڑا ہے جس میں زندگی باقی ہی نہیں رہی، اور گوشت بھی اونٹ کا جوزیاہ مرغوب بھی نہیں ہوتا) اور گوشت بھی سخت دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو، کہ نہ پہاڑ کا راستہ سہل ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑھنا ممکن ہو اور نہ وہ گوشت ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے سو دقت اٹھا کر اُس کے اتارنے کی کوشش کی ہی جائے اور اُس کو اختیار کیا ہی جائے۔ فائدہ: مطلب یہ کہ وہ ایک بیکار ہستی ہے جس سے کسی کو جانی یا مالی نفع نہیں ہے، اور پھر اس کے باوجود متکبر اور بد ٹھُق بھی اس درج کا ہے کہ اُس تک رسائی بھی مشکل ہے۔ نہ ملتے بن پڑے نہ چھوڑتے بن پڑے، کسی مصرف کی دوا نہیں ہے، بیکارِ محض ہے اور بد ٹھُق اور سخت مزاجی کی وجہ سے اُس تک رسائی بھی مشکل ہے۔

قالت: (۲) دوسری بولی (کہ میں اپنے خاوند کی بات کہوں تو کیا کہوں، اُس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتی) مجھے یہ ڈڑھے کہ اگر اُس کے عیوب شروع کروں تو پھر خاتمه کا ذکر نہیں، اگر کہوں تو ظاہری اور باطنی عیوب سب ہی کہوں۔ فائدہ: مقصود یہ ہے کہ میں اُس کے عیوب کو گنواؤں تو کہاں تک گنواؤ؟ سراپا عیوب ہے، کسی میں دو چار عیوب ہوں تو ان کو گنو بھی دے اور جس میں عیوب ہی عیوب ہوں کہاں تک گنوائے؟ کس کس کو جاتے؟ اتنی لمبی داستان ہے کہ منے والے آکتا جائیں۔ بعض شرح نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس نے معابدہ کے خلاف اپنے خاوند کی بات کہنے سے انکار کر دیا، مگر صحیح یہ ہے کہ اس نے مختصر الفاظ میں سب ہی کچھ کہہ دیا کہ وہ مجسمہ عیوب ہے، اُس کے عیوب شمار سے باہر ہیں۔

لَا أَبْثِ: أشکل عليه: أنه نقض العهد، ورد: بأهن لم يكن مسلمات فإيفاء العهد لم يكن واجباً عليهم، وهذا كله ليس بشيء، بل هذا هو بيان حاله، وأشارت إليه بأدق وجه وأكمله، يعني: إن لشدة حاله لا أستطيع أن أبث خبره، فهو بيان سوء حلقه. لا أذره: الضمير المتصوب للخبر أي: خبره طويل، إن نقلته لم أتمه، وقيل: للزوج، وقيل: هو بعيد. و"إن" مكسورة، والجملة مستأنفة.

عجرہ: جمع عجرہ وہی: نفحة في عروق العنق حتى ترها نائمة من الجسد. والبجر جمع بحرة: هو نتو السرة ثم استعملتا في العيوب الظاهرة والباطنة. أرادت ما تقاضي منه من الأدية وسوء العشرة قاله القاري، وما قيل: إن المراد أمره كله لا يمعن عيوبه فيحتمل المدح يفيد من ظاهر السياق قاله المناوي.

**قالت الثالثة:** زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، فإن أسكنت أغلق. قالت الرابعة:

قالت: (۳) تیسری بولی کہ میرا خاوند لمڈھینگ ہے یعنی بہت زیادہ لمبے قد کا آدمی ہے، اگر میں کبھی کسی بات میں بول پڑوں تو فوراً اطلاق، اگر چپ رہوں تو ادھر میں لکھی رہوں۔ فائدہ: اس کے زیادہ لمبے ہونے کو یا تو اس لئے ذکر کیا کہ مشہور قول کے موافق یہ ہے وقوفی کی علامت ہوتی ہے اور اگلا کلام اُس کی بے وقوفی کا بیان ہے، یا اس لئے ذکر کیا کہ بد صورت بھی منارہ کی طرح لمبا جو بلا مناسب موٹا پے کے بد نما ہوتا ہے اور بد خلق بھی ہے کہ اگر کوئی بات بھی زبان سے نکالوں، کوئی اپنی ضرورت ظاہر کروں تو فوراً اطلاق دے دے اور چپ رہوں، کوئی ضرورت اپنی اُس پر ظاہر نہ کروں تو خود سے کسی بات کی پرواہی نہیں ہے، بس یوں ادھر میں لکھی رہتی ہوں۔ نہ شوہر والیوں میں شمار کہ شوہروں جیسی کوئی بات ہی نہیں اور نہ بے شوہر والیوں میں کہ کوئی دوسرا جگہ تلاش کروں۔ بعض روایات میں اس عورت کے بیان میں ایک جملہ اور بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت ایسی رہتی ہوں جیسے کوئی تیز تلوار کی دھار کے نیچے ہو کہ ہر وقت فکر سوار، نہ معلوم کب کام تمام ہو جائے۔

قالت: (۴) چوتحی نے کہا کہ میرا خاوند تہامہ کی رات کی طرح معتدل مزاج ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا، نہ اُس سے کسی قسم کا خوف ہے نہ ملال۔ فائدہ: یعنی معتدل مزاج ہے، نہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے نہ بیزار رہتا ہے، نہ اُس کے پاس رہنے سے خوف ہوتا ہے نہ طبیعت اکتائی ہے۔ اس عورت کا نام مہد بن ابی ہر و مہد بٹلایا جاتا ہے۔ تہامہ مکہ مکرہ اور اُس کے گرد و نواح کو کہتے ہیں، وہاں کی رات ہمیشہ معتدل رہتی ہے خواہ دن میں کتنی ہی گرمی ہو۔

العشنق: بمهملة فمعجمة مفتتحتين فنون مشددة مفتوحة ففاف، الطويل المستكره، وقيل: معناه سيء الخلق، فإن أرادت سوء الخلق فما بعده بيان له، وإن أرادت الطول فلأنه في الغالب دليل السفة. إن أنطق أطلق: [أي إن أنطق بعيوبه تفصيلاً يطلقني لسوء خلقه، ولا أحب الطلاق لأولادي منه، أو لحاجتي إليه]. أي أتكلم بعيوبه أو للتطرق به قاله القاري. قلت أو التكلم بمحضره مطلقاً. وإن أسكنت أغلق: [وإن أسكنت عن عيوبه يصيرني معلقة، وهي: المرأة التي لا هي مزوجة ولا مطلقة]. قال المناوي: أي يصيرني معلقة، امرأة لا بعل لها يرعى حالمها، ولا أبداً يتوقع أن تزوج، قال تعالى: ﴿فَتَرَوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: ۱۲۹] قال القاري: وزاد في روایة: على حد السنان الذلق بفتح المعجمة وتشدید اللام أي المحدد، والمعنى: أنها منه على حذر كثير و وجل كبير.

**زوجي كليل تهامة، لاحر ولاقر، ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد،  
وإن خرج أسد،**

فتح اليم  
اسمه زهرة

قالت: (۵) پانچوں نے کہا کہ میرا خاوند جب گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے اور جب باہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کی تحقیقات نہیں کرتا۔ فائدہ: اس عورت کا نام کبشہ بتایا جاتا ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس نے اپنے خاوند کی ذمۃ کیا تعریف کی، اس کے کلام سے دونوں نکل سکتی ہیں، لیکن ظاہر تعریف ہی معلوم ہوتی ہے۔ بالجملہ اگر اس کو ذمۃ قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں آکر چیتے کی طرح سے سور و بن جاتا ہے، نہ بات کا کہنا نہ کام سے غرض، باہر جاتا ہے تو اچھا خاصہ شریفانہ بتاؤ کرتا ہے، گھر میں کچھ مصیبت آجائے اس سے کچھ مطلب نہیں، نہ پوچھنا نہ خبر لینا۔ اور اگر تعریف ہے تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں آکر نہایت بے خبر ہو جاتا ہے، کسی بات میں کر چیل نہیں نکالتا، خفا نہیں ہوتا۔ ایسا بے خبر رہتا ہے جیسے سونے والا ہوتا ہے، ہم جو چاہے کھائیں پکائیں وہ کسی چیز میں دخل نہیں دیتا، نہ ہم پر ہر بات کی تحقیق کرتا ہے کہ فلاں کام کیوں کیا؟ فلاں بات کیوں ہوئی؟ باہر جاتا ہے تو شیروں کی طرح سے ڈانٹ ڈپٹ خوب دھڑو کتا ہے۔ گھر میں جو کھانے پینے وغیرہ کی اشیاء ہوں ان کا مطالبہ اور تحقیقات نہیں کرتا کہ کہاں خرچ کی اور کیوں خرچ کی؟ جو چیز گھر میں آگئی گھروالے جس طرح چاہیں اُس کو خرچ کریں۔

كليل تهامة: [أي: في كمال الاعتدال وعدم الأذى وسهولة أمره، ونهاية: مكة وما حولها من البلاد المختضنة] بكسر الثناء وهي مكة وما حولها من الاغوار، وقيل: كل منزل عن بحد من بلاد الحجاز، وأما المدينة المنورة فلا تهامة ولا بجدية.

لا حر ولاقر: [أي: لا ذو حر مفرط ولا برد قاس، وهو معتدل الخلق.] ولا مخافة: الظاهر أن "لا" للفي الجنس، فهو مفترض والخير محنوف، والحمل الأربع في محل النصب على الحالية من ليل تهامة، والليل توصف بالمخافة كما قول المحنفي: حملت به في ليلة ممزوجة، بحسب ما فيها من الغارات. وتتصف بالملال؛ لطول الامتداد وشدة الحر أو البرد، وتحتمل أن يكون الحمل في محل الرفع على الخيرية من الزوج، فبراد بالحر: الطيش وبالقر: التبلد. [والمعنى: لا أحاف غاللة أخلاقه ولا يسامي ولا يحمل صحبتي.]

إن دخل فهد: [أي إذا دخل عليها وثب كوثبة الفهود لجماعها أو ضرها]. بكسر الهاء على أنه فعل ماض، ويحتمل أنه اسم حبر مبتدأ محنوف أي: فهو فهد، وكذا قوله: أسد. والجملة تحتمل الذم أي: كالفهد في وثوبه للضرب وتمرده وتفاوله عن أمور أهله؛ فإن الفهد موصوف بكثرة التوم حتى يقال في المثل: فلاں أتوم من الفهد، وعلى المدح فكالفهد في وثوبه للجماع وتفاوله عما أضاعت. وإن خرج أسد: [أي: إن خرج من عندها صار بين الناس أو في الحرب كالأسد قوة وشراقة].

وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ . قَالَتِ السَّادِسَةُ: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتفَّ، وإن اضطجع التف، ولا يُوجِّهُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ .

**قالت:** (۶) چھٹی بولی کہ میرا خاوند اگر کھاتا ہے تو سب نمائیدتا ہے اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے، جب لیٹتا ہے تو اکیا ہی کپڑے میں لپٹ جاتا ہے، میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا جس سے میری پرائنگی معلوم ہو سکے۔  
**فائدہ:** اس کے کلام میں بھی تعریف اور مذمت دونوں کہی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ پانچیں کے کلام میں تعریف زیادہ ظاہر ہے اس کے کلام میں مذمت زیادہ ظاہر ہے، جیسا کہ ترجمہ سے معلوم ہو گیا ہوا۔ اگر مدح ہے جیسا کہ بعض شرح نے کہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب کھاتا ہے تو سب کچھ کھاتا ہے، کہیں میوہ جات ہیں، کہیں پھل ہیں، مختلف انواع کے کھانے ہیں اور جب پینے کا نمبر آتا ہے تو کبھی دودھ ہے، کبھی شراب ہے، شربت ہے، غرض سب کچھ پیتا ہے ہر قسم کی چیزیں اُس کے دستر خوان پر ہوتی ہیں۔ خرچ کرنے والا ہے، کنجوس بخیل نہیں ہے کہ دال ہے تو گوشت نہیں ہے، پانی ہے تو دودھ نہیں۔ جھگڑوں سے علیحدہ رہتا ہے، دوسروں کی پیشیں میں ہاتھ نہیں ڈالتا، یعنی عیوب کی تفتیش نہیں کرتا، کوتا ہیوں کو تلاش کرتا نہیں پھرتا۔ اور اگر مذمت ہے جیسا کہ اکثر کی رائے ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب کھانے کا نمبر آئے تو جو کچھ سامنے ہے سب نمائادے، گھروالوں کو بنچے نہ بنچے بھیں کی طرح ساری کوئی ختم کر دے، پینے کا نمبر آئے تو سارا کنوں چڑھا جائے۔ غیروں اور اجنیوں کی طرح الگ اپنی چادر میں لپٹ کر سو جائے، مجھ سے پیٹا تو درکنار کبھی بدن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا کہ میرے دکھ درد کی کوئی خبر لے، یا میرے بدن کی گرمی سردی کا کچھ پتہ لے۔

وَلَا يَسْأَلُ: [أي: يفضل عن تعهد متاعه في البيت]. عَمَّا عَهَدَ: أي: عما رآه سابقاً أو عما في عهده من ضبط المال ونفقة العيال، ففيه إشعار إلى سخاوة نفسه وجودة طبعه، وقال بعضهم: يتحمل أنه إما تكرم وإما تكاسل. لفَّ: [أي: يكاثر من أكل الطعام مع التخليط في أضيافه]. اشتفَّ: [أي: أنهى لشربه جميع مافي الإناء]. أي شرب الشفافة بضم الشين، وهي: بقية الماء في قعره أي: يستقصي الماء ولا يدع في الإناء شيئاً. وإرادة المدح بأنه: يأكل كل صنوف الطعام، ويشرب مع أهله كل الشراب، ولا يدخل الشيء لغد بعيد. وإن اضطجع التف: [أي: إن رقد التف في ثيابه منفرداً في ناحية وحده ولا يباشرها، فلا نفع فيه لزوجته].

ولا يُوجِّهُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ: [أي: لا يدخل يده تحت ثيابها عند مرضها ليعلم الحزن والمرض ليصطلحه، فلا شفقة عنده عليها حتى في حال مرضها].  
**البث:** قال في القاموس: البث: الحال أو أشد الحزن. فالمعنى: أنه لا يدخل يده في ثياب المرأة ليعلم حرارتها وحالها.

**قالت السابعة:** زوجي عيایاء - أو غیایاء - طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلک،  
**أو جمع كلالك.** **قالت الثامنة:** زوجي: المس مس أربن، والريح ريح زرتب.

**قالت:** (۷) ساتویں کہنے لگی کہ میرا خاوند صحبت سے عاجز، نامر اور اتنا بے وقوف کہ بات بھی نہیں کر سکتا، دنیا میں جو کوئی بیماری کسی میں ہو گی وہ اس میں موجود ہے، اخلاق ایسے کہ میرا سر پھوڑے یا بدنا زخمی کر دے یادوں ہی کر گزرے۔

**قالت:** (۸) آٹھویں نے کہا کہ میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہوا ہے۔ فائدہ: اس عوت کا نام ناشرہ بنت اوس بتالیا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کا حاصل یہ ہے کہ وہ نرم مزاج ہے، سخت اور بد خوبی نہیں، اس میں لذتِ جسمانی و روحانی دونوں موجود ہیں کہ نازک بدنا ہے لپٹنے کو دل چاہے یا نرم مزاج ہے کہ غصہ کا نام ہی نہیں، اس کے ساتھ خوشبو میں مہکتا رہتا ہے۔ بعض روایات میں اس کے بیان میں ایک جملہ اور بھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں اس پر غالب رہتی ہوں اور وہ لوگوں پر غالب رہتا ہے، یعنی میرا غالب رہنا اس کے عاجز اور ناکارہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے اس لئے کہ وہ سب پر غالب رہتا ہے، بلکہ میری محبت یا اس کی شرافت کی وجہ سے میں غالب رہتی ہوں۔

**عيایاء:** [أي: إنه عتى لا يقدر على الجماع، وقيل: هو العاجز عن إحكام أمره] بفتح العين المهملة، العنين العاجز عن

الضراب. وعيایاء بفتح الغين المعجمة، ذو غي هو الضلاله والخيبة شک من الرواى، ويحتمل التخيير. وطباقاء بفتح أوله ممدودا، أي: أحمق تنطبق عليه الأمور، أو مفحوم ينطبق عليه الكلام، أو يطبق بصدره على المرأة، وهو مكرهه عند النساء، ولذا قالت امرأة امرئ القيس تدمه: ثقيل الصدر، خفيف العجز، سريع الإراقة، بطيء الإفقاء، وذلك؛ لأن الرجل إذا طابق بها لا يصيب إلى ماتريد المرأة إصابته. كل داء في الناس له داء أي: جميع الأدواء فيه موجودة.

**شجك:** [أي: إن ضربك جرحك] بتشديد الجيم المفتوحة وكسر الكاف أي: جرحك في الرأس، والخطاب لنفسها أو المراد خطاب العام. فلک: أي ضربك وكسرك، والفل: كسر عظم باقى الأعضاء دون الرأس أو جمع كلا من الشج والفل.

**كلالك:** [أي: كلا من الشج والفل، والمعنى: أنه ضروب لها، فإن ضربها شجها أو كسر عظمها، أو جمع الشج والكسر معًا لسوء عشرته مع الأهل]. **المس:** أي: مسه، فاللام عوض عن ضمير المضاف إليه. والأربن معروفة بين النساء ونوعة الجلد والوبر. [والمعنى: مسه كمس أربن في اللين والنعومة]. والزرتب - بفتح الزاي أو النال لغتان فالمهملة فالثون - بنت طيب الرائحة، وقيل: الزعفران، وقيل: نوع من الطيب. زاد في بعض الروایات كما حکاه الحافظ: وأنا أغبله والناس يغلب.

**قالَتِ التَّاسِعَةُ:** زوجي: رفيع العماد، عظيم الرماد، طوبيل التجاد، قريب البيت من الناد.  
[طوبيل القامة]

قالت: (۹) نویں نے کہا کہ میرا خاوند رفیع الشان، بڑا مہمان نواز، اوپنچے مکان والا، بڑی راکھ والا اور دراز قد والا ہے۔ اُس کا مکان مجلس اور دارالشورہ کے قریب ہے۔ فائدہ: اس عورت نے اپنے اس کلام میں بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ اول تو یہ کہ اُس کا گھر اوپنچا ہے، اس سے اگر حقیقت میں بڑی عمارت مراد ہے تب تو اُس کی ریاست اور مالدار ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لئے کہ اوپنچا محل مالدار ہی تیار کرائے گا اور اگر اوپنچے محل سے مکان کا اوپنچائی پر ہونا مراد ہے جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ سخنی اور کریم لوگ اپنا مکان بلندی پر بناتے تھے تاکہ پر دیسی مسافر دور سے دیکھ کر چلا آئے تو اس صورت میں اُس کے شریف، کریم اور سخنی ہونے کی تعریف ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اوپنچے مکان سے مراد شرافت اور حسب نسب کے اعتبار سے اوپنچائی مراد ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اوپنچے خاندان کا ہے۔ دوسرا تعریف اُس کی مہمان نوازی کی ہے، گھر میں راکھ کا بہت ہونا لازم ہے کہرت سے کھانا پکنے کو جو مہمان نوازی کے لئے لازم ہے۔ تیسرا تعریف اُس کے دراز قد کی ہے، دراز قد ہونا بشرطیکہ اعتدال سے زیادہ نہ ہو، مردوں میں مددوح شمار ہوتا ہے۔ مجلس سے گھر کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذی رائے اور سمجھدار ہے، ہر شخص اُس سے مشورہ پوچھنے آتا ہے اس لئے گویا اُس کا گھر ہر وقت دارالشورہ رہتا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص مشورہ کرنے کے لئے آتا ہی رہتا ہے۔ بندہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ بھی محتمل ہے کہ دارالشورہ سے اپنا گھر قریب رکھتا ہے تاکہ مجتمع ہونے والوں کے لئے تواضع وغیرہ میں یہ کہنا نہ پڑے کہ میرا گھر تو دور ہے، اس لئے گھر قریب رکھتا ہے تاکہ تواضعی سامان میں دیر نہ لگے اور اس کی وجہ سے عذر کرنے کی نوبت نہ آئے۔

**رفیع العماد:** أي: شریف الذکر ظاهر الصیت، إذ العماد في الأصل: عمد تقوم عليها البيوت، كنت بذلك عن علو حسنه وشرف نسبه، أو هو على الحقيقة؛ فإن بيوت الأشراف أعلى من بيوت الآحاد. **عظيم الرماد:** [أي: عظيم الكرم والجود]  
**التجاد:** بكسـرـ النـونـ: حـمائـلـ السـيفـ، وـطـولـهـ يـدلـ عـلـىـ اـمـتدـادـ القـامـةـ؛ لأنـ طـولـهاـ مـلـزمـ لـطـولـ بـحـاجـةـ، وـيمـكـنـ أنـ يـكونـ كـتـایـةـ عنـ سـعـةـ حـکـمـهـ عـلـىـ أـشـيـاعـهـ، يـقـالـ: سـيفـ السـلـطـانـ طـوبـيلـ: أيـ يـصـلـ حـکـمـهـ إـلـىـ أـقصـىـ مـلـکـهـ، فـهـوـ إـشـارـةـ إـلـىـ شـجـاعـتـهـ.  
**قـرـيبـ الـبـيـتـ مـنـ النـادـ:** [أـيـ: قـرـيبـ المـنـزـلـ مـنـ النـادـيـ الـذـيـ هـوـ الـمـوـضـعـ الـذـيـ يـجـمـعـ فـيـ وـجـوهـ الـقـومـ لـلـحـدـيـثـ].

**قالت العاشرة:** زوجي مالك، وما مالك؟ خيرٌ من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات  
غرضها أنه يحمل للتنظيم والتغيير  
المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقنَّ أَكْهُنَّ هو والك.

قالت: (۴۰) دسویں نے کہا کہ میرا خاوندِ مالک ہے، مالک کا کیا حال بیان کروں! وہ ان سب سے جواب تک کسی نے تعریف کی ہے یا ان سب تعریفوں سے جو میں بیان کروں گی بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے، اُس کے اونٹ بکثرت ہیں جو اکثر مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں، جراغاگہ میں چرنے کے لئے کم جاتے ہیں۔ وہ اونٹ جب باجے کی آواز منٹتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہلکت کا وقت آگیا۔

فائدہ: اس عورت کا نام کبیثہ بنت مالک بتایا جاتا ہے، اس نے اپنے خاوند کی سخاوت کی تعریف کی ہے، جس کی توضیح یہ ہے کہ اونٹ اگر چراگاہ میں چرنے جائیں تو ضیافت اور مہمانی کے وقت اُن کے واپس آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور اس کے یہاں ہر وقت مہمان داری رہتی ہے اس لئے اس کے اونٹ چرنے نہیں جاتے، گھر ہی کھڑے کر کے کھلانے جاتے ہیں تاکہ مہماںوں کے آنے پر فوراً ذبح کر دیے جائیں۔ باجے کی آواز کی بعض نے یہ تفسیر کی ہے کہ اُس کی عادت ہے کہ جب کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے تو اُس کی صریحت میں باجے سے استقبال کرتا ہے، تو اُس باجے کی آواز سنتے ہی اونٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ذبح کا وقت آگیا، کوئی مہمان آیا ہے۔ لیکن عرب کے دستور کے موافق یہ مطلب زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ شراب کلب، گانے بجانے سے اس کی فوری توضیح کرتا ہے، اس آواز سے اونٹ سمجھتے ہیں کہ اب عقربیب کھانے کا وقت آیا چاہتا ہے، اُس کی تیاری کے لئے ہمارے ذبح کا وقت آگیا ہے۔

أوجي مالك: [أي: اسمه مالك]. خير من ذلك: [أي: من كل زوج سبق ذكره]. أي من التاسعة، أو من كل من ذكر، أو ما أذكره بعد. والمسرح وكذا المبرك مصدر ميميّ أو ظرف زمان أو مكان. والمزهر بكسر الميم: العود الذي يضرب، وأخطأ من قال: بضم الميم. له إيل كثيرة، وهي باركة في فنائه.]

**قليلات المسارح:** [أي: لا يوجهها للرعي إلا قليلا، كنایة عن استقباله للضيوف حتى إذا نزل به ضيف كانت حاضرة عند لبسه أو لبسها]. **المزهر:** [هو العود الذي يضرب به عند الغناء]. **أيقنَ أهنَّ هوالك:** [أي: إذا سمع صوت المزهر علم أنّه من محورات الضيوف، لما عُدهن إذا نزل به ضيف أتاه بالعيدان والمعاذف والشراب ونحوه منها].

**قالَتْ الْحَادِيَةُ عَشْرَةً:** زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أنس من حلي أذني، وملاً من شحم عضدي، بجحني فبححت إلى نفسي،

**قالَتْ:** (۱۱) گیارہویں عورت ام زرع نے کہا: میرا خاوند ابو زرع تھا، ابو زرع کی کیا تعریف کروں! زیوروں سے میرے کان جھکا دیئے (اور کھلا کھلا کر) چربی سے میرے بازو پر کر دیئے، مجھے ایسا خوش و خشم رکھا کہ میں خود پسندی اور غب میں اپنے آپ کو بھلی لگنے لگی، مجھے اُس نے ایک ایسے غریب گھرانے میں پایا تھا جو بڑی تنگی کے ساتھ چند بکریوں پر گزر کرتے تھے اور وہاں سے ایسے خوش حال خاندان میں لے آیا تھا جن کے یہاں گھوڑی، اونٹ، کھنکی کے نیل اور کسان ہر قسم کی ثروت موجود تھی (اس سب کے باوجود اس کی خوش خلقی کہ) میری کسی بات پر بھی مجھے بُرا نہیں کہتا تھا۔ میں دن چڑھے تک سوتی رہتی تو کوئی جگا نہیں سکتا تھا، کھانے پینے میں ایسی ہی وسعت کہ میں سیر ہو کر چھوڑ دیتی تھی (اور ختم نہ ہوتا تھا)۔ ابو زرع کی ماں (مری خوش دامن) بھلا اُس کی کیا تعریف کروں! اُس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھر پور رہتے تھے، اُس کا مکان نہایت وسیع تھا (یعنی مالدار بھی تھی اور عورتوں کی عادت کے موافق بخیل بھی نہیں تھی)، اس لئے کہ مکان کی وسعت سے مہماںوں کی کثرت مرادی جاتی ہے۔ ابو زرع کا بیٹا، بھلا اُس کا کیا کہنا! وہ بھی نور علی نور،

**أبو زرع:** [كتنه بذلك؛ لكثرة زرعه، وقيل: تفاؤلاً بكثرة أولاده]. أنس: [أي: حرك، من النوس، وهو تحرك الشيء متداولاً] أي: أمال والنوس: التحرك. وال Hollow بضم الحاء ويكسر وبتشديد الباء، جمع حلية: ما يتزرين به. أذني مثني أذن مضاف لـياء المتكلّم، وكذا عضدي، وخصهما بالذكر؛ لأنهما إذا سمعتا ممن سائر البدن، أو لمحاورتهما للأذن، أو لظهور شحومهما عند مزاولة الأشياء. أذني: [المراد به أنه حرك أذنيها من أجل ما حلامها به].

بحجني الخ: بفتح الباء وتشديد الجيم أي: فرحني. فبححت بفتح الموحدة وكسر الجيم المخففة على الأفتح وقد تفتح. غنيمة بالضم مصغرًا للتقليل يعني: أن أهله كانوا في غنم قليلة. بشق بفتح المعجمة وكسرها: اسم موضع أو ناحية من الجبل، أو بمعنى المشقة وهو الأنسب. صهيل بفتح فكسر: صوت الخيل. وأطيط بفتح فكسر: صوت الإبل. ودائس اسم فاعل من الدوس: هو الذي يدوس كبس الحب وبيدره من البقر وغيرها. منق بضم الميم وفتح اللون على الأشهر: اسم فاعل من التنقية: الذي ينقى الحب ويصلحه وينظفه من التبن وغيره بعد الدوس. فبححت إلى نفسي: [فرحني ففرحت نفسي، أو عظمي فعظمت نفسي حال كونها مائلة إلى].

وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنْيَةٍ بِشَقِّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهْيلٍ وَأَطْيَطٍ وَدَائِسٍ وَمُنْقٍ، فَعِنْهُ أَقُولُ فَلا  
أَقْبَحُ، وَأَرْقَدُ فَأَتَصْبِحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقْمَحُ.

أصواتِ الخيل

ایسا پلا دبلا چھریرے بدن کا کہ اُس کے سونے کا حصہ (یعنی پسلی وغیرہ) سُتی ہوئی ٹھہنی یا سُتی ہوئی تلوار کی طرح سے باریک، بکری کے نیچے کا ایک دست اُس کے پیٹ بھرنے کے لئے کافی۔ یعنی بہادر کہ سونے کے لئے لمبے چوڑے انتظامات کی ضرورت نہ تھی، سپاہیانہ زندگی ذرا سی جگہ میں تھوڑا بہت لیٹ لیا، اسی طرح کھانے میں بھی مختصر مگر بہادری کے مناسب گوشت کے دو چار تکڑے اُس کی غذا تھی۔ ابوزرع کی بیٹی، بھلا اُس کی کیا بات! ماں کی تابعدار، باپ کی فرمان بردار، موئی تازی اور سوکن کی جلن تھی (یعنی سوکن کو اُس کے کمالات سے جلن پیدا ہو۔ عرب میں مرد کے لئے چھریرا ہونا اور عورت کے لئے موئی تازی ہونا مددوح شمار کیا جاتا ہے) ابوزرع کی باندی کا بھی کمال کیا بتاؤں! ہمارے گھر کی بات کبھی بھی باہر جا کر نہ کہتی تھی، کھانے تک کی چیز بھی بے اجازت خرچ نہیں کرتی تھی۔ گھر میں کوڑا کبڑا نہیں ہونے دیتی تھی، مکان کو صاف شفاف رکھتی تھی۔ ہماری یہ حالت تھی، لطف سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت جب دودھ کے برتن بلوئے جا رہے تھے، ابوزرع گھر سے نکلا، راستہ میں ایک عورت پڑی ہوئی ملی جس کی کمر کے نیچے چیتے جیسے دو نیچے اناروں سے کھیل رہے تھے (چیتے کے ساتھ تشبیہ کھیل کوڈ میں ہے اور اناروں سے یا تو حقیقتاً انار مراد ہیں کہ ان کو لڑھا کر کھیل رہے تھے

أهل غنيمة: [أي: إن أهلها كانوا أصحاب غنم لا إبل]. أهل صهيل: [فحملني إلى أهل خيل ذات صهيل، فالصهيل صوت الخيل.]  
أطيط: [صوت الإبل، وهي إشارة إلى تنعمها وترفعها بهذا المال الكثير]. دانس: [أي: بقر تدوس الزرع في يده ليخرج الحبَّ من السبيل]. ومنق: [وهو الذي ينفي وينظفه من التبن وغيره بعد الدوس بغربال وغيره، يعني: هم أصحاب زرع شريف وأرباب حبَّ نظيف، والمراد من ذلك كله أنها كانت في أهل قلة ومشقة فنقلها إلى أهل ثروة وكثرة].

أقبح: [أي: أتكلم بكلام فلا ينسني إلى القبح لكرامي عنده لحسن كلامي لديه]. أرقد فانتصب: [أي: أيام فادخل في الصبح فيرفق بي ولا يوقظني لخدمته ومهنته؛ لأنَّ محبوبة إليه مع استغناه عن بالخدم التي تخدمه وتخدمني]. وأشرب فأنقم: [أي: أروى وأدع الماء لكتره عنده مع قلته عند غيره. والمعنى: أنها لم تتألم منه، لا من جهة المرقد ولا من جهة المأكل والشرب]. [أنقبح بقاف ونون كما في الصحيحين أي: اقطع الشرب وأهمك لكترة الماء عنده، وفي رواية بالمير بدل النون، قال البخاري: هو أصح قاله المناوي، وأنكر الخطاطي رواية النون، والمعنى واحد.]

أُمُّ أَبِي زَرْعَ، فَمَا أَمُّ أَبِي زَرْعَ؟ عَكْوَمَهَا رِدَائِخُ، وَيَتَهَا فَسَاحٌ. ابْنُ أَبِي زَرْعَ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعَ؟  
مَضْجِعُهُ كَمَسْلٌ شَطْبَةٌ، وَشُبُّعُهُ ذَرَاعُ الْجَفَرَةِ.

یاد و اناروں سے اس عورت کے دونوں پستان مراد ہیں) پس وہ بچھے ایسی پسند آئی کہ مجھے طلاق دیدی اور اُس سے نکاح کر لیا (طلاق اس لئے دی کہ سوکن ہونے کی وجہ سے اُس کو رنج نہ ہو اور اُس کی وجہ سے مجھے طلاق دے دینے سے اُس کے دل میں ابو زرع کی وقت ہو جائے) ایک روایت میں ہے اُس سے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد وہ مجھے طلاق دینے پر اصرار کرتی رہی، آخر مجھے طلاق دے دی۔ اُس کے بعد میں نے ایک اور سردار شریف آدمی سے نکاح کر لیا جو شہسوار ہے اور سپہ گر ہے۔ اُس نے مجھے بڑی نعمتیں دیں اور ہر قسم کے جانور اونٹ، گائے، بکری وغیرہ وغیرہ ہر چیز میں سے ایک ایک جوڑا مجھے دیا اور یہ بھی کہا کہ ام زرع! خود بھی کھا اور اپنے میک میں جو چاہے بھیج دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اُس کی ساری عطاوں کو جمع کروں تب بھی ابو زرع کی چھوٹی عطا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ رض فیصلہ غبار فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا کر مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی تیرے لئے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ابو زرع ام زرع کے واسطے۔ فائدہ: اس کے بعد اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مگر میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رض فیصلہ غبار نے اس پر فرمایا کہ حضرت ابو زرع کی کیا حقیقت! میرے ماں باپ آپ پر قربان،

أمُّ أَبِي زَرْعَ: [لما مدحت أبا زرع انتقلت إلى مدح أمه مع ما جبل عليه النساء من كراهة أم الزوج غالباً؛ إعلاماً بأنها في نهاية حسن الخلق وكمال الإنفاق]. عَكْوَمَهَا: بضم العين وتفتح جمع عكم بالكسر، هو العدل إذا كان فيه متعار. الرَّدَاح بفتح أوله، وروي بالكسر أي: عظام كبير. فَسَاح بفاء مفتوحة، وروي بالضم أي: واسع، كنایة عن الثروة وكثرة الخدم والخدم، أو كنایة عن كثرة الأضياف، وصفت بها؛ لأنها خلاف ما خلقت عليه النساء من اللوم والبخل. فَسَاح: [أي: واسع، وذلك دليل على سعة الثروة وسبوغ النعمة]. ابْنُ أَبِي زَرْعَ: [لما مدحت أبا زرع وأمه انتقلت إلى مدح ابنه، والمقصود منه التعظيم والتفحيم]. كَمَسْلٌ: بفتح الميم والسين وتشديد اللام مصدر ميميّ بمعنى المسالول، ويحتمل اسم مكان من المسالول. وشطبة بفتح الشين المعجمة وسكون الطاء المهملة: حريدة التخل الخضراء، وقيل: هي السيف. والمعنى: أن محل اضطجاجه وهو الجنب كشطبة مسلولة من الجريد في الدقة، فهو خفيف اللحم دقيق المخصر. والجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء: ولد الشاة أي: هو قليل الأكل.

بنتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بَنَتْ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوعُ أَبِيهَا وَطَوعُ أَمْهَا، وَمِلْءُ كَسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارِهَا.  
 جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لَا تَبْثُ حَدِيشَا تَبْشِيَا، وَلَا تَنْقُثْ مِيرَتَنَا تَنْقِيَا، وَلَا تَمْلأْ بَيْتَنَا<sup>بِرًا كَيْدَهُ كَرْدَنْ طَعَامَنَا</sup>  
 تَعْشِيَا. قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعْهَا وَلَدَانَهَا كَالْفَهْدَيْنَ،

آپ میرے لئے اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ ہر مسلم زوجین کو حضور اقدس ﷺ کا اتباع اس مضمون میں بھی نصیب فرمادیں کہ یہ عفت کا باعث ہوتا ہے۔ آمین۔ بعض علماء نے اس قصہ میں یہ اشکال کیا ہے کہ جن عورتوں نے اپنے خاوندوں کی بُراَتی بیان کی ہے وہ غیبت ہے جو حضور کی مجلس میں ہوئی، اور اگر خود حضور نے اس قصہ کو ارشاد فرمایا تو اشکال اور بھی قوی ہو جاتا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ غیبت کی حدود میں داخل نہیں ہے، کسی غیر معروف شخص کا حال بیان کرنا جس کو لوگ نہ جانتے ہوں غیبت نہیں ہے۔

طوع: أي: مطيعة لهما غاية الإطاعة، ولذلك بالغت فيها وجعلتها نفس الطوع، وأعادت إشارة إلى أن طوع كل منها مستقل.  
 وملء كسائها: كنایة عن ضخامتها وسمتها وكثرة شحمها ولحمة، وهو مطلوب في النساء، أو هو كنایة عن المبالغة في خبائثها بحيث لا يسعها غير ثوبها. غيظ جارها: أي مغيظ ضرها، وسميت حارة؛ للمحاورة بين الضربتين غالباً فتعيظ ضرها لحسنها صورة وسيرة. لا تبث حديثنا: [أي: لا تنشر كلامنا الذي تتكلم به فيما يبتنا لديانتها]. بضم الموحدة وتشديد المثلثة، وروي بالنون بدل الموحدة، ومعناها واحد، أي: لا تظهر.

ولا تنقث ميرتنا: [أي: لا تنقل طعامنا نقلأ لأمانتها وصيانتها، والميرة هي الطعام]. بضم الناء وكسر القاف أو فتح الناء وضم القاف، فالنون في كليهما ساكنة، أو ضم الناء وفتح النون وكسر القاف المشددة، معناه على كل: لا تنقل، وفيه عدة روایات. والميرة بكسر الميم: الطعام. تعشیشا: بعين مهملة من عش الطائر أي: لا ترك بيتنا مملوءة من القمامۃ والکناسۃ، حتى يصیر کأنه عش الطائر، وروي بالغین المعجمة من الغش ضد الخالص أي: لا تملؤه الخيانۃ او النمیمة، وقيل: کنایة عن عفة فرجها. والأوطاب: جمع قلة لوطب بفتحتين، وقيل: كفلس، وهو أسلقة البن.

تمخض: بصيغة المجهول: أي: تحرك لاستخراج الزبد من اللبن. ولدان: أي: مصاحبان لها، ولا يلزم من ذلك أن يكونا ولديها فلذلك أنت بقولها: "معها". كالفهدین: أي: مشبهان لهم في الوثوب واللعب وسرعة الحركة. الفهد: سبع مشهور يضرب به المثل في الوثوب.

يلعبان من تحت خَصْرُهَا بِرُّمَانِتِينَ، فَطَلَقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحَتْ بَعْدِهِ رَجُلًا سُرِيًّا، رَكْبَ شَرِيًّا، وَأَخْذَ خَطِيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيْ تَعْمَلَيْ ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رائِحةِ زَوْجٍ، وَقَالَ: كُلِّي أَمْ زَرْعٌ وَمِيرِي  
أَيِّ: أَعْطَانِي  
أَهْلَكَ، فَلَوْ جَمِعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَقَالَ لِي  
رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتَ لَكَ كَأَبِي زَرْعٍ لَأَمْ زَرْعٍ.

**خَصْرُهَا:** بفتح الخاء المهملة وسكون الصاد المهملة أي: وسطها. بـرمانتين: أي: ذات كفل عظيم، إذا استلقت يصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان، يلعب ولداها برمي الرمان في تلك الفجوة، أو ذات ثديين صغيرين كالرمانتين فيلعبان بهما. **فَطَلَقَنِي:** وفي رواية: فخطبها أبو زرع فتزوجها فلم تزل به حتى طلق أم زرع كذا في الفتح. سريا: بسين مهملة أي: من سراة الناس. سريا: [أي: فرسا يتشرى في مشيه أي: يلح فيه بلا فتور]. بالمعجمة: أي: فرساً يستشيري ويلح في سره بلا فتور ولا انكسار، وقال ابن السكري: فرساً فائقاً جداً. **خَطِيًّا:** بفتح الخاء المهملة ويكسر وتشديد الطاء المهملة المكسورة بعدها تحية مشددة، رمح منسوب إلى الخط قرية بساحل البحر عند عمان والبحرين.

**وَأَرَاحَ:** أي: أتى بعد الزوال. **نَعْمَا:** بفتحتين أي: أنعماماً من الإبل والبقر، وفي رواية: نعماً بكسر النون على أنه جمع نعمة، قال الحافظ: والأول أشهر. ثريا: بفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية، أي: كثيرة من الثروة، وهو كثرة المال. **رَائِحَة:** أي: كل ما يروح في المساء إلى المراح من الإبل والبقر والغنم، وفي رواية مسلم: ذاجحة أي: مذبوحة أي: أعطاني من كل شيء يذبح، وفي رواية الطبراني: من كل سائمة، كذا في الفتح.

**زَوْجَا:** [أي: أَعْطَانِي مَا يَرْوَحُ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ إِبْلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَعَيْدٍ وَدَوَابٍ اثْنَيْنِ أَوْ صَنْفَيْنِ]. **مِيرِي:** [أي: أَعْطَيَ أَقْارِبَكَ، مِنْ الْمِرَّةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَهِيَ: الْطَّعَمُ الَّذِي يَمْتَازُهُ الْإِنْسَانُ وَيَحْلِبُهُ لِأَهْلِهِ]. **كَأَبِي زَرْعَ:** [أي: مِنَ الْأَلْفَةِ وَالْعَطَاءِ لَا فِي الْفَرَقَةِ وَالْجَلَاءِ، فَالْتَّشِيهُ لَيْسَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، يَعْنِي فِي النَّفْعِ لَا فِي الضَّرِّ الَّذِي حَصَلَ بِطَلاقِهَا].

## بابُ ما جاء في صفة نوم رسول الله ﷺ

حدثنا محمد بن المثنى، أئبأنا عبد الرحمن بن مهدي، أئبأنا إسحاق، عن عبد الله بن يزيد، عن البراء بن عازب (رضي الله عنه): أن رسول الله ﷺ كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمين تحت خدّه الأيمن وقال: رَبِّنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبَعَّثُ عِبَادَكَ.

أي يوم القيمة

## باب۔ حضرور اقدس ﷺ کے سونے کا ذکر

فائدہ: یعنی حضرور اقدس ﷺ کس طرح سوتے تھے، سوتے وقت کیا کیا پڑھتے تھے۔ اس باب میں چھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں:

(۱) حضرت براء (رضي الله عنه) کہتے ہیں کہ حضرور اقدس ﷺ جس وقت آرام فرماتے اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے: رَبِّنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبَعَّثُ عِبَادَكَ۔ اے اللہ! مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچائیو۔

فائدہ: حصن حصین میں ہے کہ تین مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ دوسری حدیث میں حضرت عبد اللہ بن مسعود (رضي الله عنه) سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا یہ عام معمول تھا جس کو متعدد حضرات نے سُنَ حضرور اقدس ﷺ کا معمول ہونے کے باوجود اس قسم کی دعاؤں کو پڑھنا یا اظہار عبیدت کے لئے ہوتا تھا کہ بندگی کا مقتنصی مولی سے مانگنا ہی ہے، یا امت کی تعلیم کے لئے۔ اس حدیث سے حضرور اقدس ﷺ کا دائیں کروٹ پر سونا معلوم ہوتا ہے اور یہی حضور کا دائی معمول تھا، اسی وجہ سے دائیں کروٹ پر سونا مستحب بھی ہے اور اس میں ایک خاص مصلحت بھی ہے وہ یہ کہ آدمی کا دل چونکہ سینہ کے باائیں طرف ہوتا ہے اس لئے دائیں کروٹ پر سونے سے وہ اوپر رہتا ہے اور استغراق کی اور گھری نیند نہیں آتی، بلکہ آدمی چونکنما سوتا ہے، اور اگر باائیں کروٹ پر سوتا ہے تو دل نیچے کی جانب ہوتا ہے اور اس صورت میں گھری نیند آتی ہے، اس وجہ سے بعض اطباء نے باائیں جانب سونے کو اچھا بتایا ہے کہ گھری نیند آنے سے ہضم بہتر ہوتا ہے،

نوم اخ: هو غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء. ولما كان النوم بعد السمر غالباً ناسب أن يذكره بعده. [أو حالة طبيعية تتعطل معها القوى بسبب ترقى البحارات إلى الدماغ، تتعطل الحواس الخمسة والشعور والإدراك.] مضجعه: [إذا استقر في محل اضطجاعه لينام فيه] بفتح الميم والجيم ويكسر محل الاضطجاع، والمراد بأخذ المضجع: النوم فيه، فالمعنى: إذا أراد النوم واستقر في المضجع لينام. الأيمن: [وضع راحته مع أصابعه اليمين تحت شقه الأيمن من وجهه.] قفي: [أي: جنبي عذابك].

حدثنا محمد بن المثنى، أَبْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَبْنَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ  
عبد الله مثله، وقال: يوْم تجْمَعُ عِبادُكَ. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا  
سفِيَانٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَبِيعِي بْنِ حِرَاشَ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

اور یہ صحیح ہے، لیکن اس میں ایک مضرت بھی ہے جس کی طرف ان کا ذہن نہیں گیا، وہ یہ کہ جب دل نیچے کی جانب ہو گا تو تمام بدن کا ذرہ اُس پر پڑے گا اور بدن کا مواد اُس پر اٹھ کرے گا۔ دل اعضاً رئیسہ میں اہم عضو ہے اُس پر مواد کا تھوڑا سا اثر ہونا بھی بہت سے امراض کا سبب ہے، اس لئے دائیں کروٹ پر سونے میں اگر ایک طبی مصلحت ہے تو ایک طبی مضرت بھی ہے اور مضرت سے بچنا زیادہ اہم ہے، اس لئے طبی حیثیت سے بھی دائیں کروٹ پر سونا بہتر ہے اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر لیٹانا موت کے بعد قبر میں لیتے کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور موت کو یاد کرنے کا حکم بھی ہے، اور دینی دنیوی بہت سے فوائد موت کو یاد رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ آدمی کو چاہئے کہ اس لذتوں کے ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرے اور حق تو یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کو کیسے بھولے جو بہر حال آنے والی ہے، نہ معلوم کب آجائے۔

(۲) حضرت حذیفہ رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ جب بستر پر لیتے تو اللَّهُمَّ يَا سَمِيكَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأَحْيَا. پڑھتے تھے۔ یا اللَّهُمَّ تَبَارَكْتَ بِنَامِكَ (یعنی سوتا) ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا (یعنی سو کر انہوں گا) فائدہ: نوم موت کے مشابہ ہوتی ہے اس لئے سونے کو مرنے سے اور جاگنے کو زندگی سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور اس لئے بھی سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹانا چاہئے کہ سونا مرنے کا نمونہ ہے۔ اور جب جاگتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَا نَاسًا مِّمَّا مَاتُوا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ تمام تعریف اُس اللہ جل جلالہ کے لئے ہے جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی پاک ذات کی طرف قیامت میں لوٹا ہے۔ (یا زندگی کی پریشانیوں میں وہی مرجع ہے)

فائدة: چونکہ نیند موت کے مشابہ تھی اس لئے جاگنے کو دوبارہ زندہ ہونے سے تعبیر کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ اسی طرح مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ درحقیقت حق تعالیٰ جل جلالہ نے اس دنیا کو آخرت کی مثال بنایا ہے اور عبرت اور غور کے واسطے ہر قسم کی چیزیں یہاں پیدا فرمائیں۔ دنیا کی ساری زندگی

إِذَا أُوْيَ إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَ، وَإِذَا اسْتَقِيظَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَنَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ التَّشْوُرُ. حَدَّثَنَا قُتْبَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُفْضَلُ بْنُ فَضَّالَةَ، عَنْ عَقِيلٍ:  
أَرَاهُ عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،

ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نہایت خوش حال ہے، متمول ہے، ہر قسم کی راحت کے سامان اُس کے پاس موجود ہیں، کسی قسم کی اُس کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، وہ خواب میں اگر اپنے کو قید میں کوڑے کھاتا ہوادیکھے، ہر قسم کی مصیبتوں میں گرفتار دیکھے، وہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ خواب ہے، وہ اُس سے پریشان بھی ہے، رو بھی رہا ہے، لیکن دفعۃ آنکھ کھل جاتی ہے، وہ سب راحت و آرام مل جاتے ہیں، اس خواب کی تکلیف کا ذرا بھی احساس اُس کو نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک دین دار کا حال سمجھ لو، وہ اس دنیا میں جتنی بھی تکالیف اٹھائے، وہ خواب ہے، اگر آنکھ کھلنے کے بعد اُس کو ساری راحتوں میسر ہیں تو اس خواب کا کیا اثر اُس پر ہو سکتا ہے۔ اس کے بال مقابل حضرت سے غور کرو اُس تھی دست پر تو اس خواب کی راحت و آرام کو لے کر وہ کیا چاٹ لے گا۔ ایک بامشقت سزا کا قیدی خواب میں اپنے کو ہفت اقلیم کا بادشاہ بنا ہوادیکھے، لیکن آنکھ کھلنے کے بعد وہ جیل کی اندر ہیری کو ٹھری میں ہے، ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، تو اس خواب کی بادشاہت سے اُس کو کیا ملا۔ اس گر کو صحابہ نے سمجھا تھا اس لئے وہ دنیا میں ہر مشقت کو لطف ولذت سے برداشت کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ خواب ہے۔ حق تعالیٰ بل شما اپنے لطف سے ہم لوگوں کو بھی یہ دولت نصیب فرمادے تو اُس کے کرم سے بعید نہیں۔

اللهُمَّ: أَيْ: يَا اللَّهُ، فَالْمِيمُ عَوْضُ مِنْ "يَا" وَلَذَا لَا يَجْمِعُنَانِ إِلَاشْذُوذًا، كَمَا قَالَ ابْنُ الْمَالِكِ: وَشَدَ "يَا اللَّهُمَّ" فِي قَرِيضِ أَيِّ: شِعْرِ الشُّورِ: [الرَّجُوعُ لِلثَّوَابِ أَوِ الْعِقَابِ، أَوِ إِلَيْهِ الْإِحْيَا بَعْدَ الْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] أَيِ التَّفْرِقُ فِي أَمْرِ الْمَاعِشِ كَالْأَفْتَرَاقِ حَالِ الْمَعَادِ، وَقَيْلُ النُّشُرِ هُوَ الْحَيَاةُ بَعْدَ الْمَمَاتِ. الْمُفْضَلُ: بَفْتَحِ الضَّادِ الْمَعْجَمَةِ الْمَشَدَّدَةِ، ابْنُ فَضَّالَةَ بَفْتَحِ الْفَاءِ.

أَرَاهُ: بضم المهمزة، قال البيحوري: قائله المفضل، والضمير المتصوب لعقيل يعني قال المفضل: أظن عقيلاً رواه عن الزهري. قلت: والحديث أخرجه المصنف في جامعه بهذا السندي والمتزن بعينه، وليس فيه لفظ: "أراه" بل قال عقيل: عن ابن شهاب إلخ فلعله وقع السهو لأحد من الرواة.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، جمع كفيه فنث فيهما، وقرأ فيهما: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده،

(۳) حضرت عائشة رضي الله عنها کہتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ہر شبانہ جب بستر پر لیٹتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر ان پر دم فرماتے اور سورۃ اخلاص اور معوذۃ تین پڑھ کر تمام بدن پر سر سے پاؤں تک جہاں جہاں ہاتھ جاتا، ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ تین مرتبہ ایسی ہی کرتے، سر سے ابتداء فرماتے اور پھر منہ اور بدن کا اگلا حصہ، پھر بقیہ بدن پر۔

فائدہ: نبی کریم ﷺ سے سونے کے وقت مختلف دعائیں پڑھنا بھی ثابت ہے اور کلام اللہ کی مختلف سورتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث میں حضور کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی سورت سوتے وقت پڑھے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ محافظ اُس کے لئے مقرر ہو جاتا ہے جو جانے کے وقت تک اُس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ خود حضور اکرم ﷺ سے تین سورتوں کا پڑھنا حدیث بالا میں وارد ہے ان کے علاوہ مسجات یعنی ان سورتوں کا پڑھنا جو سیع، یُسَبِّحُ، سُبْحَانَ، سَبَّحْ سے شروع ہوئی ہیں، وارد ہے۔ نیز الم سجدہ اور تبارک الذی کا ہمیشہ پڑھنا وارد ہے۔ نیز آیتہ الکرسی اور سورۃ بقرہ کی اخیر دو آیتوں کا پڑھنا بھی وارد ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سوتے ہوئے ہمیشہ قل یا ایها الکافرون پڑھ کر سویا کرو۔ ان کے علاوہ بہت سی دعائیں پڑھنا بھی حضور سے ثابت ہے۔ (فتح الباری)

فنث إلخ: [أي: نفح فيهما نفعاً حفيضاً غير ممزوج بريق] ظاهره تقديم النفث على القراءة، وأوضاع منه ما في بعض طرق الحديث من لفظ: ثم نفث فقرأ، واستبعد ذلك بعض العلماء بأنه لا فائدة فيه، وحمله على وهم الرواية. وأصحاب بعضهم بأن الحكمة في مخالفة السحرة، وقيل: معناه: ثم أراد النفث فقرأ ونفث، وبعضهم حمله على التقدم والتأخير بأنه قرأ ثم نفث، وقال بعضهم: إن النفث وقع قبل القراءة وبعدها أيضاً، وأما رواية هذا الكتاب بلفظ الواو فأشخف إشكالاً، لأن الواو لمطلق الجمع، وكذلك رواية البخاري بالواو، وقال شارح من علمائنا: هو الوجه؛ لأن تقديم النفث على القراءة لم يقل به أحد، وقال الفراء: لا تفيد الفاء للترتيب؛ لقوله تعالى: ﴿أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا يَيَاتِنَا﴾ [الأعراف: ٤] وأجيب: بأن المعنى أردنا إهلاكاً أو هي للترتيب الذكري. وفي القاموس: إن الفاء تأتي بمعنى الواو قاله القاري، ومثال الحافظ في الفتح إلى تقديم القراءة على النفث. وقرأ فيهما: [يعني السور الثلاث بكمالها]. مسح بهما: [فوق الشوب، وهو: ما وصلت إليه يده من بدنه].

يصنع ذلك ثلاث مرات. حدثنا محمد بن بشّار، حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن كربل، عن <sup>(٤)</sup> ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نام حتى نفح، وكان إذا نام نفح، فأتاه بلال فآذنه بالصلوة، فقام وصلّى ولم يتوضأ، وفي الحديث قصة. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عفان، حدثنا حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن <sup>(٥)</sup> أنس بن مالك رضي الله عنه:

(٤) ابن عباس رضي الله عنهما كہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ایک مرتبہ سوئے اور خراۓ لینے لگے۔ حضور کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب سوتے تو خراۓ لیتے تھے، پس حضرت بلال رضي الله عنهما نے آکر نماز کی تیاری کی اطلاع دی، حضور تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی، وضو نہیں کیا۔ اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔ فائدہ: انبیاء عليهم السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، اس لئے حضور نے وضو نہیں فرمایا، اور اس کی وجہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ سونے کی حالت میں انبیاء کی آنکھ سوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا، وہ جاتا رہتا ہے، اسی وجہ سے انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے کہ شیطان کے اثر سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ قصہ جس کی طرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے، ابن عباس رضي الله عنهما کے اپنی خالہ کے گھر سونے کے متعلق ہے، جو آئندہ باب کی پانچویں حدیث میں مفصل مذکور ہے۔ اس باب سے اس کو کچھ تعلق نہیں تھا اس لئے مصنف نے اس کو اختصار آجھوڑ دیا۔

(٥) أنس رضي الله عنهما كہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مَمِّنْ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُؤْوِي. تمام تعریفیں اللہ بن علی رضي الله عنهما کے لئے ہیں جس نے شکم سیر فرمایا اور

يصنع ذلك: [أي: المذكور من جمع الكفين والنفث فيهما والقراءة والمسح]. نفح: [أي: أخرج الريح من فمه بصوت، وذلك عند استغراق النائم في نومه]. ولم يتوضأ: قال البيحوري: لأن من خصائصه رضي الله عنهما أن نومه لا ينقض وضوءه؛ لبقاء يقطة قلبه كما في الحديث: نحن معاشر الأنبياء، ننام أعيننا ولا ننام قلوبنا. فهذه خصوصية له رضي الله عنهما على أمته لا على باقي الأنبياء. قصّة: [هي نوم عبد الله ابن عباس عند حالته ميمونة وصلاته مع النبي صلوات الله عليه وآله وسلام بالليل، وستأتي في الحديث مفصل من باب عبادته رضي الله عنهما] قال البيحوري تبعاً لغيره: ستأتي قريباً في الحديث الخامس من باب عبادته رضي الله عنهما من نوم ابن عباس عند حالته ميمونة رضي الله عنهما. قال المناوي: ذهل شارح زعم أنها في كتاب آخر كالمشكوة.

أنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُوْتَ إِلَى فَرَاشِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمْنَ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ.

سیراب کیا اور ہماری مہمات کے لئے خود کفایت فرمائی اور سونے کے لئے ٹھکانا مرحمت فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے نہ کوئی ٹھکانا دینے والا ہے۔

فائدہ: چونکہ عادت اللہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ جل جلالہ پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، حق تعالیٰ بھی اس کے کاموں کو غیب سے پورا فرماتے ہیں۔ ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ۳] جس کا کسی نے ترجمہ کیا ہے: خدا خود میر سلان است ارباب توکل را۔ اور حضور اقدس ﷺ میں یہ مضمون علی وجہ الاتم ہونا ہی چاہئے تھا، اس لئے وہاں کفایت بھی علی وجہ الاتم ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو شخص جتنا زیادہ بھروسہ اللہ جل جلالہ پر کرتا ہے اتنا ہی حق تعالیٰ بل شما اس کی طرف سے اس کی اعانت ہوتی ہے۔ متعدد احادیث میں مختلف عنوانات سے یہ مضمون وارد ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے: جس شخص کو فاتح پہنچے اور وہ لوگوں سے اس کے ازالہ کی درخواست کرے تو اس کی حاجت پوری نہیں کی جاتی اور اگر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرے تو بہت جلد کسی نہ کسی طرح سے اس کی ضرورت پوری کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں حق تعالیٰ بل شما کا ارشاد ہے: آدمی کے پنج! اگر تو میری عبادت کے لئے فارغ ہو جائے تو میں تیری ضرورتوں کو پورا کروں اور تیرے دل کو غنا سے بھر دوں، ورنہ تیرے دل کو تفکرات سے بھر دوں گا اور ضرورتیں پوری نہ ہونے دوں گا۔ جو لوگ دینی کاموں میں مشغول ہونے کے لئے ضروریات سے فراغت کا انتظار دیکھا کرتے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ ضروریات سے فراغت کا راستہ ہی اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اس کے کاموں میں مشغول ہونا ہے۔ حدیث بالا میں جو دعا نقل کی گئی ہے اس میں حضور اقدس ﷺ نے شکر کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اپنی حالت میں شکر کرنا ضروری ہے کہ زیادتی انعام کا ذریعہ ہے۔ حق تعالیٰ بل شما کا ارشاد ہے: ﴿إِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيَدَنَّكُمْ﴾ [ابراهیم: ۷] اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں

اطعمتنا وسقانا: قيل: ذكرهما؛ لأن الحيوة لا تتم بدونهما كالنوم، فالثلاثة من واد واحد فكان ذكره مستديعاً للذكرهما، وأيضاً النوم فرع الشبع والري. وكفانا: [أي: كفانا مهماتنا ورفع عنا أذياتنا]. وآوانا: [أي: رذنا إلى مسكننا ولم يجعلنا من المنشرين كالبهائم في الصحراء]. فكم من: [أي: كم من الخلق لا كافي له ولا مؤوي على الوجه الأكمل].

حدثنا الحسين بن محمد الجعوبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر بن عبد الله المزنني، عن عبد الله بن رباح، عن <sup>(١)</sup> أبي قتادة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه و وضع رأسه على كفه.

اسمه الحارث بن ربي الأنصاري المحرري  
[البعن]

اپنے احسانات میں اضافہ کروں گا، اور اس طرف متوجہ فرمایا کہ اپنے سے کمتر کی حالت کی طرف بھی غور کرنا چاہئے تاکہ شکر دل سے نکلے، کتنے آدمی دنیا میں ایسے ہیں جن کو کھانا میسر نہیں فاقہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ٹھکانا نصیب نہیں بے ٹھکانے گزر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی حامی مددگار نہیں ہے جو مصائب میں کوئی اعانت کر سکے، اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں جس نے یہ سب کچھ عطا فرمائے ہے۔

(٢) ابو قتادة رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ (سفر میں رات کو چلنے کے بعد) اگر اخیر شب میں کچھ سوریے کسی جگہ پر ڈاؤ ڈلتے تو دیکھ کر ٹھہرنا فرماتے، اور اگر صبح کے قریب ٹھہرنا ہوتا تو اپنا دیاں بازوں کھڑا کرتے اور ہاتھ پر سر رکھ کر کچھ آرام فرمائیتے۔ فائدہ: مقصود یہ ہے کہ اگر وقت وسیع ہوتا تو لیٹ کر سو جاتے تھے اور عادت شریفہ دائیں کروٹ پر لینئے کی تھی ہی، لیکن اگر وقت قلیل ہوتا تو پھر ہاتھ پر نیک لگا کر تھوڑی دیر آرام فرمائیتے، ایسے وقت میں بالکل لیٹ کر آرام نہ فرماتے تھے کہ نیند گھری آجائے اور نماز فوت ہو جائے، بلکہ کہنی پر نیک لگا کر سر مبارک کو ہاتھ پر رکھ کر تھوڑا آرام کر لیتے تھے۔

الجريري: قيل: مهملا مفتونحة مكترا، وقيل: بحيم مضمومة مصغرأ، صوبه ابن حجر في شرح الشمائل، ورجح القاري الأول وقال: في نسخة ضعيفة بالجيم المضمومة. وسكت أهل الرجال عن ضبطه. عرس: التعريض: نزول القوم في السفر من آخر الليل للاستراحة، وقوله: "بليل" المراد به زمن ممتد، بدليل قوله في الشق الثاني: قبيل الصبح. على كفه: [لأنه أعون على الانتباه، ولا يستغرق في النوم على هذه الهيئة.]

## باب ما جاء في عبادة رسول الله ﷺ

حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قالا: أخبرنا أبو عوانة، عن زياد بن علامة،  
الوضاح

### باب - حضور اقدس ﷺ کی عبادت کا ذکر

فائدہ: حضور اکرم ﷺ کی ہر حرکت و سکون عبادت ہے، ہر کلام و خاموشی ذکر و فکر ہے، لیکن مثل کے طور پر شائق کا جزو ہونے کی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چند عبادات کا ذکر کیا ہے جس سے اندازہ ہو جائے کہ نبی کریم ﷺ معموم ہونے کے باوجود مغفرت اور مراتب عالیہ کے حصول کا پروانہ ملنے کے باوجود، اُس مرتبہ پر فائز ہو جانے کے باوجود جہاں تک نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے نہ کوئی نبی پہنچا، کس قدر نقلی عبادات کا اہتمام فرماتے تھے، اور ہم لوگ جو امتی کھلاتے ہیں، حضور کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کے مقابلے اور قول کے لئے بھی ہم عبادات کے حضور سے زیادہ محتاج ہیں، پھر ہماری عبادتیں بھی ایسی ہیں جن کا پورا معاوضہ تو درکنار، ان کا کوئی بھی معاوضہ مل جائے تو با غیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر عبادت کا وزن اور اس کی قیمت اخلاص پر مبنی ہے، جس درجہ کا اخلاص ہو گا اسی درجہ کا عبادت میں وزن ہو گا۔

العبادة: [هو فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه، والمراد بها ههنا النافلة الزريادة على الواجبات] قال المناوي:  
العبادة أقصى غاية الخصوع، وتعارف في الشرع فيما جعل علامه لنهاية الخصوع من صلوة وصوم وجهاد وقراءة. قال  
القاري: والمراد بها ههنا الزريادة على الواجبات. وانختلف هل كان ﷺ قبل النبوة متبعاً بشرع من قبله؟ فقال الجمهور: لا،  
وإلا لنقل، وقال إمام الحرمين: بالوقف، وقال آخرون: نعم، ثم أحجم بعضهم عن التعين وجسر عليه بعضهم، وعلى هذا  
فقيل: آدم، وقيل: نوح، وقيل: إبراهيم، وقيل: موسى، وقيل: عيسى، وقيل: جميع الشرائع، وقال السراج البليقيني في شرح  
البخاري: لم يجيء في الأحاديث التي وقفنا عليها كيفية تعبيده، لكن روى ابن إسحاق وغيره: أنه ﷺ كان يخرج إلى حراء في  
كل عام شهراً يتسلك فيه. قال القاري: الظاهر أنه ﷺ كان متبعاً بالعبادات الباطنية من الأذكار القلبية والتفكير في الصفات  
الإلهية والمصنوعات الآفاقية على ما يكون حال كمل الأولياء، ولذا قيل بداية الأنبياء نهاية الأولياء، وما قال بعضهم "بداية  
الولي نهاية النبي" فإنما هو باعتبار التكاليف الشرعية من الأوامر الفرضية والزواجر المنهية، فما لم يتصرف السالك بما انتهى إليه أمر  
دينه لم يدخل في باب الولاية. علاقة: بكسر العين وتخفيف اللام والكاف، ووهم من فتح العين، كلها في الشروح.

عن <sup>(۱)</sup> المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله ﷺ حتى انتخفت قدماه،

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اُس کے لئے اُس نماز کا دسوال حضرت لکھا جاتا ہے، کسی کے لئے نواں، اسی طرح آخر نماز، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھائی، تہائی اور آخر حضرت لکھا جاتا ہے (ابو داؤد) اور دسوال بھی مثال کے طور پر ارشاد ہے ورنہ اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے اول نماز کا حساب ہو گا، حق تعالیٰ جل جلالہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کی نماز کو دیکھو، پوری ہے یا ناقص ہے، اگر وہ پوری ہو گی ہے تو جائزہ میں پوری لکھ دی جائے گی اور اگر ناقص ہو گی تو ارشاد ہو گا کہ دیکھو اس کے لئے کچھ نوافل بھی ہیں یا نہیں، اگر نوافل ہوتی ہیں تو ان سے فرائض کی تکمیل کر دی جاتی ہے، اُس کے بعد پھر اسی طرح دوسری عبادات زکوٰۃ وغیرہ کا محاسبہ ہوتا ہے (ابو داؤد) ہم لوگوں کے فرائض جیسے ادا ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی معلوم ہیں، ایسی صورت میں کیا ضروری نہیں کہ نفلی عبادات نماز کے قبلہ سے ہوں یا صدقات کے یا اور دوسری عبادات کے، نہایت کثرت و اہتمام اور اخلاص سے کی جائیں؟ عدالت میں پوشی کا وقت نہایت سخت ہے اور ہمارے اعمال کے دو گمراں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، اسی لئے حضور کا ارشاد ہے کہ الگیوں پر کلمہ طیبہ اور تسیحات کو گناہ کرو کہ قیامت کے دن ان الگیوں سے بھی محاسبہ ہو گا کہ اپنے اپنے اعمال بتائیں اور ان کو گویا کی عطا کی جائے گی، اور حضور پر میرے ماں باپ قربان! کہ آپ کا نمونہ ہر چیز میں ہمارے سامنے ہے۔ اس باب میں چوبیس حدیثیں ہیں۔

(۱) مغیرہ بن شعبہ رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ اس قدر لمبی نفلیں پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک و رم کر گئے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اس قدر مشقتوں برداشت کرتے ہیں! حالانکہ حق تعالیٰ نے آپ کے اول و آخر سب گناہ بخش دیے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا (کہ جب حق بجل جلالہ نے مجھ پر اتنا انعام فرمایا ہے) تو کیا میں اُس کا شکر ادا نہ کروں؟ فائدہ: سائل کی غرض بظاہر یہ تھی کہ کثرتِ عبادت معاصلی کے کفارہ کے لئے ہوتی ہے۔ جب آپ معصوم ہیں آپ سے گناہ صادر ہی نہیں ہوتا پھر آپ کو اس درجہ مشقتوں برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے اُس کا جواب فرمادیا کہ

صلی رسول الله: [أي: اجتهد في الصلاة]. انتخفت قدماه: [تورمت قدماه الشريفتان من طول قيامه واعتماده عليهما].

فَقِيلَ لَهُ أَتَكْلَفُ هَذَا! وَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِكَ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأْخِرُ، قَالَ: أَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا؟ حَدَثَنَا أَبُو عَمَّارُ الْحُسْنَى بْنُ حُرَيْثَ، أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمَرَ،

عبادت کی یہی ایک غرض نہیں ہوتی، بلکہ مختلف وجوہ سے ہوتی ہے اور جب اللہ نے میرے سارے گناہ معاف فرمادیے تو اس کا مقضیا تو یہی ہے کہ میں اُس کے احسان کے شکر میں کثرت سے عبادت کروں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ عبادت کبھی جنت وغیرہ کی رغبت کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ تاجریوں کی عبادت ہے کہ عبادت سے خریداری مقصود ہے۔ یہاں قیمت ادا کی جا رہی ہے وہاں مال جائے گا۔ اور کبھی عبادت خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے کہ ڈنڈے کے خوف سے کام کرتے ہیں، جیسا نو کروں کا عام دستور ہوتا ہے۔ ایک وہ عبادت ہے جو بلا رغبت و بلا خوف حضن اللہ کے انعامات کے شکر میں ہو، یہ احرار کی عبادت ہے۔ حدیث بالا میں گزارا ہے کہ حق تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کے سب گناہ معاف فرمادیے اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ گناہ تو آپ سے صادر ہوئے لیکن حق تعالیٰ جل جلالہ نے معاف فرمادیے، حالانکہ اندیاء علیم اللہ موصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا۔ اس کے بہت سے جواب علماء نے مرحمت فرمائے ہیں جو اپنے موقعوں پر درج ہیں، بالخصوص سورہ إِنْتَفَتْحَنَا کی تفسیروں میں مختلف جواب نقل کیے گئے ہیں۔ بنده کے نزدیک سہل یہ ہے کہ حسنات الأبرار سیئات المقربین (نیک لوگوں کی خوبیاں مقربین کے لئے گناہ بن جاتی ہیں) ہر شخص کے گناہ اُس کے درجہ کے مناسب ہوتے ہیں۔ آپ کے درجہ اور رتبہ کے مناسب جو کوتا ہیاں شمار کی گئیں وہ ایسے امور ہیں جو ہمارے لئے عین طاعت ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ حضور اقدس ﷺ کافر سرداروں کے اسلام لانے کی توقع اور امید میں ان سے گفتگو فرمائی ہے تھے جو عین دین تھا، اس وقت ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے آکر کچھ بات کی جس کی طرف حضور ﷺ کو ان لوگوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کا درمیان میں دخل دینا گراں ہوا۔ اس پر سورہ عبس میں حضور پر تنبیہ ہوئی۔

فَقِيلَ: قَالُوا: الْقَائِلُ عُمَرُ. أَتَكْلَفُ: التَّكْلِيفُ اسْمٌ لَا يَصْنَعُهُ الْإِنْسَانُ بِعِشْقَةٍ أَوْ تَصْنِعَ، الْأَوَّلُ مُحَمَّدٌ وَالثَّانِي مَذْمُومٌ، وَمِنْ الْبَيْنِ أَنَّ الْمَرَادَ هُنَّا الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي، وَالْمَعْنَى: أَتَلْزُمُ نَفْسَكَ هَذِهِ الْكَلْفَةَ وَالْمَشْقَةَ الَّتِي لَا تَطَاقُ. أَفَلَا أَكُونَ: عَطْفٌ عَلَى مَقْدَرِ أَيِّ: أَتْرَكُ صَلَاتِي اعْتِمَادًا عَلَى الْغَفْرَانِ فَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا؟ وَلَا يَخْفَى ذِكْرُ "الْعَبْدِ" فِي هَذَا الْمَقَامِ أَدْعُى إِلَى الشَّكْرِ عَلَى الدَّوَامِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَاحَظَ كُونَهُ عَبْدًا أَنْعَمَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِشَكْرِهِ. شَكُورًا: [أَيِّ: إِذَا أَكْرَمَنِي مُولَّايَ بِغَفْرَانِهِ أَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا لِإِلْحَانِهِ]. حَرِيْثَ: بِضمِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ الْمَهْمَلَتَيْنِ فَتْحَتِيَةٌ سَاكِنَةٌ فَمُثَلَّةٌ.

عن أبي سلمة، عن <sup>(۱)</sup>أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يصلّي حتى تُرمي قدماه، قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك: أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلأكون

عبدًا شكوراً؟ حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرّملي،

نسبة إلى رملة كطمة من بلاد الشام

اسی طرح جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے غایت شفقت اور رحمت کی وجہ سے اس موقع پر کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں یا ان کی نسل سے مسلمان پیدا ہوں، ندیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا تو قرآن پاک میں اس پر تنبیہ ہوئی۔ غرض اس نوع کے واقعات ہیں جو حضور کی علیشان کے لحاظ سے وہ تقدیر شمار کیے گئے۔

(۲) ابو ہریرہ رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ اس درجہ نوافل پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں پر درم ہو جاتا تھا۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ پر اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کی بشارت نازل ہو چکی ہے پھر آپ اس درجہ کیوں مشقت برداشت فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟

فائدہ: حضرت عائشہ رضي الله عنها سے بھی اس شکریہ کے بارے میں ایک مفضل روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عائشہ رضي الله عنها سے عرض کیا کہ حضور اقدس ﷺ کی کوئی عجیب ترین بات نہ میں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی کوئی بات ایسی تھی کہ جو عجیب ترین نہ تھی، اُس کے بعد فرمانے لگیں۔ ایک رات کا قصہ ہے کہ سونے کے لئے مکان پر تشریف لائے اور میرے پاس میرے لحاف میں لیٹ گئے، لیتے ہی تھوڑی سی دیر میں فرمایا کہ چھوڑ! میں تو اپنے رب کی عبادت کروں، یہ فرمائ کھڑے ہو گئے، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور رونا شرع کر دیا، یہاں تک کہ سینہ مبارک تک آنسو بہہ کر آنے لگے، اُس کے بعد رکوع کیا اُس میں بھی روتے رہے، پھر سجدہ کیا اُس میں بھی روتے رہے، پھر سجدہ سے اٹھا اور روتے رہے۔ غرض صحیح تک ہی کیفیت رہی، حتیٰ کہ بلاں صحیح کی نماز کے لئے بلاز کو آگئے۔

ترجم: [أصله تورم، وإنما تورمت قدماه؛ لأنه بسبب طول القيام تنصبَّ المواد من أعلى البدن إلى أسفله، ومن ثم يسرع الفساد إلى القدم قبل غيره من الجسد] بحسب الفعل بإضمار "أن" بعد "حتى" وهو بفتح المثلثة وكسر الراء وتخفيف الميم على وزن "تعد" وفي نسخة: حتى تورم بناءً على أنه فعل ماض أو مضارع بمحذف إحدى تائيه. أفلأ تكون أَنْ الفاء للعطف على المقدر، تقديره: أَنْترك فلا أكون إلخ عف.

حدثني عمي يحيى بن عيسى الرّملي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن<sup>(٣)</sup> أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يقول يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: يا رسول الله! أفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟

میں نے عرض کیا: حضور آپ اس قدر کیوں روئے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے الگ پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا: میں ایسا کیوں نکرنہ کرتا حالانکہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اُس کے بعد إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ [آل عمران: ۱۹۰] سورۃآل عمران کے آخر رکوع کی آیت تلاوت فرمائی۔

(۳) نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نماز اتنی طویل پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک درم کر آئے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ اتنی طویل نماز پڑھتے ہیں حالانکہ آپ کے سب گناہ اولین و آخرین معاف ہو چکے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ فائدہ: امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اہتمام کی وجہ سے تین طریقوں سے اس مضمون کو ذکر کیا۔ ان روایات پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم ﷺ سے مختلف طریقوں سے طاقت سے زیادہ مجاہدات اور عبادات کی ممانعت وارد ہوئی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ آدمی صرف عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے، حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمادیا کہ میں نے جن و انس کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جب بھی اصل مقصد پیدائش کا ہے تو اس میں جتنا بھی اضافہ اور اہتمام اور زیادتی ہوگی وہ مدرج اور پسندیدہ ہوگی۔

يقوم يصلي: [أي: يقوم بالليل حال كونه يصلي]. تنتفخ: بصيغة التأنيث، ويروى بالتدكير من الانتفاخ. قال القاري: ذكر المصطفى الحديث بالأسانيد الثلاثة للتأكد والتقوية. قلت: ويشكل على هذه الروايات ما ورد من النهي عن التشديد في العبادة، كما بسط الروايات المختلفة في ذلك صاحب إقامة الحجة، ثم قال: وخلاصة المرام أن الإكثار من المواجهات والرياضات ليس ببدعة ولا بمنهي عنه في الشرع، بل هو أمر حسن مرغوب فيه لكن بشروط، ثم ذكر لها عشرة شرائط، فارجع إليه لوضحت التفصيل. وقال الحافظ في الفتح تحت حديث الباب: فيه أخذ الإنسان على نفسه بالشدة بالعبادة وإن أضر ذلك بيده، وحمله ما إذا لم يفض إلى الملال، وعليه يحمل قوله ﷺ: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. تفعل هذا: [أتفعل هذا الاجتهاد والتكلف].

حدثنا محمد بن بشّار، أَنَّبَانَا مُحَمَّدَ بْنَ جعْفَرَ، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن<sup>(٤)</sup> الأسود بن يزيد قال: سأّلت عائشة رضي الله عنها عن صلوة رسول الله ﷺ بالليل، فقالت: كان ينام أوّل الليل ثم يقُومُ، فإذا كان من السحر أو تر، فربما من السحر

اس کے بعد زیادتی کی ممانعت جہاں وارد ہوئی ہے وہ عوارض کی وجہ سے ہے، جہاں کوئی عارض اور مانع پیش آجائے گا وہاں غیر مسخن ہو جائے گی۔ منجدہ ان عوارض کے آکتا جانا اور گھبرا کر بالکل ترک کر دینا ہے۔ مثل مشہور ہے: ”نہ بھاگ کر چلنائے اکھڑ کر گرنا“۔ احادیث منع میں اسی طرف اشارہ ہے، چنانچہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اعمال اسی قدر کرو جتنے کا تحمل ہو سکے، اللہ جل جلالہ ثواب عطا کرنے سے نہیں دریغ فرماتے جب تک کہ تم عمل سے نہ آتا جاؤ۔ اسی لئے علماء مجاهدات کی زیادتی سے روکتے ہیں کہ مبادا آلتا کر بالکل ہی ترک ہو جائے، بھی کریم اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند تھی، وہاں آلتا جانے کا کیا احتمال پیدا ہو سکتا ہے جب کہ حضور کا ارشاد ہے کہ میری آنکھ کی مٹھنڈ ک نماز میں ہے۔ اور کیوں نہ ہوتی جب کہ نماز اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہے، تو حضور جیسے مخلاص بندے کے لئے آقا کے ساتھ سرگوشی میں جتنی بھی لذت ہو قرین قیاس ہے۔ آلتائے وہ جو اس لذت سے محروم ہو۔ اسی طرح دوسرا مانع جو احادیث میں وارد ہوا ہے حقوقِ لازمہ کی ادائیگی میں کوتاہی ہے کہ مجاهدات کی کثرت سے ضعف پیدا ہو کر حقوق میں کوتاہی ہو گی۔ حضور کے یہاں یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، اس لئے کہ جو قدسی ذات ان مجاهدات اور تقلیل طعام وغیرہ پر بھی ایک دفعہ میں نو یہیوں سے صحبت کر سکتا ہو وہاں ضعف کا کیا سوال! اسی طرح دیگر عوارض کا حال ہے جو حضور کے یہاں متین تھے، اس لئے ان جیسی روایات پر کوئی اشکال نہیں ہے۔

(۲) اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے حضور اقدس‌اللہ‌ تعالیٰ کی رات کی نماز یعنی تجد و تر کے متعلق استفسار کیا کہ حضور کا کیا معمول تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور ﷺ (عشاء کی نماز کے بعد) شب کے نصف اول میں استراحت فرماتے تھے، اُس کے بعد تجد پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ اخیر شب ہو جاتی تب وتر پڑھتے، اُس کے بعد اپنے بالليل:

[أَيْ: فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنْهُ، وَالْمَرَادُ بِصَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ مَا يَشْمَلُ الْوَتَرَ وَالْتَّهَجَدَ]. يقُومُ: أَيْ: يَصْلِي؛ إِنْ قِيَامُ اللَّيْلِ متعارف في الصلوة فيه فيستمر يصلي السادس الرابع والخامس.

ثُمَّ أتَى فِرَاشَهُ فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنْسٍ.

الإضافة: آب برتن ريخن

ح وحدثنا إسحاق بن موسى الأنباري، حدثنا معنٌ، عن مالك، عن مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ،  
عن كُرَيْبٍ، عن<sup>(٥)</sup> ابن عباس رضي الله عنهما: أنه أخبره: أنه بات عند ميمونة - وهي خالته - قال:  
إشارة إلى أنه حرم

بستر پر تشریف لے آتے، اگر غبت ہوتی تو اہل کے پاس تشریف لے جاتے یعنی صحبت کرتے، پھر صبح کی اذان کے بعد فوراً اٹھ کر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے ورنہ وضو فرمایہ نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔

فائدہ: اطباء کے نزدیک صحبت کے لئے بہترین وقت اخیر شب ہے کہ وہ اعتدال کا وقت ہے، نیز سوکر اٹھنے کے بعد طرفین کی طبیعت بھی نشاط پر ہوتی ہے۔ اول شب میں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ایسی حالت میں صحبت مضر ہوتی ہے اور بھوک کی حالت میں زیادہ مضر ہے، اخیر شب کا وقت اس لحاظ سے بھی اعتدال کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب طبی مصالح ہیں، شرعاً جواز ہر وقت حاصل ہے۔ نبی کریم ﷺ سے بھی اول شب اور دن کے مختلف اوقات میں صحبت کرنا ثابت ہے۔ البتہ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ میں نماز کے وقت اگر صحبت کی جائے اور اس سے حمل شہر جائے تو وہ اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے۔

(٥) حضرت ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں ایک رات (لڑکپن میں) اپنی خالہ حضرت میمونہ (ام المؤمنین رضي الله عنها) کے یہاں سویا۔ حضور القدس ﷺ اور ان کی اہل تکیہ کے طولانی حصہ پر سر رکھے ہوئے تھے اور میں تکیہ کی چوڑان پر سر رکھے ہوئے تھا (قاضی عیاض وغیرہ حضرات نے بجائے تکیہ کے بسترے کا ترجمہ فرمایا ہے، لیکن جب لفظ کا اصل ترجمہ تکیہ

أتى فراشہ: [لِيَنَامَ السَّدِسُ السَّادِسُ، لِيَقُومَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ بِنَشَاطٍ]. فَإِذَا كَانَتْ: قال ميرك: وفي أكثر الروايات بلفظ: "ثم" وقيل: في الكلمة "ثم" فائدة، وهي أنه عليه السلام يقضى حاجته بعد إحياء الليل بالتهجد، فأداء العادة قبل قضاء الشهوة جدير به عليه السلام، وقيل: يحتمل أن "ثم" لتراتخي الإخبار أي: كان عادته عليه السلام هكذا، ثم إن اتفق أحياناً أن يقضى حاجته فيقضيها. ألم بأهله: أي: قرب من زوجته، كنایة عن الجماع.

وثب: [أي: قام بنهضة وشدة]. أفضض: [أسأل على جميع بدنـه من الماء]. محرمة: فتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة. ميمونة: [هي الواهبة نفسها له عليه السلام، لأنـها لما بلغـها أنـ النبي عليه السلام خطـبـها، وكانت إذ ذاك على بـعـيرـ لها، قـالتـ: هو وـما عـلـيهـ للـه ولـرسـولـهـ، وـفـوـضـتـ أـمـرـهـاـ لـلـعـبـاسـ فـزـوـجـهـاـ النـبـيـ عليه السلام.]

فاضطجعت في عَرْض الْوَسَادَةِ، واضطجع رسول الله ﷺ في طولها، فنام رسول الله ﷺ حتى إذا اتصف الليل، أو قبله بقليل، فاستيقظ رسول الله ﷺ فجعل يمسح النوم عن وجهه، وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شُنْ معلق فتوضاً منه، فأحسن الوضوء،

من قوله إن في خلق السموات مشك كنه  
عَوْنَى الْآيَاتِ

ثم قام يُصلِّي.

ہی کا ہے اور تکیہ مراد لینے میں کوئی بعد بھی نہیں تو پھر بستر مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مثلاً: تکیہ کی لمبائی پر حضور اقدس ﷺ سر رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے ہوں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تکیہ کے چوڑاں پر سر رکھ کر یعنی قبلہ کی طرف سر کر کے لیٹ گئے ہوں) حضور اقدس ﷺ (اپنی اہل سے تھوڑی باتیں فرمانے کے بعد) سو گئے اور تقریباً نصف رات ہونے پر اپنے چہرہ مبارک پر پا تھے پھر کرنیز کے آثار کو دور فرمانے لگے، پھر سورۃ آل عمران کے اخیر کو ع [١٩٠] في خلق السموات ﴿آل عمران: ١٩٠﴾ کو تلاوت فرمایا (علماء کہتے ہیں کہ جانے کے بعد تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لینا چاہئے کہ اُس سے نشاط پیدا ہوتا ہے اور ان آیات کا پڑھنا مستحب ہے) اُس کے بعد مشکیزہ کی طرف جو پانی سے بھرا ہوا لک رہا تھا، تشریف لے گئے اور اُس سے (برتن میں پانی لے کر) وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی وضو کر کے حضور اقدس ﷺ کی (بائیں جانب) برابر کھڑا ہو گیا۔ حضور اقدس نے (اس لئے کہ مقتدى کو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہئے) میرے سر پر پا تھر رکھ کر میرا کان مرودزا (تنبیہ کے لئے ایسا کیا ہو گا۔ اور ایک روایت میں ہے

عرض: بفتح العين على الأصح الأشهر، وفي رواية بضمها، وهو بمعنى مفتتح العين أي: جانبها قاله القاري.  
الوسادة: بكسر الواو، المخداة المعروفة الموضعية تحت الرؤوس، ونقل القاضي عياض وغيره أن المراد هناك الفراش؛ لقوله: اضطجع ﷺ في طولها إلخ فكانه ﷺ نام تحت رجليه تأدباً وتبركاً. قلت: كان هذا أحسن ولوسعده اللفظ. فالأوجه عندي أن المراد بالمخداة هو معناه الحقيقي ولا مدنور فيه كما لا يخفى. أو قبله: الظاهر أنه تردید من ابن عباس رضي الله عنه بناءً على ترددہ في أن غایة النوم نصف الليل أو أقل منه أو أكثر، ويحمل الشك من الرواية قاله القاري.

يمسح النوم: [أي: فشرع بمسح أثر النوم]. الخواتيم: وفي نسخة: الخواتم، جمع ختم بمعنى الخاتمة، منصوب على أن الآيات بدل من العشر قاله المناوي. آل عمران: [وهي بداية قوله تعالى: ﴿إِن في خلق السموات والأرض﴾ إلى آخر السورة، آل عمران .١٩٠] شُنْ: [هي القربة الصغيرة يكون الماء فيها أبود من غيرها].

قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله ﷺ يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففقلها، فصلّى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين - قال معن: سرت مرات - ثم أوتر، ثم اضطجع، ثم جاءه المؤذن فقام فصلّى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلّى الصبح. حدثنا أبو كُریب محمد بن العلاء، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي هريرة، عن<sup>(١)</sup> ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ يصلّى من الليل ثلاث عشرة ركعة.

القتل: تافق ودونا كردد  
انفقوا على توثيق أبي هريرة عن ابن عباس

کہ میں او نگھنے لگا تو حضور نے میرا کان پکڑا۔ ایک روایت میں ہے کہ کان پکڑ کر دائیں جانب کو کھینچتا کہ سنت کے موافق امام کے دائیں جانب کھڑے ہو جائیں) پھر حضور اقدس‌اللہ‌عینی دو دور رکعت پڑھتے رہے۔ معن جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھ مرتبہ حضور نے دو دور رکعت پڑھی، گویا بارہ رکعت ہو گئی (ملا علی قاری رشیعیہ نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک تہجد کی بارہ رکعتیں ہیں) پھر وتر پڑھ کر لیت گئے۔ صبح نماز کے لئے جب بلال بلانے آئے تو دور رکعت سنت مختصر قرأت سے پڑھ کر صبح کی نماز کے لئے تشریف لے گئے۔

فائدہ: بنی کریم ﷺ سے تہجد کی مختلف رکعات نقل کی گئی ہیں جو مختلف اوقات کے اعتبار سے ہیں کہ وقت میں گنجائش زیادہ ہوئی تو زیادہ پڑھ لیں ورنہ کم پڑھ لیں۔ کوئی خاص تحدید تہجد کی رکعات میں ایسی نہیں ہے جس سے کم و بیش جائز نہ ہوں، بسا اوقات بنی کریم ﷺ باوجود وسیع وقت ہونے کے بھی رکعات کم پڑھتے تھے، البتہ ان میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ مقدار میں فرماتے تھے، جیسا کہ اسی باب کی مختلف احادیث میں یہ مضامین آرہے ہیں۔

(۱) ابن عباس رضي الله عنهما کہتے ہیں کہ حضور اقدس‌اللہ‌عینی تہجد (مع وتر کبھی) تیرہ رکعت پڑھا کرتے تھے۔ فائدہ: یعنی دس رکعت تہجد اور تین رکعت وتر۔ بعض علماء نے ان میں صبح کی دو سنتیں شمار کی ہیں، اس صورت میں آخر رکعت تہجد کی ہوئیں۔

فتلتها: [أي: لفها ولو لها برحة و رقة، فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه تبيها على ما هو السنة من وقوف المأمور الواحد عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره حوت الإمام نديا] قال القاري: وقلها إما لينيه على مخالفه السنة، أو لزداد تيقظه لحفظ تلك الأنفال، أو لزييل ما عنده من النعاس لرواية، فجعلت إذا أغفتت يأخذ بشحمة أذني. زاد المناوي: أو استعطافا للصحي المحتاج إلى العطف في مقام العبادة، أو إزعاجاً، أو تهيجاً، أو تحريراً له على قيام الليل وتعلم الدين. المؤذن: [أي: بلال، كما هو الظاهر للإعلام بدخول وقت الصلاة.] ركعتين خفيفتين: [هما ستة الصبح]. أبي هريرة: بحيم وراء كططحة، اسمه نصر بن عمران الضبعي.

حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن<sup>(٧)</sup> عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل بالليل، منعه من ذلك النوم، أو غلبته عيناه شك من الراوي عن عائشة أو من دونه صلّى من النهار ثنتي عشرة ركعة. حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبوأسامة، عن هشام -يعني ابن حسان- عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركتين خفيفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس.

(٧) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتي ہیں کہ حضور اقدس ﷺ جب کبھی کسی عارض کی وجہ سے رات کو تجد نہیں پڑھ سکتے تھے تو دن میں (چاشت کے وقت) بارہ رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ فائدہ: اگر حضور پر تجد فرض تھا تو قضا ظاہر ہے اور اگر فرض نہیں تھا تو بیان افضلیت کے لئے قضا فرماتے تھے۔ مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضور کا یہ ارشاد بھی وارد ہے: جو شخص اپنا ورد اور معمول رات کو پورا نہ کر سکے اُس کو چاہئے کہ صبح کے بعد سے دوپہر تک کسی وقت پورا کر لے، یہ ایسا ہی ہے گویا رات ہی کو پورا کر لیا۔ اسی سے مثالج سلوک کا یہ معمول ماخوذ ہے کہ ذکر وغیرہ اگر رات کو پورا نہ ہو سکے تو صبح کے وقت اُس کو پورا کر لے۔ وقت گزر جانے کی وجہ سے بالکل ترک نہ کر دے کہ پھر نفس اس کا عادی ہو جاتا ہے۔

(٨) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب رات کو تجد کے لئے انہو تو شروع میں اول دو مختصر رکعتیں پڑھ لو۔ فائدہ: تاکہ شروع ہی سے طویل رکعتیں شروع کرنے سے تھکان نہ ہو جائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ دور رکعتیں تحریۃ الوضوء ہوتی تھیں اور تحریۃ الوضوء کا مختصر پڑھنا اولی ہے اس لئے ان کو مختصر پڑھنے کا ارشاد ہے اور حضور بھی مختصر پڑھتے تھے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے شرح بخاری میں ایک لطیف بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اُس کے بالوں میں تین گریں جادوگر کی طرح سے لگاتا ہے جن میں یہ افسون ہوتا ہے کہ ابھی تو رات بہت ہے اور سوتا رہوں۔ جب آدمی اٹھ کر اللہ کا پاک نام لیتا ہے یعنی کوئی دعا وغیرہ پڑھتا ہے

زُرارة: بضم الراء أول الحروف ثم مهملات. معنیه: الحاجة دعا إلى النوم فاختار النوم فلا حاجة إلى الشك. ثنتي: قال القاري: فيه دليل على حواز قضاء النافلة بل على استحبابه، وعلى أن صلوة الليل ثنتي عشرة ركعة، كما هو المختار عند أبي حنيفة. قال إلح: مناسبة الحديث بالترجمة بأن أمره بشيء يقتضي فعله ﷺ. فليفتح صلاته: [أي: الأحد أو الليل، ولعلها صلاة التهجد].

ح و حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه: أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن <sup>(۹)</sup> زيد بن خالد الجهمي رضي الله عنه: أنه قال: لَأَرْمُقَنْ صلوة رسول الله ﷺ فتوسدت عتبته - أو فساططه - فصلى رسول الله ﷺ ركعتين خفيفتين،

شک من الراوی

تو ایک گھل جاتی ہے اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گھل جاتی ہے اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسرا گھل جاتی ہے۔ چونکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسرا گھل نماز پڑھنے پر کھلتی ہے اس لئے دور کعت مختصر طور پر پڑھنے کا حکم ہے تاکہ وہ تیسرا گھل بھی کھل جائے اور پھر ساری نماز شیطان کے اثر سے محفوظ ہونے کے بعد پڑھی جائے۔ نبی کریم ﷺ شیطان کے تسلط سے گو محفوظ تھے مگر حضور کا معمول امت کی تعلیم کے لحاظ سے ایسے امور کی رعایت فرمانے کا تھا جن کی امت کو احتیاج ہو، اس لئے نبی کریم ﷺ بھی با اوقات ان مختصر رکعتوں کو پڑھتے تھے جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہے۔

(۹) حضرت زید بن خالد رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہ ارادہ کیا کہ حضور اقدس ﷺ کی نماز کو آج غور سے دیکھوں گا۔ میں آپ کے مکان یا خیمه کی چوکھ پر سر رکھ کر لیٹ گیا (تاکہ غور سے دیکھتا رہوں) حضور اقدس ﷺ نے اول دو مختصر رکعتیں پڑھیں اُس کے بعد طویل طویل رکعتیں پڑھیں (تین دفعہ طویل کا لفظ اس کے زیادتی طویل بیان کرنے کے لئے فرمایا) پھر ان سے مختصر دور رکعتیں پڑھیں، پھر ان سے بھی مختصر دور رکعتیں پڑھیں، پھر ان سے بھی مختصر دور رکعتیں پڑھیں۔ یہ سب تیرہ رکعتیں ہوئیں۔

فائدہ: جو لوگ وتر کی ایک رکعت ہونے کے قائل ہیں ان کے نزدیک چھ مرتبہ دو دور رکعتیں نوافل اور ایک رکعت وتر، کل تیرہ ہوئیں اور جن کے نزدیک وتر تین رکعت ہیں ان کے نزدیک کل پندرہ رکعتیں ہوئیں، تیرہ رکعتیں فرماتا اس بنا پر ہے کہ تجھیتہ الوضوء شروع کی دور کعت اس میں شامل نہیں کی گئیں۔ بعض روایتوں میں ”پھر ان سے مختصر دور رکعت پڑھیں“

عبد الله: هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فما في بعض النسخ من زيادة الناء في آخر لفظ ”أبي بكر“ سهو من الناسخ. الجهمي: بضم الجيم وفتح الهاء، نسبة إلى قبيلة جهينة. لأرمقان: [أي: لأنظرن من الرمق، وهو: النظر إلى الشيء على وجه المراقبة.] فتوسدت عتبته: [أي: جعلتها وسادة، والعتبة: هي الدرجة التي يوطأ عليها]. فساططه: بضم فاء ويكسر، بيت من شعر، وهو شک من الراوی. عن زيد أنه توسد عتبة بيته أو عتبة فساططه، والظاهر الثاني؛ لأن الاطلاع على صلوته رضي الله عنه إنما يتصور حال كونه في الخيمة في دوران السفر الخالي عن الأزواج الطاهرات قاله الفارسي، وهو مختار المناوي؛ إذ قال: الظاهر أن ذلك كان في السفر؛ فإنه عند نسائه في الحضر، فلا يمكن أن يرمقه زيد.

ثم صلی رکعتین طویلین طویلین، ثم صلی رکعتین و هما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلث عشرة ركعة. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى، عن <sup>(١٠)</sup> أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره: آنه سأله عائشة رضي الله عنها: كيف كان صلوة رسول الله ﷺ في رمضان؟

یہ لفظ بجائے چار مرتبہ کے تین مرتبہ ہے، اس صورت میں تحریۃ الوضوء کی دو خفیف رکعتیں جو شروع میں وارد ہوئی ہیں ان کے باوجود دو رکعت نوافل ہوتی ہیں۔ ایسی حالت میں لا محالة و ترکو تین ہی رکعت ماننا پڑے گا، ایک رکعت ماننے کی صورت میں تیرہ رکعت کا عدد پورا نہ ہو گا۔ اس حدیث میں ایک لفظ گزرا ہے کہ "آپ کے مکان یا خیمہ کی چوکھت پر" یہ کسی راوی کو شک ہے کہ اُستاد نے مکان کی چوکھت کہا تھا یا خیمہ کی، اور یہ حضرات محدثین رحمۃ اللہ علیہ کی غایت احتیاط ہوتی ہے کہ جس لفظ میں ان کو ذرا بھی تردد ہوا کرتا ہے اُس کو ظاہر فرمادیا کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ خیمہ کی چوکھت مراد ہے اور یہ قصہ کسی سفر کا ہے، اس لئے کہ مدینہ طیبہ کے قیام میں حضور کا معمول زنانہ مکان میں آرام فرمانے کا تھا، وہاں کوئی سی بیوی پاس ہوتی تھیں، اس لئے حضرت خالد کو دیکھنے کا موقع نہ مل سکتا تھا، سفر میں یہ صورت کہ خیمہ میں حضور تنہ آرام فرمائے ہوں، بیویوں میں سے کوئی ساتھ نہ ہوں، قرین قیاس ہے، اس لئے یہی اقرب ہے۔ اکثر علماء نے اس قصہ کو سفر ہی کا تجویز فرمایا ہے۔

(۱۰) ابو سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حضور اقدس شریعت رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں تجد

في رمضان: قال القاري: أي في لياليه وقت التهجد، فلا ينافيه ما صلاه بعد صلوة العشاء من صلوة التراويح. وكتب الشیخ في البذل: يشكل عليه ما ورد من روایتها أنه كان يصلی من الليل ثلث عشرة ركعة، وأيضاً يشكل عليه بصلوة التراويح، فإنه صلاحتها بثلاث ليال ثم تركها بعد فرضيتها. والجواب عن الأول: أن السائل لما سأله عن صلوة الليل وزاد لفظ: "في رمضان" فظن أن عنده أن رسول الله صلوات الله علیه لعله كان يزيد في رمضان على تهجده في غير رمضان فردته بقولها: ما كان "يزيد في رمضان ولا في غيره" أي: في غالب الأحوال والأوقات، ففرضها بهذا الرد على ما يظن أنه صلوات الله علیه كان يزيد في رمضان على غيره، فلا ينافيه ما كان يزيد في بعض الأوقات، وأما عن الثاني: فإن هذا الحديث لا تعلق له صلوة التراويح، لأنها ولا إثباتا؛ لأنها صلوة أخرى، والاستدلال بهذا الحديث على أن التراويح ثمان ركعات لغو. هكذا كتاب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شیخه. مختصرأ.

فقالت: ما كان رسول الله ﷺ ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة،  
يصلّى أربعاً لا تسأل عن حُسنِهن وطُولِهن، ثم يصلي أربعاً لا تسأل عن حُسنِهن وطُولِهن، ثم  
يصلّى ثالثاً. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توقر؟ قال: يا عائشة! إنْ  
عَيْنِي تَنَامَ وَلَا يَنَمُ قَلْبِي.

کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے  
(گویا آٹھ رکعت تجد اور تین رکعت وتر، چنانچہ خود اُس کی تفصیل فرماتی ہیں) کہ اول چار رکعت پڑھتے تھے، یہ نہ پوچھ  
کہ وہ کتنی طویل ہوتی تھیں اور کس عمدگی کے ساتھ بہترین حالت یعنی خشوع و خضوع سے پڑھی جاتی تھیں۔ اسی طرح  
پھر چار رکعت اور پڑھتے تھے ان کی بھی لمبائی اور عمدگی کا حال کچھ نہ پوچھ۔ پھر تین رکعتاں پڑھتے تھے یعنی وتر۔  
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری  
آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے (یہ انبیاء عليهما السلام کا خاصہ ہے کہ ان کے قلوب جاگتے رہتے ہیں)۔

فائدہ: اس حدیث میں چند ضروری مباحث ہیں جن میں سے دو ذکر کئے جاتے ہیں۔ اول تو یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث  
میں رمضان اور غیر رمضان میں تجد کی گیارہ رکعت سے زیادہ کی نفی فرماتی ہیں، حالانکہ حضرت ابن عباس، زید بن خالد وغیرہ  
وغیرہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی روایات سے تیرہ ثابت ہے بلکہ بعض روایات میں تیرہ سے زیادہ بھی وارد ہوئی ہیں، چنانچہ ابو داؤد  
میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبد اللہ بن أبي قیس کے سوال پر حضور کی شب کی نماز کی رکعتاں یہ گنوائی ہیں کہ چار اور تین، چھ  
اور تین، آٹھ اور تین، دس اور تین جو تیرہ ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی تیرہ رکعتیں نقل کی گئی ہیں،

أَنَّا: المشهور عند الشراح في معنى الحديث أنها تعني أن الوتر ربما يفوت بأن لا يستيقظ في الوقت، ثم أشكلاوا عليه بقصة ليلة التعريس، فأجابوا عنها بأجوبة عديدة، والأوجه عندي: أن الحديث من باب نقض الوضوء بالنوم دون باب الوقت، والمعنى:  
أنك تنام قبل الوتر بعد الاستيقاظ ولا تجتدد الوضوء أحياناً، فأجابها عليه بأن قلبه يقطان فيدرك الحديث، فلا إيراد ولا جواب،  
فتتأمل. أتنام قبل أن توقر: [مع أنك أمرت بعض أصحابك بالوتر قبل النوم مخافة أن يغلب النوم فيفوته الوتر].

ولا ينام قلبي: [أي: فلا أخاف فوت الوتر، ومن أمن فوته سُنّ له تأخيره، الحال: أنّ من وثق بيقظته سُنّ له تأخيره،  
ومن لم يثق بها سُنّ له تقديمها].

چنانچہ ابو داؤد کی ایک روایت میں حضرت عائشہؓ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ سات رکعات سے کم اور تیرہ سے زیادہ نہ پڑھتے تھے اور موطا امام مالکؓ کی روایت ہے:

عن عائشةؓ قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَصْلِي إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ لِلصَّبَحِ بِرَكْعَيْنِ خَفِيفَيْنِ.

یعنی حضور رات کو تیرہ رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد صبح کی اذان پر دور رکعت صبح کی سنتیں پڑھتے تھے۔

بعض علماء نے تو اس اختلاف کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ حضرت عائشہؓ سے نقل کی روایتیں تہجد کی رکعات کے بارے میں مضطرب ہیں یعنی ضعیف ہیں، لیکن مضطرب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کیا اشكال ہے؟ کہ گیارہ رکعات اکثر اوقات اور عام معمول کے اعتبار سے ہوں اور کبھی بھی ان سے کم و بیش بھی حضور نے پڑھی ہوں، جیسا کہ دوسری روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ بعض لوگ اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ نکالتے ہیں کہ تراویح بھی آٹھ رکعت ہے، حالانکہ اس روایت سے تہجد کا صرف آٹھ رکعت ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا جیسا کہ پہلے گزر چکا، چہ جائیکہ تراویح۔

اس حدیث کو تراویح سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ صلوٰۃ اللیل کے لفظی معنی رات کی نماز کے ہیں، لیکن اس سے مراد قریب سے تہجد کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ اس سے اگر رات کی ہر نماز مرادی جائے تو تراویح کے ساتھ مغرب اور عشاء کے فرض اور ان کی سنتیں سب ہی خارج ہو جائیں گی جن کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ غرض اس حدیث میں صرف تہجد کا ذکر ہے، وہی پوچھنا مقصود ہے، اسی کا حضرت عائشہؓ نے جواب مرحمت فرمایا، اور بظاہر پوچھنے کی یہ ضرورت پیش آئی تھی کہ حضور کی عادت شریفہ رمضان المبارک میں زیادتی عبادت کی تھی جیسا کہ متعدد روایات میں آیا ہے، اس لئے ابو سلمہ کو خیال ہوا کہ شاید تہجد کے عدو رکعات میں بھی کچھ اضافہ فرماتے ہوں اس لئے پوچھا۔ حضرت عائشہؓ نے اس کی نفی فرمادی، ورنہ خود حضرت عائشہؓ کا بھی یہ مقصود نہیں کہ تراویح تو درکنار تہجد کی رکعات بھی گیارہ سے زیادہ کبھی نہیں ہوتی تھیں، اس لئے کہ تیرہ رکعات تک خود حضرت عائشہؓ سے ثابت ہو چکا ہے۔

تراویح کے بارے میں حضرت اقدس فخر الحدیثین مولانا شیداحمد صاحب گنگوہیؒ کا ایک مفصل رسالہ ”الرأي النجيح“ اردو میں شائع شدہ ہے، جس کا دل چاہے اُسے دیکھ لے۔ مختصر امر یہ ہے کہ احادیث میں تہجد کو صلوٰۃ اللیل (رات کی نماز) سے تعبیر کیا جاتا ہے اور تراویح کو قیام رمضان (رمضان کی نماز) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں نمازیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔

متعدد علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ قیام رمضان سے تراویح مراد ہے۔ نبی کریم ﷺ کو قیام رمضان کا بہت اہتمام تھا، متعدد احادیث میں قول اور فعل اس کی اہمیت وارد ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام رمضان کرے، اُس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تمام معاف ہو جاتے ہیں (علماء کے نزدیک صغار مراد ہیں) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ قیام رمضان کا ایجابی حکم تو نہ فرماتے تھے البتہ ترغیب دیا کرتے تھے، خود نبی اکرم ﷺ کبھی بڑی لمبی جماعت کے ساتھ اس نماز کو پڑھتے تھے اور ہمیشہ نہ پڑھنے کا یہ عذر فرماتے تھے کہ مجھے اس کے فرض ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور حضور کے ہمیشہ پڑھنے سے فرض ہو جانا کئی وجہ سے محتمل تھا۔ البتہ صحابہ کرام ﷺ میں بعض متفق طور پر کچھ تنہا اور کچھ جماعت میں پڑھتے تھے جو تقریباً نصف رات تک پڑھتے تھے اور کبھی اس سے بھی زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان متفرق جماعتوں اور علیحدہ پڑھنے والوں کو ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم فرمایا کہ افشا رہے ہو۔ سائب کہتے ہیں کہ امام عموماً ہر رکعت میں سو سو آیتوں والی سورتیں پڑھتے تھے، ہم لوگ کھڑے کھڑے تھکان کی وجہ سے کسی چیز پر سہارا لگاتے تھے اور سحر کے قریب فارغ ہوتے تھے۔

بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ تراویح کے مسنون ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اور اہل قبلہ میں سے رواض کے سوا کوئی فرقہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ انہے اربعہ یعنی امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رض جو ہم سب حضرات کے فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے کہ تراویح کی میں رکعت سنت موکدہ ہیں، البته امام مالک رض کے نزدیک مشہور قول کے موافق چھتیں رکعتیں ہیں۔ فقه حنبلی کی مشہور کتاب ”معنى“ میں لکھا ہے کہ امام احمد کے نزدیک راجح قول میں رکعات کا ہے اور یہی مذہب ہے سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی کا، البته امام مالک کے نزدیک چھتیں رکعات ہیں۔ امام مالک سے نقل کیا گیا کہ میرے پاس بادشاہ کا قاصد آیا کہ تراویح کی رکعات میں تخفیف کی اجازت دے دی جائے، میں نے انکار کر دیا۔ امام مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ مدینہ میں اتنا لیس رکعات پڑھی جاتی تھیں، یعنی چھتیں تراویح اور تین و تر۔ اوجز میں یہ بحث مفصل ہے۔ میرے اساندہ کا ارشاد ہے کہ مدینہ میں چھتیں رکعات جو پڑھی جاتی تھیں، ان میں بیس تراویح ہوتی تھیں، لیکن ہر ترویجہ میں اتنی دیر تھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں چار رکعت پڑھے اس لئے وہ حضرات ہر ترویجہ میں چار رکعت نقل پڑھ لیتے تھے، اس لئے یہ سول رکعات چار درمیانی ترویجوں کی بڑھ گئیں۔ بہر حال یہ مالکیہ کا مذہب ہے، بقیہ تینوں اماموں کے نزدیک راجح قول میں رکعات ہی کا ہے۔

حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة (عليها السلام):  
 أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ الظَّلَلِ إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةً، يُوَتِّرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا  
 اضطَجَعَ عَلَى شِقَّةِ الْأَيْمَنِ. حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ، أَخْبَرَنَا مَعْنُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ،  
 نَحْوَهُ. وَحَدَّثَنَا قَتِيْلَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ، نَحْوَهُ.

(۱۱) حضرت عائشة (عليها السلام) کہتی ہیں کہ حضور اقدس (عليها السلام) گیرا رکعت پڑھا کرتے تھے جس میں ایک رکعت وتر ہوتی تھی۔ جب آپ اس سے فارغ ہوتے تو اپنی دائیں کروٹ پر آرام فرماتے۔ فائدہ: یہ حدیث خود اس پہلی حدیث کے خلاف ہے جس میں آٹھ رکعت کا بیان تھا، اسی وجہ سے بعض علماء نے حضرت عائشة (عليها السلام) کی روایات میں کلام کیا ہے جیسا کہ پہلی حدیث کے ذیل میں گزر چکا۔ البته توجیہ کے درج میں اس اختلاف روایات کو اختلاف اوقات پر محوال کیا جا سکتا ہے۔ گاہے حضور اکرم (عليها السلام) آٹھ رکعتیں پڑھتے تھے اور گاہے کم و بیش۔ دوسرا مسئلہ وتر کی ایک رکعت کا ہے۔ وتر کے بارے میں چند اختلافات ہیں۔ سب سے اول اس کے حکم میں اختلاف ہے۔ حفیہ کے نزدیک وہ واجب ہے۔ بعض دیگر ائمہ کے نزدیک مستحب ہے۔ حدیث چونکہ اس سے ساکت ہے اس لئے اس بحث کو چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا اختلاف اس کی رکعتاں میں ہے حفیہ کے نزدیک تین رکعتیں حتیٰ ایک سلام سے ہیں، دوسرے بعض اماموں کے نزدیک ایک رکعت ہے۔ ان میں بھی اختلاف ہے، بعض صرف ایک رکعت فرماتے ہیں اور بعض ائمہ ایک رکعت کے ساتھ اس سے پہلے دورکعت علیحدہ سلام کے ساتھ واجب بتاتے ہیں۔ احادیث میں مختلف روایات اس بارے میں وارد ہوئی ہیں جن کی ترجیح میں ائمہ میں اختلاف ہوا اسی وجہ سے اس مسئلہ میں اختلاف ہوا۔ حفیہ اپنے مسلک پر چند احادیث سے استدلال کرتے ہیں:

اضطَجَعَ عَلَى شِقَّةِ الْأَيْمَنِ: [لِيَنَامَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْذُنُ فَيُؤْذَنَهُ بِالصَّلَاةِ كَمَا تَقْدِمُ].  
 نَحْوَهُ: اختلفت النسخ في ذكر لفظ "نَحْوَهُ" ولفظ "ح" التحويل، ففي بعضها أحدهما وفي بعضها ذكرهما معاً، ولا وجه لذكرهما معاً، والوجه الاقتصار على أحدهما، والمقصود بيان الطرف لعديدة الرواية المتقدمة، قال القاري: إجماع النسخ على قوله: "وَحَدَّثَنَا قَتِيْلَةُ" بالواو العاطفة يدل على ثبوت التحويل، سواء ضم معه لفظ "نَحْوَهُ" للتأكيد أو حذف، نعم!  
 كان حق التحويل أن يؤتى بعد قوله "حدثنا معن"، كما لا يخفى.

حدثنا هنّاد، حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها <sup>(۱۲)</sup>

اول: عبد الله بن أبي قيس کی وہ روایت جو ابو داؤد وغیرہ نے ذکر کی ہے، گزشتہ حدیث کی بحث اول میں گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے حضور ﷺ کی شب کی نماز چار اور تین، چھ اور تین، آٹھ اور تین، دس اور تین رکعتیں ذکر فرمائیں۔ اس تکلف کے ساتھ ذکر کرنا اور تین رکعت کو ہر جگہ بلا کم و زیادہ علیحدہ ذکر کرنا اس پر صاف دلیل ہے کہ یہ کوئی ایسی نماز ہے جس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی تھی یہ تین ہی رکعتیں رہتی تھیں، ورنہ حضرت عائشہ رضی الله عنها سات، نو، گیارہ فرماتیں۔ چار اور تین، چھ اور تین وغیرہ کیوں فرماتیں۔

دوم: ملا علی قاری رضی الله عنهی نے حفیہ کی دلیل یہ لکھی ہے کہ صحابہ رضی الله عنہم کا اس پر اجماع ہے کہ تین رکعات و تر جائز و مستحسن ہیں اور اس سے کم میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ایک رکعت بھی جائز ہے اور بعض کے نزدیک جائز ہی نہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کا مجمع علیہ قول اولیٰ ہے مختلف فیہ سے۔ حسن بصری رضی الله عنه جو مشہور محدثین اور اکابر صوفیہ میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وتر تین رکعت ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز عمر ثانی رضی الله عنه نے علمائے مدینہ سے تحقیق کے بعد یہ حکم نافذ کر دیا تھا کہ وتر تین رکعات پڑھی جائیں۔ حضرت حسن رضی الله عنه سے کسی نے کہا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی الله عنه وتر کی تین رکعات میں دو پر سلام پھیرتے ہیں اور تیسرا رکعت علیحدہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کے باپ حضرت عمر بنوں رکعات ایک ہی سلام سے پڑھتے تھے اور وہ ابن عمر سے زیادہ عالم تھے۔ سوم: احادیث میں ایک رکعت پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی الله عنه سے کسی نے کہا کہ حضرت سعد وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک رکعت نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے طریقوں سے حفیہ استدلال فرماتے ہیں۔ علماء نے اس بارے میں مستقل رسائل تحریر فرمائے ہیں۔ اس رسالہ میں فقہی مسائل سے بحث نہیں کی گئی، بلکہ ضرورت مختصر اشارے کر دیے گئے۔

(۱۲) حضرت عائشہ رضی الله عنها کی ایک روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ رات کو نور رکعات پڑھتے تھے۔

فائدة: حفیہ کے نزدیک چھ رکعت تہجد اور تین رکعت وتر۔ چنانچہ عبد اللہ بن أبي قيس کی روایت میں خود حضرت عائشہ رضی الله عنها نے چھ اور تین فرمایا۔

قالت: كان رسول الله ﷺ يصلّي من الليل تسع ركعات. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان الثوريّ، عن الأعمش، نحوه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مُرّة، عن أبي حمزة - رجل من الأنصار - عن رجل من بني عبس، عن حذيفة بن اليمان (ص): أنه صلّى مع رسول الله ﷺ من الليل،

(۱۳) حضرت حذيفة رض کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات حضور اقدس ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی (بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ قصہ رمضان المبارک کی رات کا تھا، اس لئے محتمل ہے کہ یہ تجد کی نماز ہو یا تراویح ہوں) حضور نے نماز شروع فرمایا کہ یہ دعا پڑھی: اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمة (اللہ بن جل جل اللہ کی ذات والا صفات سب سے برتر ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو بڑی بادشاہت والی ہے، بڑے غلبہ والی ہے، بڑائی اور بزرگی و عظمت والی ذات ہے) پھر حضور نے (سورہ فاتحہ پڑھ کر) سورہ بقرہ تلاوت فرمائی، پھر رکوع کیا۔ یہ رکوع قیام ہی جیسا تھا (اس کے دو مطلب علماء فرماتے ہیں اور دونوں محتمل ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ رکوع تقریباً اتنا ہی طویل تھا کہ جتنا قیام یعنی اگر قیام، مثلاً ایک گھنٹہ کا تھا تو تقریباً ایک ہی گھنٹہ کا رکوع بھی تھا۔ اس قول کے موافق اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر رکوع سجدہ نماز میں عام معمول سے زیادہ لمبا ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جیسے قیام معمول سے زائد تھا

تسع: قال القرطبي: استشكل حديثها على كثير حتى نسب إلى الاضطراب، وأجيب: بأنه إنما يتم لو اتحد الرواية عنها والوقت والصلة، والصواب حمله على أوقات متعددة وأحوال مختلفة، فتارة يصلّي سبعاً وتارةً تسعًا وتارةً إحدى عشرة وهو الأغلب. أبي حمزة: قال القاري: قال المؤلف في جامعه: أبو حمزة عندنا طلحة بن زيد، وقال النسائي: هو عندنا طلحة بن يزيد، قال ميرك: هو قول الأكثر. قلت: وبه حزم أهل الرجال، وسيأتي شيء منه في آخر الحديث.

بني عبس: بهمليتين بينهما موحدة تحية ساكنة كفلس، اسمه صلة بن زفر العبسي الكوفي، حكاہ القاري عن المنذری. مع رسول الله: قال البيهوري: أي: جماعة، فإن كانت الصلة صلة التراویح فالامر ظاهر؛ لأن الجماعة مشروعة فيها، وإن كانت غيرها ففعلها جماعة حائز، ويؤيدہ ظاهر السياق من أن الأربع ركعات كانت بسلام واحد، وعلى كونها صلة التراویح يتبعن أنها كانت بسلامين؛ لأن التراویح يجب فيها السلام من كل ركعتين، ولا يصح فيها أربع ركعات بسلام واحد. من الليل: "من" للتبعيض أو بمعنى "في"، ولفظ أحمد والنسائي: أنه معه في ليلة من رمضان.

قال: فلما دخل في الصلوة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت، والكرياء والعظمة، قال: ثم قرأ البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه،  
أي بكمالها كما هو ظاهر العبارة

ایسے ہی یہ رکوع بھی معمولی رکوع سے طویل تھا۔ اس صورت میں قیام کے ایک گھنٹہ ہونے کی صورت میں رکوع اگر پندرہ منٹ کا بھی ہو گیا تو اس حدیث کا مصدقہ بن گیا۔ اس قول کے موافق نماز اپنے عام معمول کے موافق رہی یعنی جو رکن لمبا ہوتا ہے جیسا کھڑا ہونا، وہ لمبارہ اور جو مختصر ہوتا ہا جیسے رکوع یا سجدہ، وہ مختصر رہا، البتہ ہر رکن عام نمازوں کے اعتبار سے بڑھا ہوا تھا۔ حضور اپنے اس رکوع میں سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم فرماتے رہے۔ رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہوئے اور یہ کھڑا ہونا بھی رکوع ہی جیسا تھا۔ اس وقت لربی الحمد، لربی الحمد فرماتے رہے، پھر سجدہ ادا کیا اور وہ سجدہ بھی کھڑے ہونے کے برابر ہی تھا۔ اس میں سبحان ربی الأعلى، سبحان ربی الأعلى فرماتے رہے، پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھے۔ یہ بھی سجدہ کی طرح سے طویل تھا، اس میں حضور ﷺ رب اغفرلی، رب اغفرلی فرماتے رہے۔ غرض حضور نے اپنی اس نماز میں سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدۃ یا سورۃ انعام (راوی کو ان اخیر کی دو سورتوں میں شک ہو گیا کہ کونسی تھی، لیکن اول کی تین محقق ہیں۔ غرض تینوں سورتیں وہ اور ان دونوں میں سے ایک سورت) یہ چاروں سورتیں تلاوت فرمائیں۔ فائدہ: اس حدیث کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ چاروں سورتیں تلاوت فرمائیں، لیکن مسلم وغیرہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے کہ حضور نے سورۃ بقرہ، سورۃ نساء، سورۃ آل عمران تین سورتیں ایک ہی رکعت میں تلاوت فرمائیں۔ اس لئے مسلم اور ابو داؤد کی روایت کے موافق ظاہر و قصیٰ علیحدہ علیحدہ ہیں۔

دخل: [أي: بتکبیرة الإحرام]. قال: قال القاري: الأظهر أنه بعد تكبيرة التحرية، وقال المناوي: أي: أراد الدخول فيها. ذو الملكوت: [صاحب الملك والعزة]. والجبروت: [الجبر والقهر]. والكرياء: [الترفع عن جميع الخلق مع انقيادهم له، والتترze عن كل نقص]. والعظمة: [تجاوز القدر عن الإحاطة به، وقيل: الكرياء عبارة عن كمال الذات، والعظمة عبارة عن جمال الصفات]. قال: [أي: حذيفة بن اليمان]. البقرة: أي بعد الفاتحة لا كما توهם أنه افتحها، بدون الفاتحة، ولم يذكرها الراوي اعتماداً على فهم السامع، وكان معروفاً من عادته، فقد قال: لا صلوة إلا بفاتحة الكتاب. من قيامه: قال القاري: المراد أن رکوعه كان متتجاوزاً عن المعهود كالقيام، وأغرب من زعم أن "من" هذه للبيان، حيث قال: هذا بيان لقوله "نحوًا" أي: مثلاً. وقال المناوي: والظرف متعلق بـ"نحو" المتضمن معنى القرب، أي: قريباً.

وكان يقول: سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ، ثُمَّ رَفِعَ رَأْسَهُ، فَكَانَ قِيَامَهُ نَحْوًا مِنْ رَكْوَعَهُ، وَكَانَ يَقُولُ: لِرَبِّيِ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سَجْدَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامَهُ، وَكَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى، ثُمَّ رَفِعَ رَأْسَهُ فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنَ السَّجْدَهُ، وَكَانَ يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْلِي، رَبِّ اغْفِرْلِي، حَتَّىٰ قَرَا الْبَقَرَةَ وَآلَ عُمَرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ [أي: في جلوسه] أَوَ الْأَنْعَامَ - شَعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِي الْمَائِدَةِ وَالْأَنْعَامِ - قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو حَمْرَةَ الْضَّبْعَيْنِ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عُمَرَ.

اگرچہ یہ بھی احتمال ہے یہ ایک ہی قصہ ہوا اور کوئی سی روایت میں کچھ سہو واقع ہو گیا ہو۔ لیکن غلطی پر حمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جب کہ حضور اقدس ﷺ کا لمبی نماز پڑھنا روزانہ کا معمول تھا، اس لئے ایک مرتبہ چار سورتیں چار رکعت میں اور ایک مرتبہ تین سورتیں ایک رکعت میں پڑھی ہوں تو کیا مانع ہے۔

يقول إلخ: كرر الألفاظ لإفاده التكثير، أو إشارة إلى جمع كل من شتتين بنفس واحد، ذكره جمع من الشراح.

**سبحان رب العظيم:** [المريان، المراد منها التكرار مراراً كثيرة، فكان يكرر هذه الكلمة ما دام راكعاً.] فكان قيامه: فيه حجة للجمهور، منهم الأئمة الثلاثة، أن من أطال الاعتدال أو الجلسة تصح صلوته، خلافاً للشافعية. قال المناوي: لا دليل فيه لما ذهب أكثر الشافعية، منهم النووي: أن الاعتدال والعقود بين السجدتين ركناً طويلاً، بل المذهب أهلهما ركناً قصيراً، فمتي زاد فيما على قدر الذكر المشروع عمداً بطلت صلوته.

حتى قرأ: ظاهره أنه قرأ السور الأربع في الركعات الأربع، وبه صرحت رواية أبي داود، لكن رواية الشيوخين ظاهرة في أنه قرأ الكل في ركعة، فعلل الواقعه تعددت، قاله المناوي، وتعقبه القاري: بأن الرواية لمسلم وحده لا البخاري، وأنه قرأ السور الثلاث أى: البقرة وآل عمران والنسماء في ركعة، ثم قال: فإذا أراد أن يحمل على تعدد الواقعه وتكون صلوة حذيفة معه ~~ثلاث~~ وقعت في ليلتين، في إحداهما قرأ السور الثلاث في ركعة، وفي الأخرى قرأ السور الأربع في أربع ركعات، أو يقال: إن في رواية أبي داود والترمذى وهما والصواب رواية مسلم والنسماء، فإن فيهما التفصيل والتبيين.

قال أبو عيسى إلخ: غرض المصنف: أن أبا حمزة الرواى في أول السندي مختلف في اسمه، وأيضاً كان يتحمل اللبس بأى حمزة الضبعي رجل آخر من الرواية، وبين أولاً اسمه وذكر بعده اسم أبي حمزة الضبعي أنه رجل آخر، اسمه نصر بن عمران. وأبو طلحة هذا الذي في سندي الترمذى مختلف في اسمه، كما تقدم في أول السندي.

حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن إسماعيل بن مسلم العبدى، عن أبي الم توكل، عن <sup>(٤)</sup> عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله ﷺ عليه السلام باية من القرآن ليلة.

(۱۲) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ایک رات تہجد میں صرف ایک آیت کو تکرار فرماتے رہے۔ فائدہ: وہ آیت سورہ مائدہ کے اخیر رکوع کی آیت: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ۱۱۸] تھی۔ اے اللہ! اگر تو ان سب کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں یعنی ہر طرح سے تیری ملک ہیں، تیری چیز ہیں، تو جو چاہے تصرف فرمادے اور اگر تو ان کی مغفرت فرمادے اور سب کو معاف کر دے تو تیری شان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ تو بڑی قدرت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔

فائدة: جس شخص کو زبردست قدرت حاصل ہو وہ جس مجرم کو چاہے معافی دے دے اور جو بڑی حکمت والا ہو اُس کے ہر فعل میں حکمت اور مصالح ہو سکتے ہیں۔ حضور کا کھڑے ہونے میں اور رکوع سجدہ میں بھی اس آیت کو پڑھتے رہنا اور بار بار دھراتے رہنا اللہ بجلی کی دو صفت عدل و مغفرت کے مختصر ہو جانے کی وجہ سے تھا کہ قیامت کا سارا منظر انہی دو صفت کا مظہر ہے۔ حضرت امام اعظم رضي الله عنه کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک شب تمام رات یہ آیت پڑھتے رہے: ﴿وَأَمْتَازُ الْيَوْمِ أَيْمَانَ الْمُجْرِمُونَ﴾ [یس: ۵۹] اس آیت شریفہ میں بھی قیامت کے منظر کا بیان ہے، کہ اُس دن یہ حکم ہو گا کہ آج مجرم لوگ غیر مجرموں سے عیحدہ اور ممتاز ہو جائیں۔ کس قدر سخت اور کپکپا دینے والا حکم ہے کہ آج اللہ والوں کے ساتھ ملے جلے ہیں، ان کی برکات سے نفع اٹھا رہے ہیں لیکن اُس وقت مجرم لوگوں کو ان سے عیحدہ کر دیا جائے گا۔ اللہ ہی اپنے فضل سے وہاں بھی ان مقدس نفوس کے زیر سایہ رکھے ورنہ بڑی ہی مشکلات ہیں۔

العبدی: نسبة لبني عبد قيس، قبيلة مشهورة. أبي الم توكل: الناجي، اسمه علي بن دواد بضم الدال وتقديم الواو، وقيل: داود بفتح الدال. باية من القرآن: وهي ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ﴾ [المائدة: ۱۱۸] و كان عليهما يركع ويسبح كما رواه أبو عبيد وغيره، ويشكل عليه: ما في رواية مسلم وغيره من النهي عن القراءة في الركوع والسجود، وأجيب: بأنه يتحمل أن يكون لبيان الجواز إشارة إلى أن النهي للتنزيه، أو قبل النهي، أو يوجه بأن المعنى يركع ويسبح. عقتصي هذه الآية، مثلاً: بلفظ "سبحان رب العزيز الحكيم". ليلة: [أي: كلها، قد استمر يكررها ليلته كلها في ركعات محدثه، فلم يقرأ فيها بغيرها، وإنما كررها؛ لما اعتبره عند قراءتها من هول ما ابتدأت به، ومن حلاوة ما اختتمت به].

حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: صلية ليلة مع رسول الله ﷺ فلم يزل قائماً حتى همت شقيق بن سلمة الكوفي بأمر سوء، قيل له: وما همنت به؟ قال: همنت أن أقعد وأدع النبي ﷺ. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جرير، عن الأعمش، نحوه. حدثنا إسحاق بن موسى الأنباري، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة،

(ش) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شب حضور القدس ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، حضور نے اتنا طویل قیام فرمایا کہ میں نے ایک بُرے کام کا ارادہ کر لیا۔ کسی نے پوچھا کہ کس کام کا ارادہ کر لیا تھا؟ کہنے لگے کہ میں بینہ جاؤں اور حضور کو تہا چھوڑ دوں۔

فائدہ: اس کے دو مطلب محتمل ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگوں اور حضور تہا کھڑے رہیں۔ یہ اس بناء پر ارادہ تھا کہ بے ادبی کو تناول تھا، اور ہو سکتا ہے کہ بیٹھ جاؤں کا یہ مطلب ہے کہ نماز ہی پڑھنی چھوڑ دوں۔ اس کا بُرا ہونا بالکل ظاہر ہے کہ حضور کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی بے ادبی اور اس سے لاپرواہی بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور کے ساتھ نماز پڑھتے پڑھتے نیت توڑ کے بیٹھ جائیں۔ مگر کھڑے کھڑے جب تھک گئے تو اس قسم کے خیال آنے لگے۔

سوء: بالفتح، نقیض المسرة، مصدر وبالضم اسم، وشاع الإضافة إلى المفتوح، قاله المناوي، وقال القاري: بأمر سوء بالإضافة، وروي بقطعها على الصفة، قال ميرك: الرواية بالإضافة كما يفهم من كلام الحافظ ابن حجر، وجوز الكلمات أن يكون بالصفة.

أقعد: قال القاري: أي: أصلني قاعداً وأتركه يصلي قائماً، أو معن "أقعد": لا أصلني معه يُنْهَى بعد ذلك الشفع وأتركه يصلي، وكلماهـا أمر سوء في الجملة؛ لظهور صورة المخالفـة. وما يتـبادر إلى الفهم أن مراده إبطـال الصلة للإطـالة وقـعوده للملـلة فـباطـل؛ لقولـه تعالى: إِنَّمَا لِلْمُنْهَى أَعْمَالَكُمْ [حمد: ٣٣] فلا يجوز حـلـ فعل صحـابـي جـليلـ على ذلكـ. مختـصرـاً. وقال المنـاوي مـؤـولاً على مـسلـكـ الشـافـعـيـةـ: أيـ: يـنـويـ قـطـعـ الـقـدـوةـ وـيـتـمـ صـلوـتـهـ مـنـفـرـاًـ، لاـ أنهـ يـقطـعـ صـلوـتـهـ كـماـ ظـنهـ القـسطـلـانـيـ وـغـيرـهـ؛ لأنـ ذـلـكـ لاـ يـلـيقـ بـجـلـالـةـ اـبـنـ مـسـعـودـ. قـلتـ: وـظـاهـرـ السـيـاقـ معـ القـسطـلـانـيـ وـغـيرـهـ.

عن <sup>(١٦)</sup> عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان يصلّى جالساً فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أربأنا خالد الحذاء،

(١٦) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتي ہیں کہ حضور اقدس ﷺ (زمانہ ضعف میں) نوافل میں قرآن شریف (پوئکہ زیادہ پڑھتے تھے اس لئے) بیٹھ کر تلاوت فرماتے تھے اور جب رکوع کرنے میں تقریباً تیس چالیس آیت رہ جاتی تھیں تو کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے اور رکوع میں تشریف لے جاتے اور کھڑے ہونے کی حالت میں رکوع فرماتے پھر سجده کرتے اور اسی طرح دوسری رکعت ادا فرماتے۔ فائدہ: بعض علماء نے اس شخص کے لئے جو بیٹھ کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر رکوع سجده کرنا ناجائز بتایا ہے۔ مگر جمہور علماء جن میں چاروں امام بھی شامل ہیں، کے نزدیک یہ صورت جائز ہے۔ اسی طرح اس کے خلاف جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے اُس کو بیٹھ کر رکوع سجده کرنا بھی جائز ہے، مگر یہ سب نقولوں میں ہے۔ فرضوں میں جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اُس کو بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔

جالس: [ومن خصائصه ﷺ أن تطوعه قاعداً ك فهو قائماً؛ لأنَّ مأمون الكلسل فلا ينقص أحراه، بخلاف غيره.]  
إذا بقي: فيه إماء إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر؛ لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل.

أو أربعين: يحتمل أن يكون شكا من الرواية عن عائشة أو من دونه، ويحتمل أن يكون من كلامها إشارة إلى أن ما ذكرته مبني على التخمين تحرزاً عن الكذب، أو إشارة إلى التتويج، بأن يكون تارة إذا بقي ثلاثة وثلاثون وتارة إذا بقي أربعون. زاد المناوي: أو بحسب طول الآيات وقصرها، والظاهر أنها إشارة إلى أن المذكور مبني على التخمين. قلت: وهو المرجع عندي. قام فقرأ: في الحديث مسألتان خلافيتان: الأولى ما قال الزين العراقي: الحديث يقتضي أن من افتح الصلة قاعداً ثم انتقل إلى القيام لا يقرأ حال فهو ضده، بخلاف عكسه فيقرأ حال الهوى، وبه صرح الشافعية في فرض المعنور، وأما في النفل فمخير في القراءة حال النهو ضده، لكن الأفضل القراءة هاوية لانا هضا. والثانية ما قال ميرك: إن في الحديث ردأ على من اشترط على من افتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً، أو قائماً أن يركع قائماً، وهو محكم عن أشهب وبعض الحنفية. قلت: والأئمة الأربع على جواز القيام لمن افتح قاعداً وعكسه، وتفصيل الخلاف في المطلولات. الحذاء: مفتوحة وشدة ذال معجمة، هو خالد بن مهران، ولم يكن بحذاء، ولكن كان مجلس إليهم فنسب إليهم.

عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن تطوعه؟ فقالت: كان يصلّي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس.

(۱۷) عبد اللہ بن شقيق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور کے نوافل کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور رات کے طویل حصہ میں نوافل کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور طویل حصہ میں نوافل بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تو رکوع و سجود بھی کھڑے ہونے کی حالت میں ادا فرماتے اور جب قرآن بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع و سجود بھی بیٹھنے ہی کی حالت میں ادا فرماتے۔ فائدہ: رات کے طویل حصہ میں نوافل کے علماء نے دو مطلب تحریر فرمائے ہیں: ایک یہ کہ ایک ہی رات میں بہت سا حصہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور بہت سا حصہ بیٹھ کر۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ مختلف راتوں کا حال ہے کہ بعض راتوں میں طویل نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور بعض راتوں میں طویل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ دوسرا مطلب راجح ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور کا معمول رات کی نماز یعنی تہجد کی رکعتاں لمبی لمبی پڑھنے کا تو یہیشہ ہی رہتا تھا، اگر طبع مبارک پر ضعف، اضحکال ہوتا تو بیٹھ کر پڑھتے تھے ورنہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ اس حدیث کا اخیر مضمون بظاہر اس سے پہلی حدیث کے مخالف ہے، اس لئے علماء نے ان دونوں کو دو حالتوں پر محوال فرمایا کہ نوافل کا مدار نشاط اور سرور پر ہے، جس وقت جس طرح نشاط زیادہ حاصل ہوتا اُسی طرح پڑھتے۔ اس کے علاوہ حضور اقدس اللہ تعالیٰ کے بہت سے افعال میں تعلیم بھی مقصود ہوتی تھی، یعنی بہت سے افعال حضور اس لئے بھی کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس طرح بھی یہ کام کرنا جائز ہے اس کو بیان جواز کہتے ہیں۔

تطوعه: [التطوع]: فعل شيء مما يتقرب به إلى الله تعالى تبرعاً من النفس] بدل مما قبله بإعادة الجار، وهذا في البدل كثير تبيها على أنه هو المقصود، والبدل منه توطية، وفي لفظ "التطوع" إشعار إلى أن صلوة الليل لم تكن فرضا عليه بسبب.  
 ليلا: قال في المفاتيح: يعني يصلى صلوة كثيرة من القيام والقعود، أو يصلى ركعات مطولة في بعض الليالي من القيام وفي بعضها من القعود، كذلك في البذل، وبسط القاري في إعراب "ليلا طويلا"، فارجع إليه. وسجد وهو قائم: لا ينافي حديث عائشة بنت المقدم، فإن له أحوالاً مختلفة في تهجدته، فكان يفعل مرة كذا ومرة كذا.

حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن أبي وداعة السهمي، عن <sup>(١٨)</sup> حفصة زوج النبي ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ يصلّي في سُبْحَتِه قاعداً، ويقرأ بالسورة ويرتّلها حتى تكون أطول من أطول منها.

أي النافلة ليلًا

حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا الحجاج بن محمد،

اسی لئے نبی کریم ﷺ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب پورا ملتا ہے، دوسروں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر جتنا ثواب ملتا ہے، بیٹھ کر پڑھنے پر اُس سے سے آدھا ملتا ہے اس لئے کہ حضور کا بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی نبوت کے مقصد کو پورا کرنا ہے یعنی اعمال کو کر کے دکھادینا، بھی نبی کے آنے کی غرض ہوتی ہے۔

(١٨) حضرت حفصة زوج نبی کمیتیں کہ حضور القدس ﷺ نوافل بیٹھ کر پڑھتے اور اُس میں کوئی سورت پڑھتے تو اس قدر ترتیل سے پڑھتے کہ وہ سورت اپنے سے لمبی سورت سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ فائدہ: یعنی چھوٹی سورت میں ترتیل اور قراءت سے پڑھنے کی وجہ سے بڑی سورتوں کے برابر دیر لگ جاتی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ قرآن پاک کو نہایت اطمینان سے ظہراً ظہراً کر پڑھتے تھے، جلدی جلدی نہ پڑھتے تھے جس سے چھوٹی سورت بھی اتنی دیر میں ختم ہوتی جتنی دیر میں دوسرے آدمی لمبی سورت پڑھ لیں، اور پھر جب حضور لمبی لمبی سورتیں بھی پڑھتے تھے تو کتنی دیر لگتی ہو گی۔ اسی وجہ سے کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔

وداعۃ: بفتح الواو وتحقيق الدال المهملة بعدها ألف ثم عین مهملة. السهمی: نسبة لقيلة من قريش، صحابي أسلم يوم الفتح. حفصة: [بنت عمر بن الخطاب، كانت تحت حنيس السهمي، ثم تزوجها المصطفى ﷺ، ثم طلقها وراجعتها بأمر حبريل له حيث قال له: "راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنما زوجتك في الجنة".]

سبحاته: بضم السين وسكون الموحدة أي: نافلته، سميت سبحة؛ لاشتمالها على التسبيح، وإنما خصت النافلة بذلك؛ لأن التسبيح الذي في الفريضة أيضاً نافلة، والتخصيص باعتبار الغالب، وقد تطلق على الصلة مطلقاً، يقال: فلان يسبح أي: يصلّي فرضاً أو نفلاً. ويرتّلها: [أي: يبيّن حروفها وحر كاتها ووقفها مع التأني في قراءتها].

الزعفراني: بفتح الزاي المعجمة وسكون العين المهملة وفتح الفاء والراء، وبعد الألف نون نسبة إلى الزعفرانية، قرية قرب بغداد، وقيل: محلة قديمة بكرخ بغداد، كذا في هامش تمهيد التهذيب.

عن ابن حُرَيْج قال: أخبرني عثمان بن أبي سُلَيْمَان: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره: بالمليمين<sup>١٩</sup> أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن النبي ﷺ لم يمت حتى كان أكثر صلوته وهو جالس. حدثنا أحمد أبي ثافله<sup>٢٠</sup> بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

**صلیت مع رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها،**

أي: في المسجد، ويفيد هذا تقييد المغرب بقوله، في بيته.

(١٩) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور اقدس وصال کے قریب زمانہ میں اکثر نوافل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ فائدہ: چونکہ زمانہ ضعف کا تھا اور نیز حضور تلاوت زیادہ فرماتے تھے جیسا کہ پہلی روایات میں گزر چکا ہے، اس لئے اکثر حصہ نوافل کا بیٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ گو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کثرے ہونے سے آدھا ہوتا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قاعدہ سے مستثنی ہیں۔ حضور کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا کثرے ہو کر ہوتا ہے جس کی وجہ پہلے گزر چکی ہے، چنانچہ ابو داؤد وغيرہ کی روایات میں اس کی تصریح ہے کہ میں (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم) اس بارے میں تم جیسا نہیں ہوں، میرے لئے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی اتنا ہی ثواب ہے۔

(٢٠) حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کعتین ظہر سے قبل اور دو ظہر کے بعد اور دو مغرب کے بعد اپنے گھر میں اور دو عشاء کے بعد وہ بھی گھر میں پڑھیں۔ فائدہ: اس حدیث میں سنتوں کا ذکر ہے سنت مؤکدہ حفیہ کے نزدیک بھی اس طرح ہیں جیسا کہ ابن عمر رضي الله عنهما کی حدیث میں گزار، البتہ ظہر کی سنتیں حفیہ کے نزدیک چار رکعت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص رات و دن میں بارہ رکعات پر

کان: تامة، أي وحد أكثر صلوته والحال أنه جالس، وقيل: ناقصة الخبر محنوف، مثل: كان ضربى زيداً قائمًا، وقيل: الوازو زائدة كما هو شائع في خبر "كان"، وجملة: "وهو جالس" ، خبر "كان" ، والرابطة محنوفة. قال ابن حجر: هذا تخلف بعد لا يغول عليه. جالس: [يعني كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة]. مع رسول الله: أي: شاركته في الصلوة، بمعنى أن كل منهما فعل تلك الصلوة، وليس المراد أنه صلى معه جماعة؛ لأنه يبعد ذلك ه هنا، وإن كانت الجماعة جائزة في الرواتب، لكنها غير مشروعة فيها، قاله البيحوري، وقال أبو زرعة: ذلك يتحمل ثلاثة أوجه: أحدها: المراد المعية في صلوة الجماعة، وهو بعيد؛ لأنه لم يفعل الراتبة جماعة، الثاني: المعية في الزمان أو المكان أو فيهما وإن كانوا منفردين، والثالث: المعية في أصل الفعل أي: كل منهما فعل ذلك وإن اختلف زمن الفعل ومحله، وهذا أرجح.

ورَكَعَتْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكَعَتْ بَعْدَ الْعَشَاءِ فِي بَيْتِهِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنْبِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ  
ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ نَافِعٍ،

مدامت كرے حق تعالیٰ اُس کے لئے جنت میں گھر بنادیتے ہیں۔ ان بارہ رکعتات کی تفصیل حضرت عائشہ اور حضرت ام حبیبة رض کی روایات سے کئی حدیثوں میں یہی آتی ہے جو حضرت ابن عمر رض کی روایت میں گزری۔ البتہ ظہر سے قبل ان روایتوں میں چار رکعت وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ظہر سے پہلے چار رکعت ایک سلام کے ساتھ ہوں ان کے لئے آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں یعنی بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے قبل چار رکعت کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔

حضرت عائشہ رض سے مسند احمد، ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے لئے تشریف لے جاتے وقت چار رکعت گھر سے پڑھ کر تشریف لے جاتے تھے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور سنتیں مکان پر پڑھ کر تشریف لاتے تھے اور وہ چار رکعت ہوتی تھیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رض وغیرہ کی روایت میں ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عائشہ رض سے ایک مفضل روایت نقل کی گئی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعت میرے گھر پڑھتے تھے پھر مسجد میں تشریف لے جاتے اور فرض پڑھاتے اس کے بعد گھر تشریف لاتے اور دور رکعت پڑھتے اور مغرب کی نماز کے بعد میرے گھر تشریف لاتے اور دور رکعت پڑھتے اور عشاء کی نماز کے بعد بھی تشریف لاتے اور دو رکعت پڑھتے اور صبح صادق کے بعد دور رکعت پڑھتے اور نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔

اس مفضل حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سنتیں اکثر گھر پر پڑھتے تھے اور مسجد میں تشریف لا کر غالب یہ ہے کہ دور رکعت تجویزۃ المسجد پڑھا کرتے تھے جس کو حضرت ابن عمر رض ارشاد فرماتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی

فِي بَيْتِهِ: متصل بالثلاثة قبله أو بسنة المغرب فقط، وهو الظاهر؛ لقوله الآتي في العشاء أيضاً: "في بيته"، فإنه لو كان هذا راجعاً إلى الثلاثة لا يحتاج إلى ذكره ههنا، بل يكتفى بذلك بعد العشاء فقط، وأصرح منه دلالة ما في رواية للبخاري:  
فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعَشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ، وَأَغْرَبَ أَبْنَى لِلْيَلِي فَقَالَ: لَا تَجْزِئُ سَنَةُ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَهُ الْقَارِي.

عن <sup>(۲۱)</sup> ابن عمر رضي الله عنهما قال: وحدثني حفصة: أن رسول الله ﷺ كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أياه قال: خفيتين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية الفزارى، عن جعفر بن بُرْقَان، عن ميمون بن مهران، أبي أطه ثقة فقيه

کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے دو ہی رکعت سنت پڑھی ہوں جن کو حضرت ابن عمر رضي الله عنه نے نقل فرمایا، نیز حضرت ابن عمر رضي الله عنه کا اس حدیث میں یہ ارشاد کہ میں نے حضور کے ساتھ یہ نمازیں پڑھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کے ساتھ جماعت کی بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضور بھی پڑھتے تھے اور میں بھی پڑھتا تھا۔ سنتوں کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔

(۲۲) ابن عمر رضي الله عنه کہتے ہیں کہ مجھ سے (میری بہن ام المؤمنین) حضرت حفصة رضي الله عنها کہتی تھیں کہ حضور اقدس ﷺ صبح صادق کے بعد جس وقت مؤذن اذان کہتا ہے اُس وقت دو مختصر رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ فائدہ: صحیح کی سنتوں کے متعلق اکثر روایات میں یہی آیا ہے کہ حضور ان کو مختصر پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض علماء نے ان احادیث کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ ان میں صرف الحمد شریف پڑھی جائے اور کوئی سورت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ سے ان میں سورت کا پڑھنا ثابت ہے، البتہ مختصر سورت پڑھنا اولیٰ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور ان سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اگرچہ بعض احادیث میں ان کے علاوہ کا پڑھنا بھی وارد ہے۔ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ دونوں سورتیں کیسی اچھی ہیں! کہ صحیح کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہیں۔

وحدثني: قبل: الواو زائدة، وقبل: عطف على محنوف، أي: حدثني غير حفصة وحدثني حفصة قاله القاري، زاد المناوي: هذا أحسن من جعله زائدة. الفجر: [هو ضوء الصبح، وهو حمرة الشمس في سواد الليل، والمراد: الصبح الصادق، وهو: الذي يبدوا ساطعاً مستطيراً يملاً الأفق بياضه]. وينادي المنادي: [ويؤذن المؤذن، وسي الأذان نداء؛ لأن أصل النداء الدعاء، والأذان دعاء للصلوة]. أراه: الضمير المنصوب لنافع؛ لأن أياه راوٍ عنه.

حفیفين: وقد صح ذلك من طرق في الصحيحين وغيرهما فيسن تخفيفهما، والحديث المرفوع في تطويلهما من مرسل سعید بن جبیر، يحمل على بيان الجواز على أن فيه راوياً لم يسم، فلا حجة فيه لمن قال: يندب تطويلهما ولو لمن فاته شيء من قراءته صلوة الليل، قاله القاري، قال المناوي: وأخذ مالك من تخفيفهما أنه لا يقرأ فيهما غير الفاتحة، وحكاه ابن عبد البر عن الأكثر، وبالغ السلف فقال: لا يقرأ فيهما شيئاً أصلاً. الفزارى: بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبعد الألف راء، نسبة إلى فرارة، وهي قبيلة.

عن <sup>(٤٢)</sup> ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله ﷺ ثانية ركعات: ركعتين قبل الظهر، ورَكعتين بعدها، ورَكعتين بعد المغرب، ورَكعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثني حفصة بـرْ كعبي الغدّاء، ولم أكن أراهم من النبي ﷺ. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلَف، حدثنا بشير بن المفضل، عن خالد الحذاء،

(۲۲) ابن عمر رضی اللہ عنہی سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے آٹھ رکعتیں یاد کی ہیں: دو ظہر سے قبل، دو ظہر کے بعد، دو مغرب کے بعد، دو عشاء کے بعد۔ مجھے میری بہن حفصہ نے صبح کی دور کعتوں کی بھی خبر دی ہے جن کو میں نے نہیں دیکھا تھا۔ فائدہ: یہ دور کعتوں چونکہ ہمیشہ گھر میں ہی پڑھی جاتی تھیں اور صبح کا وقت زیادہ تر حاضر باشی کا ہوتا نہیں اس لئے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کچھ مستبعد نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہ دیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ اُس وقت تک نہیں دیکھا تھا جس وقت حضرت حفصہ نے خبر دی تھی، اُس کے بعد دیکھنے کی نوبت آئی، اس لئے کہ بعض روایات سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا مشاہدہ بھی ان سنتوں کے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ تمام سنتوں میں صبح کی سنیں سب سے زیادہ مؤکد ہیں۔ حضور سے بھی ان کی تاکید اور اہتمام کثرت سے نقل کیا گیا ہے، اسی وجہ سے بعض علماء نے ان کو واجب بتایا ہے، اسی وجہ سے ان کا بہت زیادہ اہتمام چاہئے۔

ثاني ركعات: [أي: من السن المؤكدة]. بركعتي العدة: [أي: الفجر، وأصل الغداة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس]. أراهما: بفتح الممزة أي: لم يبصرا هما، قال القاري: قد روى المصنف أي: في الجامع والنسائي عن ابن عمر رض: رمقت النبي صل شهراً كان يقرأ هما، أي: بسورتي الإخلاص في ركعتي الفجر؛ ومن ثم استدل به بعضهم على الجهر بالقراءة فيهما، وأجيب: بأنه لا حجة فيه؛ لاحتمال أنه عرف ذلك بقراءته بعض السورة، وقد صح عن عائشة رض أنه كان يسر فيهما بالقراءة، ويوافقه قياس الإخفاء في سائر السنن النهارية والليلية، قال ابن حجر: وهذا كله صريح في أنه رأى النبي صل يصليهما، فينافي رواية الشمايل أنه لم يره يصليهما، ويمكن أن يحاجب: بأنه لم يره قبل أن تحدثه. وتعرض المناوي عن التعارض، وسكت عن الجواب، وحكى البيجوري عن الشير أمليسي: أن النفي محمول على الحضر، فإنه كان يصليهما عند نسائه، والرؤبة محمولة على البصر، فإنه كان فيه يصليهما عند صحبه.

(٢٣) عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلوة النبي ﷺ؟ قالت: كان يصلّي قبل الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر شتتين.

حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الشَّفِيعِ، حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ قَالَ: سَمِعْتَ

عاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيًّا رضي الله عنه عن صلوة رسول الله ﷺ من النهار،  
[أي: عن كييفها]

(٢٤) عبد الله بن شقيق رضي الله عنه كہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے حضور اقدس ﷺ کے نوافل کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے دور رکعت ظہر سے قبل اور دو ظہر کے بعد اور دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد اور دو صبح کی نماز سے قبل بتلائیں۔ فائدہ: اس میں ظہر کے قبل دو سنقاوں کے علاوہ باقی میں حنفیہ کا اتفاق ہے۔ ظہر کی شتین حنفیہ کے نزدیک چار رکعت ہیں، چنانچہ ابن عمر رضی الله عنه کی حدیث کے ذیل میں وضاحت سے گزر چکا ہے۔ بخاری شریف میں خود حضرت عائشہ رضی الله عنها کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ ظہر سے قبل چار رکعت اور صبح سے قبل دو رکعت نہیں چھوڑتے تھے یعنی ہمیشہ پڑھتے تھے، اس لئے اس کو کبھی کسی ضرورت پر حمل کریں گے۔

(٢٥) عاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ كہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضي الله عنه سے حضور اقدس ﷺ کی اُن نوافل کے متعلق استفسار کیا جن کو آپ دن میں پڑھتے تھے (رات کی نوافل یعنی تہجد وغیرہ ان کو پہلے سے معلوم ہوں گی)، تہجد کی روایات بالخصوص کثرت

ركعتین: هكذا في هذه الرواية ركعتان قبل الظهر، لكن المعروف عن عائشة المروي عنها بطرق: أربع قبل الظهر، ويؤيده أيضاً ما روي عنها مرفوعاً: من ثابر على شتي عشر ركعة، الحديث، وفسر فيه بأربع قبل الظهر، فيمكن أن يقول حديث الباب على بعض الأوقات، وقد أخرج البخاري في صحيحه برواية ابن المتنشر، عن عائشة: أن النبي كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل العداة، وقال الطبرى: الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها، قال ميرك: وهذا يجمع بين ما اختلف عن عائشة في ذلك.

وقبل الفجر: قال المناوي: أفضل الرواتب ركعتا الفجر للخلاف في وجوبهما، قال العراقي: ولم أر لأصحابنا تعرضاً لا كدراها بعدهما، وقال المالكية والحنابلة: أكدراها بعدهما الركعتان بعد المغرب، ويشهد له أن الحسن قال بوجوبهما أيضاً، ثم "بعدهما" يتحمل بعديه العشاء؛ لأنها من صلوة الليل وهي أفضل، ويتحمل سنة الظهر لاتفاق الروايات عليها. وانختلفت الحنفية في ذلك كما بسط في مراقي الفلاح والطحطاوي. ضمرة: بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم.

قال: إنكم لا تطيفون ذلك، قال: فقلنا: من أطاق مَنْ ذَلِكَ صَلَّى رَحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإذا كانت الشمس من هُنَا كَهِيئَتُهَا مِنْ هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِشَارَةً إِلَى حَاجِنِ الْمَشْرِقِ إِشَارَةً إِلَى حَاجِنِ الْمَغْرِبِ أَيْ: صَلْوةُ الْضَّحَى إِشَارَةً إِلَى حَاجِنِ الْمَشْرِقِ إِشَارَةً إِلَى حَاجِنِ الْمَغْرِبِ أَيْ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الزَّوَالِ كَهِيئَتُهَا مِنْ هُنَا عِنْدَ الظَّهَرِ صَلَّى أَرْبَعاً، وَيُصْلِي قَبْلَ الظَّهَرِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، أَيْ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْزَّوَالِ

سے منقول ہیں اور مشہور ہیں) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اس کی طاقت کہاں رکھ سکتے ہو؟ (یعنی جس اہتمام و انتظام اور خشوع خضوع سے حضور پڑھتے تھے وہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اس سے مقصود تعبیر تھی کہ محض سوال اور تحقیق سے کیا فائدہ جب تک عمل کی سمجھی نہ ہو)۔ ہم نے عرض کیا کہ جو طاقت رکھ سکتا ہو گا وہ پڑھے گا (اور جو طاقت نہیں رکھے گا وہ معلوم کر لے گا تاکہ دوسروں کو بتلا سکے اور خود عمل کرنے کی کوشش کرے) اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحیح کے وقت جب آفتاب آسمان پر اتنا اوپر چڑھ جاتا جتنا اور عصر کی نماز کے وقت ہوتا ہے، اُس وقت حضور دور رکعت (صلوة الاشراق) پڑھتے تھے اور جب مشرق کی طرف اس قدر اوپر ہو جاتا جس قدر ظہر کی نماز کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے تو اُس وقت چار رکعت (چاشت کی نماز جس کا مفضل بیان دوسرے باب میں آرہا ہے) پڑھتے تھے۔ ظہر سے قبل چار رکعت پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد دور رکعت (یہ چھ رکعتیں ست مؤکدہ ہیں) اور عصر سے قبل چار رکعت پڑھتے۔ چار رکعت کے درمیان بیٹھ کر ملائکہ مقربین اور انبیاء و مُؤمنین پر سلام بھیجتے تھے۔ فائدہ: اس سے التحیات بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس میں السلام عليك أیها النبی إلخ ہوتا ہے۔ اس صورت میں حدیث میں جہاں جہاں چار رکعت بیان کیا گیا ہے،

لا تطيفون: أي بحسب الكيفية والحاله أو باعتبار الدوام والمواظبه، وفيه إشارة إلى ترغيب السائلين على المداومة في المتابعة. أطاق إلخ: يعني ومن لم يطق منا ذلك علم. رکعتین: قال القاري والمناوي: هذه صلوة الضحى والأربع الآية عند الزوال، تسمى صلوة الأوایین؛ لما روى مسلم من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً: صلوة الأوایین حين ترمض الفصال. قلت: والأوجه عندي أن هذه صلوة الإشراق والآية صلوة الضحى، وهو واحد عند الفقهاء والمخذلين، فإنهم ذكروا أن وقت الضحى من ارتفاع الشمس إلى قريب من الزوال، وصلوتان عند مشائخ السلوك، يسمون الأولى صلوة الإشراق، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى ربع النهار، والثانية صلوة الضحى، ووقتها من ربع النهار إلى قريب من نصف النهار وهو الأوجه عندي، كما حفظه في أوجز المسالك على مؤطا مالك. صلَّى أربعاً: [هي صلاة الأوایین، ورد في الحديث صلاة الأوایین حين ترمض الفصال.]

وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالْتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمَقْرِئِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ.

سب کو شامل ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے دور کعت پر سلام پھیرنا مراد ہو، تو منقصود یہ ہے کہ ان چار رکعتوں میں جو عصر سے قبل پڑھی جاتی تھیں دو سلام پھیر دیتے تھے۔ عصر کی نوافل دور کعت اور چار رکعت دونوں طرح سے ثابت ہیں، خود حضرت علیؓ سے بھی دونوں روایتیں ہیں۔

بِالْتَّسْلِيمِ: قيل يعني به التشهيد، سمي تسليما؛ لاشتماله عليه. والنَّبِيُّونَ: هذه قرينة قوية على أن المراد "بالتسليم" التشهيد، لا تسليم التحلل، كما جزم به الشرح الشافعي، قال القاري: أي يفصل بالتشهد المشتمل على قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض على ماورد في الصحيح، وبيهده حديث ابن مسعود في المتفق عليه: كنا إذا صلينا مع النبي ﷺ قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. الحديث ذكره الطبي وتبعه الحنفي. وأغرب ابن حجر حيث تعقبهما بقوله: فيه نظر؛ إذ لفظ الحديث يأى ذلك، وإنما المراد "بالتسليم" فيه تسليم التحلل، قال القاري: ولا يخفى أن سلام التحلل إنما يكون مخصوصاً عن حضر المصلى من الملائكة والمؤمنين، ولفظ الحديث أعم منه حيث ذكر الملائكة والمقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين إلى يوم الدين. المؤمنين وال المسلمين: لعل الجمع بين الوصفين مع أن موصوفهما واحد؛ للإشارة إلى انقيادهم الباطني والظاهري، والجمع بين النسبة العلمية وال المباشرة العملية.

## بابُ صلوٰۃ الصھی

چاشت گاہ

حدثنا محمد بن غیلان، حدثنا أبو داود الطیالسی، حدثنا شعبة، عن یزید الرشک قال:

### باب۔ چاشت کی نماز کا ذکر

فائدہ: فقهاء اور محدثین کے نزدیک صبح کے بعد وقتِ مکروہ نکل جانے کے بعد سے زوال تک سب صلوٰۃ الصھی کھلاتی ہے، لیکن صوفیہ کے یہاں یہ دو نمازیں ہیں: ایک اشراق کی نماز کھلاتی ہے دوسرا چاشت کی نماز کھلاتی ہے۔ چوتھائی دن تک اشراق کا وقت رہتا ہے اور چوتھائی کے بعد سے نصف النہار تک چاشت کا وقت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ روایت جو گزشتہ باب کے اخیر میں ذکر کی گئی ہے اور ایسی ہی اور دیگر روایات صوفیہ کا ماغذہ ہیں۔ صلوٰۃ الصھی میں علماء کا بہت اختلاف ہے۔ شرائع حدیث نے اس میں علماء کے آٹھ مذہب لکھے ہیں، خنیقہ کے نزدیک یہ نماز مستحب ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ اس نماز کے بارے میں بہت کثرت سے روایات وارد ہوئی ہیں، انہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس نماز کی حدیثین نقل کی گئی ہیں اور اوجز میں پچیس حضرات صحابہ کرام کی روایات ذکر کی گئی ہیں، انکے علاوہ اور بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ لازم ہوتا ہے، یعنی اس کے شکر میں کہ حق تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو صحیح سالم اپنی وضع پر رکھا۔ انگلی ہی کا ایک جوڑ دیکھ لجئے، اگر ب جدا ہو جائے انگلی بے کار ہے، وہ بجائے نرم ہونے کے سخت بن جائے، نہ انگلی حرکت کر سکے، نہ کسی چیز کو پکڑ سکے وغیرہ وغیرہ۔

**صلوٰۃ الصھی:** [الصلاۃ التي تصلی فی الصھی، والصھی اسم للوقت الذي يكون من تمام ضوء الشّمس إلی تمام ربع النهار] اختلف في ضبطه ومصادقه لغة، كما بسط في الأوجز، واحتلفت مذاهب السلف في ندبه وعدمه، كما بسط في البذل، فراجع إلىهما. قال المناوي: شهد تسعه عشر من أكابر الصحابة: أفهم رأوا المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم يصليها، حق قال ابن حجر: أحاديثها بلغت حد التواتر. قلت: وبسط في الأوجز أسماء من روتها من الصحابة، بلغت أكثر من خمس وعشرين، فراجع إليه لو شئت تفصيل أسمائهم. الرشك: بكسر الراء وسكون المعجمة: كبير اللحية، لقب یزید بن أبي یزید الضبعي، كذلك في القاموس، وقال أبو الفرج الجوزي: هو بالفارسية: الكبير اللحية، ولقب به لكبر لحيته، قال ابن الجوزي: دخل عقرب في لحيته فأقام بها ثلاثة، هذا هو المشهور، وقيل: الرشك: القسام، كما يأتي في الصيام من المصنف.

سمعت معاذة رضي الله عنه قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ يصلي الضحى؟ قالت: نعم، أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله عزوجل. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني حكيم بن معاویة الزیادی، حدثنا زیاد بن عبید الله بن الزیادی، عن حمید الطویل، عن <sup>(۱)</sup>أنس بن مالک رضي الله عنه: أن النبي صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ كان يُصلي الضحى ست ركعات.

پھر حضور نے صدقے گنوائے ہیں کہ ایک مرتبہ سجان اللہ کہنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، الحمد للہ کہنا بھی وغیرہ وغیرہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ چاشت کی دور رکعت ان تین سو سانحہ جوڑوں کی سب کی طرف سے صدقہ ہے۔ مصنف رسیلہ نے اس میں آٹھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں:

(۱) معاذہ نے حضرت عائشہ رضي الله عنها سے پوچھا: کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! چار رکعت (کم سے کم) پڑھتے تھے اور اس سے زائد جتنا دل چاہتا پڑھ لیتے۔ فائدہ: صلوٰۃ الضحی نوافل ہیں اس لئے کم سے کم دور رکعت اور زیادہ جتنا دل چاہے پڑھے کوئی انتہا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ سے بارہ رکعات تک پڑھنا ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور سے پڑھنا آٹھ ہی رکعت کا ثابت ہے البتہ ترغیب بارہ رکعات تک وارد ہوئی ہے۔

(۲) حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ صلوٰۃ الضحی یعنی چاشت کی چھ رکعات پڑھا کرتے تھے۔ فائدہ: اختلاف اوقات کے لحاظ سے حضور کی صلوٰۃ الضحی کی رکعات بھی مختلف ہیں، لہذا ان احادیث کو کچھ ایک دوسرے سے تعارض نہیں ہے، اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم دور رکعت اور بہتر یہ ہے کہ آٹھ رکعت یا بارہ رکعت پڑھے۔ حضور سے زیادہ تر آٹھ رکعت نقل کی گئی ہیں۔

قالت: اختلفت الروايات عن عائشة رضي الله عنها في صلوٰۃ الضحی، كما سیأٰتی قریباً، وفي هذا الحديث إثباتاً عنها مطلقاً، وقال ابن عبد البر: حديث معاذة عن عائشة منكر، وتعقبوا كلامه كما في الأوزر. الزیادی: بکسر الزای وفتح التحتیة، وبعد الألف دال مهملاً، نسبة إلى أحد أجداده زیاد. عبید الله: مصغراً، وفي نسخة مکبرا قاله القاری. قلت: والمؤید بكتب الرجال هو المصغر. ست رکعات: قال المناوي: وهذا روی من حديث علي وحابر وعائشة، قال القسطلاني: لا يخلو إسناد كل منها من مقال.

حدثنا محمد بن المثنی، حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مُرّة، عن عبد الرحمن بن أبي لیلی قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي ﷺ يُصلی الصھی إِلَّا أَمْ هانیٌ

(۳) عبد الرحمن ایک تالیع کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ام ہانیؓ کے سوا اور کسی نے حضور کی صلوٰۃ الصھی کی خبر نہیں پہنچائی، البتہ حضرت ام ہانیؓ نے یہ فرمایا کہ حضور اقدس ﷺ اُس روز جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور غسل فرما کر آٹھ رکعات نماز پڑھی۔ میں نے ان آٹھ رکعات سے زیادہ منقص حضور کی کبھی کوئی نماز نہیں دیکھی، لیکن باوجود منقص ہونے کے روکوں، سجود پورے پورے فمارہ ہے تھے، یہ نہیں کہ منحصر ہونے کی وجہ سے روکوں اور سجدے ناقص ہوں۔

فائدہ: عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے اس کہنے سے کہ ام ہانیؓ کے سوا کسی اور نے روایت نہیں کی، یہ نہیں لازم آتا کہ یہ نماز ام ہانیؓ کے سوا کسی اور صحابی کو معلوم نہیں تھی، خود اسی باب میں چند صحابہ کی روایات موجود ہیں۔ ابن حجر الرشیعیہ تو کہتے ہیں کہ صلوٰۃ الصھی کی روایات اس کثرت سے موجود ہیں کہ تو اترینک پہنچ گئیں اور یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ انہیں صحابہ سے یہ نماز منقول ہے، البتہ عبد الرحمن نے جن حضرات سے تحقیق کیا ان کو علم نہ ہو گا، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز جو اس حدیث میں ذکر کی گئی چاشت کی نمازنہ تھی بلکہ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے شکرانہ کی نماز تھی۔ حضور اقدس ﷺ کا معمول تھا کہ جب کوئی مسڑت کی بات ہوتی تو شکرانہ کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان آٹھ رکعات میں سے کچھ حصہ چاشت کی نماز ہو اور کچھ حصہ شکرانہ کی نماز ہو۔

أحد: أي: من الصحابة، وفي ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي ليلى قال: أدرك الناس وهم متوافرون فلم يخبرني أحد أن النبي ﷺ صلی الصھی إِلَّا أَمْ هانیٌ، ولمسلم، عن عبد الله بن الحارث قال: سألت وحرست على أن أحداً من الناس يخبرني أن النبي ﷺ سبع سبعة الصھی، فلم يخبرني أحد غير أم هانیٌ، فذكر الحديث، وبين ابن ماجة في روایة وقت سوال عبد الله بن الحارث عن ذلك، ولفظه: سالت في زمان عثمان - والناس متوافرون - أن أحداً يخبرني، فلم يخبرني أحد غير أم هانیٌ. أم هانیٌ: [بنت أبي طالب، شقيقة عليٍّ كرم الله وجهه].

فإِنَّا حَدَّثْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانِي رَكْعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلوةً قَطًّا أَحْفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَمَ الرَّكْوَعُ وَالسُّجُودُ. حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَمْرٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسْنِ، عَنْ أَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّحْبَى؟ قَالَتْ: لَا،

(۲) عبد الله بن شقيق کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلوٰۃ اللّٰہ علٰیہ وآلہ وسّلۃ الرحمٰن رکعتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ معمولاً تو نہیں پڑھتے تھے، ہاں! سفر سے جب لوٹتے تو ضرور پڑھتے۔ فائدہ: حضور ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ اکثر مدینہ منورہ صبح کے وقت میں داخل ہوتے اور اول مسجد میں تشریف لے جا کر نوافل ادا فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جواب معاذہ کے اُس جواب کے بالکل خلاف ہے جو شروع باب میں گزر چکا ہے۔ اس لئے علماء نے اس کی مختلف طرح سے توجیہ فرمائی۔ امام تیمیق الشیعیہ نے یہ توجیہ کی ہے کہ جس حدیث میں نقی وارد ہے اُس میں نقی دوام کی مراد ہے جو گاہے گاہے پڑھنے کے منافی نہیں یعنی ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے اور جس حدیث میں اثبات ہے اُس میں اکثر اوقات کے اعتبار سے ہے۔ بعض علماء نے اس طرح جمع فرمایا کہ سفر سے لوٹنے کے علاوہ اور لیام میں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ گھر میں پڑھتے تھے۔ اس حدیث میں نقی خاصّۃ مسجد میں پڑھنے کی مقصود ہے کہ مسجد میں جب ہی پڑھتے تھے جب سفر سے واپس تشریف لاتے جیسا کہ اوپر گزر ا۔

بیتها: بظاهره مخالف روایۃ الشیخین عنہما، قالت: ذہبت إلی رسول اللہ عام الفتح فوجده باغتسال وفاطمة ابنته یستره بثوب الحديث. اللہم إلا أن یقال: فوجده باغتسال في بيته، أو یقال: كان لها بیتان: أحدهما كان نیلۃ نزل فيه، والآخر سکناها، بالإضافة باعتبار الملك، أو يحمل على تعدد الواقعه، أو كان في بيتها في ناحية عنها، وعنه فاطمة رضی اللہ علیہ وآلہ وسّلۃ الرحمٰن فذهبت إليه، قال میرک: وظاهر حدیث الباب أن الاغتسال وقع في بيتها، ولمسلم من طريق أبي مرة عنها: أنها ذہبت إلى النبي ﷺ وهو بأعلى مکة فوجده باغتسال. ويجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه، ورویده مارواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عنها، وفيه: أن أبا ذر ستره لما اغتسل، ويمكن أن يكون نزل في بيتها في أعلى مکة وكانت هي في بيت آخر، وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل، والآخر في أثناءه، على ما أشار إليه العسقلاني، لكنه لا يخلو عن بعد.

ثانی رکعات: وفي الطبراني من حدیث ابن أبي أوفی: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلَهُ أَمْرَأٌ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْحَ رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ مُحْمَلٌ عَلَى أَنَّهُ رَأَى مِنْ صَلواتِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّمَا هَانَى رَأْتُ بَقِيَةَ الشَّمَانِ، وَهَذَا يَقُوِيُّ أَنَّهُ صَلَّاهَا مَفْصُولَةً، كَذَا أَفَادَهُ الْحَافِظُ العَسْقَلَانِيُّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْهَا: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ سَبْعَةَ الصَّحْبَى ثَمَانِي رَكْعَاتٍ، يَسْلِمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

إِلَّا أَنْ يَحْيَىٰ مِنْ غَيْبِهِ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الْعَوْدَادِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ فُضْلِيِّ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِي الصُّحْنَى حَتَّى تَقُولُ: لَا يَدْعُهَا، وَيَدْعُهَا حَتَّى تَقُولُ: لَا يُصْلِيْهَا. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْعِيْعَ، عَنْ هُشَيْمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ سَهْمَ بْنِ مِنْجَابٍ،

(۵) ابو سعید خدری رض کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلوات اللہ علیہ وسالم صلوٰۃ الصھی کبھی تو اس قدر اہتمام سے پڑھتے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے اور حضور کبھی (فرض ہونے کے خوف سے یا کسی اور مصلحت سے) ایسا ترک فرماتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ بالکل چھوڑ دی، اب کبھی نہیں پڑھیں گے۔ فائدہ: بہت سے امور کو حضور اقدس صلوات اللہ علیہ وسالم امت کی سہولت کے خیال سے ترک فرمادیتے تھے، جس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت عائشہ رض فرماتی ہیں کہ بعض امور حضور کا کرنے کو دل چاہتا تھا مگر اس ڈر سے اہتمام نہیں فرماتے کہ مباداً امت پر فرض ہو جائیں۔

إِلَّا أَنْ يَحْيَىٰ: اخْتَلَفَ الرِّوَايَاتُ عَنْ عَائِشَةَ فِي صَلَوَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّھِي، فَفِي حَدِيثِ الْبَابِ تَقِيِّدُهُ بِالْمُحْيَى عَنْ مَغْيَبِهِ، وَتَقْدِيمُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ مَعاذَةِ عَنْهَا إِثْبَاتٌ مُطْلَقاً، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِرَوَايَةِ عِرْوَةِ عَنْهَا: مَا رَأَيْتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِي سَبْحَةَ الصَّھِي قَطُّ، الْحَدِيثُ. وَهَذَا لَفْظُ مَالِكَ فِي الْمُوْطَأِ، فَفِيهِ نَفِي رُؤْيَاةِ مُطْلَقاً مُؤْكَداً، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ أَبْنُ عَبْدِ الرَّبِّ إِلَى تَرْجِيحِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانُ، وَقَالُوا: لَا يَسْتَلزمُ مِنْ عَدَمِ رُؤْيَاةِهِ عَدَمُ الْوَقْعِ، فَيَقْدِمُ إِثْبَاتُ مِنْ رَوْيِ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ رَوَايَاهُمَا، فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: عَنْدِي الْمَرَادُ بِقَوْلِهِ: "مَا سَبَحَهَا" أَيْ: مَا دَأَمَ عَلَيْهَا، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بَأنَّ تَأْكِيدَ نَفِي الرُّؤْيَا بـ"قَطٍّ" يَأْبَى هَذَا التَّأْوِيلُ، وَحَكَى الْحَبْشَانُ أَنَّ جَمْعَ بَعْضِهِمْ بَيْنَ رَوَايَتَيِ الشَّمَائِلِ يَعْنِي: حَدِيثِي مَعَاذَةَ وَابْنِ شَقِيقٍ بَأنَّ حَدِيثَ أَبِنِ شَقِيقٍ مُحْمَلٌ عَلَى الْمَسْجِدِ وَحَدِيثِ مَعَاذَةَ عَلَى الْبَيْتِ، وَيَنْكِرُ عَلَيْهِ حَدِيثَ عِرْوَةَ، وَيَجْبَ عَنْهُ: بَأنَّ النَّفِيَ صَفَةٌ مُخْصُوصَةٌ، وَأَنَّ الْجَمْعَ الْمُذَكُورَ مِنْ كَلَامِ أَبْنِ حَبَشَانَ، وَقَيْلَ فِي الْجَمْعِ أَيْضًا: بَأنَّ النَّفِيَ مُحْمَلٌ عَلَى الْمَعْهُودَةِ حِينَئِذٍ مِنْ هِيَةِ مُخْصُوصَةٍ بَعْدِ مُحْسُورٍ فِي وَقْتِ مُخْصُوصٍ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِيْهَا بَغْرِيرٍ عَدَدِ مُخْصُوصٍ كَمَا قَالَتْ: يَصْلِي أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، مُلْحَصٌ مِنْ جَمْعِ الْوَسَائِلِ. وَالْأُوْجَهُ عَنْدِي فِي الْجَمْعِ: أَنَّ حَدِيثَ عِرْوَةَ مُحْمَلٌ عَلَى صَلَوٰۃِ الْإِشْرَاقِ، وَيَطْلُقُ عَلَيْهَا أَيْضًا صَلَوٰۃَ الصَّھِيِّ فِي الرِّوَايَاتِ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْلِيْهَا فِي الْمَسْجِدِ، فَمَا رَأَاهَا عَائِشَةَ رض قَطُّ، وَحَدِيثُ أَبِنِ شَقِيقٍ عَلَى الْمَسْجِدِ، كَمَا فِي الْأَوْجَزِ.

عَبِيدَةُ: مَصْغَرًا، أَبْنَ مَعْتَبَ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَارِيُّ، وَذَكَرَهُ الْمَنْاوِيُّ بِلِفْظِ: أَبِي عَبِيدَةَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وَهُمْ، وَإِبْرَاهِيمُ شِيخُهُ هُوَ النَّحْعَنِيُّ.

سَهْمَ إِلَخُ: بِفتحِ سِينِ وَسْكُونِ هَاءِ كَفْلِسٍ. أَبْنُ مِنْجَابٍ، بِكَسْرِ مِيمِ فَسْكُونِ نُونٍ فَجِيمٍ فَأَلْفَ بَعْدَهَا مُوحَدَةً آخِرَ الْحَرْفِ.

عن قرْفَعَ الْفَبِيِّ، - أو عن قرْفَعَة، عَنْ قَرْفَعَة، - عَنْ<sup>(٦)</sup> أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلوات الله عليه كَانَ يُدْمِنُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَلَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تَدْمَنُ هَذِهِ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلَا تُرْتَجِحْ حَتَّى يُصْلَى الظَّهَرُ،

أَبِي بَدَارْمَةَ [لا تُنْقَل]

(۶) ابو ایوب انصاری صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ زوال کے وقت چار رکعت پڑھتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ان چار رکعتوں کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے زوال کے وقت سے ظہر کی نماز تک کھلے رہتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی کار خیر اُس وقت آسمان پر پہنچ جائے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کی ہر رکعت میں قراءت کی جائے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں! قراءت کی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ ان میں دور رکعت پر سلام پھیرا جائے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، چاروں رکعتات ایک ہی سلام سے ہونی چاہئیں۔

فائدہ: یہ نماز صوفیہ کے یہاں "صلوٰۃ الزوال" سے تعبیر کی جاتی ہے اور ان کے نزدیک مستحب نمازوں میں زوال کی نماز کا بھی شمار ہے۔ لیکن اکثر محدثین کے نزدیک یہ ظہر کی سنتیں ہیں اس لئے کہ ان کے نزدیک ظہر کی سنت کے علاوہ اور کوئی نوافل زوال کے بعد ایسے نہیں ہیں جن کو حضور ہمیشہ پڑھتے ہوں۔ بہر صورت دونوں قول کے موافق اس کو اور نیز آئندہ احادیث کو صلوٰۃ الصھی سے کوئی ظاہری مناسبت نہیں اس لئے امام ترمذی کا ان احادیث کو چاشت کی نماز کے ذیل میں ذکر کرنا مشکل ہے۔ لیکن مشائخ نے اس کی مختلف توجیہات فرمائی ہیں: اول یہ کہ چونکہ ان کا وقت چاشت کی نماز کا منتقاہا اس لئے تبعاً ان کے ساتھ ذکر فرمادی، مستقل باب کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ کاتب کی غلطی سے اس جگہ نقل ہو گئی۔

قرفع: بفتح قاف وسكون راء فممثلة مفتوحة فعين مهملة على وزن جعفر. أو عن قرْفَعَة: بفتح قاف وزاي وعين مهملة كدرجة. وغرضه أنه شك هشيم في أن الرواية بواسطة قرعة أو بدون الواسطة، وسيأتي الحديث الآتي بدون الشك بزيادة الواسطة. عند زوال إلخ: قيل في المناسبة بالترجمة: إن لفظ "عند" كما يطلق على عقب زوال الشمس يمكن حمله على ما قبله، فتكون صلوٰۃ الصھی، وحکی البیحوري: أن هذه الأحادیث وجدت في باب العبادة، كما في بعض النسخ، وهو الأحسن. ولعل إيرادها في هذا الباب من تصرف النساخ، ولم يكن في النسخ المقوءة على المصنف ترجمة بباب صلوٰۃ الصھی، ولا بباب التطوع، ولا بباب الصوم، ووقدت هذه الأحادیث كلها في باب العبادة، فلا إشكال. إنك تدمن إلخ: [والقصد الاستفهام عن حكمة ذلك]. يصلی: على صيغة المجهول والظاهر قائم مقام فاعله

فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعُدَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ، قَلْتُ: أَفِي كَلَّهُنَّ قِرَاءَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَلْتُ: هَلْ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ؟ قَالَ: لَا. حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْيَعٍ، حَدَثَنَا أَبُو مَعاوِيَةَ، حَدَثَنَا عَبِيدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمَ بْنِ مَنْجَابٍ، عَنْ قَرْعَةَ، عَنْ قَرْشَعَ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ. حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي الْوَضَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ:

ورنہ اس کا اصل محل گزشتہ باب ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ بعض شیخوں میں اس جگہ ذکر نہیں بلکہ اس پہلے ہی باب میں ذکر کی گئی ہیں اور بھی مختلف توجیہات کی گئی ہیں۔

(۷) عبد اللہ بن سائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و آله و سلم زوال کے بعد ظہر سے قبل چار رکعت پڑھتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی عمل صالح اس وقت بارگاہِ عالیٰ تک پہنچ۔ فائدہ: اور نماز سے بڑھ کر کوئی اور عمل صالح کیا ہو سکتا ہے کہ تمام عبادات سے افضل ترین عبادت ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی محدثک نماز میں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ بَلَغَ سے سرگوشی کرتا ہے۔

يَصْعُدُ: يشكل عليه: أن الملائكة الحفظة لا يصعدون إلا بعد صلوٰۃ العصر وبعد صلوٰۃ الصبح، ويبعد أن العمل يصعد قبل صعودهم، وقد يراد بالصعود القبول، قاله البيهوري، وقال المناوي: قد يراد بالصعود تعلق علم الله به.

أحمد بن إlix: غرض المصنف بإيراد هذا السندي: أن أَحْمَدَ بْنَ مَنْيَعَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَشِيمَ بْنِ الشَّكْ، وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي مَعاوِيَةَ بِالْوَاسْطَةِ بِدُونِ الشَّكِّ، وَالْجَزْمُ قاضٌ عَلَى الشَّكِّ، فَكَانَ وَاسْطَةُ قَرْعَةَ ثَابِتَةً فِي الرَّوَايَةِ، وَكَذَا يَأْثِبُ الْوَاسْطَةُ أَخْرِجَهُ أَبْنَى مَاجَةَ وَالْإِمَامَ أَحْمَدَ فِي مَسْنَدِهِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا دَاوُدَ أَخْرَجَهُ عَنْ أَبِنِ مَنْجَابٍ، عَنْ قَرْشَعَ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ، فَتَأْمَلْ.

أبو معاوية: قيل: هو هشيم المذكور في السندي المتقدم، وأشكل: بأنه إن كان كذلك فلا فائدة لتكرار السندي، ووجه: بأن الغرض أن ابن منيع روى تارة عن هشيم بالتردد وتارة بدونه، قاله المناوي. قلت: وأنت خبير بأن المشهور بهذه الكنية عدة رجال، لكن الظاهر هناك هو كونه هشيميا المذكور، فإنه أيضاً يمكن بأبي معاوية.

نحوه: [الحاديٰتُ السَّابِقُ فِي الْمَعْنَى وَإِنْ اخْتَلَفَ الْلَّفْظُ]. عبد الكريٰم: هو ابن مالك الجزارى.

أن رسول الله ﷺ كان يصلّي أربعاً بعد أن ترول الشمس، قبل الظهر، وقال: إنها ساعة [أي: قبل فرضه] تُفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا عمر بن علي المقدمي، عن مسمر بن كدام، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن <sup>(٨)</sup> علي عليهما السلام: أنه كان يصلّي قبل الظهر أربعاً، وذكر أن النبي ﷺ كان يصلّيها [أي: تلك الأربع] عند الزوال ويمد فيها.

(٨) حضرت علي بن أبي طالب ظهر سے قبل چار رکعت پڑھتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اقدس اللہ تعالیٰ بھی ان چار رکعت کو پڑھتے تھے اور ان میں طویل قراءت پڑھتے تھے۔ فائدہ: امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ان چار رکعات میں بہتری ہے کہ سورہ بقرہ پڑھے ورنہ کوئی ایسی سورت جو سو آیت سے زیادہ ہوتا کہ حضور کا اتباع طویل قراءت میں ہو جائے۔

ترول الشمس: هذه قرينة على أن المراد في الرواية السابقة بقوله: "عند زوال الشمس" هو بعد الزوال؛ فإن الصلوة عند الروال لا تجوز. وانختلفوا في هذه الصلوة هل هي صلوة الروال أو سنة الظهر؟ قال القاري: أبعد ابن حجر حيث قال: هذه ورد مستقل، سببه انتصاف النهار، وبعده لا يخفى؛ إذ لا يعرف منه <sup>صلوة</sup> المداومة حينئذ على غير سنة الظهر؛ ولذا لم يعد أحد من الفقهاء صلوة الروال، لا من السنن المؤكدة ولا من المستحبة. مختصرًا، ووافق المناوي ابن حجر؛ إذ قال: هذه الأربع ورد مستقل، سببه انتصاف النهار، إلى آخر ما قاله. إنها ساعة: [أي: قطعة الزمن التي بعد الزوال].  
المقدمي: بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المهملة المفتوحة، هو عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي.  
ويعد فيها: قال الغزالی في الإحياء: وليطول هذه الرکعات، ولیقرأ فيها سورۃ البقرۃ أو سورۃ من المثین أو أربعاً من المثانی.

## باب صلوٰۃ التطوع فی البت

حدثنا عباس الغنّبوري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية، عن <sup>(۱)</sup>عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله ﷺ عن الصلوٰۃ في بيته والصلوة في المسجد؟ قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد،

### باب - حضور اقدس اللہ علیہ السلام کے نوافل گھر میں پڑھنے کا ذکر

فائدہ: نوافل کا گھر میں پڑھنا افضل ہے، نبی کریم ﷺ سے قول اور فعلًا متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہے اور بہت سے مصالح اس میں ملحوظ ہیں، مسجد میں کے یہ بھی ہے کہ نماز کی برکات سے گھر میں برکت اور نورانیت بڑھے، گھر کے لوگ نماز کو سیکھیں اور ان کو بھی شوق پیدا ہو۔ حضور کا حکم بعض احادیث میں آیا ہے کہ نماز کا کچھ حصہ گھر میں ادا کیا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جیسا قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی یا جیسا کہ مردے نماز نہیں پڑھتے، تمہارے گھر بھی قبرستان کے مشابہ بن جائیں، ایسا نہ کرو۔ اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے۔

(۱) عبد الله بن سعد رضي اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس اللہ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ نوافل مسجد میں پڑھنا افضل ہیں یا گھر میں؟ حضور نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے۔ (جس کی وجہ سے مسجد کے آنے میں کسی قسم کی وقت یا رُکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود فرائض کے علاوہ مجھے اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ پسند ہے۔

التطوع إلخ: [اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجبات، والتطوع: التبرع، والمراد به ههنا ما زاد على الفرائض] قال القاري: المراد بالتطوع: غير الفرض، فيشمل السنن المؤكدة المستحبة وغيرها من صلوٰۃ الضحى وأمثالها. العنبري: نسبة لبني عنبر، حي من تميم. حرام: بهملتين مفتوحتين، ابن معاوية، وهو حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم، ووهم من جعلهما اثنين، قاله القاري. عبد الله: عبد الله بن سعد الأنصاري الحرامي، ووهم من جعله عبد الله بن سعيد بالياء. ما أقرب بيتي: صيغة تعجب، وفيه زيادة في الجواب، إذ بين له أن ما يفعله يكون أدعى إلى النأسى به، وليفهمه أنه لا فرق في كونها أفضلا في البيت بين قرب المسجد عن بيته وبعده عنه.

فَلَأَنْ أُصْلَىٰ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْلَىٰ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ صَلَاةً مُكْتَوَبَةً.

فائدہ: نوافل کا بینی چونکہ انھا پر ہے اس لئے ان کا گھر میں پڑھنا افضل ہے تاکہ انھا کامل ہو، ریکارڈ سے بُند ہو جائے، البتہ فرانپش وغیرہ جن کا انھا مناسب نہیں، وہ مسجد ہی میں افضل ہیں جیسے طوافِ کعبہ کی رکعتیں اور صلوٰۃ التراویح وغیرہ۔ صلوٰۃ التراویح اگرچہ فرانپش میں نہیں لیکن رمضان المبارک کا خصوصی امتیاز ہے اور جماعت اس میں مسنون ہے اور اسی طرح ہر وہ نماز جو جماعت سے ادا کی جاتی ہے جیسے کسوف کی نماز کہ ان نمازوں کا انہمار مقصود ہے، اس لئے ان کا مسجد میں پڑھنا اولیٰ ہے۔

احبَّ إِلَيْ: [وَذَلِكَ لِتُحَصِّلَ الْبَرَكَةَ لِلْبَيْتِ وَأَهْلِهِ، وَلِتَنْزَلَ الْمَلَائِكَةُ، وَلِيُذَهِّبَ عَنْهُ الشَّيْطَانُ].

## بابُ ما جاء في صوم رسول الله ﷺ

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبوب،

### باب۔ حضور اقدس ﷺ کے روزوں کا ذکر

فائدہ: اس باب سے مقصود حضور اقدس ﷺ کے نفل روزوں کا بیان ہے۔ آپ کی عادت شریفہ روزے بہت رکھنے کی تھی، کبھی کبھی آپ مسلسل کئی کئی دن کے روزے رکھتے تھے۔ روزے کی فضیلیتیں احادیث کی کتابوں میں بہت سی وارد ہوئی ہیں۔ حق تعالیٰ جل جلالہ کے ہر حکم میں ہزاروں مصالح ہیں، حکمتیں ہیں۔ آدمی کی عقل کی اتنی پرواز کہاں ہے کہ حق تعالیٰ جل جلالہ یعنی حکیم کی حکتوں تک پہنچ سکے، ہر شخص کی جہاں تک پرواز ہے وہاں تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے دینی اور دنیوی فوائد کا اور اک کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اُس سے بھی اوپری ہوتی ہیں۔ جس طرح اور احکام میں ہزاروں مصلحتیں ہیں روزے میں بھی ہیں، منجملہ ان کے چند مصالح ظاہر اور بدیہی ہیں جن میں سے ایک جذبہ موساہہ اور ہمدردی ہے، جو شخص خود بھوکارہتا ہے اُس کو بھوکے کی ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے، جو خود بھوک کی تکلیف اٹھاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ غریب پر کیا گزرتی ہے، بھوکے کو کس مصیبت کا سامنا ہے، ایسی حالت میں اُس کو بھوکے کی امداد کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور غریب کے ساتھ ہمدردی کو بھی طبیعت تقاضا کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ روزہ سے قوت بسمیلہ اور شہوانیہ کا زور کم ہوتا ہے یہ قوت جب زور پکڑتی ہے تو بہت سے ایسے امور آدمی سے سرزد ہوتے ہیں جو دین و دنیا میں رو سیاہی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں:

ایں نہ عشق است آن کہ در مردم بود  
ایں فساد خور دنِ گندم بود

صوم: [الصوم في اللغة: مطلق الإمساك، وفي الشرع: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية، والمراد به هنا ما يشمل الفرض والنفل] قال البيهوري: وفي بعض النسخ: صيام رسول الله، وكل منهما مصدر لـ"صوم"، فهما معنی واحد، وهو لغة: الإمساك ولو عن الكلام، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَدْرَأُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مریم: ۲۶]، وشرعًا: الإمساك عن المفترقات جميع النهار بنيته، والمراد به ههنا ما يشمل الفرض والنفل.

عن <sup>(۱)</sup> عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه? قالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام، ويُفطر حتى نقول: قد أفتر، قالت: وما صام رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه شهرًا كاملاً مُنذ قَدِمَ المدينة إِلَّا رمضان.

یہ عشق یعنی جو آج کل لوگوں میں ہوتا ہے، وہ عشق نہیں ہے جو بھلے آدمیوں میں ہوتا ہے، یہ پیٹ بھرنے کا فساد ہے کہ جب پیٹ بھرائی مل جاتی ہے تو ناپاک حرکتیں خوب سمجھتی ہیں اور جب بھوک کا غالبہ ہو رہا ہو تو عشق و شق سب بھول جاتا ہے۔ اسی لئے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو نکاح نہ کر سکتا ہو اُس کو چاہئے کہ روزے کثرت سے رکھا کرے کہ یہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی مصلحت روحانیت کی قوت ہے۔ روزہ سے روحانیت کو بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر ملت و مذهب میں کسی نہ کسی صورت سے روزے کا وجود ہے اور مذاہب حنفی میں حضرت آدم عليه السلام کے زمانہ سے روزہ کی مشروعیت رہی ہے۔ حضرات انبیاء کرام عليهم السلام کا معمول روزے میں مختلف رہا ہے۔ حضرت نوح عليه السلام کا معمول ہمیشہ بارہ مہینے روزے رکھنے کا تھا اور حضرت داؤد عليه السلام کا معمول ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، حضرت عیسیٰ عليه السلام کا معمول ایک دن روزہ دو دن افطار تھا، اسی طرح دیگر انبیاء عليهم السلام کے مختلف معمولات رہے ہیں۔ نبی کریم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول اس میں بھی عجیب نرالاتھا کہ مصالح و قبیلے کے تحت میں خاص خاص ایام کے روزے معمول اور متین فرمائے تھے اور ان کے علاوہ وقتی مصالح کے تحت میں بسا اوقات لگاتار روزے رکھتے اور بسا اوقات افطار فرماتے جس کی وجہ ظاہر ہے کہ جب روزہ بمنزلہ ایک تریاق اور دوا کے ہے تو وقتی مصالح سے اس میں قلت و کثرت جیسا کہ دوا کا اصول ہے لابد ہے۔ چنانچہ حضور کے چند معمولات نمونہ کے طور پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں۔

(۱) عبد الله بن شقيق رضي الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشة رضي الله عنها سے حضور اقدس صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے رکھنے کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ کبھی حضور اس قدر متواتر روزے رکھتے کہ ہمارا یہ خیال ہوتا کہ اس ماہ میں افطار ہی نہیں فرمائیں گے

کان يصوم: [أي: يتابع صوم النفل]. نقول: بالنصب على الرواية الصحيحة، وجوز بعضهم الرفع، قال القسطلاني: وهو ضعيف روایة و درایة. قد صام: أي: الشهر كله أو داوم على الصيام، وعبر عن المستقبل بالماضي دلالة على عدم الشك في تحققه.

منذ قدم: قيدت به؛ لأن الأحكام إنما كثرت من حين قدمها، ورمضان لم يفرض إلا فيها.

رمضان: [يُمْيَّز بذلك؛ لأنَّه يرمض الذنوب أي: يذهبها].

حدثنا عليّ بن حُجْر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حُمَيْد، عن أنس بن مالك: أنه سُئِلَ  
عن صوم النبي ﷺ، فقال: كان يصوم من الشّهْر حتّى نرى أن لا يُريد أن يفطر منه، ويُفطر  
حتّى نرى أن لا يُريد أن يصوم منه شيئاً، وكُنْتَ لا تشاء أن تراه من الليل مُصلِّياً إلا أن رأيته  
مُصلِّياً، ولا نائماً إلا رأيته نائماً.

اور کبھی ایسا مسلسل افطار فرماتے تھے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا کہ اس ماہ میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ لیکن مدینہ منورہ تشریف آوری  
کے بعد رمضان المبارک کے علاوہ کسی ماہ کے تمام روزے نہیں رکھے (ایسے ہی کسی ماہ کو کامل افطار میں گزار دیا ہو یہ بھی نہیں  
کیا۔ کما فی أبي داود) حضور اقدس ﷺ کے اس معمول کے متعلق کسی قدر تفصیل حديث نمبر ۳ کے ذیل میں آئے گی۔  
(۲) حضرت انس بن ثابتؓ سے کسی نے حضور کے روزوں کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ عادت شریفہ اس میں مختلف  
تھی۔ کسی ماہ میں تواتری کثرت سے روزے رکھتے تھے جس سے خیال ہو جاتا کہ اس میں افطار فرمانے کا ارادہ ہی نہیں ہے اور  
کسی ماہ میں ایسا مسلسل افطار فرماتے تھے جس سے ہم یہ سمجھتے کہ اس ماہ میں آپ کا روزہ کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی عادت  
شریفہ یہ بھی تھی کہ اگر تم حضور ﷺ کو رات کو سوتا ہو ایکھنا چاہو تو یہ بھی مل جاتا اور اگر نماز پڑھتا ہو ایکھنا چاہو تو یہ بھی  
میسر ہو جاتا۔ فائدہ: مقصود یہ ہے کہ حضور ﷺ کی عادت شریفہ نہ تمام رات سونے کی تھی نہ تمام رات جانے کی، بلکہ  
درمیانی رفتار میں حقوقِ نفس کی رعایت فرماتے ہوئے عبادات کا اہتمام بھی پورا پورا فرماتے تھے۔ اس لئے شب کو سوتے  
ہوئے دیکھنا بھی ممکن تھا کہ کچھ حصہ آرام بھی فرماتے تھے اور نماز کی حالت میں دیکھنا بھی کہ کچھ حصہ نماز میں گزرتا تھا۔

حجر: بضم الحاء المهملة وسكون الجيم. نرى: بنون الجمع أو بالتحتانية على بناء المجهول أو بالخطاب، ثلاثة وجوه،  
قاري. وجعل المناوي الثاني أيضاً بناء المعروف فقال: وفيه ضمير من غير مراع.

أن لا يريده: بالنصب، ووجهه ظاهر، وروي بالرفع على أن "أن" مخففة من الثقيلة.

ولا نائما: قال المناوي: لا يشكل على الحديث قول عائشة: كان إذا صلوة داوم عليها، وقولها: كان عمله ديمة؛ لأن  
المراد بذلك ما اخذه راتباً، لا مطلق النفل، فهذا وجه الجمع بين الحديثين، وإنما ظاهرهما التعارض. قال ميرك: وهو لا يشفى  
العليل، كما ترى، قال القاري: والأظهر أن يقال: إعمال العمل المسمى بالتهجد مثلًا تارة في أول الليل وتارة في آخره  
لا ينافي مداومة العمل، كما أن صلوة الفرض تارة يصلّي في أول الوقت وتارة في آخره، وهو ظاهر، يشفى العليل.

حدثنا محمود بن غیلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن حُبَّير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ النَّبِيُّ صلوات الله عليه وآله وسالم يصوم حتَّى يقول: مَا يُرِيدُ أَنْ يَفْطُرَ مِنْهُ، وَيَفْطُرُ  
 حتَّى يقول: مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومُ، وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مِنْذَ قَدِيمِ الْمَدِينَةِ إِلَّا رَمَضَانَ.

بعض علماء نے اس کا دوسرا مطلب بھی بتایا ہے وہ یہ کہ عادت شریفہ اس باب میں مختلف تھی کہ کبھی اول شب میں نوافل پڑھتے، کبھی وسطِ رات میں، کبھی اخیر میں۔ اس لئے رات کے کسی حصہ خاص میں کوئی سوتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اول رات میں حضور کو نماز پڑھتا ہوا دیکھوں تو کسی دن یہ بھی مل جاتا اور اس وقت سوتا ہوا دیکھنا چاہے تو یہ بھی مل جاتا۔ اس لئے کہ رات کا ہر حصہ کسی نہ کسی دن حضور نماز میں گزارتے تھے اور اس کی دو مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں: اول تو یہ کہ عبادت جو اصل مقصد اور آدمی کے وجود کی غرض ہے اور اللہ کی رضا کا سبب ہے، رات کے ہر حصہ کو کبھی نہ کبھی اس کی برکات میسر ہو جائیں اور قیامت میں رات کا ہر حصہ اپنے اندر عبادت کا وجود رکھے۔ دوسرے یہ کہ عبادت جب ایک ہی وقت میں ہوتی رہے تو بمنزلہ عادت بن جاتی ہے پھر مشقت کا لطف نہیں رہتا اور جب رات کے مختلف حصول میں عبادت کی جائے گی تو عادت نہ بنے گی۔

(۳) حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے بھی حضور کی یہ عادت شریفہ مروی ہے کہ کسی ماہ میں اکثر حصہ روزہ رکھتے تھے جس سے ہمارا خیال ہوتا تھا کہ اس میں اظہار کا ارادہ نہیں اور کسی ماہ میں ایسے ہی اکثر اظہار فرماتے تھے، لیکن کسی ماہ میں بھروسہ رمضان المبارک کے تمام ماہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ فائدہ: نبی کریم صلوات الله عليه وآله وسالم کا یہ معمول متعدد روایات میں گزر چکا ہے۔ اس معمول کی دو وجہ ہیں: اول تو یہ کہ باب کے شروع میں گزر چکا ہے کہ روزہ حقیقت میں ایک تریاق ہے اور بسا اوقات روحانی ترقی اور دیگر وقتی مصالح کے لئے بطور دوا کے بھی رکھا جاتا ہے ایسی صورت میں دوا کے عام اصول کے موافق بسا اوقات اس کے مسلسل استعمال کی حاجت ہوتی ہے اور بسا اوقات خاص ضرورت نہیں ہوتی، یا اگر معمولی ضرورت بھی ہوتی ہے تو دوسرے وقتی عوارض کی وجہ سے دوا کا ترک ضروری ہوتا ہے جو اطباء کے یہاں ایک معروف چیز ہے، اور نبی کریم صلوات الله عليه وآله وسالم کے برابر روحانیت کا طبیب کون ہو سکتا ہے! اس لئے نبی کریم صلوات الله عليه وآله وسالم وقتی ضروریات کے لحاظ سے بسا اوقات مسلسل روزے رکھتے تھے

حدثنا محمد بن بشّار، حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي سلمة، عن<sup>(٤)</sup> أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي ﷺ يصوم شهرين مُتَسَابِعِينَ إِلَى شعبان ورمضان.

اور بسا اوقات مسلسل افطار فرماتے تھے۔ امت کے لئے بھی جو حضرات خود روحانی طبیب ہیں وہ روحانی مصالح کے لحاظ سے روزے اور افطار کے اوقات متعین فرماسکتے ہیں اور جو شخص خود طبیب نہیں ہے وہ کسی روحانی طبیب کے زیر علاج عمل درادم کرے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے کچھ خصوصی معمولات تھے، مثلاً: پیر، جمعرات کاروزہ رکھنا، ہر مہینہ میں تین روزے رکھنا، ایام بیض، عشرہ محرم، عشرہ ذی الحجه کے روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ معمولات بسا اوقات اسفار وغیرہ عوارض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے اس لئے عوارض دُور ہو جانے کے بعد بطور قضا اور تلافی کے جتنے روزے معمول میں سے ترک ہو جاتے تھے ان کو پورا فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی حضور کی ایک خصوصی عادتِ شریفہ تھی کہ جب کسی عبادت کو شروع فرماتے تو اس پر دوام اور نباہ فرمایا کرتے تھے، اس لئے جتنے روزے معمول سے رہ جاتے تو ان کو رکھتے اس لئے لگاتار روزے رکھنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ اللهمَّ وَقْفْنَا تَبَاعَدَهُ

(۲) ام سلمہ رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو رمضان و شعبان کے سواد و ماہ کامل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ فائدہ: یہ حدیث بظاہر گز شتم تمام احادیث کے خلاف ہے کیونکہ اب تک سب روایتیں اس پر متفق تھیں کہ حضور رمضان المبارک

شعبان: [سمی بذلك؛ لتشبعهم في الغارات بعد أن يخرج رجب، وفيه: لتشبعهم في طلب الماء] هذا ينافي ما سبق أنه رضي الله عنه لم يصم شهراً كاملاً غير رمضان، وجمع بأن المراد أنه صام أكثره؛ لرواية مسلم: كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلاً، قال النووي: الثاني مفسر للأول، يعني معنى قوله: "كله" غالبه، وقد نقل الترمذى عن ابن المبارك أنه جاء في كلام العرب: إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله، واستبعده الطبي معللاً بأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التحوز، ففسيره بالبعض مناف له، قال: فيحمل على أنه كان يصومه كله في وقت ويصوم أكثره في وقت آخر؛ لغلا يتوهم أنه واجب كرمضان، فعلى هذا مراد عائشة وابن عباس رضي الله عنهما من قولهما: "ما صام شهراً" ما صامه على الدوام، وقيل: المراد بقولها: "كله": أنه يصوم من أوله تارة، وآخره أخرى، وأثنائه طوراً، فلا يخلو شيئاً منه من صيام ولا يخلو عن بعد، على أنه صام شعبان كله، واطلعت عليه أم سلمة ولم يطلع عليه ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما.

قال أبو عيسى: هذا الإسناد صحيح، وهكذا قال: عن أبي سلمة، عن أم سلمة، وروى هذا

الحديث غير واحدٍ عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ

کے علاوہ کسی ماہ کے مسلسل روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن اس حدیث میں اُس کے ساتھ شعبان کو بھی ملادیا۔ ان دونوں کی تطبیق علماء نے مختلف طریقہ سے فرمائی ہے: اول یہ کہ اس حدیث میں تمام شعبان کو مبالغہ کے طور پر کہا گیا ہے۔ حضور کی عادت شریفہ آکثر حضہ شعبان کے روزے رکھنے کی تھی، چنانچہ آئندہ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خود اس کی تصریح موجود ہے۔ دوسرے یہ کہ ممکن ہے کسی وقت میں اتفاقاً حضور نے تمام ماہ شعبان کے روزے رکھے ہوں جس کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اطلاع ہوئی اور وہ کہ نہیں ہوئی۔ تیسرا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ حضرات کی روایت میں عادت کی نفی ہے کہ حضور کی عادت شریفہ رمضان کے علاوہ اور کسی ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی نہیں تھی، اتفاقاً کسی ماہ کے پورے روزے رکھ لینا اُس کے منافی نہیں ہے، اس لئے اگر کسی سال کسی عارض کی وجہ سے حضور نے شعبان کے بھی پورے روزے رکھ لئے ہوں، تو چونکہ وہ معمول نہ تھا اس لئے حضرت عائشہ وغیرہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا اور چونکہ پورے میئے کے رکھنے کے تھے اس لئے حضرت ام سلمہ نے ان کو ذکر کر دیا، اس لئے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ حضور ابتدا میں شعبان کے تمام مہینہ کے روزے رکھتے ہوں اور اخیر میں ضعف کی وجہ سے کم کر دیئے ہوں، اس لئے جس نے آخری فعل ذکر کیا اس وجہ سے کہ وہ آخری فعل تھا، اُس نے اکثر ذکر کر دیا اور جس نے یہ خیال کیا کہ یہ عارض کی وجہ سے تھا، اصل معمول تمام مہینہ کا تھا، اُس نے تمام مہینہ ذکر کر دیا۔

قال أبو عيسى إلخ: غرض المصنف دفع ما يظهر في هذا الحديث من الاختلاف على أبي سلمة بأن سالمًا رواه عن أبي سلمة، عن أم سلمة، وغير واحد رواه عنه، عن عائشة فدفعه المصنف بقوله: إنه يحصل أن أبا سلمة روى عنهما جميعاً. الإسناد: يشكل عليه: بأن المصنف أخرج الحديث في الجامع لهذا الإسناد، وحكم عليه بأنه حسن، فكيف حكم عليه في الشمائل بالصحة؟ وأجيب: بأنه حكم هنها بالصحة على الإسناد، والحكم على الإسناد بالصحة أنزل درجة من الحكم على الحديث بالصحة، كما ذكره ابن الصلاح. غير واحد: أي: كثير من الرواة. قال ميرك: رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة، عن عائشة، ووافقته يحيى بن أبي كثير، وسالم أبو النضر عند البخاري وغيره، ومحمد بن إبراهيم، وزيد بن أبي غيث عند النسائي، وحالفهم يحيى بن سعيد، وسالم بن أبي الجعد، فرويواه عن أبي سلمة، عن عائشة.

ويحتمل: أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث، عن عائشة وأم سلمة جميماً عن النبي ﷺ. حدثنا هنّاد، حدثنا عبدة، عن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن عائشة <sup>(٥)</sup> قال: لم أر رسول الله ﷺ يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلاً بل كان يصومه كله.  
أي كانه يصوم كله

بعض نے اس کا عکس بتایا ہے جیسا کہ روایت کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اول اکثر مہینے کے روزے رکھتے تھے بعد میں تمام کے رکھنے لگے۔

(5) حضرت عائشہ رض فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو (رمضان کے علاوہ) شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ شعبان کے اکثر روزے میں آپ روزے رکھتے تھے، بلکہ (قریب قریب) تمام مہینہ کے روزے رکھتے تھے۔ فائدہ: یہ ترقی کر کے حضرت عائشہ رض کا تمام ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر صاف بتلارہا ہے کہ اس سے مبالغہ مقصود ہے۔ شعبان میں روزوں کی کثرت کی وجہ خود حضور اقدس ﷺ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس مہینہ میں وہ دن بھی ہے جس میں سال کے اعمال حق تعالیٰ جل جلالہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال ایسی حالت میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض وجہ احادیث وغیرہ میں وارد ہوئی ہیں اور بعض اوقات ایک وجہ کا ہونا دوسرے وقت میں دوسری وجہ کا ہونا بھی ممکن ہے اور متعدد وجودہ کا جمع ہو جانا بھی۔

كان يصوم: حال من مفعول "لم أر" إن كانت الرؤية بصرية، وإنما كان كلام علمية وهو الأظاهر فهي مفعول ثان، قوله: "أكثر" صفة مفعول مطلق، أي: صياماً أكثر من صيام النبي ﷺ في شعبان. بل كان إلخ: يعني: أن ما لا يصومه من شعبان في غاية من القلة بحيث يظن أنه صام كله، فكلمة "بل" للترقي، ولا ينافيه حيثنذ قوله: "إلا قليلاً" ولا ما سبق من أنه "ما صام شهراً كاملاً منذ قدم المدينة" ويشكل: إكثاره جل جلالہ صيام شعبان مع أنه ورد عند مسلم وغيره: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله الحرم، وأجيب: باحتمال أنه كان يعرض له جل جلالہ اعتذار تمنعه عن الصوم كالسفر وغيرها، أو لأن شعبان تخصيص رفع الأعمال وهو لا يوجد في الحرم، أو لأنه جل جلالہ ماعلم أفضلية الحرم إلا في آخر عمره الشريف، قاله البيهوري. قلت: يحتمل أن المراد بشهر الحرم صوم بعضه وهو يوم عاشوراء دون تمام الشهر، وكان جل جلالہ يصوم، فلا إيراد.

حدثنا القاسم بن دینار الکوفی، حدثنا عبید اللہ بن موسی، وطلق بن غنام، عن شیعیان، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن عثیمین قال: کان رسول الله ﷺ یصوم من غُرَّةٍ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، [اول الشہر]

حضرت عائشہؓ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور کا معمول تین دن ہر ماہ روزے رکھنے کا تھا، وہ بسا اوقات عوارض کی وجہ سے رہ جاتے تھے اور سب کا مجموعہ شعبان میں حضور رکھا کرتے تھے، اس کے ساتھ دوسری روایات میں پیر، جعرات کا روزہ بھی حضور کا معمول نقل کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں اگر دو تین مہینے بھی تمام سال میں کسی عذر سے چھوٹ گئے تو ایک مہینہ کے روزے بن جانا کیا مشکل ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے شعبان کا روزہ افضل ہے، یعنی جیسا فرض نمازوں سے قبل سنتیں پڑھی جاتی ہیں ایسے ہی رمضان سے قبل نفل روزے ہیں۔ اگرچہ حضور نے ضف کے خیال سے رمضان شریف سے قبل روزے کو منع بھی فرمایا ہے مگر حضور پر ضعف روزہ کا کچھ ایسا نہ ہوتا تھا اسی وجہ سے لگاتار روزے بھی رکھ لیتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے حضور سے کسی نے شعبان میں روزوں کی کثرت کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینہ میں ہر اُس شخص کا نام مرنے والوں میں لکھا جاتا ہے جو اس تمام سال میں مرنے والے ہوں، میرا دل چاپتا ہے کہ میری موت ایسی حالت میں لکھی جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ہر مہینہ میں نفل روزے رکھنے کا مخصوص معمول تھا اور رمضان المبارک میں نفل روزے رکھنے کی کوئی صورت نہ تھی اس لئے ماہ رمضان کے حصے کے روزے بھی پیشگی شعبان ہی میں رکھ لیتے تھے اور اسی بنا پر شعبان رمضان دو مہینوں کے روزے مل کر اکثر حصہ مہینہ کا ہو جاتا تھا۔

(۲) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس اللہ تعالیٰ ہر مہینہ کے شروع میں تین دن روزہ رکھا کرتے تھے اور جمع کے دن بہت کم افطار فرماتے تھے۔ فائدہ: ہر مہینہ میں تین دن روزہ رکھنے کی ترغیب مختلف احادیث میں وارد ہوئی ہے۔

عبد الله بن موسى: بلفظ التصغير. فما في بعض النسخ: عن عبد الله بن موسى غلط. غنام: بغین معجمة فنون مشددة. عبد الله: أي: ابن مسعود كما هو مصرح في رواية المشكوة، مع أنه يكون هو المراد عند الإطلاق في اصطلاح المحدثين قاله القاري. غرة: بضم غين معجمة وتشديد راء أي: أوله، ولمراد هناك أوائله. ثلاثة أيام: [أي افتتاحا للشهر بما يقوم مقام صوم كله، إذ الحسنة عشر أمثلها].

وقلّماً كان يفطر يوم الجمعة. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة، عن يزيد الرشّك قال: سمعت <sup>(٧)</sup> معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبي ﷺ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم، قلت: من أية كان يصوم؟ قالت: كان لا يُبالي من أية صام. قال أبو عيسى: يزيد الرشّك هو: يزيد الضبعي البصريّ

ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہونے کی وجہ سے تین روزوں کا ثواب ایک ماہ کے روزوں کے برابر ہو جاتا ہے اور اس حیثیت سے یہ شخص گویا عمر بھر روزہ دار رہنے کے حکم میں ہو گا۔ ان تین دن کی تعین میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں لیکن کوئی مخالفت نہیں، کبھی حضور اقدس ﷺ مہینہ کے شروع ہی میں تین روزے رکھ لیتے تھے، کبھی کبھی ہر پیر، جعرات کو، کبھی تیرہ، چودہ، پندرہ کو، ایسے ہی اور مختلف اوقات میں بھی، اسی وجہ سے حضرت عائشہ ؓ کی آئندہ حدیث میں وارد ہے کہ تعین ایام نہ تھے۔ ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ایام بیض کے روزے کبھی سفر یا حضر میں ترک نہیں فرماتے تھے۔ دوسرا مضمون حدیث بالا میں جمعہ کے روزہ کے متعلق ہے، اس حدیث سے جمعہ کے دن روزہ کا اہتمام معلوم ہوتا ہے لیکن دوسری روایات میں روزہ کے لئے جمعہ کی تخصیص کی ممانعت آئی ہے، اسی وجہ سے بعض علماء حدیث بالا کی وجہ سے اس کے استحباب کے قالی ہوئے ہیں اور بعض علماء ممانعت کی وجہ سے جمعہ کی تخصیص کو مکروہ بتاتے ہیں، خود حفیہ کے یہاں بھی دونوں قول ہیں۔

وقلّما: [أي: قل إفطاره يوم الجمعة] قيل: "ما" كافية، وقيل: صلة لتأكيد معنى القلة، وقيل: مصدرية أي: قل كونه مفطراً يوم الجمعة، وهو دليل لأبي حنيفة ومالك حيث ذهبوا إلى أن صوم يوم الجمعة وحده حسن، وعند جمهور الشافعية يكره إفرادها بالصوم؛ لرواية الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة" الحديث. إلى آخر ما بسطه القاري، وفيه أيضاً: قال القاضي: يتحمل أن يكون المعنى: أنه لا يتغدى إلا بعد الجمعة، كما روى عن سهل بن سعد الساعدي وبعدة لا يخفي، وبسط اختلاف المذاهب في ذلك في الأوخر، واحتللت الأقوال في كل مذهب من مذاهب الأئمة، والجملة المرجع عند الشافعية والحنابلة كراهة الإفراد، وعند المالكية ندب الصوم، وانختلف الترجيح عند الحنفية في الندب والكراهة.

قال أبو عيسى إلخ: غرض المصنف بيان توثيقه، ويشكل عليه: بأنه تقدم ترجمته في أبواب الضحى، فكان الأنسب إيراد التوثيق هناك، وأجيب: بأنه احتياج إلى بيان توثيقه هنا؛ لأن ما رواه هنا يعارضه ما مر من أنه كان يصوم غرة كل شهر. الضبعي: بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة، نسبة إلى ضبيعة بن ثعلبة، قاله السمعاني في الأنساب.

وهو ثقة، وروى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحمّاد بن زيد وإسماعيل بن إبرهيم، وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم، ويقال: القسام. والرشك بِلُغَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ هُوَ الْقَسَّامُ. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن ربيعة الجوشي<sup>(٨)</sup>، عن عائشة<sup>رض</sup> قالت: كان النبي ﷺ يتحرى<sup>رض</sup> صوم الاثنين والخميس.

الجروح: موضع باليمين

(٧) معاذة كہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ<sup>رض</sup> سے پوچھا کہ حضور ہر ماہ میں تین روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ رکھتے تھے۔ میں نے مکرر پوچھا کہ مہینہ کے کن ایام میں رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا اہتمام نہیں تھا، جن ایام میں موقعہ ہوتا رکھ لیتے۔ فائدہ: یعنی کسی زمانہ میں یہ بھی معمول شریف رہا ہے کہ تعین ایام کا اہتمام نہیں تھا اور کبھی مخصوص ایام میں، مثلاً مہینہ کی پہلی تین تاریخوں میں، کبھی مہینہ کی اخیر تین ایام میں، کبھی ایک مہینہ میں شنبہ، یکشنبہ، دو شنبہ کو رکھتے اور دوسرے مہینہ میں سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنجشنبہ کو رکھتے، اسی لئے اس بارے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں اور اسی لئے حضرت عائشہ<sup>رض</sup> نے تعین کا انکار فرمادیا۔

(٨) عائشہ<sup>رض</sup> فرماتی ہیں کہ حضور اقدس نبی ﷺ پیر جمرات کے روزہ کا (اکثر) اہتمام فرماتے تھے۔ فائدہ: بعض روایات میں ان دنوں کے روزے کے اہتمام کی وجہ بھی وارد ہوئی ہیں، چنانچہ ایک وجہ ابو ہریرہ<sup>رض</sup> کی حدیث میں قریب ہی آرہی ہے

والرشك: اختلف في معنى الرشك، وسبب تلقينيه به فقيل: إنه بمعنى كثير اللحية، وتقدم في باب الضحي، ومال المصنف إلى أنه بمعنى القسمة، وكان يزيد يعرف علم القسمة، أو كان يياشرها من جهة المملكة، وكان ماهراً في قسمة الأراضي وحرفها، وقيل: الرشك: العقرب، لقب به؛ لدخوله في لحيته ومكتنه ثلاثاً، وقيل: لأنه كان غيوراً فكان عين الغيرة والرشك، قال العسقلاني: هو المعتمد. فالرشك بالفتحة في الفارسية بمعنى الغيرة، وعرب فغير، أوله قاله القاري.

عمرو: بفتح أوله وبالواو، هو أبو حفص الفلاس الحافظ. عبد الله بن داود: كذا في الأصل وكذا في حامع الترمذى والنمسائى، فما في نسخة القاري والمناوي من عبد الله بن أبي داود بزيادة لفظ "أبي" سهو من الناسخ.

الجوشى: بضم جيم وفتح راء فشين معجمة، موضع باليمين. يتحرى: [من التحرى، وهو: القصد والاجتهاد، والغزم في الطلب] تحرى: تعمده وطلب ما هو أحرى بالاستعمال، فالمعنى على الأول: يتعمد صومهما فيصير عن الصوم متظراً هما، وعلى الثاني: مجتهداً في إيقاع الصوم فيهما.

حدثنا أبو مصعب المديني، عن مالك بن أنس، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن<sup>(٩)</sup> عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله ﷺ يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو عاصم، عن محمد بن رفاعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن<sup>(١٠)</sup> أبي هريرة رضي الله عنه قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض النساء لسبية السابق للآخر عملی و أنا صائم.

کہ یہ دونوں دن اعمال کی پیشی کے ہیں۔ پیر کے دن کے متعلق مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ میں پیر ہی کے دن پیدا کیا گیا ہوں اور پیر ہی کے روز مجھ پر قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ پیر اور جمرات کے دن حق تعالیٰ شانہ ہر مسلمان کی مغفرت (بشرط قواعد) فرمادیتے ہیں، مگر جن دو شخصوں میں آپس میں چھوٹ چھڑاؤ ہو، ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی مغفرت کو اس وقت تک روک دیا جائے جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔

(٩) حضرت عائشہ رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور القدس ﷺ شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ فائدہ: اس کا بیان مفضل گزر چکا ہے۔

(١٠) ابو ہریرہ رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور القدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اعمال پیر اور جمرات کے دن حق تعالیٰ کی عالی بارگارہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال روزہ کی حالت میں پیش ہوں۔ فائدہ: بتاکہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائیں۔

أبو مصعب: بصيغة المفعول، واحتللت نسخ الشمائل في صفتة بين المديني والمدني، والأكثر على الأول، قال المناوي: هو عبد السلام بن حفص الليثي أو السلمي، ولم يأبو مصعب آخر وآخر. رفاعة: بكسر الراء وبعد الألف عين مهملة، وقال المناوي: كعمامة بفاء ومهملات. تعرض: [العرض ثلاثة أقسام: عرض لعمل اليوم والليلة، وعرض لعمل الأسبوع، وعرض لعمل السنة، وحكمة العرض: أن الله تعالى ياهي بالطائعين الملائكة، وإنما فهو غنى عن العرض؛ لأنَّه أعلم بعباده من الملائكة] أشكل عليه برواية مسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، وأحذِّب: بأن الرفع غير العرض، وفيه توجيهات أخرى، قال المناوي: وكذا تعرض ليلة النصف من شعبان وليلة القدر، فالأول إجمالي باعتبار الأسبوع، والثاني والثالث باعتبار العام، وفائدة تكرير العرض إظهار شرف العاملين بين الملايين، وبالخبر يعلم شذوذ قول الخليمي: اعتياد صومها مكروه.

حدثنا محمود بن غیلان، حدثنا أبو أحمد و معاوية بن هشام قالا: حدثنا سفيان، عن منصور، عن خيّثمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم من الشهر: السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس.

اعمال پیش ہونے میں یہ اشکال ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت کا یہ حاصل ہے کہ اعمال صبح شام دو مرتبہ روزانہ بارگاہ تک پہنچتے ہیں، پھر پیر جمعرات کو پیش ہونے کا کیا مطلب؟ ان دونوں کے درمیان میں محدثین نے مختلف طریقے سے جمع کیا ہے، سہل یہ ہے کہ رات دن کے اعمال تفصیلی طور پر روزانہ دو مرتبہ پیش ہوتے ہیں، رات کے عیمده، دن کے عیمده اور معمولی تفصیل سے، اور پھر ہفتہ میں دو بار پیر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں اور تمام سال کے مجموعی اعمال اجمالي طور پر شعبان میں اور شبِ قدر میں بھی پیش ہوتے ہیں۔ اور بار بار کی پیشی میں منجملہ متعدد مصالح کے ایک مصلحت فرشتوں کے سامنے نیک لوگوں کا انہصار شرف ہے کہ ان حضرات نے آدمی کے پیدائش کے وقت یہ اشکال کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے ہیں جو دنیا میں کشت و خون اور فساد برپا کریں گے، اسی لئے حق تعالیٰ جل جلالہ بہت سے نیک اعمال پر فرشتوں کے سامنے قا خر کے طور پر تذکرہ بھی فرماتے ہیں، ورنہ حق تعالیٰ جل جلالہ ہر شخص کے ہر عمل سے ہر وقت واقف ہیں، ان کے لئے اعمال پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔

(۱۱) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ (بکھی) ہر مہینہ کے تین روزے اس طرح بھی رکھتے تھے کہ ایک مہینہ میں ہفتہ، اتوار، پیر کو روزہ رکھ لیتے اور دوسرے ماہ میں منگل، بدھ، جمعرات کو۔ فائدہ: تاکہ ہفتہ کے تمام دونوں میں روزہ ہو جائے اور جمعہ کا روزہ تصدانہ رکھتے ہوں جیسا کہ بعض روایات میں اس کو عید کا دن قرار دیا گیا اور دوسرے اہم مشاغل اس میں ہوتے ہیں، یا اس روایت میں ذکر نہیں کیا گیا دوسری روایت میں اُس کے روزے کا ذکر ہے ہی۔

خيثمة: بفتح خاء معجمة وثناء مثلثة بينهما تختانية. السبت: سمي به؛ لأن السبت: القطع، وذلك اليوم انقطع فيه الخلق؛ لأنه عز اسمه خلق السموات والأرض في ستة أيام، ابتدأ يوم الأحد وختم يوم الجمعة بخلق آدم صلوات الله عليه. والأحد: [ستي بذلك؛ لأن الله أول ما بدأ الله الخلق فيه، وأول الأسبوع على خلاف فيه]. والخميس: بالنصب فيه وفيما قبله على أنه مفعول فيه لـ "صوم"، قال المظہر: أراد صلوات الله عليه أن يبين سنية جميع أيام الأسبوع، وإنما لم يصمهما متواالية؛ لغلا يشق على الأمة الاقتداء به، ولم يذكر في هذا الحديث يوم الجمعة، وقد ذكر في حديث ابن مسعود قبل هذا: أنه قلما كان يفطره أي: منفرداً أو منضماً إلى ما قبله أو بعده قاله القاري، وقال المناوي: ترك الجمعة؛ لأنها كان يكره صومها. وأنت خبير بأن الكراهة ليست في المنضمة.

حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراءً يوماً يصومه <sup>(١٢)</sup>

(١٢) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ عاشوراء کا روزہ زمانہ جاہلیت میں قریش رکھا کرتے تھے اور حضور اقدس ﷺ بھی (بھرت سے قبل تطوعاً) رکھ لیا کرتے تھے (لیکن بھرت کے بعد) جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو خود بھی (اہتمام سے) رکھا اور امت کو بھی (وجوباً) حکم فرمایا۔ مگر جب رمضان المبارک نازل ہوا تو وہی فرضی روزہ بن گیا اور عاشورے کی فرضیت منسوخ ہو گئی (اب استحباب باتی ہے) جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے نہ رکھے۔

فائدہ: عاشورے کے روزے کی فضیلت میں مختلف روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ عرفہ کے روزہ سے دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور عاشورے کے روزہ سے ایک سال کے۔ بعض شروح میں لکھا ہے عاشورے کے دن حضرت آدم عليه السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور حضرت نوح عليه السلام کی کشتنی کنارے پر آئی تھی اور حضرت موسی عليه السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، اسی دن حضرت عیسیٰ عليه السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آسمان پر انٹھائے گئے، اسی دن حضرت یوسف عليه السلام کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب عليه السلام کو مشہور مرض سے صحت عطا ہوئی اور اسی دن حضرت اور لیس عليه السلام آسمان پر انٹھائے گئے، اسی دن حضرت ابراہیم عليه السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن حضرت سلیمان عليه السلام کو ملک عطا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی کرامات اس دن کی شروح حدیث اور کتب سیر میں لکھی ہیں، محدثانہ چیزیت سے ان میں کلام بھی ہے مگر بہت سی کرامات صحیح طور سے بھی ثابت ہیں۔ کہتے ہیں کہ وحشی جانور بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! کس قدر متبرک دن ہے جس کو ہم لوگ لہو و لعب میں ضائع کر دیتے ہیں۔ غالباً انہیں میں سے کسی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں اس دن کی فضیلت مشہور تھی جس کی وجہ سے قریش اسلام سے قبل اس کا روزہ رکھتے تھے، جب حضور مدینہ طیبہ بھرت کے تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود جو الٰل کتاب ہیں وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔

قریشٰ فی الجahلیّة، وَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ

حضور نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن حق تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلاصی عطا کی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ نے اس دن کا روزہ رکھا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ حضرت موسیٰ کی اتباع کے تم سے زیادہ مستحق ہیں اس لئے حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور امت کو بھی اس روزہ کا حکم فرمایا۔ مسلم شریف میں یہ تصدیق مذکور ہے، اسی وجہ سے حنفیہ کے نزدیک رمضان سے پہلے یہ روزہ فرض تھا جب رمضان شریف کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، استحباب اور ایک سال کے گناہ معاف ہونے کی فضیلت اب بھی باقی ہے۔

مسئلہ: عاشورے کا روزہ اصل دسویں تاریخ کا ہے لیکن نبی کریم ﷺ ابتدائے اسلام میں اہل کتاب کی موافقت فرماتے تھے کہ ان کا مذہب بہر حال آسمانی ہے اور مشرکین کے مذہب سے اولی۔ مگر اخیر زمانہ میں اہل کتاب کی مخالفت کا قول اور فعل اہتمام ہو گیا تھا جو بہت سی وجہ سے ضروری تھا اسی سلسلہ میں کسی صحابی نے اوہر توجہ دلائی تو حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر زندہ رہا تو آئندہ سال نویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہود کی مخالفت کرو اور

الجاهلیّة: أَيْ: قَبْلَ بَعْثَتِهِ تَلَقَّى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ بِاجْتِهَادِهِمْ، وَقَالَ الْقَرْطَبِيُّ: لِعَلِيهِمْ اسْتَنْدُوا فِي صُومِهِ إِلَى شَرْعِ إِبْرَاهِيمَ أَوْ نُوحَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَدْ وَرَدَ فِي أَخْبَارِ أَنَّهُ الْيَوْمَ الَّذِي اسْتَوَتْ فِي السَّفِينَةِ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَهُ نُوحٌ شَكْرًا، وَلَذَا كَانُوا يَعْظِمُونَهُ أَيْضًا لِكَسْوَةِ الْكَعْبَةِ، وَعَنْ عَكْرَمَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَذْنَبَ قَرِيشَ ذَنْبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَعَظَمَ فِي صُورَهُمْ، فَقَيلَ لَهُمْ: صُومُوا عَاشُورَاءَ يَكْفِرُ ذَلِكَ.

يصومه: [أَيْ: موافقة لقریش كما هو ظاهر السياق، أو موافقة لأهل الكتاب، أو بإلهام من الله تعالى.]  
وأمر بصيامه: فيه دليل لما قاله الحنفية إنه كان فرضًا ثم نسخ، خلافاً لجمهور الشافعية، وقد روى مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه عَنْ بعث رجلاً من أسلم يوم عاشوراء، فأمره أن يؤذن في الناس: "من كان لم يصم فليصم، ومن أكل فليتم صومه إلى الليل"، وقال ميرك: هكذا وقع في حديث عائشة، وفيه اختصار، وأنخرج الشیخان من حديث ابن عباس عَنْ أن النبي ﷺ لما قدم المدينة وجد اليهود يصوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك، فقالوا: هذا يوم أنبأ الله فيه موسى، وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه شكراء، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، واستشكل رجوعه عَنْ إليهم في ذلك، وأجيب باحتمال أن يكون أوحى إليه بصدقهم، أو بتواتر الخبر بذلك، أو أخير به من أسلم منهم، أو باجتهاد منه عَنْ.

فَلِمَا افْتُرَضَ رَمَضَانَ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيْضَةُ، وَثُرَكَ عَاشُورَاءُ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ  
[سَنَّةً وَجَوَبَ صَوْمَهُ]  
 تَرَكَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ، عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ  
 إِبْرَاهِيمَ، عَنْ <sup>(١٣)</sup> عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه وسلم يَخْصُّ مِنَ الْأَيَّامِ شَيْئًا؟

نویں یا گیارہوں کا روزہ رکھا کرو، یعنی دسویں کے ساتھ ایک اور ملا لیا کرو کہ اس سے تشبہ جاتا رہتا ہے اس لئے تنہ  
 عاشورے کا نہیں رکھنا چاہئے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اُس کے ساتھ نویں تاریخ کا روزہ ملا لے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو  
 جائے، اگر نویں کا نہ ملا سکے تو پھر گیارہوں کا ملا لے۔

(١٣) علقہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضي الله عنها سے پوچھا: کیا حضور اقدس ﷺ ایام کو عبادت کے لئے مخصوص فرمایا  
 کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ (نہیں) حضور کے اعمال دائیٰ ہوتے تھے، تم میں سے کون طاقت رکھتا ہے جس کی حضور  
 اقدس ﷺ طاقت رکھتے تھے! فائدہ: یعنی کسی دن کو کسی عبادت کے ساتھ مخصوص فرمایا لیتے ہوں، مثلاً پیر کا دن روزہ  
 کے ساتھ مخصوص ہو کہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہوں کبھی افطار نہ فرماتے ہوں، یا یہ کہ پیر کے علاوہ روزہ نہ رکھتے ہوں۔ یہ  
 دونوں باتیں نہ تھیں، البتہ یہ حضور کا معمول تھا کہ جو کام شروع فرماتے اُس پر مداومت فرماتے تھے۔ تم لوگ اس تدر  
 مداومت اور اہتمام کی طاقت نہیں رکھتے جتنا حضور اپنے معمولات کا اہتمام فرماتے تھے کہ جو معمول کسی عذر سے رہ جاتا

هو الفريضة: يعني صارت الفريضة منحصرة في رمضان؛ لأن تعريف المسند مع ضمير الفصل يفيد قصر المسند على المسند إليه، وهذا أصرح دليل في أن الفرض قبل رمضان كان غيره.

عاشوراء: وهذا أيضاً دليل على الوجوب السابق، فإنه ما ترك استحبابه بل هو باق. قال الحافظ ابن حجر: يؤخذ من جموع الأحاديث أنه كان واجباً لثبت الأمر بصومه، ثم تأكيد الأمر بذلك، ثم بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال، وبقول ابن عباس وعائشة رضي الله عنها: لما فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بأنه ماترك استحبابه بل هو باق فدل على أن المتروك وجوبه، وأما قول بعضهم: إن المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه، فلا يخفى ضعفه، بل تأكيد استحبابه باق، ولا سيما استمرار الاهتمام به حتى عام وفاته صلوات الله عليه وسلم حيث يقول: إن عشت فألا صوم الناسع والعasher، ولترغبيه في صومه، وإنه يكفر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا.

يخص من الأيام: [أي: يتطوع في يوم معين بعمل مخصوص فلا يفعل في غيره مثله.]

قالت: کان عمله دینہ، وَأَيْكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُطِيقُ؟. حدثنا هارون بن إسحاق، أخبرنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة <sup>(١٤)</sup> قالـت: دخل على رسول الله صلوات الله عليه وسلم

دوسرے وقت اُس کو پورا فرماتے جیسا کہ شعبان کے روزوں کے بیان میں گزر۔ حاصل یہ کہ اس حیثیت سے تخصیص نہ تھی کہ وہ عمل اُسی دن کیا جائے اور اس دن میں دوسرا عمل نہ کیا جائے۔ البتہ معمولات کے پورا کرنے کا اہتمام تھا جن میں خاص ایام کے روزے بھی داخل ہیں۔ اس تقریر پر یہ اشکال نہیں رہا کہ خود حضرت عائشہ رض سے حدیث نمبر ۸ پر پیر جصرات کے روزے کا اہتمام گزرنے کا چکا ہے۔ حافظ حدیث ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سوال جواب ان تین روزوں کے متعلق ہے جو ہر ماہ میں حضور کے رکھنے کا معمول تھا جن کا ذکر حدیث نمبر ۷ میں گزر۔ اس صورت میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔

(۱۴) حضرت عائشہ رض کہتی ہیں کہ حضور اقدس سنتیم ایک مرتبہ تشریف لائے تو میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ: یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں عورت ہیں جو رات بھر نہیں سوتیں۔ حضور نے فرمایا کہ نوافل اس قدر اختیار کرنے چاہیں جن کا تحل ہو سکے، حق تعالیٰ جل جلاله ثواب دینے سے نہیں گھبراتے یہاں تک کہ تم عمل کرنے سے گھبرا جاؤ۔ حضرت عائشہ رض فرماتی ہیں کہ حضور اقدس سنتیم کو وہی عمل زیادہ پسند تھا جس پر آدمی نباہ کر سکے۔

قالت: ولفظ البخاري برواية يحيى عن سفيان في هذا الحديث: قالت: لا، قال ابن التين: استدل به بعضهم على كراهة تحرى صيام يوم من الأسبوع، وأصحاب الزرين بن المنير بتألس السائل في حديث عائشة إنما سأله عن تخصيص يوم من حيث كونها أيام، فإنما خصص لأمر لا يشاركه فيه بقية الأيام، كيوم عرفة، وعاشوراء، وجميع ما معن لمعنى خاص، ويشكل على هذا الجواب صوم الاثنين، فقد وردت فيها أحاديث صحيحة، فالجواب أن يقال: لعل المراد بالأيام المسؤولة عنها: الأيام الثلاثة من كل شهر، فكان السائل لما سمع أنه صلوات الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام، ورغب في أنها تكون أيام البيض، سأله عائشة: هل يخصها بالبيض؟ فقالت: لا، كان عمله دينه يعني لو جعلها البيض لتعينت، ودائم عليها؛ لأنه كان يحب أن يكون عمله دينه، لكن أراد التوسيعة بعدم تعينتها، فكان لا يليالي من أي الشهر صامها، كما تقدمت الإشارة إليها في حديث عائشة، ملخص من الفتح، وحديث عائشة هو المتقدم قريباً من حديث معاذة عنها.

دينہ: فعلة من الدوام، انقلب واوه یاء لکسرة ما قبلها، وأصل الديمة: المطر يدوم أيامًا لا رعد فيه ولا برق، أقله ثلاثة ليال، ثم شبه به غيره مما له دوام. وَأَيْكُمْ يُطِيقُ: [أَيْ] واحد منكم يطيق العمل الذي كان رسول الله صلوات الله عليه وسلم يطيقه من المواظبة والخشوع والخضوع والإخلاص وغير ذلك.]

وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة، لا تناه الليل، فقال رسول الله ﷺ: عليكم من الأعمال ما تطقوون، فوالله، لا يمْلِحُ حتى تَمَلَّوا، وكان أحب ذلك إلى رسول الله ﷺ الذي يدُوم عليه صاحبُه.  
أي الله كما في رواية

فاىدہ: یہ صحابیہ حضرت حوالہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ صحابہ کرام میں عبادت کا ولولہ اور جوش تھا۔ حدیث کی کتابوں میں بہت سے قصہ اس قسم کے مذکور ہیں کہ ان حضرات کا شوق ان کو حد سے زیادہ مجاہدہ پر مجبور کرتا تھا مگر حضور اکرم ﷺ اعتدال کی نصیحت فرماتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم ایک مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ طے کر لیا کہ عبادت میں بہت ہی کوشش کروں گا، دن میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور رات کو روزانہ ایک کلام مجید ختم کیا کروں گا۔ میرے والد نے ایک شریف عورت سے میرا نکاح کر دیا۔ ایک مرتبہ والد نے بیوی سے میرا حال دریافت کیا، اُس نے عرض کیا: بہت نیک آدمی ہیں، رات بھر بستر پر نہیں آتے نہ کسی سے کوئی واسطہ رکھیں۔ میرے والد مجھ پر خفا ہوئے کہ میں نے کسی شریف عورت سے تو تیرا نکاح کیا تھا تو نے اُس کو معلق چھوڑ رکھا ہے۔ مجھ پر غلبہ شوق میں کچھ اثر نہ ہوا۔ والد نے حضور اکرم ﷺ سے شکایت کر دی۔ حضور نے مجھ سے دریافت فرمایا میں نے سنایا ہے کہ تم دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر نماز پڑھتے ہو۔ میں عرض کیا کہ حضرت! صحیح ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا: ایسا نہ کیا کرو کبھی روزہ رکھا کرو اور کبھی افطار۔ اسی طرح رات کو نمازیں بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے کہ رات بھر جاگنے سے ضعیف ہو جاتی ہیں، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، ملنے والوں کا بھی حق ہے۔

امرأة: زاد عبد الرزاق في رواية: حسنة الهيئة، وفي رواية البخاري: أنها من بنى أسد، وفي مسلم: أنها الحلواء بنت تويت. فلانة: قال الرضي: يكنى بفلان وفلانة على أعلام الأناسي خاصة، فيجريان بجرى المكني عنه، فيكونان كالعلم فلا يدخلهما اللام، ويمتنع صرف فلانة، ولا يجوز تنكير فلان، فلا يقال: جاعني فلان وفلان آخر.

لا تناه الليل: [أي: تحببها بصلة وذكر وتلاوة قرآن ونحوها]. عليكم: عبر به مع أن المخاطب النساء لتعظيم الحكم فغلب الذكور على الإناث، والمعنى اشتغلوا وألزموا. ما تطقوون: [يعني خذلوا من الأعمال العمل الذي تطقوون الدوام عليه بلا ضرر، والمقصود بالخطاب عموم الأمة] لا يمْلِحُ: بفتح أولهما وثانيهما، وإسناد الملال إليه تعالى على سبيل المشاكلة، كما في قوله تعالى: ﴿تَسْوَى اللَّهُ فَنَسِيْهُم﴾ [التوبه: ٦٧] وإن الملال وهو: استثنال الشيء محال عليه تعالى باتفاق العلماء، وقيل: إن الله تعالى لما كان يقطع ثوابه عنم قطع عن العمل ملائلاً عبر عنه بالملال من تسمية الشيء باسم سببه، وهذا كله إذا كان حق على باهها، وقيل: هي بمعنى الواو، أي: لا يمْلِحُ الله أبداً وأنتم تملون، وقيل: بمعنى حين.

حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الْفَاعِي، حدثنا ابن فُضَيْلٍ، عن الأعمشِ، عن أبِي صالحٍ<sup>(١٥)</sup> قال: سألت عائشةً وأم سلمة: أيّ العمل كان أحب إلى رسول الله ﷺ؟ قالتا: ما دمْ عليه وإنْ قُلَّ. حدثنا محمد بن إسْمَاعِيلَ الْبَخَارِيُّ، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن عمرٍ بن قيسٍ: أنه سمع عاصم بن حُمَيْدَ قال: سَمِعْتَ عَوْفَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ: كُنْتَ مَعَ

(١٥) ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ اور ام سلمہؓ سے پوچھا کہ حضور اقدس سنتی ﷺ کے نزدیک کونا عمل زیادہ پسندیدہ تھا؟ دونوں نے یہ جواب دیا کہ جس عمل پر مداومت کی جائے، خواہ کتنا ہی کم ہو۔ فائدہ: ان سب روایتوں سے یہ مقصود ہے کہ روزہ اور ایسے ہی ہر لفظی عمل خواہ قلیل ہو، لیکن جتنا کر سکے اتنا بناہ کراہتمنام سے کرے، مگر ایسا بھی نہ کرے کہ نہ بخوبی کے خوف سے نفل اعمال کو بالکل ہی خیر باد کہہ دے کہ فرانگیں میں کوتاہی کو پورا کرنے والی چیزیں نوافل ہی ہیں، اس لئے اہتمام کے ساتھ جس قدر بناہ سکے اُس کی سعی کرے۔

(١٦) عوف بن مالکؓ کہتے ہیں کہ میں ایک شب حضور اقدس سنتی ﷺ کے ساتھ تھا، حضور نے مسوک فرمائی، پھر وضو فرمایا، پھر نماز کی نیت باندھ لی۔ میں نے بھی حضور کی اقتدا کی اور حضور کے ساتھ نماز کی نیت باندھ لی۔ حضور نے سورہ بقرہ شروع فرمائی اور جس آیتِ رحمت پر گذرتے وہاں وقفہ فرمایا کہ حق بل شیخ سے رحمت کا سوال فرماتے اور ایسے ہی جس آیتِ عذاب پر گذرتے وہاں وقفہ فرمایا کہ تعالیٰ بل شیخ سے اُس عذاب سے پناہ مانگتے۔ پھر حضور نے تقریباً اتنی ہی دیر کوع فرمایا، رکوع میں سُبْحَانَ ذِي الْجَرَوَاتِ وَالْمُلْكُوتِ وَالْكِبْرَيَاءِ وَالْعَظَمَةِ۔ یہ دعاء پڑھتے رہے۔ پاک ہے وہ ذات جو حکومت اور سلطنت والی، نہایت بزرگی اور عظمت و برائی والی ہے۔ پھر رکوع ہی کی مقدار کے موافق سجدہ کیا اور اُس میں بھی یہی دعا پڑھی (پھر دوسری رکعت میں) سورہ آل عمران (اور اسی طرح ایک ایک رکعت میں) ایک ایک سورۃ پڑھتے رہے۔ فائدہ: یہ چار رکعیں کتنی لمبی ہوں گی، الفاظ سے خود ظاہر ہے کہ ایک سورۃ بقرہ ڈھانی پارے کی سورت اور پھر حضور کی تلاوت کہ نہایتطمینان سے ہر حرف علیحدہ ظاہر ہو، اس پر ہر آیتِ رحمت اور عذاب پر پھر کر دعا میں مانگنا پھر اتنا ہی طویل رکوع اور

الْفَاعِي: بكسر الراء وتخفيف الفاء، نسبة إلى أحد أجداده رفاعة. سألت: بصيغة المعلوم من المتكلم وحده، وفي نسخة: سئلت بناء المجهول بنصب عائشة وأم سلمة على الأول ورفعهما على الثاني. أي العمل: [أي: أي أنواع العمل].

رسول الله ﷺ ليلة فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يُصلّى، فَقَمْتُ مَعْهُ، فَبَدأ فَاسْتَفْتَحُ الْبَقَرَةَ، فَلَا يَمْرُّ  
بِآيَةٍ رَحْمَةً إِلَّا وَقَفَ فَسْأَلَ، وَلَا يَمْرُّ بِآيَةٍ عَذَابًا إِلَّا وَقَفَ فَتَعْوِذَ، ثُمَّ رَكِعَ، فَمَكَثَ رَاكِعًا بَقْدَرَ  
قِيَامِهِ، وَيَقُولُ فِي رَكْوَعِهِ: سَبَّحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكَبْرَيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، ثُمَّ سَجَدَ بَقْدَرَ  
رَكْوَعِهِ وَيَقُولُ فِي سَجْدَتِهِ: سَبَّحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكَبْرَيَاءِ وَالْعَظَمَةِ،

---

پھر سجدہ بھی ایسا ہی، یہ ایک رکعت ہوئی اس طرح کی چار رکعت جو تمام رات میں بھی بمشکل پوری ہوں، لیکن غلبہ شوق کے  
سامنے بالخصوص ایسی ذات کے لئے جس کی آنکھوں کی محدثک نماز میں ہو، یہ چیز کچھ بھی گراں نہ تھی۔ اخیر کی چند حدیثوں  
کو حضور کے روزے کے تذکرہ سے بظاہر کوئی تعلق نہیں۔ شامل کے بعض نسخوں میں تو یہ متفرق باب چاشت کا بیان اور  
روزہ کا بیان وغیرہ ہیں، ہی نہیں بلکہ یہ تمام حدیثیں حضور کی عبادت کے باب میں ہیں، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں لیکن  
جن نسخوں میں یہ متفرق باب موجود ہیں ان میں ایک دیقین بات معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ عموماً جو لوگ روزوں کے شوقيں  
ہوتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسا افراط کرنے لگتے ہیں کہ حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے اس لئے اول امام ترمذی بر الشیعیہ نے  
اعتدال اور میانہ روی کی روایتیں ذکر کیں اور اخیر روایت سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اگر غلبہ شوق میں کسی وقت کچھ  
معمول سے زیادتی ہو جائے تو مضائقہ نہیں، ایسا نہ ہونا چاہئے کہ عبادت سے ملال اور نفور پیدا ہو جائے۔

رسول الله ﷺ: قال ميرك: اعلم أنه لم يظهر وجه مناسبة هذه الأحاديث بعنوان الباب، وحكي أنه وقعت في بعض  
النسخ عقب حديث حذيفة وهو أشبه بالصواب، وأظن أن إيرادها هنا من تصرف النساخ، وقيل: ليس في بعض النسخ  
المقروءة على المصنف باب صلوة الضحى ولا باب صلوة التطوع ولا الصوم، بل وقع جميع الأحاديث في باب العبادة فلا  
إشكال. وقال المناوي في حديث عائشة وأم سلمة: أخره إلى الصوم مع أنه بباب العبادة أليق؛ لأن كثيراً يداومون عليه  
أكثراً من غيره فذكره في ذلك زجراً عن الملازمة وإن كان لا اختصاص له بالصوم، ثم قال في حديث عوف: وجه ختم  
الباب بهذا الخبر أنه لما استطرد إلى أن أفضل الأعمال ما يطاق، بين أن ارتکاب المشق نادراً لا يفوت الفضيلة، وهذا أولى  
من قول القسطلاني: إنه وقع سهواً من النساخ. فقمت معه: أي [الصلة معه، والاقتداء به].

فسائل: [يعني أمسك عن القراءة وسأل الله الرحمة]. والكبرياء: [الترفع عن جميع الخلق مع انقيادهم له والتزمه عن كل نقص].

العظمة: [وهي تجاوز القدر عن الإحاطة به].

ثم قرأ آل عمران، ثم سورةً سورةً يفعل مثل ذلك.

ثم سورةً أي: ثم قرأ سورة في الثالثة وأخرى في الرابعة، ففيه حذف حرف العطف، فرغم أنه تأكيد لفظي عدول عن ذلك، قال ميرك: ويجترئ أن يكون المراد أنه قرأ السور المذكورة في ركعة واحدة، كما في حديث حذيفة المتقدم في باب العبادة، والاحتمال الأول أوفق بظاهر هذا السياق.

## باب ما جاء في قراءة رسول الله ﷺ

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن أبي ملیکة، عن يعلى بن مملک: أنه سال أم سلمة عن قراءة رسول الله ﷺ! فإذا هي تعت قراءة مفسرةً حرقا حرفا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جریر بن حازم، حدثنا أبي، عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله ﷺ؟

[فتح الميم  
عن صفتها]  
أي: مبنية من المفسر وهو البيان والتفسير مثله

(۲)

### باب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کا ذکر

فائدہ: یعنی حضور کی تلاوت کی کیفیت کا بیان ہے کہ حضور کس طریقہ سے تریل اور تجوید کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ اس باب میں آٹھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) یعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ نبی ﷺ امام المومنین سے حضور ﷺ کی قراءت کی کیفیت پوچھی، انہوں نے ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ صاف صاف کیفیت بتائی۔ فائدہ: یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں حروف واضح طور سے ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت ام سلمہ نبی ﷺ نے زبانی یہ کیفیت بتائی ہوا دری یہ بھی احتمال ہے کہ اس طرح پڑھ کے بتایا ہو جس سے کیفیت ظاہر ہو، شرائح حدیث دونوں احتمال بتاتے ہیں مگر اقرب دوسرا احتمال ہے، اس لئے کہ حضرت ام سلمہ سے اسی نوع کی ایک حدیث نمبر ۳ پر آرہی ہے، اس میں حضرت ام سلمہ نے پڑھ کر بتایا کہ اس طرح تلاوت فرماتے تھے۔

(۲) قادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور ﷺ کی قراءت کی کیفیت پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم (مدالے حروف کو) مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھتے تھے۔ فائدہ: یعنی جو حروف ایسے ہوتے تھے کہ ان کو مد کے

قراءة: یعنی في كيفية قراءة القرآن ترتيلًا ومدًا ووقفًا، إسراً وإعلانا وترجيعاً وغيرها. الليث: وقع في بعض النسخ "ليث بن شهاب" وهو غلط، ليس في الرواية أحد اسمه ليث بن شهاب، بل هو ليث بن سعد. ابن أبي مليكة: بالتصغير، اسمه عبد الله بن عبد الله. مملک: بفتح الميم الأولى وسكون الثانية وفتح اللام بعدها كاف. تعت: [تصف، من قوله] نعت الرجل صاحبه أي وصفه. قال الطبي: وصفها بذلك إما بالقول بأن تقول: كانت قراءته كذلك، أو بالفعل بأن تقرأ كقراءته، قال عاصم: هو الظاهر. مفسرة: [أي: حال كونها مفصولة الحروف.]

قال: ملأاً. حديثنا علي بن حُجر، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن حُريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يقطع قراءته يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ۲]، من القطع، وهو: جعل الشيء قطعة قطعة

ساتھ پڑھا جاتا ہے ان کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب اطمینان سے تلاوت کی جائے، جلدی جلدی میں مد کے ساتھ پڑھنا مشکل ہے۔ اس سے دونوں باتیں ظاہر ہو گئیں: اطمینان سے پڑھنا بھی اور مدوں کی رعایت کرنا بھی۔ شریعت نے لکھا ہے کہ مد کے بھی قواعد ہیں جو تجوید کی کتابوں میں مفصل موجود ہیں، ان کی رعایت ضروری ہے، ہمارے زمانہ کے بعض قاری مدوں کو اتنا کھینچتے ہیں کہ حدود سے بڑھ جاتا ہے، ہر چیز اصول اور قواعد کے موافق ہی صحیح ہے، افراط اور تفریط دونوں مذموم ہیں۔

(۳) ام سلمة رضي الله عنها کہتی ہیں کہ حضور اقدس سنتی تلاوت میں ہر آیت کو جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ اس طرح پڑھتے تھے کہ ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ۲] پر ٹھہرتے، پھر ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة: ۳] پر وقف کرتے، پھر ﴿مَالِكُ يَوْمِ الدِّين﴾ [الفاتحة: ۴] پر وقف کرتے۔ فائدہ: غرض ہر آیت کو جدا جدا نہایت اطمینان سے ترتیل کے

ملأاً: [أي يمد الحرف الذي يستوجب المد]. بلفظ المصدر: أي ذات مد، والمراد به: تطويل النفس في حروف المد واللين، وفي رواية البخاري: كان يمد ملأاً، وفي بعض النسخ: مداء على وزن فعلاء، قال القاري: لم نقف عليه رواية. الأموي: بضم الهمزة وفتح ميم، نسبة إلى بني أمية. أي مليكة: قال المصنف في الجامع: هكذا روى يحيى بن سعيد وغيره عن ابن حريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، وليس إسناده متصل؛ لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة، عن يعلى، عن أم سلمة أنها وصفت قراءة النبي ﷺ حرفا حرفا، وحديث الليث أصح. قال المناوي: تعقبه القسطلاني: بأن سماع ابن أبي مليكة من أم سلمة ثابت عند علماء أسماء الرجال، فما أدرى كيف حكم بعدم اتصاله، ورواية الليث غير نص في الانقطاع؛ لاحتمال كونه من المزيد في متصل الأسانيد. وقال الحافظ العسقلاني نقلا عن ابن أبي مليكة: أدرك تلذين من أصحاب النبي ﷺ وذكر في من سمع منهم أم سلمة، قال القاري: وإذا ثبت سماعه منها فلم لا يجوز أن يسمع الحديث بهذا اللفظ من أم سلمة، وباللفظ المتقدم عن يعلى عنها؟

يقطع قراءته: [أي: يقف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها، فيسن الوقف على رؤوس الآي]. يقول الخ: فيه دليل على أن البسملة ليست جزءاً من الفاتحة على ما هو مذهبنا الحنفية ومذهب مالك، قاله القاري، خلافاً للشافعية.

ثم يقف، ثم يقول: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة: ٣]، ثم يقف، و كان يقرأ: ﴿هَمَّالِكٌ يَوْمُ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]. حدثنا قبية بن سعيد، حدثنا الليث، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن قراءة النبي ﷺ: أكان يُسرّ بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان رُبّما أسرّ و رُبّما جَهَرَ، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.

ساتھ پڑھتے تھے۔ قراء کے بیہاں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ ہر آیت پر سانس لینا افضل ہے یا نہیں۔ مرشد عالم حضرت مولانا گنگوہی پیر الشریعۃ کا ایک مستقل رسالہ (رد الطغیان فی اوقاف القرآن) جو نہایت مختصر ہے، اردو زبان میں شائع ہے، اس مسئلہ کے لئے اس کا مطالعہ مفید ہے۔

(۲) عبد الله بن أبي قيس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ حضور اقدس سنتیؐ قرآن شریف آہستہ پڑھتے تھے یا پکار کر؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں طرح معمول تھا۔ میں نے کہا کہ الحمد لله اللہ کا شکر و احسان ہے جس نے ہر طرح سہولت عطا فرمائی (کہ بمقتضائے وقت جیسا مناسب ہو، آواز سے آہستہ اسی طرح پڑھ سکے)۔

فائدہ: یہ سوال جیسا کہ جامع ترمذی شریف کی روایت میں تصریح ہے تجد کی نماز کے بارے میں تھا اور اس کے جواب میں حضرت عائشہؓ کا یہ فرمान کہ دونوں طرح معمول تھا یعنی آواز سے بھی اور آہستہ بھی، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے

ثم يقف: قاله القاري: الحاصل أنه كان يقف على رؤوس الآي تعليماً للأمة ولو فيه قطع الموصوف عن الصفة، ولذا قال البهقي والخلimi وغيرهما: يسن أن يقف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها للإتباع، فقبح بعضهم في الحديث. بأن محل الوقف "يوم الدين" غفلة عن قواعد القراء؛ إذ أجمعوا على أن الوقف على الفواصل وقف حسن، وإنما الخلاف في الأفضل، هل هو الوصل أو الوقف؟ فاجتمعوا كالسحاوندي وغيره على الأول والجزري على الثاني. مالك يوم: قال المناوي: بالألف في جميع نسخ الشمائل، قال القسطلاني: أظنه وهو من النساخ، والصواب: "ملك" بحذف الألف. قلت: اختلفت روایات أم سلمة فی هذا اللفظ جداً، فآخرجه أبو داود وأحمد والبهقي بالألف، والترمذی فی الجامع والحاکم بدون الألف. أكان يُسرّ: [أی: يخفی قراءته بجیث لا یسمعه غیره میظہرها بجیث یسمعه غیره]. فقلت: [القائل هو عبد الله بن أبي قيس]. سعة: [یعنی من حيث الجهر والإسرار سعة، ولم یضيق علينا بتعریف أحد الأمرين].

حدثنا محمود بن غیلان، حدثنا وکیع، حدثنا مسّعو، عن أبي العلاء العبدی، عن یحیی بن جعده، عن<sup>(۵)</sup> أم هانئ رضیتہما قالت: كت أسمع قراءة النبي ﷺ بالليل وأنا على عریشی.

سفر مکان

کہ ایک رات میں ہی دونوں طرح معمول تھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ کسی رات میں آواز سے پوری نماز پڑھنے کی نوبت آتی تھی اور کسی رات میں آہستہ تمام نماز پڑھ لیتے تھے، دونوں صحیح ہیں اور تہجد میں دونوں طرح پڑھنے میں مضافات نہیں ہے۔ وقت کی مناسبت سے بسا اوقات آواز سے پڑھنا افضل ہوتا ہے، بالخصوص جہاں دوسروں کی ترغیب کا سبب بنے یا نشاط پیدا ہوتا ہو اور جہاں کسی کی تکلیف کا احتمال ہو یا ریا کا شائبہ ہو وہاں آہستہ پڑھنا اولی ہوتا ہے۔ جہر سے پڑھنے میں دوسروں کی تکلیف کی رعایت ضروری ہے اور کسی وقت دونوں برابر ہوں تو معمولی جبراولی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول تہجد میں آہستہ پڑھنا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے پڑھتے تھے، ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ کا دونوں حضرات پر گزر ہوا، دونوں کا حال دیکھا، صحیح کو جب دونوں حضرات حاضرِ خدمت تھے، حضور اقدس ﷺ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ابو بکر! میں تمہارے پاس سے گزارتم بہت آہستہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں جس پاک ذات سے باقیں کر رہا تھا وہ سُن ہی رہا تھا، پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ تم بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ غفلت سے سونے والوں کو جگانا اور شیطان کو اپنے سے دور رکھنا مقصود تھا۔ حضور نے دونوں حضرات کی تصویب فرمائی اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بڑھالیا کر وار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ذرا آہستہ کر دو۔

(۵) ام ہانئ رضیتہما کہتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ (مسجد حرام میں قرآن شریف پڑھنے تھے اور میں حضور) کے پڑھنے کی آواز رات کو اپنے گھر کی چھت سے ناکرتی تھی۔ فائدہ: یعنی یہ کہ حضور اقدس ﷺ نہایت صاف صاف بلند آواز سے پڑھتے

العبدی: بفتح عین وسکون موحدة، وفي بعض النسخ: الغنوی بفتح الغين المعجمة والنون وكسر الواو، قاله القاري.  
 قلت: والموليد بكتب الرجال هو الأول. قراءة النبي: [أي: وهو يقرأ في صلاته ليلا عند الكعبة، قبل المحرقة].

عریشی: [العریش، وهو: ما یُستظلُّ به، والمقصود هنا الفراش، والحال أتى نائمة على سريری]. قال المناوی: هو بإثبات الياء، وفي نسخ بحذفها. والعريش والعرش: السریر، وشبه بیت من جرید يجعل فوقه الشمام وسقف الیت، وكلها یستظل به او یہیا للکرم؛ ليرتفع عليه، قال القاري: والمراد به السریر، وفي روایة للنسائي وابن ماجة: قالت: كت أسمع وأنا نائمة على فراشي، وفي المواهب عن ابن ماجة: قالت: كنا نسمع قراءة النبي ﷺ في جوف الليل عند الكعبة وأنا على عریشی.

حدثنا محمود بن غیلان، حدثنا أبو داود، أبنا شعبة، عن معاویة بن قرۃ قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأیت النبي ﷺ علی ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾

تھے کہ میں اپنے مکان سے سُن لیتی تھی۔ رات کے وقت ویسے بھی آواز دُور تک جایا کرتی ہے اور پھر مکان کی چھت پر تو اور بھی صاف جاتی ہے، بالخصوص جب مکان قریب ہو۔

(۲) عبد الله بن مغفل شیخ تھے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو فتح کہ کے دن ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے جم ہو جانے کا ذر نہ ہوتا تو میں اس لہجہ میں پڑھ کر سناتا۔ (جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، وہ) کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے جم ہو جانے کا ذر نہ ہوتا تو میں اس لہجہ میں پڑھ کر سناتا۔ فائدہ: ترجع کے معنی لغت کے اعتبار سے لوٹانے کے ہیں آواز کو لوٹا کر پڑھنا مراد ہے۔ خود عبد الله بن مغفل سے اس کی تفسیر "۲۲" منقول ہے، اس کا مطلب بعض علماء نے آواز کو درست کر کے پڑھنے کا فرمایا ہے کہ حضور اقدس ﷺ کو مکہ مکرمہ کے فتح ہونے اور دارالاسلام بن جانے کی وجہ سے غایت سرور تھا اس لئے نہیت لطف سے پڑھ رہے تھے، مگر میرے استاذ حضرت والد صاحب ﷺ کی تحقیق یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ چونکہ اوثنی پر تشریف فرماتھے اس لئے اس کی حرکت سے آواز ترجیعی معلوم ہوتی تھی۔ اسی بناء پر عبد الله بن مغفل نے اس کی تفسیر "۲۲" سے نقل کی اور اسی وجہ سے معاویہ نے اس کی نقل کرنے کی ہمت نہیں کی کہ دانستہ اس طرح آواز بنانے سے لوگ مجتمع ہو جائیں گے، اس توجیہ کے موافق آئندہ حدیث کے بھی مخالف نہیں ہو گی۔ بندہ کے نزدیک یہی توجیہ زیادہ پسندیدہ ہے، اس لئے کہ اگر پہلے قول کے موافق آواز بنا کر اور درست کر کے پڑھنا مراد ہے تو پھر لوگوں کے مجتمع ہونے کا کیا خوف ہے!۔ قرآن پاک کو اچھی آواز سے جس میں گانے سے مشاہدہ پیدا نہ ہو، پڑھنا ہی چاہئے۔ بہت سی احادیث میں مختلف عنوان سے قرآن پاک کو ترتیل سے اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعض روایات میں اپنے رسالہ چہل حدیث میں لکھا چکا ہوں، جس کا دل چاہے اس کو دیکھے۔

قرة: بضم قاف وتشدید راء مهملة. على ناقته: [أي: حال كونه راكبا على ناقته الغضباء أو غيرها].  
فتحا مبينا: [وهذا الفتح هو فتح مكة كما روی عن أنس، أو فتح خيبر كما روی عن مجاهد، والأكترون على أنه صلح الحديبية؛ لأنه أصل الفتوحات كلها].

**لِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَبْلِكَ وَمَا تَأْخَرَ** [الفتح: ٢، ١] قال: فقرأ و رجع، قال: وقال معاوية بن قرة: لو لا أن يجتمع الناس على لأنخذت لكم في ذلك الصوت - أو قال: اللحن -. حدثنا قبيبة بن سعيد، حدثنا نوح بن قيس الحذّاني، عن حُسَامَ بْنِ مِصَّابٍ، عن قتادة قال: ما بعث <sup>(٧)</sup> الله نبِيًّا إِلَّا حَسَنَ الْوِجْهَ حَسَنَ الصَّوْتِ،

(۷) قتادة كہتے ہیں کہ حق تعالیٰ بن شانے ہر نبی کو حسین صورت اور حسین آواز والا مسیح فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ حسین صورت اور جیل آواز والے تھے۔ حضور اقدس ﷺ قرآن شریف (گانے والوں کی طرح) آواز بنا کر نہیں پڑھتے تھے۔ فائدہ: اس حدیث کو پہلی حدیث سے ظاہر تعارض ہے، جس کی توجیہ گذشتہ حدیث کے ذیل میں گزر چکی ہے کہ آواز کو لونا کر پڑھنے کی نقی مقصود ہے، بعض علماء نے اس سے گانے کی آواز مرادی ہے کہ گانے کی آواز سے تلاوت کی ممانعت متعدد احادیث میں وارد ہوئی ہے۔

لِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ: [أي: لتجتمع لك هذه الأمور الأربع: وهي المغرة، وإتمام النعمة، وهداية الصراط المستقيم، والنصر العزيز]. رجع: قال القاري: من الترجيع بمعنى التحسين، وإشباع المدى في موضعه، وقال المناوي: أي ردّ صوته بالقراءة، ومنه ترجيع الأذان، أو قارب ضروب الحركات في الصوت، وقد فسره عبد الله بن مغفل بقوله: "آ آ آ" وذلك ينشأ غالباً عن أريحة وانبساط، والمصطفى عليه السلام حصل له من ذلك حظ وافر يوم الفتح، وزعم ابن الأثير أن ذلك حصل من هز الناقة، ورُدّ: بأنه لو كان بغير اختيار لما حكاه عبد الله و فعله اقتداءً. وفيه: أنه لم يفعله بل تركه مخافة اجتماع الناس، ولو كان هذا باختياره وما ينبغي أن يقتدى به فعله معاوية ولو اجتمع، بل أحب أن يجتمع له الناس؛ ولذا تعقب القاري على المناوي: بأن حكايته ليس للتأسي، بل للعلم بكيفيته.

الحدّاني: نسبة إلى حدان، بضم حاء وتشديد دال مهمليتين، قبيلة من الأرد. حسام: بضم حاء مهملة بعدها سين مهملة، "مَصَّكَ": بكسر ميم وفتح مهملة بعدها مثقلة، ضعيف. قال الدارقطني: حسام متروك، ومن منا كبره حدیث: ما بعث الله نبِيًّا إِلَّا حسن الصوت، وقال القسطلاني: حدیث مقطع ضعیف، قاله المناوی. قلت: وذلك؛ لأن قتادة تابعی. إلا حسن: وفي هامش الكوكب عن شرح الشفاء للقاري: حکی الترمذی عن قتادة مرسلاً، ورواه الدارقطنی من حدیث قتادة عن أنس مرفوعاً: ما بعث الله نبِيًّا إِلَّا حسن الْوِجْهَ حَسَنَ الصَّوْتِ، وكان نبیکم أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنُهُمْ صوتًا، وفيه أنه يشمل حسن صورة يوسف وحسن صوت داود، وتمامه فيه.

وكان نبيكم ﷺ حسناً الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قراءة النبي ﷺ ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت.

(٨) ابن عباس رضي الله عنهما كہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کی آواز (صرف اس قدر بلند ہوتی تھی کہ) آپ اگر کوھڑی میں پڑھتے تو گھنی والے سن لیتے تھے۔

فائدہ: یعنی صحن سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ قرآن پاک کا آہستہ اور آواز سے پڑھنا دونوں موقع کے لحاظ سے افضل ہیں، اگر تر غیب کا موقع ہو یا کوئی اور سبب جہر کی ترجیح کا ہو تو جہر سے پڑھے اور اگر ریاء وغیرہ کا خوف ہو تو آہستہ پڑھے، غرض یہ کہ موقع کے لحاظ سے مختلف ہوتا رہتا ہے۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ آواز سے قرآن پاک پڑھنے والا ایسا ہے جیسا اعلان سے صدقہ کرنے والا اور آہستہ قرآن شریف پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ چپکے سے صدقہ کرنے والا، اور صدقہ کے متعلق اظہار اور اخفاکا افضل ہونا موقع کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، اسی طرح تلاوت کا بھی حکم ہے۔

لا يرجع: أي: قصداً، أو ترجيع الغناء، قاله القاري، وقد علمت أن الحديث ضعيف، وقال البيحوري: أي لا يرجع في بعض الأحيان، أو كان لا يرجع ترجيع الغناء فلا ينافي مامر. قلت: وعلى الأول، فيكون دليلاً على جواز القراءة بدون تحسين الصوت في بعض الأحيان للضرورة. الحجرة: هي الأرض المحجورة أي: الممنوعة بمحاط محوط عليها، والمراد: صحن البيت، والمعنى: أنه ﷺ إذا قرأ في البيت ربما يسمع قراءته من في صحته، ولا تجاوز صوته عنهم إلى ما وراء الحجرة، وقال القاري: يحتمل أن يكون المراد بالبيت هو الحجرة نفسها أي: يسمع من في الحجرة وهو ﷺ فيها.

## بابُ ما جاءَ فِي بَكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ

**حدثنا سُويد بن نصر، أخينا عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلامة، عن ثابت، عن مُطْرِفٍ**

### باب۔ حضور اقدس ﷺ کی گریہ وزاری کا ذکر

فائدہ: آدمی کارونا چند وجوہ سے ہوتا ہے، کبھی رحمت اور مہربانی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی اشتیاق و محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی غلبہ خوشی سے ہوتا ہے، کبھی کسی درد وغیرہ کی تکلیف کی وجہ سے اور کبھی رنج کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی کسی کے ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک روناتوبہ کا ہوتا ہے جو گناہ کے صادر ہو جانے سے آتا ہے۔ ایک رونافق کا کہلاتا ہے جو کسی دوسرے کے دکھلانے کی وجہ سے نماز وغیرہ میں خشوع خصوص ظاہر کرنے کے طور پر رویا جائے، ایک رونامانگے کا کہلاتا ہے جیسے کسی کے مردہ کو بلا مزدوری لئے رویا جائے، ایک رونامزدوری کارونا کہلاتا ہے، جیسا کہ کسی میت کے گھر مزدوری لے کر رویا جائے، جیسا کہ بعض جگہ دستور ہے، ایک موافقت کارونا کہلاتا ہے وہ یہ کہ کسی کو روتا ہو ادکھ کر رونا آجائے وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم ﷺ کا گریہ اکثر میت پر شفقت و رحمت یا میت پر خوف یا اللہ کے ذریعہ اس کے اشتیاق سے ہوتا تھا جیسا کہ روایات سے معلوم ہو گا، انہی اقسام کارونا محدود ہے۔ مثلاً نے لکھا ہے کہ ایک رونا جھوٹ کہلاتا ہے، وہ اس شخص کارونا ہے جو کسی گناہ پر روئے اور اس پر جما رہے۔ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد عليه السلام کارونا رنج کارونا تھا اور حضرت ابراہیم عليه السلام کارونا شوق کارونا تھا اور نبی کریم علیہ النعمان الصلوات والسلیمان کارونا محبت کارونا تھا۔ بندہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ راتوں کا اکثر رونا اس ذیل میں تھا ورنہ جیسا ابھی گزر حضور کارونا مختلف انواع کا ہوتا تھا، چنانچہ مختلف انواع کی روایات آرہی ہیں۔

بكاء: [بالمد والقصر، وهو أنواع: بكاء رحمة ورأفة، وبكاء خوف وخشية، وبكاء محبة وشوق، وبكاء فرح وسرور، وبكاء جزع وفرع، وبكاؤه تارة يكون رحمة وشفقة على الميت، وتارة يكون خوفاً على أمته، وتارة يكون خشية من الله تعالى]. قال القاري: هو بضم المودة مقصورة: خروج الدم مع الحزن، وممدوداً: خروجه مع رفع الصوت، كذا ذكره بعض الشراح، وأطلق صاحب القاموس حيث قال: بكى يبكي بكاء وبكاء. وقال المناوي: قيل: بالمد إذا كان الصوت أغلب، وبالقصر إذا كان الحزن أغلب. مطرفة: بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة ابن الشحرير بكسر المعجمتين المشددين فمثناة تحتية فراء مهملة.

—وهو ابن عبد الله بن الشّجَير — عن <sup>(١)</sup> أبيه قال: أتى رسول الله ﷺ وهو يصلي، وجلوفه أزيف كأزيز المرجل من البكاء. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن مثل آواز دیگ روغن الأعمش عن إبراهيم، عن عبيدة، عن <sup>(٢)</sup> عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ:

اس باب میں مصنف رضی اللہ عنہ نے چھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) عبد الله بن شجیر کہتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نماز پڑھ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینہ سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہندیا کا جوش ہوتا ہے۔  
فائدہ: یہ حضور اقدس ﷺ کے کمال خشوع و خضوع کی وجہ سے تھا۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ حالت حضور اقدس ﷺ پر اُس وقت ہوتی تھی جب اللہ ﷺ کی صفاتِ جلالیہ اور صفاتِ جماليہ دونوں کا ظہور اکٹھے ہوتا تھا اور صفاتِ جلالیہ کے ظہور کی تو کوئی چیز طاقت ہی نہیں رکھتی البتہ صرف صفاتِ جماليہ کا جس وقت ظہور ہوتا تھا اُس وقت ایک سرور اور انبساط کی کیفیت پیدا ہوتی تھی اور حضور کے طفیل مشائخ سلوک کو بھی بھی دو کیفیتیں پیش آتی ہیں۔

(۲) عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور ﷺ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف سُنَاۃ (شاید حضور نے اس لئے ارشاد فرمایا ہو کہ سننے میں خور و تدبیر پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے سننے کی رغبت فرمائی ہو کہ بہت

أَزِيزٌ: بالزائين المعجمتين بينهما تختية على وزن فعيل أي: غليان، وقيل: صوت. والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم: القدر من نحاس أو حجر أو حديد أو غير ذلك، أو القدر مطلقاً كما اختاره الحافظ ابن حجر. من البكاء: [أي: من أجله بسبب عظم الخوف والإجلال لله سبحانه وتعالى]. قال الحراني: ومن هذا الحديث ونحوه استن أهل الطريق الوجد والتواجد في أحوالهم. سفيان: قال المناوي: لعله سفيان بن وكيع. والظاهر عندي أنه الثوري؛ فإن الحديث أخرجه البخاري عنه عن الأعمش، وذكر الحافظ في مشائخ معاوية بن هشام الثوري.

ابراهیم: قال المناوي: هو متعدد، فليحرر ما المراد به. قلت: هو إبراهيم النخعي التابعي الشهير، جزم به الحافظان في الفتح والمعیني. ثم الحديث أخرجه المصنف برواية أبي الأحوص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقة، عن عبد الله، ثم قال: هكذا روى أبو الأحوص، وإنما هو إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. عبيدة: بفتح عين مهملة وكسر باء موحدة، ابن عمرو السلماني التابعي، كذا في الشروح وكتب الرجال.

اقرأ على، فقلت: يا رسول الله! أقرأ عليك وعليك أُنْزَل؟ قال: إِنِّي أَحُبُّ أَنْ أَسْمِعَهُ مِنْ غَيْرِي، فقرأت سورة النساء حتى بلغت **﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوَلَاءِ شَهِيداً﴾** [النساء: ۴۱] قال: فرأيت عيني **النَّبِيَّ تَهْمَلَان**. حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن أبيه،

کی وجہ اس کی ہو سکتی ہیں، مثلاً یہی کہ قرآن شریف سننے کی سنت بھی حضور کے فعل سے ثابت ہو جائے) میں نے عرض کیا کہ حضور آپ ہی پر توانازل ہوا ہے اور آپ ہی کو سناؤں؟ (شاید ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا ہو کہ سنانا تبلیغ اور یاد کرانے کے واسطے ہوتا ہے) حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دوسرے سے سنوں۔ میں نے اتنا حکم میں سنانا شروع کیا اور سورہ نساء (جو چوتھے پارہ کے پونے سے شروع ہوتی ہے) پڑھنا شروع کی۔ میں جب اس آیت پر پہنچا۔ **﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوَلَاءِ شَهِيداً﴾** [النساء: ۴۱] تو میں نے حضور کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا کہ دونوں آنکھیں گریہ کی وجہ سے بہرہ ہی تھیں۔

فائدہ: حضور اکرم ﷺ کا یہ روناکلام الہی کے سنت سے ہو کہ تلاوت کلام اللہ کی شان یہی ہے۔ امام نووی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ تلاوت کے وقت رونا عارفین کی شان ہے اور صالحین کا شعار ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے کلام پاک میں متعدد جگہ اس کی تعریف کی ہے چنانچہ ارشاد ہے: **﴿إِذَا تَلَقَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ﴾** [مریم: ۵۸] جب ان پر رحمٰن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو زمین پر گر جاتے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے، دوسری جگہ ارشاد ہے: **﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَوْ تَوَالِعَلَمُ﴾** [الاسراء: ۱۰۷] کہ یہ قرآن شریف جب ان پر پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ قرآن شریف یعنی اس کا سننا ان کے خشوع کو اور بڑھادیتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضور سے زیادہ ان آیات کے مطابق اور کون ہو سکتا ہے۔ اس لئے حضور کا یہ روناکلام اللہ شریف کی عظمت و جلال کی وجہ سے ہونا قرین قیاس ہے۔ اس صورت میں حضور پہلے سے رو رہے ہوں اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نگاہ اسی وقت پڑی ہو قرین قیاس ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خاص اس آیت پر حضور کو رونا

شہیدا: ای مزکیا اور مثنیا اور مشاهداً اور حاضراً۔ تہملان: بفتح التاء و کسر الميم و ضمها ای تسلیان، ولفظ الصحیحین: حق اتیت هذه الآية قال: حسبك، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفاً. [ای: تسیل دموعهما لفروط رأفته ومزيد شفقته ﷺ: لأنَّه استحضر أهوال القيمة.]

عن عبد الله بن عمرو قال: إنكسفت الشمس يوماً على عهد رسول الله ﷺ، فقام رسول الله ﷺ  
 أي في زمان رسول ﷺ يصلّي حتى لم يكُن يركع، ثم ركع فلم يكُن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكُن يسجد،  
 أي لم يقرب

آیا ہو کہ اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے: اُس وقت بھی کیا حال ہو گا جب ہم ہرامت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لئے حاضر کریں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہے کہ اُس دن ہر نبی کو ان کی امت پر گواہی دینے کے لئے بطور سرکاری گواہ کے لا یا جائے گا، جس کے حالات محشر کی احادیث میں مفصل موجود ہیں، اس صورت میں حضور کا یہ رونا قیامت اور محشر کے سخت حالات کے تصور سے ہو کہ نہایت ہی سخت دن ہو گا اور ہر شخص نفسی میں بتلا ہو گا اور ممکن ہے کہ حضور کو چونکہ اس آیت شریفہ میں بطور گواہ کے پیش ہونے کا ارشاد ہے تو اس گواہی کی شدت کی وجہ سے خوف ہو، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے اس وقت جب یہ آیت پڑھی گئی یہ کہا: يا اللہ! جو لوگ میرے سامنے نہیں ہیں ان پر کیسے گواہی دوں گا؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس گواہی کے سلسلہ میں قیامت کا منظر سامنے آیا اور امت کی فکر حضور کو ہر وقت رہتی ہی تھی اس لئے امت کے گناہ گاروں کے حال پر شفقت کی وجہ سے رونے کا غلبہ ہو گیا۔ ان میں سے ہر وجہ ایسی ہے کہ وہ گریہ کا سبب بن سکتی ہے اور ان سب کا مجموعہ اور ان کے علاوہ اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں۔

(۳) عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كتبته ہیں کہ حضور اقدس اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں ایک مرتبہ سورج گہن ہوا (یہ قصہ جمہور کے نزدیک سنہ ۱۰ ہجری کا ہے) حضور اقدس اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز شروع فرمایا تھی دیر تک کھڑے رہے گویا رکوع کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے (دوسری روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ پڑھی تھی) اور پھر رکوع اتنا طویل کیا کہ گویا رکوع سے اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں، پھر ایسے ہی رکوع کے بعد سر اٹھا کر قومہ میں بھی اتنی دیر تک کھڑے رہے گویا سجدہ کرنا ہی نہیں ہے،

يوماً [وذلك اليوم: هو يوم ولده إبراهيم] اختلفوا في أن الكسوف وقع في عهده مرة أو أكثر منها؟ فالجمهور من أهل الحديث وأهل السير على الأول، وقوى النبوة وغيره الثاني. لم يكُن يركع: [وهو كنایة عن طول القيام مع القراءة، فإنه قرأ قدر البقرة في الركعة الأولى]. ركع: اختلفت الروايات في عدد الركوع إلى ست ركوعات، فقالت الشافعية وغيرهم: إن مازاد على الركوعين وهم أو مرجوح، والراجح روايات الركوعين، وقالت الحنفية: إن الأصل في الصلوة ركوع واحد، وهو المؤيد بالروايات القولية، وروايات الفعل متعارضة، فبقي الاستدلال بالقول سالماً عن المعارضة.

ثم سجد فلم یکد أن یرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم یکد أن یسجد، ثم سجد فلم یکد أن یرفع رأسه، فجعل ینفح ويکی ويقول: رب! ألم تعدنی أن لا تعذّبهم وأنا فيهم؟ رب! ألم تعدنی ألا تعذّبهم وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك. فلما صلی رکعتين انخلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى، وأثنى عليه، ثم قال: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتٌ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ،

پھر سجده کیا اور اس میں بھی سر مبارک زمین پر اتنی دیر تک رکھے رہے گویا سر اٹھانا ہی نہیں ہے، اسی طرح سجده سے اٹھ کر جلسہ اور پھر جلسہ کے بعد دوسرے سجده میں۔ غرض ہر ہر رکن اس قدر طویل ہوتا تھا کہ گویا یہ ہی رکن اخیر تک کیا جائے گا، دوسرے کوئی رکن نہیں ہے (اسی طرح دوسری رکعت پڑھی اور اخیر سجده میں) شدتِ غم اور جوش کے سے سانس لیتے تھے اور روتے تھے اور حق تعالیٰ جل شکی بارگاہ عالی میں یہ عرض کرتے تھے کہ اے اللہ! تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میری موجودگی تک امت کو عذاب نہ ہوگا، اے اللہ! تو نے ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے، عذاب نہیں ہوگا، اب ہم سب کے سب استغفار کرتے ہیں۔ (حضور کا یہ ارشاد اس مضمون کی طرف اشارہ ہے جو کلام اللہ شریف میں نویں پارہ کے اخیر میں ہے۔ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأفال: ٣٣] اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جل شکی ایمانہ کریں گے کہ ان لوگوں میں آپ کے موجود ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں اور اس حالت میں بھی ان کو عذاب نہ دیں گے کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہوں) حضور اکرم ﷺ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آفتاب نکل چکا تھا۔ حضور نے اس کے بعد وعظ فرمایا، جس میں حق تعالیٰ جل شکی حمد و شنا کے بعد یہ مضمون ارشاد

ثم سجد: ولفظ أبي داود: ثم سجد فلم یکد یرفع، ثم رفع و فعل في الرکعة الأخرى مثل ذلك، ثم ینفح في آخر سجوده فقال: أَفْ أَفْ، ثم قال: رب! ألم تعدنی، الحديث. علم منه أن في رواية الشماں اختصاراً ینفح: قال القاري والمناوي: أي بغير أن يظهر من فمه حرفان. قلت: فلا بطلان للصلة ولا حاجة إلى تضييف الحديث، ولفظ أبي داود: ثم ینفح في آخر سجوده فقال: أَفْ أَفْ، وكب الوالد المرحوم في تقريره عليه: هذه حكاية لصوته ﷺ ثقة، ولا يستلزم صدور الحروف في الحكاية صدورها في المحتكي عنه، ولا يلزم فساد الصلة، وهذا كما في حكاياتهم لصوت الغراب بـ "عاق" مع أن شيئاً من الحروف لا يصدر منه، فإنيات الحروف في الحكاية لضرورة النقل أو الكتابة. فللله در، برد الله مضجعه، فما أجاد! وهم يستغفرون: [إِشارة إلى قول الله عزوجل: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأفال: ٣٣]

فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. حديثنا محمد بن غيلان، حديثنا أبو أحمد، حديثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة، عن ابن عباس [بادروا إلى الصلاة]<sup>(٤)</sup> قال: أخذ رسول الله ﷺ ابنة

فرمایا کہ نہش و قمر کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گھن نہیں ہوتے بلکہ یہ حق تعالیٰ علیٰ کی دو نشانیاں ہیں (جن سے حق سجائے اپنے بندوں کو عبرت دلاتے ہیں اور ڈراتے ہیں) جب یہ گھن ہو جایا کریں تو اللہ جل جلالہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جایا کرو (اور استغفار و نماز شروع کر دیا کرو)۔ فائدہ: اس وعظ کی مصلحت تھی کہ ایام جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ چاند و سورج کا گھن کسی بڑی موت یا کسی بڑے شخص کی پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے اور اتفاق وقت کہ حضور کے زمانہ میں جب گھن ہوا تو اُسی دن صاحبزادہ اقدس حضرت ابراہیم بن رسول اللہ ﷺ کا وصال بھی ہوا تھا۔ اس لئے اُس سے جانی خیال کی اور بھی تائید ہوتی تھی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گھن حضرت ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے ہوا۔ صلوٰۃ الکسوف میں ائمہ کا خلاف ہے کہ ایک رکوع سے پڑھنی چاہئے یا ایک سے زائد رکوع کے ساتھ۔ حفیہ کاملک ایک ہی رکوع کا ہے، اس حدیث سے اُن کی تائید ہوتی ہے، باقی علمی بحث اور فریقین کے دلائل اس جگہ سے مناسب نہیں رکھتے۔

(۲) ابن عباس رض فرماتے ہیں کہ حضور کی ایک لڑکی قریب الوفات تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے اُن کو گود میں اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضور کے سامنے ہی رکھے اُن کی وفات ہو گئی۔ اُم ایمن (جو حضور کی ایک باندی تھیں) چلا کر رونے لگیں۔

فإذا انكسفا: [أي: أحدهما؛ لأنهما لا يجتمعان عادة]. فافزعوا: بفتح الزاي أي: خافوا وتضرعوا والتتجروا وبادروا إلى ذكر الله، وفي رواية لأبي داود والنسيائي: "إنما هذه الآيات يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتموها فصلوا وتدكروا"، وجاء في بعض الروايات: "آيتان من آيات الله، وإن الله سبحانه إذا بخلَّى بشيءٍ من حلقةٍ خضع له"، وظاهره أن سبب الكسوف خشوعها له، وسيبه: أن النور والإضاءة من عالم الجمال، فإذا بخلت صفة الجمال انطممت الأنوار الإلهية، وذلك لا يبطل قول أهل الحمية: إن الكسوف أمر عادي، لا يتقدم ولا يتأخّر؛ لأن ذلك لا ينافي كون ذلك تخويفاً لعباده، ومن ثم قال القشيري: لا تناهى بين ما قالوه وبين الحديث؛ لأن له تعالى أفعالاً بحسب العادة وأفعالاً خارجة عنها، وقدرته حاكمة على كل سبب، يقطع ما يشاء عن الأسباب والمسببات بعضها عن بعض، فالعارفون لغوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة، إذا وقع شيءٌ غريب قويٌّ خوفهم، وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسبابٌ تجري عليها العادة.

ابنة: قيل: لا يخلو هذا الحديث عن إشكال؛ لأن المراد بنته حقيقة، كما هو ظاهر اللفظ فهو مشكل؛ لأن أرباب السير والحديث اتفقوا على أن بناته صلی اللہ علیہ و آله و سلم كلهن مُتنَّ في الكبير، وأما أن يراد ابنة إحدى بناته فيكون الإضافة المجازية، وهو ليس بعيد، =

لہ تقضی، فاحتضنہا، فوضعہا بین یدیه، فماتت وہی بین یدیه، وصاحت ام این، فقال  
الاجضان: چیزی بغل گرفتن  
- يعني النبي ﷺ - : أتبکین عند رسول الله؟ فقلت: ألسنت أراك تبکی؟ قال: إني لست أبکی،

حضور نے فرمایا: کیا اللہ کے بنی کے سامنے ہی چلا کر رونا شروع کر دیا؟ (چونکہ حضور کے بھی آنسو ٹپک رہے تھے اس لئے) انہوں نے عرض کیا کہ حضور بھی تورور ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ منوع رونا نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے (کہ بندوں کے قلوب کو نرم فرمادیں اور ان میں شفقت و رحمت کا مادہ عطا فرمادیں) پھر حضور نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں خیر ہی میں رہتا ہے، حتیٰ کہ خود اُس کا نفس نکالا جاتا ہے اور وہ حق تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔

فائدہ: اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ قدر کس صاحبزادی کا ہے؟ محمدؓ شین اور مورخین کی تحقیق کے موافق صاحبزادیوں میں کسی کا بھی یہ واقعہ نہیں بتا، بلکہ دھیوتی یاد ہیوتے کا ہے اور ممکن ہے کہ کوئی سے صاحبزادہ کا ہو کہ بواسطہ اولاد کے واقعات میں اس قسم کے حالات پیش آئے ہیں۔ جس کا بھی واقعہ ہو، اس جگہ مقصود حضور القدس ﷺ کی نرم دلی کا بیان کرتا ہے کہ سنگدی شفقت کے خلاف ہے اور اولاد کے ساتھ فطری محبت نہ نبوت کے منافی ہے نہ ولایت کے بلکہ نرم دلی مددوح ہے۔

= لكن لم ينقل أن ابنة إحدى بناته ماتت في الصغر إلا ما في مسنده أحمد عن أسامة قال: أتي النبي ﷺ بأمامة بنت أبي العاص من زينب بنت رسول الله ﷺ وهي في النزع، لكنه أشكّل أيضًا: بأن أهل التاريخ قالوا: إن أمّة أمّة عاشت بعده حتى تزوجها على ﷺ، ولذا حملوا رواية أَمِّهُمْ على الموت، ثم عافاهما الله برّكة النبي ﷺ، وهو مختار الحافظ في الفتح، قالوا: وقع الوهم في حديث الباب، والمراد به أحد بناته، فإنهم ماتوا صغاراً في حياته ﷺ، أو المراد ابن بعض بناته، قال القاري: وهو الظاهر، ففي الأسباب الميلادي: أن عبد الله بن عثمان من رقية مات في حجره ﷺ، فبكى، وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وفي مسنده البزار عن أبي هريرة ﷺ قال: ثقل ابن لفاظمة فبعث إلى النبي ﷺ الحديث، وللبخاري عن أسامة قال: أرسلت بنت النبي ﷺ إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، الحديث.

تفصیل: بفتح التاء وكسر الصاد المعجمة، يريد أن تموت من القضاء وهو الموت، وقيل: أصل "قضى" مات، فاستعماله هنا للإشارة على الموت مجاز. فاحتضنها: [أي: حملها في حضنه، وهو: ما دون الإبط إلى وسط الظهر، أي الكشح]. أم این: [توفيت بعد عمر بعشرين يوماً، وكثيراً ما كان يقول النبي ﷺ: هي أمي بعد أمي، وبقية أهل بيتي، وقد شهدت أحداً وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى، وشهدت خيراً]. هي حاضنة النبي ﷺ ومولاته، ورثها من أبيه، وأعتقد أنها حين تزوج خديجة، وزوجها لزيد مولاها، فولدت له أسامة. تبکی: ولا ینافي قول عائشة: ما بكی رسول الله ﷺ على میت فقط، وإنما غایة حزنه أن یمسک لحیته؛ لأن المراد ما بكی اسفًا، بل رحمة، قاله القاري. قلت: بل ما بكی صیاحاً بل أسال دمعاً.

إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةً، إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، إِنَّ نَفْسَهُ تَنْزَعُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ، وَهُوَ يَحْمَدُ  
أَيِ الْبَكَاءَ، رَحْمَةً، وَالتَّابُوتَ بِاعتِبَارِ الْخَمْرِ  
فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ تَعْلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ

حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَثَنَا سَفِيَّانُ، عَنْ عَاصِمِ  
الْوَرَقِيِّ

بَنْ عَبِيدِ اللَّهِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ عُثْمَانَ بْنَ  
أَبِي بَكْرٍ

مَظْعُونَ وَهُوَ مَيْتٌ وَهُوَ يَبْكِيُ، أَوْ قَالَ: وَعِينَاهُ تُهْرَقَانٌ. حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا  
أَبُو عَامِرٍ، حَدَثَنَا فُلْيَحٌ - وَهُوَ أَبُو سَلِيمَانَ - عَنْ هَلَالِ بْنِ عَلَيٍّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

(۵) حضرت عائشة زوج النبي ﷺ نے عثمان بن مظعون کی پیشانی کو ان کی وفات کے بعد بوسہ دیا، اس وقت  
حضور کے آنسو پک رہے تھے۔ فائدہ: یہ جلیل القدر صحابی حضور کے رضائی بھائی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں تیرہ نفر کے بعد  
مسلمان ہوئے تھے، اول جبše کو ہجرت کی، اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ بڑے عابد زادہ تھے، شراب بینا جب  
جاڑ تھا جب بھی انہوں نے اس کا استعمال ترک کر رکھا تھا۔ مہاجرین میں سب سے پہلے ان کی ہی وفات ہوئی ہے، شعبان و دو  
ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور بقیع میں دفن ہوئے۔

(۶) حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ صاحبزادی (ام کلثوم) کی قبر پر تشریف فرماتھے اور آپ کے آنسو جاری  
تھے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ قبر میں وہ شخص اترے جس نے آج رات مجامعت نہ کی ہو۔ ابو طلحہ نے عرض کیا کہ میں ہوں۔

عثمان بن مظعون: [وَكَانَ أَخَاهُ عَلَيٌّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَهُوَ قَرْشَىٰ، أَسْلَمَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ عَشْرَ رِجَالًا، وَهَاجَرَ الْمُهْرَجَتِينَ، وَشَهَدَ  
بِدْرًا. وَكَانَ حَرْمَ الْخَمْرِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ عَلَىٰ رَأْسِ ثَلَاثَيْنِ شَهْرًا مِنَ  
الْحَسْرَةِ، وَكَانَ عَابِدًا مُجْتَهِدًا مِنْ فَضْلَاءِ الصَّحَابَةِ، وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ، وَلَمْ دُفَنْ قَالَ ﴿نَعَمُ السَّلْفُ هُوَ لَنَا﴾].

میت: وفي كتاب الروفاء لابن الجوزي عن عائشة قالت: لما مات عثمان بن مظعون كشف النبي ﷺ الثوب عن وجهه  
وقبل بين عينيه، ثم بكى طويلاً فلما رفع عن السرير قال: طوبى لك يا عثمان! لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها.

وهو يبكي: [وَالحالُ أَنَّهُ يَبْكِي حَتَّىٰ سَالَتْ دَمْوعُهُ عَلَىٰ وَجْهِ عُثْمَانَ]. تھرقان: بضم التاء وفتح الهاء وسكونها  
مضارع مبني للمفعول، قال العصام: فيه لغتان: فتح الهاء على أنها عوض عن الهمزة، وحيثأنه ماضيه هراق، وسكون الهاء  
على أنها زيدت والماضي هراق، ورواية الكتاب على الوجهين. فلبح: بضم فاء وفتح لام وسكون تحريك فحاء مهملة.

شہدنا ابنة لرسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ حالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعن، فقال:  
أفيكم رجل لم يقارب الليلة؟

حضور کے فرمان سے وہ قبر میں اترے۔ فائدہ: کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان بن علی پر تعریض تھی کہ وہ باوجود یہ کہ ان کا بیوی حضور کی بیٹی سخت بیمار تھیں حتیٰ کہ اسی دن انقال ہو گیا، اس کے باوجود وہ اس شب میں اپنی ایک باندی کے ساتھ مشغول رہے۔ بعض علماء نے لم يقارب کا ترجمہ ”صحبت نہ کرنے“ کا نہیں کیا بلکہ ”گناہ نہ کرنے“ کا کیا ہے اور بعض علماء نے ”بات نہ کرنے“ کا ترجمہ کیا ہے کہ عشاء کے بعد بات کرنا پسند نہ تھا، مشہور معنی پہلے ہیں اور تعریض میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ تعلقات کی قوت پر شکایت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن علی کا یہ فعل بضرورت ہو تو کوئی اشکال ہی نہیں اور پھر موت کا حال کس کو معلوم ہو سکتا ہے، حضور کا مقصود بھی غالباً لطیف تنبیہ تھی نہ کہ عتاب۔ اور عجب نہیں کہ تنبیہ کی غرض یہ ہو کہ حضرت ام کلثوم بنت علی کا نکاح اہم تھا کہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ حضرت ام کلثوم بنت علی کی ہمیشہ یعنی عثمان بن علی کی پہلی بیوی کا جب انتقال ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری سوبھیاں ہوتیں اور یکے بعد دیگرے مرتی رہتیں تو میں سب کا نکاح یکے بعد دیگرے عثمان سے کرتا۔ یہ جبریل یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میں ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کروں۔ ایسی صورت میں ام کلثوم جیسی بیوی کی بیماری یقیناً لطیف تنبیہ اور تعریض کے مناسب تھی۔ واللہ اعلم۔

ابنة: هي أم كلثوم، كما رواه الواقدي عن فليح بهذا الإسناد، وكذلك أخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم، ووهم من قال: إنها رقية؛ لأنها دفت والنبي صلوات الله عليه وآله وسلامه بيدر، والقول "بأنها بنت له صغيرة غيرهما" رد بأنه لم يثبت، وبال الأول جزم الحافظ في الفتح، وذكر له الشواهد، ورد القولين الآخرين.

لم يشرف بقاف وفاء، زاد ابن المبارك عن فليح: أراه يعني الذنب، ذكره البخاري عنه تعليقاً، وقيل: معناه: لم يجتمع الليلة، وبه جزم ابن حزم، ويقويه ما في رواية بلفظ: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتحتى عثمان، وحکی عن الطحاوي أنه قال: "لم يقارب" تصحیف، والصواب "لم يقاول" أي: لم ينمازغ غيره الكلام؛ لأنهم كانوا يکرھون الحديث بعد العشاء، وتعقب: بأنه تغليط للثقة بغير مستند، وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك؛ لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف، ويجاب عنه: باحتمال أن يكون مرض المرأة طال، واحتاج عثمان إلى الواقع، ولم يظن أنها موت تلك اللية، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها، بل ولا حين احتضارها.

قال أبو طلحة: أنا، قال: انزل، فنزل في قبرها.

أبو طلحة: [هو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي، غلت عليه كنيته، صحابي مشهور، شهد المشاهد كلها، قتل يوم حنين عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم، وفضائله كثيرة، وزوج من أم أنس أم سليم بعد وفاة زوجها].

نزل: في قبرها، يشكل عليه: نزول الأجانب في قبر المرأة مع وجود الحرم، ويمكن أن يجاب عنه: بأنه لا محظوظ فيه إلا ترك الاستحباب، كما صرخ به ابن نحيم في البحر، وترك الاستحباب مثل هذا التنبية الذي كان مقصوداً هناك مما لا استبعاد فيه، مع أنه يتحمل أن يكون بعض الأعذار هناك في المحaram، وإن كان المقصود بيان الجواز فلا إشكال.

## بابُ ما جاء في فراش رسول الله ﷺ

حدَثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرَ أَخْبَرَنَا عَلِيًّا بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هَشَامِ بْنِ عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها  
قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَمُّ عَلَيْهِ مِنْ أَدْمٍ، حَشْوَهُ لِيفٌ.

## باب۔ ان روایات کا ذکر جو حضور اقدس ﷺ کے بستر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں

فائدہ: حضور اقدس ﷺ کس قسم کے بسترے پر آرام فرماتے تھے، وہ ان روایات سے معلوم ہو گا جو مصنف ابن الصیغہ نے اس میں ذکر فرمائی ہیں اور ہم امیوں کے قالینوں اور فرشوں کا کیا حال ہے، وہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ مصنف نے اس باب میں دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں:

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے سونے اور آرام فرمانے کا بستر چڑہ کا ہوتا تھا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ فائدہ: حضور اقدس ﷺ کا بسترہ کبھی چڑہ کا ہوتا تھا جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا، کبھی صرف ناث کا جیسا کہ دوسری حدیث میں آرہا ہے، کبھی صرف بوریا ہوتا تھا۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ صحابہ جب نزم بسترہ بنانے کی درخواست کرتے تو حضور یہ ارشاد فرمادیا کرتے تھے کہ مجھے دنیاوی راحت و آرام سے کیا کام۔

فراش: [الفراش ما امتد على وجه الأرض، فرش له أي بسط، والمراد هنا ما جاء في خشوافته ليقتدى به في ذلك، والفراش ما يفرض ويحيط الرجل تحته سواء للجلوس أو النوم]. فراش: الفراش بكسر الفاء: ما يحيط الرجل تحته، ويجمع على فرش بضمتين، فعال بمعنى مفعول كلباس بمعنى ملبوس. مُسْهِرٌ: بضم ميم وسكون سين مهملة وكسرها. من أدم: بفتحتين جمع أدم وهو الجلد المدبوغ أو الأحمر أو مطلق الجلد على ما في القاموس. حشوة: بالفتح، أي مخصوصه والضمير للفراش، وقيل: للأدم باعتبار اللفظ وإن كان معناه جمعاً، به جزم المناوي وغيره وردد القاري بأنه إنما يصح لو كان الأدم اسم جمع، وحيث أنه جمع فلا مطابقة بين الضمير والمرجع.

(۱) حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، حدثنا عبد الله بن ميمون، أخبرنا جعفر ابن محمد، عن

أبيه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله ﷺ في بيتك؟ قالت: من آدم، حشوه ليف. بکسر الهمزة بوسٹ درخت عمرما

میری مثال تو اس را گیر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام لینے کے لئے کسی درخت کے سایہ کے نیچے بیٹھ گیا ہو اور تھوڑی دیر بیٹھ کر آگے چل دیا ہو۔ حضرت عائشة رضي الله عنها فرمائی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری عورت آئیں، انہوں نے حضور کا بسترہ دیکھا کہ عباء بچار کھا ہے، انہوں نے واپس جا کر ایک بستہ تیار کیا جس کے اندر اون بھر کی تھی اور حضور کے لئے میرے پاس بیٹھ گیا۔ حضور تشریف لائے، اُس کو رکھا ہوا دیکھ کر دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ فلاں انصاری عورت آئی تھیں، حضور کا بستر دیکھ کر کر یہ بخوا کر بھیجا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو واپس کر دے، مجھے وہ اچھا معلوم ہوتا تھا، اس لئے دل نہ چاہتا تھا کہ واپس کروں، مگر حضور نے اصرار فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ اگر میں چاہوں تو حق تعالیٰ جل جلالہ میرے لئے سونے اور چاندی کے پہاڑ چالو کر دیں۔ حضور کے اس ارشاد پر میں نے اُس کو واپس کر دیا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور ایک بوریے پر آرام فرمائے تھے، جس کے نشانات حضور کے بدن اطہر پر ظاہر ہو رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہوئی، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ قیصر و کسری توریشم اور محمل کے گدوں پر سوئیں اور آپ اس بوریے پر! حضور نے فرمایا: رونے کی بات نہیں ہے، ان کے لئے دنیا ہے اور ہمارے لئے آخرت ہے۔ حضرت عمر کے ساتھ بھی ایک مرتبہ اس قسم کا قصہ پیش آیا کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی نوع کے سوال جواب حضور سے ہوئے، جس کا مفصل قصہ بخاری میں ہے۔

(۲) امام محمد باقر رضي الله عنه عليهما السلام کہتے ہیں کہ حضرت عائشة رضي الله عنها سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں حضور کا بسترہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، کہا: چڑھہ کا تھا جس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضي الله عنه سے کسی نے پوچھا کہ گھر میں حضور کا بستر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہر اکر کے ہم حضور کے نیچے بچا دیا کرتے تھے۔

لیف: [أي حشوه من ليف النخل وما شاهده]. عبد الله بن ميمون بن داود القداح، فما في المصرية عبد الله بن مهدي غلط.

جعفر: الصادق الإمام المشهور، وأبوه الإمام محمد الباقر، لكن الحديث منقطع؛ لأنَّه لم يلقَ حفصاً ولا عائشة. (قاري)

و سئلت حفصة ﷺ: ما کان فراش رسول الله ﷺ فی بیتک؟ قالت: مسحًا، نشيہ ثنتین فیnam  
علیه، فلما کان ذات لیلة قلت: لو ثنتیه أربع ثنیات کان أوطا له، فثنتیاه باربع ثنیات، فلما أصبح  
قال: ما فرشتمونی اللیله؟ قالت: قلنا هو فراشك، إلا أنا شیناہ بأربع شیاتِ، قلنا: هو أوطا لك،  
قال: رُدُوه لحاله الأولى، فإنہ منعنى و طائہ صلوتی اللیله.

ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا جائے تو زیادہ آرام ہو جائے گا، میں نے ایسے ہی بچھا دیا۔ حضور نے  
صحیح کو دریافت فرمایا کہ میرے نیچے رات کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ وہی روز مرہ کا بسترہ تھا، رات اُس کو چوہرا  
کر دیا تھا کہ زیادہ نرم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اُس کو پہلے ہی حال پر رہنے دو، اس کی نرمی رات مجھے تجد سے مانع ہوئی۔  
فائدہ: یعنی تجد کے لئے آنکھ نہیں کھلی یا معمول کے لحاظ سے دیر میں کھلی کہ نرم بسترہ پر نیند گھری آتی ہے اور زیادہ آتی  
ہے اور اگر کھرد ری چار پائی ہو، اول تو نیند ہی غفلت سے نہیں آتی، دوسرا آنکھ بھی جلدی ہی کھل جاتی ہے۔

مسحًا. كساء خشن يعد للفراش من صوف. نشيہ: بصيغة المتكلم مع الغير المبني للفاعل من الثنى من باب ضرب يقال: شاه  
عطفه، ورد بعضه على بعض. ثنتين: وفي رواية: ثثين بدون التاء بكسر التاء فيهما، فالأولى ثنتية ثانية صدرة، والثانى ثنتية ثانية ظن  
كحمل: أي نعطفه عطفا يحصل منه طاقان. ما فرشتمونی: [لعله لما أنكر نعومته ولينه ظن أنه غير فراشه المعهود].

## بابُ ما جاء في تواضع رسول الله ﷺ

فروتنی نوودن

حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وغير واحد قالوا: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن عبد الله بن عباس، عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)،

## باب۔ اُن روایات کا ذکر جو حضور اقدس ﷺ کی کثرت تواضع فرمانے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں

فائدہ: حضور اقدس ﷺ تمام دنیا سے زیادہ متواضع تھے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ حقیقتہ تواضع بجلی شہود کے دوام بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ حضور اقدس ﷺ کے متواضع کے واقعات ایک دو نہیں ہزاروں سے زائد ہیں اس لئے ان کا احاطہ تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تاہم بطور نمونہ کچھ مصنف نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی سفر میں چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اور اُس کا کام تقسیم فرمایا۔ ایک نے اپنے ذمہ ذبح کرنا لیا، دوسرے نے کھال نکالنا، کسی نے پکانا۔ حضور نے فرمایا کہ پکانے کے لئے لکڑی اکٹھی کرنا میرے ذمہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ایہ کام ہم لوگ خود کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اس کو بخوبی کر لوگے لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ مجمع میں ممتاز ہوں اور اللہ جل جلالہ بھی اس کو پسند نہیں فرماتے۔ ایسے ہی اور سیکڑوں واقعات ہیں۔ اس باب میں مصنف رضی اللہ عنہ نے تیرہ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری ایسی تعریف مبالغہ آمیز حد سے فزوں نہ کرو جیسے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا (کہ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا) میں حق تعالیٰ جل جلالہ بندہ ہوں اس لئے

تواضع: هو التذلل، يقال: وضع الرجل يوضع صار وضيعاً، ووضع منه فلان أي: حط من درجة، وضعه الدهر فتضاعض أي: خضع وذل، وقال الحافظ العسقلاني: التواضع مشتق من الضعف بكسر أوله، وهي: الهوان، والمراد من التواضع: إظهار الننزل عن المرتبة يراد تعظيمه، وقيل: هو تعظيم من فوقه لفضله. عبيد الله: قال العلماء: كان حق المصنف أن يعينه؛ لأن المسمى به في الرواية كثيرون، لكن في البخاري أنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قاله البيجوري.

قال: قال رسول الله ﷺ: لا تطروني كما أطربت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا: عبد الله ورسوله. حديثنا عليّ بن حُجر، أخبرنا سعيد بن عبد العزيز، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت له: إن لي إليك حاجة؟ فقال:

مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ فائدہ: یعنی ایسی کوئی تعریف نہ کرو جو بندگی کے منافی ہو، اس میں رب کے ساتھ شرکت پائی جاتی ہو کہ بندہ بہر حال بندہ ہے، اسی طرح کوئی ایسی تعریف نہ کرو جو رسول اور اللہ کا قاصد ہونے کے خلاف ہو۔ (۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے کچھ تخلیہ میں عرض کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی سڑک کے راستہ پر بیٹھ جا، میں وہیں آکر سن لوں گا۔

فائدہ: بعض روایات میں وارد ہے کہ یہ عورت کچھ بے عقل سی تھیں اس کے باوجود ان کی باتیں حضور سنتے رہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ راستے میں بیٹھنے کا ارشاد اس لئے تھا کہ اجنبیہ کے ساتھ تہائی نہ ہو اور بعض نے لکھا ہے کہ چونکہ ان کی عقل میں کچھ فتوح تھا اس لئے ظاہر یہ ہے کہ گلی کوچوں میں پھرتی رہتی ہوں گی، اسی لئے حضور نے وہیں تشریف لے جا کر بات سنتے کو ارشاد فرمادیا۔ بندہ کے نزدیک بعید نہیں کہ ایسی عورتوں کو زنانہ مکان پر بلانے میں مستوارت کو دقتیں اور مشکلات پیش آیا کرتی ہیں، جیسا کہ بسا وقت مشاہدہ ہوتا ہے، اس لئے حضور نے سڑک ہی پر بات سن لی۔

لا تطروني: بضم أوله من الإطراء، وهو: المبالغة في المدح كما بالغت النصارى في مدح نبيه، فجعله بعضهم إلهًا وبعضهم ابن الله، فحرفوا قوله تعالى في الإنجيل: "عيسى نبى وأنا ولدته" بتشديد اللام، فجعلوا الأول "بني" بتقدم الموحدة، وخفقوا اللام في الثاني، وإلى ذلك وأشار صاحب البردة في قوله:

دع ما ادعنه النصارى في نبيهم      واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم

انا عبد الله: أي: ملکه، يتصرف في مما شاء وكيف شاء، فلا خروج لي عن دائرة العبودية بوجه كسائر العباد، فالإضافة للعهد الذهني، والقصر قصر القلب أو إضافي، فلا ينافي أن له أوصافاً غير العبودية. عبد الله: أي: لا تقولوا في حقي شيئاً ينافي العبودية والرسالة، فلا ينافي القول بأنه سيد ولد آدم. أن امرأة: وكان في عقلها شيء كما في رواية مسلم، قال الحافظ العسقلاني: لم أقف على اسم المرأة، وقال ميرك، رأيت في كلام بعض من كتب الحواشي على كتاب الشفاء أن اسم المرأة المذكورة في مسلم أم زفر مашطة خديجة، وأظنه سهواً، فإن أم زفر ليست من الأنصار، وروايات البخاري صريحة في أنها أنصارية، اللهم إلا أن يقال: إن المذكورة في رواية مسلم غير المذكورة في رواية البخاري، لكن الظاهر اتحاد القصة كما هو الظاهر من سياق الروايات. حاجة: [أي: أريد إخفاها عن غيرك.]

اجلسی فی أي طریق المدینة شئتِ اجلس إلیک. حدثنا علیّ بن حُجر، أخبرنا علیّ بن مسْهِر،  
علی صبغة المخاطبة من الأمر الحاضر (۳) عن مسلم الأعور، عن أنس بن مالک رضيَّ اللہ عنہ قال: کان رسول اللہ ﷺ یعود المريض،  
و ضیعہ کان او شریفًا

(۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ مریضوں کی عیادت فرماتے تھے، جنازوں میں شرکت فرماتے تھے، گدھے پر سوار ہو جاتے تھے، غلاموں کی دعوت قبول فرمائیتے تھے۔ آپ بنو قریظہ کی لڑائی کے دن ایک گدھے پر سوار تھے جس کی لگام بھجور کے پھرٹوں کی تھی اور کاٹھی بھی اُسی کی تھی۔

فائدہ: عرب میں گدوں کی ایک خاص قسم ہے جو جش میں یہاں کے موٹے چھروں سے بڑے ہوتے ہیں اور تیز اس قدر کہ معمولی ٹھوڑی سے تیز ہوتے ہیں، دودو تین تین آدمی ان پر بے تکلف بیٹھ جاتے ہیں، وہ یہاں کے معمولی گھوڑوں سے بہتر ہوتے ہیں، ممکن ہے حضور کے زمانہ میں بھی یہی ہوں۔ لیکن گھوڑوں کے مقابلہ میں ادنیٰ درجہ کی سواری شمار ہوتی ہے۔ یہی مقصود ہے کہ حضور اقدس ﷺ کو باوجود اس عزت و رفتہ کے جو دو جہاں کی سرداری سے حاصل تھی، گدھے کی سواری سے استنکاف نہ تھا، اسی طرح مریضوں کی عیادت جس درجہ کا بھی یہاں ہو، شریف ہو یا کوئی معمولی آدمی ہو، حتیٰ کہ غیر مسلموں تک کی عیادت بھی فرمایا کرتے تھے۔

ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، کوئی خدمت بھی کبھی کر دیتا تھا، وہ یہاں ہوا، حضور اس کی عیادت کو تشریف لے گئے، اُس کا آخری وقت تھا۔ حضور نے شفقت کے طور پر اپنا حق ادا فرمایا اور اُس کو اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اُس نے اپنے یہودی باپ کی طرف دیکھا، اُس نے اجازت دے دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حضور نے اللہ کا شکر فرمایا کہ حق تعالیٰ بلّ ثابت ہی حمد کا سزاوار ہے جس نے میری وجہ سے اس کو عذاب جہنم سے بچا دیا۔ یہی نہیں بلکہ رأس المذاقین عبد اللہ بن ابی کی عیادت کے لئے بھی حضور تشریف لے گئے حالانکہ اُس سے بہت سی اذیتیں پہنچی تھیں، اسی طرح معمولی معمولی جنائز میں بھی شرکت کے متعدد واقعات حدیث کی کتابوں میں وارد ہیں۔

طریق: أي: فی أي طریق فی المدینة، فالإضافة للطريق. معنی "فی"؛ لأن طریق الشيء ما يوصل إلیه، أو فی أي طریق من طرق المدینة أي: سکھہ من سکھہ کما فی روایة مسلم، وقيل: المعنی فی أي جزء من أجزاء الطريق.  
اجلس إلیک: بصیغة المتكلّم وحده، مجرّوم فی جواب الأمر أي: أقعد أنا أيضًا فی ذلك الطريق متوجّهاً إلیك.

ویشهد الجنائزه، ویركب الحمار، ویجیب دعوة العبد، وکان يوم بنی قریظة علی حمار مخطوط بحل من ليف، عليه إکاف من ليف. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، حدثنا محمد بن فضیل، عن الأعمش، عن <sup>(٤)</sup>أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يُدعى إلى خبز الشعیر والإهاله السَّنْحَةِ فِي حِجَّبٍ، ولقد كان له درع عند يهوديٌّ فما وجد ما يُفْكَها حتى مات.

ما يفتك بها الدرع

(۲) حضرت انس رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ جو کی روٹی اور کئی دن کی باسی پرانی چکنائی کی دعوت کیے جاتے تو آپ (اُس کو بھی بے تکلف) قبول فرمائیتے۔ آپ کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔ اخیر عمر تک حضور کے پاس اُس کے چھڑانے کے لائق دام نہیں ہوئے۔  
فائدہ: چکنائی میں پرانی ہونے کی وجہ سے بو کا اثر بھی آ جاتا ہے۔ یہ بات کہ دعوت جو کی روٹی اور پرانی چکنائی کی ہے، دعوت کرنے والے کی حالت اور تجربہ سے معلوم ہو جاتی یا ان کی تصریح سے یہ بات معلوم ہونے کے باوجود بھی حضور اُس کے قبول فرمانے میں کوئی عذر نہ فرماتے۔ اخیر واقعہ قرض کا اتفاقاً ذکر کر دیا گیا کہ اس حدیث میں تھا اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ بھی غایت تواضع کی وجہ سے تھا اور فقر کے تمام ہی حالات اسی وجہ سے تھے ورنہ اللہ جل جلالہ نے تو آپ کو اختیار دیا تھا کہ بندگی کے ساتھ رسول بننا چاہتے ہو یا بادشاہت کے ساتھ؟ حضور نے خود ہی پہلی صورت کو پسند فرمایا۔

يوم بنی قریظة: [أي: يوم الذهاب إليهم لحرهم، وكان ذلك عقب الخندق]. مخطوط: [أي: ذو حطام وهو الرمام]. إکاف: [أي برذعة، وهو لذوات الحافر بمنزلة السرج للفرس والرحمل للحمل]. والإهاله: بكسر الممزة، كل شيء من الأدھان مما يوتدم، أو يختص بما أذيب من الألية والشحم، وقيل: الدسم الجامد. السَّنْحَةِ: بفتح السين المهملة وكسر النون فالخاء المعجمة، المتغيرة الريح من الطعام لطول المكث.

ولقد كان إخ: ذكر هذه القصة لإتمام الحديث لا لبيان التواضع، وقيل: بل فيهما غاية التواضع؛ لأنَّه ﷺ لو سأله ميسير الصحابة في رهن درعه لرهنوها على أكثر من ذلك، فإذا تركهم وسأل يهوديا ولم يبال بأن منصبه الشريف يأبى أن يسأل مثل يهودي في ذلك دل على غاية تواضعه. درع: [هو قميص ذو حلقات من الحديد، متشابكة يلبس وقاية من السلاح]. يهودي: [هو أبو الشحم، رهن ﷺ عنده على ثلاثة صاعا من شعير].

حدثنا محمود بن غیلان، حدثنا أبو داود الحفريّ، عن سفيان، عن الرّبّيع بن صَبِيح، عن يزيد بن أبان، عن<sup>(٥)</sup> أنس بن مالك ضعيفه قال: حج رسول الله ﷺ على رَحْلِ رَثِّ، عليه قطيفة لا ثُساوي أربعة دراهم فقال: اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حِجَّاً لَا رِيَاءَ فِيهِ وَلَا سُمْعَةً. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عفان، أخبرنا حمّاد بن سلمة، عن حُمَيْدٍ،

(٥) حضرت أنس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس اللہ علیہ کے ایک پُرانے پالان پر حج کیا۔ اس پر ایک کپڑا پڑا تھا، جو چار دراهم کا بھی نہیں ہوگا۔ (یہ بھی ممکن ہے کہ اس پر سے مراد حضور کی ذات والا ہو، یعنی آپ ایک معمولی سی چادر اور اٹھے ہوئے تھے جو چار دراهم کی بھی نہیں تھی، بعض فضلائے درس کے نزدیک یہ مطلب زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن بندہ ناجیز کے نزدیک پہلا مطلب زیادہ راجح ہے اور اس باب کی گیارہویں حدیث اس کی تائید کرتی ہے) اور حضور یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ! اس حج کو ایسا حج فرمائیو جس میں ریا اور شہرت نہ ہو۔

فائدہ: یہ دعا مامت کی تعلیم کی غرض سے تھی یا حضور اقدس اللہ علیہ کے کمال تواضع اور غایت عبودیت کی وجہ سے تھی کہ باوجود یہ کہ ریا و شہرت کا احتمال بھی حضور کے فعل میں نہ تھا لیکن پھر بھی حضور اس کی دعا فرماتے ہیں اور اللہ جل جلالہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اس حج کو ریا و شہرت سے محفوظ رکھ۔ حضور کے بدن مبارک پر یا پالان پر جو کپڑا تھا وہ اس قدر معمولی کہ ایک روپیہ قیمت کا بھی نہ تھا۔ یہ بھی اسی غایت تواضع کا اثر تھا جو نبی کریم ﷺ کی عام عادت تھی، گو بعض مصالح سے بعض اوقات نبی اکرم ﷺ سے بیش قیمت لباس پہنانا بھی ثابت ہے لیکن عام عادت یہی تھی۔

الحفري: بفتح المهملة والفاء، وتقدم بيانه في باب تعطره عليه. عن يزيد: تكلموا على الحديث لأجل يزيد بن أبان والرّبّيع بن صَبِيح كما بسطه شرّاح الشَّمائل، وذكروا له شواهد، فارجع إليها لوشئت التفصيل. رَثِّ: بفتح راء وتشديد مثلثة أي: خلق وبال. وعليه قطيفة: قال المناوي: أي على رسول الله ﷺ، أو على الرجل، وجزم القاري بالثانى وقال: لا على الرسول ﷺ عمما توهه الحنفي. لارباء فيه: قال المناوي: الرباء: العمل لغرض مذموم كأن يفعل ليراه الناس، والسمعة: ما يعمل ليسمع الناس ويصير به مشهوراً فيكرم ويعظم جاهه في قلوبهم. قال القاري: والتحقيق أهتماً متغيران باعتبار أصل اللغة من حيث الاشتغال، وإن كان يطلق أحدهما على الآخر تغليباً.

عن أنس بن مالک، قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ. قال: و كانوا إذا رأوه لم يقموا؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك.

(۲) حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ صحابہؓ کے نزدیک حضورؓ سے زیادہ محبوب کوئی شخص دنیا میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود پھر بھی وہ حضور اقدس سنتی کو دیکھ کر اس لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ حضور کو یہ پسند نہیں تھا۔ فائدہ: یہ بھی نبی کریمؐ کی غایت تواضع پر مبنی تھا کہ باوجود اس علوشان اور رفتہ اور دو جہان کی سرداری کے اس چیز کو حضور پسند نہ فرماتے تھے اور اسی وجہ سے کبھی صحابہؓ کرام باوجود تقاضائے محبت کے حضور کی ناپسندیدگی کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے اور کبھی تقاضائے محبت کھڑے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ حضور اقدس سنتی مسجد میں ہمارے ساتھ باقی کرتے تھے اور جب حضور کھڑے ہو جاتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک حضور دولت خانہ میں نہ چلے جاتے۔ اسی طرح اس بارے میں بہت مختلف روایات

**أحب إليهم:** قيل: هذا مشكل؛ لأن الأحبيبة لا تقتضي القيام؛ لأن الولد أحب إلى الوالد ولا يقام له. وأجيب: بأن الولد لو كان له فضل يقتضي القيام له سن للأب القيام له كما صرحا، ورد بأن الناس اتفقوا على استهجان قيام الوالد للولد وإن عظم. قلت: ولو سلم فإن هذا القيام أيضاً لفضله، ولذا قالوا: لو كان له فضل يقتضي القيام له، فالأوجه في الجواب أن الحبة إذا كانت ناشئة عن الفضيلة تقتضي القيام على وجه الكراهة، لا إن كانت الحبة طبيعية أو لغرض آخر. لم يقموا: اختللت الروايات في إباحة القيام لآخر ومنعه، كما بسط في المطولات لا سيما في فتح الباري، وأخرج أبو داود عن أبي هريرة: كان رسول الله ﷺ مجلساً معنا في المسجد، فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجاً، قال المناوي: فيه دليل لما عليه محرر مذهب الشافعية النووي من ندب القيام لأهل الفضل والشرف إكراماً وإعظاماً، وقد قام عكرمة بن أبي جهل لما قدم عليه، وكان يقوم لعدي بن حاتم كلما دخل عليه حسبما جاء ذلك في خبرين، وهو وإن كانا ضعيفين يعمل بهما في الفضائل، وحکى القاري عن الإمام الغزالى: أن القيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام، وعن النووي: أن القيام للقادم من أهل الفضل من علم أو إصلاح أو شرف مستحب، وقد جاءت فيه أحاديث، ولم يثبت في النبي ﷺ عنه شيء صريح، وعن القاضي عياض: أن القيام النهي عنه إنما ذاك فيما يقموون عليه وهو جالس، ويمكثون قياماً طول جلوسه. قلت: وفي الدر المختار عن الوهابية: يجوز بل يتدب القيام تعظيمًا للقادم كما يجوز القيام ولو للقاري بين يدي العالم، وحکى ابن عابدين عن مشكل الآثار: القيام لغيره ليس ممکروه لعینه، إنما المکروه محنة القيام لمن يقام له.

حدَثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَثَنَا جُمِيعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِجْلَى، حَدَثَنِي رَجُلٌ مِّنْ بَنِي

قَبْيَمَ، - مَنْ وَلَدَ أُبَيْ هَالَةً زَوْجُ خَدِيجَةَ - يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ أَبْنَى لَأَبِي هَالَةِ،  
[ذلك الرجل الشبيمي]

[من جهة الآباء]

كتاب حديث میں ہیں۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں کھڑے ہونے کی سختی سے ممانعت ہے اور بعض روایات میں بعض آنے والوں کے لئے کھڑے ہونے کا حکم بھی ہے۔ اسی وجہ سے علماء اس کھڑے ہونے کے جواز اور عدم جواز میں مختلف ہو گئے ہیں اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ ان میں تعارض نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہونے کے اسباب اور وجہ مختلف ہیں، اسی وجہ سے احادیث میں مختلف احکام ملتے ہیں۔ ابوالولید بن رشد کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لئے کھڑا ہونا چار طرح ہوتا ہے: ۱۔ ناجائز ہے۔ وہ ایسے شخص کے واسطے کھڑا ہونا جو تکبر کی وجہ سے اس کو پسند کرتا ہو کہ جب وہ آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں۔

۲۔ مکروہ ہے۔ وہ ایسے شخص کے لئے کھڑا ہونا ہے جو متکبر تو نہیں ہے لیکن اندیشہ ہے کہ اُس کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کیا جائے تو اُس میں تکبر اور عجب پیدا ہو جائے۔

۳۔ جائز ہے۔ وہ ایسے شخص کے لئے جہاں یہ اندیشہ نہ ہو۔

۴۔ مستحب ہے۔ وہ اس شخص کے واسطے کھڑا ہونا جو سفر وغیرہ سے آیا ہو، اُس کے آنے کی خوشی میں کھڑا ہو جائے۔ امام نووی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل علم، اہل فضل، اہل شرف کے آنے پر کھڑا ہونا مستحب ہے۔ قاضی عیاض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ممانعت اُس قیام کی ہے جو بڑا آدمی بیٹھا رہے اور لوگ اُس کے سامنے کھڑے رہیں۔ چنانچہ ممانعت کی احادیث میں یہ ارشاد بھی ہے کہ ایسی طرح نہ کھڑے ہو جیسے کہ عجی لوگ اپنے سرداروں کیلئے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رضی اللہ عنہ کی تحقیق جو والد صاحب پیشہ کے واسطے سے بذل المجدوں میں نقل کی گئی ہے کہ فی حد ذاتہ کھڑا ہونا جائز ہے جب تک کہ کوئی عارض ایسا پیش نہ آئے جو اس کو ناجائز بنا دے۔ مثلاً اس شخص کا فتنہ میں پڑ جانا جس کے لئے کھڑا ہوا ہے کہ اُس میں تکبر وغیرہ امور پیدا ہو جانے سے اُس کو دینی نقصان پہنچے۔ اسی طرح سے نفاق کے طور پر کھڑا ہونا کہ جس کے لئے کھڑا ہوا ہے

عمر: بلا واؤ، وفي نسخة بالواو، قال القاري: صوابه عمير بالتصغير، وتقدير في مبدأ الكتاب بيانه. العجلنى: بكسر العين وسكون الجيم. من ولد: [أي: من جهة الأمهات؛ لأنه من أسباط أبي هالة، والسبط: ولد البنت]. زوج خديجة: [صفة لأبي هالة، وقد تزوج خديجة في الجاهلية، فولدت له ذكرتين: هنداً وهالة.]

<sup>(۷)</sup> عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة - وكان وصافاً - عن حالية النبي عليهما السلام، وأنا أشتتهي أن يصف لي منها شيئاً، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فَخْمَا مفخّماً

الشكل والمعنى

اُس کی کوئی وقت اور عظمت دل میں نہ ہو، ریا کاری اور نفاق کے طور پر کھڑا ہو کہ یہ صورتیں ناجائز ہیں۔ اور ان میں بھی اگر کھڑے نہ ہونے کی صورت میں اس شخص کو خود کسی قسم کا جانی مالی یا آبرو کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اُس کے لئے جائز ہو گا۔

(۷) امام حسن بن زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ سے پوچھا، وہ حضور کے حالات اکثر بیان کرتے تھے اور مجھے اُن کے سینے کا اشتیاق تھا، تو انہوں نے میرے پوچھنے پر حضور کے حیله شریف کا ذکر فرمایا کہ حضور بلند پایہ، بلند مرتبہ تھے، آپ کا چہرہ انور بدر کی طرح چمکتا تھا اور پورا حیله شریف (جیسا کہ شروع کتاب میں پہلے باب کی ساتویں حدیث میں مفصل گزر چکا ہے) بیان فرمایا۔ امام حسن بن زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے (بعض وجوہ سے) اس حدیث کا امام حسین بن زین العابدین سے ایک عرصہ تک ذکر نہیں کیا۔ ایک عرصہ کے بعد ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اس حدیث کو سُن چکے تھے اور صرف بھی نہیں کہ ماموں جان سے یہ حدیث سُن لی ہو، بلکہ والد صاحب حضرت علی زین العابدین سے حضور کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور حضور کا طرز و طریقہ بھی معلوم کر چکے تھے۔

چنانچہ حضرت حسین بن زین العابدین نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی زین العابدین سے حضور کے مکان تشریف لے جانے کے حالات دریافت کیے تو آپ نے فرمایا کہ حضور اقدس ﷺ مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو تین حصوں پر منقسم فرماتے تھے: ایک حصہ حق تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت میں خرچ فرماتے تھے یعنی نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ دوسرا حصہ گھر والوں کے ادائے حقوق میں خرچ فرماتے تھے، مثلاً ان سے ہنسا بولنا، بات کرنا، ان کے حالات کی تحقیق کرنا۔ تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات راحت آرام کے لئے رکھتے تھے۔ پھر اُس اپنے والے حصہ کو بھی دو حصوں پر اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیتے اس طرح پر کہ خصوصی حضرات صحابہ کرام اُس وقت میں داخل ہوتے، اُن خواص کے ذریعہ سے مفاسد عوام تک پہنچتے،

وكان وصافاً: [وكان هند وصافاً لرسول ﷺ، لكنه قد أمعن النظر في ذاته الشريفة وهو صغير مثل علي رضي الله عنهما، لأن كلامنهما تربى في حجر النبي ﷺ، والصغير يتمنى من التأمل وإمعان النظر، بخلاف الكبير فإنه تمنعه المهابة والحياء من ذلك.] فَخْمَا: فَخْمَا بسكون المعجمة وكسرها أي: عظيماً في ذاته، ومفخماً أي: معظماً في صفاته، وفي النهاية: أي عظيماً معظماً في الصدور والعيون.

يَتَلَاءِأْ وَجْهُهُ تَلَائِفُ الْقَمَرِ لِيَلَةَ الْبَدْرِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ۔ قَالَ الْحَسَنُ: فَكَتَمْتُهَا الْحُسَيْنَ زَمَانًا،  
[يُبَشِّرُ] يَلْكَ زَمَانٌ

ثُمَّ حَدَّثَهُ، فَوَجَدَتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلَتْهُ عَنْهُ، وَوَجَدَتْهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ: مَدْخَلِهِ،

ان لوگوں سے کسی چیز کو اٹھا کر نہ رکھتے تھے (یعنی نہ دین کے امور میں نہ دنیوی منافع میں، غرض ہر قسم کا نفع بلا دریغ پہنچاتے تھے امت کے اس حصہ میں آپ کا یہ طرز تھا کہ) ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی اہل علم و عمل کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے، اس وقت کو ان کے فضل دینی کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے تھے۔

بعض آنے والے ایک حاجت لے کر آتے اور بعض حضرات دودو حاجتیں لے کر حاضرِ خدمت ہوتے اور بعض حضرات کئی کئی حاجتیں لے کر حاضر ہوتے۔ حضور ان کی تمام حاجتیں پوری فرمایا کرتے اور ان کو ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لئے مفید اور کارآمد ہوں۔ مثلاً ان کا دینی امور کے بارے میں حضور سے سوالات کرنا اور حضور اقدس ﷺ کا اپنی طرف سے مناسب امور کی ان کو اطلاع فرمانا اور ان علوم و معارف کے بعد حضور یہ بھی فرمادیا کرتے تھے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری اصلاحی امور کو غائب نہیں تھے۔ بھی پہنچادیں اور نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کسی عذر (پردہ یا دوری، شرم یا رعب) کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کر سکتے، تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچادیا کرو۔ اس لئے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا تو حق تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے، لہذا تم لوگ اس میں ضرور کوشش کیا کرو۔ حضور کی مجلس میں ضروری اور مفید ہی باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا اور ایسے ہی امور کو حضور اقدس ﷺ صحابہ سے خوشی سے سنتے تھے،

ليلة البدْر: [وهي ليلة أربعة عشر، سمى بذلك؛ لأنَّه يبدر الشَّمسُ بالظُّلُمَعِ أي: يسبق في طلوعه الشَّمسُ في غروبها].  
فذكر الحديث: تقدم بهذا السنَد بعضه في "بابُ الْخَلْقِ" وبعضه في "بابُ كِيفِ كَانَ الْكَلَامُ". فكتَمَتْهَا الْحُسَيْنَ أَيْ ليختر  
احتها في تحصيل العلم بحلية جده، أو ليستمعه الحسين من هند فيعرفه بأقصر إسناد، أو ينتظر أن يسأل ذلك الحسين؛  
فإن التبليغ بعد الطلبة أبلغ، أو كان ذلك الحكم اتفاقياً، ورجحه عصام. حدثه: [أَيْ: عما سمعته من حالٍ هند].  
سبقي إلَيْهِ: [إلى السُّؤالِ عنْهَا مِنْ حَالَهُ هند]. أَبَاهُ: وفي نسخة: أَيْ، وهو علي بن أبي طالب رض. مَدْخَلُهُ: أَيْ: طریق  
سلوکہ حال کونہ داخل بیته و عن أبووار خارج بیته قاله القاري، وقال المناوي: أَيْ عن دخوله وخروجه بیته، أو عن  
حالة فیهمَا، أو عن زمانیهِما أَيْ زَمْنَ دَخْولِهِ وَخَرْجِهِ.

وَمَنْخُرِجِهِ، وَشَكْلِهِ، فَلَمْ يَدْعُ مِنْهُ شَيْئًا۔ قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله ﷺ

الظاهر ان يكون الضمير راجعاً إلى أبيه

فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأً دخوله ثلاثة أجزاء: جزءاً لله عزوجل، وجزءاً لأهله، وجزءاً  
بِلَدِهِ وَالقُصْرِ [وصل إليه واستقر فيه]  
[العبادة والتفكير في مصوعاته]

لنفسه، ثم جزءاً جزأه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة، ولا يدخل عنهم شيئاً.  
أي لا يخفي أي عن العامة والخاصة

اس کے علاوہ لا یعنی اور فضول بتین حضور کی مجلس میں نہ ہوتی تھیں۔ صحابہ حضور کی خدمت میں دینی امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور بلا کچھ چکھے وہاں سے نہیں آتے تھے (چکھنے سے مراد امور دینیہ کا حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور حسی پچھنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اس لئے کہ حضور ﷺ جو کچھ موجود ہوتا اس کی تواضع فرماتے اور خصوصی احباب کا جب مجمع ہوتا ہے تو موجودہ چیز کی تواضع ہوتی ہی ہے) صحابہ کرام حضور قدس ﷺ کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لئے مشعل اور رہنمای بن کر نکلتے تھے کہ وہ ان علوم کو حسب ارشاد دوسروں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ لام حسین شافعہ کہتے ہیں کہ میں نے باہر تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ حضور ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو محفوظ رکھتے تھے،

وَشَكْلِهِ: بفتح أوله أي: طريقه أي: المسوكة بين أصحابه في مجلسه، فهو أخص من مخرجه، وقيل: بكسر أوله حسن طريقة وهيئة قاله القاري. فلم يدع منه شيئاً: [أي: فلم يترك عليّ مما سأله عنه الحسين شيئاً، أو لم يترك الحسين من السؤال عن حاله شيئاً]. عن دخول رسول الله ﷺ: [أي: عن سيرته وطريقته وما يصنعه في زمان دخوله واستقراره في بيته]. لنفسه: [أي: لنفع نفسه، فيفعل فيه ما يعود عليه بالتمكيل الأخروي والدنيوي]. وبين الناس: [أي: ثم قسم جزأه الذي جعله لنفسه بينه وبين جميع الناس، سواء من كان موجوداً، ومن سيولد بعدهم إلى يوم القيمة بواسطة التبليغ عنه]. ثيرد ثالث. أي: جزء الناس بسبب الخاصة وواسطتهم على العامة، وقال ابن الأباري: فيه ثلاثة أقوال: الأول: أن الخاصة تدخل عليه في ذلك الوقت دون العامة فستفيد، ثم تخbir العامة بما سمعت من العلوم وال المعارف، فكان يوصل العلوم إلى العامة بواسطتهم، ويدل عليه ما سيأتي "يدخلون رواداً ويخرجون أدلة"، والثاني: أن الباء فيه يعني "من" أي: يرد على العامة من جزء الخاصة، والثالث: أن يجعل العامة مكان الخاصة، فيرد ذلك على العامة بدلاً من الخاصة، كذا نقله ميرك، والظاهر عندي الأول. بال خاصة: [المراد بال خاصة: الصحابة الذين يكرثون الدخول عليه، كالخلفاء الأربع، والمراد بال العامة: هم الذين لم يعتادوا الدخول عليه في بيته، فخواص الصحابة يدخلون عليه في بيته فإذا خذلوا عنده، فكان يوصل العلوم لعامة الناس بواسطة خاصتهم].

و كان من سيرته في جزء الأمة إشار أهل الفضل بإذنه، وَقَسْمُهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ،

فضول تذکروں میں وقت ضائع نہیں فرماتے تھے، آنے والوں کی تایفہ قلوب فرماتے، ان کو مانوس فرماتے، متوجہ نہیں بناتے تھے (یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طرز اختیار نہ فرماتے جس سے ان کو حاضری میں وحشت ہونے لگے یا ایسے امور ارشاد نہ فرماتے تھے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے) ہر قوم کے کریم اور معزز کا اکرام و اعزاز فرماتے اور اُس کو خود اپنی طرف سے بھی اسی قوم پر متوقی اور سردار مقرر فرمادیتے۔ لوگوں کو عذابِ الٰہی سے ڈراتے (یا مضر امور سے بچنے کی تاکید فرماتے یا لوگوں کو دوسروں سے احتیاط<sup>\*</sup> رکھنے کی تاکید فرماتے) اور خود اپنی بھی لوگوں کے تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے، لیکن باوجود احتیاط رکھنے اور احتیاط کی تاکید کے کسی سے اپنی خندہ پیشانی اور

إِشَارَ أَهْلَ الْفَضْلِ: [أَيْ: وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ وَطَرِيقَتِهِ فِيمَا يَصْنَعُ فِي الْجُزْءِ الَّذِي جَعَلَهُ لِأَمْمَةٍ: تَقْدِيمُ أَهْلَ الْفَضْلِ حَسْبًا، أَوْ نَسْبًا، أَوْ سِبْقًا، أَوْ صَلَاحًا بِإِذْنِهِ لَمْ فِي ذَلِكَ، فَيَأْذُنُ لَهُمْ فِي التَّقْدِيمِ، وَالِّإِذَاذِ، وَإِبْلَاغِ أَحْوَالِ الْعَامَةِ] وَقَسْمُهُ: بِالْفَتْحِ مُصْدِرُ قَسْمٍ، أَيْ: قَسْمٌ ذَلِكَ الْجُزْءُ فِيهِمْ، قَالَ الْقَارِي: وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ يَعْنِي، وَالْمَفْعُولُ مَقْدَرٌ، أَيْ: مَا عَنْهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَجُوزٌ أَنْ يَكُونَ "لِلْجُزْءِ" الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.

\* اس لفظ کے مختلف ترجیحے کئے گئے ہیں۔ بندہ کے نزدیک اقرب ہی ہے، دوسرا جملہ کے مناسب بھی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حضور خود بھی اپنی حفاظت اور احتیاط فرماتے اور دوسروں کو بھی لوگوں سے احتیاط کی تعلیم دیتے تھے، جس کی توضیح یہ ہے کہ بلا وجوہ کسی شخص پر بدگمانی کرنا ناجائز ہے لیکن بغیر بدگمانی کے اپنی حفاظت کرنا اور احتیاط رکھنا بہتر ہے۔ احادیث میں مختلف عنوانات سے حزم اور احتیاط کی تعلیم بکثرت وارد ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک تھہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے کمکمد تقسیم کے لئے کچھ مال بھیجنے کا ارادہ کیا اور ایک صحابی ابن الفوعاء کو مال لے جانے کے لئے تجویز فرمایا کہ اس کوئی ساتھی اپنے ساتھ جانے کے لئے تلاش کر لیں، وہ تلاش میں تھے کہ عمر و نای ایک شخص ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم کہہ جانے کے لئے کسی ساتھی کی تلاش کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ابن الفوعاء حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے ساتھی مل گیا۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ انہوں نے پتہ بتا دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اُس کی قوم کی آبادیوں کے قریب پہنچو تو اُس سے محتاط رہنا اس لئے کہ ایک ضرب المثل ہے کہ اپنی بکری بھائی سے (جو ایک قبیلہ کا نام ہے) محتاط رہنا۔ ابن الفوعاء کہتے ہیں کہ ہم دونوں چل دیے، جب میرے ساتھی کی قوی آبادیاں آئیں تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں ان لوگوں سے مل آؤں تم میرا انتظار کرنا۔ میں نے کہا کیا مضائقہ ہے! اس کے جانے کے بعد مجھے حضور کا ارشاد یاد آیا میں جلدی سے اپنا اونٹ تیار کر کے چل دیا، تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ وہ چند لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے مگر میں احتیاط کی وجہ سے جلدی جلدی چلا گیا۔ اس میں کئی نوع سے احتیاط کا مضمون وارد ہے، اس کے علاوہ متعدد روایات میں حضور سے لوگوں کو احتیاط کی تعلیم منقول ہے، اس لئے یہی معنی بہتر ہیں۔

فِمَنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ، وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ، وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ، فَيَشَاغِلُهُمْ بِهِمْ، وَيَشَغِلُهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ  
أَيْ عَنْ أَعْلَمِ الْفَضْلِ  
وَالْأَمَّةَ مِنْ مَسْئَلَتِهِمْ عَنْهُ، وَإِخْبَارُهُمْ بِالذِّي يَنْبَغِي لَهُمْ، وَيَقُولُ: إِلَيْلَغُ الشَّاهِدَ مِنْكُمْ الْغَائِبَ،  
وَأَبْلَغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يُسْتَطِعُ إِبْلَاغُهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يُسْتَطِعُ إِبْلَاغُهَا  
ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَّمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

خوش خلقی کو نہیں ہٹاتے تھے، اپنے دوستوں کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کے حالات آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر ان کی اصلاح فرماتے، اچھی بات کی تحسین فرما کر اُس کی تقویت فرماتے اور بُری بات کی بُرائی بتا کر اُس کو زائل فرماتے اور روک دیتے۔ حضور اکرم ﷺ ہر امر میں اعتدال اور میانہ روی اختیار فرماتے تھے نہ کہ تلوّن اور گڑ بڑ کہ کبھی کچھ فرمادیا کبھی کچھ۔ لوگوں کی اصلاح سے غفلت نہ فرماتے تھے کہ مبادا وہ دین سے غالب ہو جائیں یا کسی امر میں حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے دین سے اکتا جائیں (اس نے حضور ان کے حالات سے غفلت نہ فرماتے تھے) ہر کام کے لئے آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا۔ امر حق میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے تھے نہ حد سے تجاوز فرماتے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے غلقت کے بہترین افراد ہوتے تھے۔ آپ کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جس کی خیر خواہی عام ہو، یعنی ہر شخص کی بھلائی چاہتا ہو۔

**ذو الْحَوَائِجِ:** [بيان للتفاوت في مراتب الاستحقاق، والمراد بالحوائج: المسائل المتعلقة بالدين]. فَيَشَاغِلُهُمْ: أي يجعل نفسه الشريفة مشغولة بهم. وَيَشَغِلُهُمْ: من الإشغال، أو بفتح الياء والغين: من الشغل، قال الحنفي: هذا أول؛ لأنَّه قال في الناج: الإشغال لغة ردية في الشغل، وقال الجوهري: قد شغلت فلاناً فلاناً، ولا نقل: أشغلت؛ لأنَّها لغة ردية، وقال الجند في القاموس: أشغله لغة جيدة أو قليلة أو ردية، قال القاري: لو صحت الرواية بالضم لکفر من قال بالردية.  
**وَالْأَمَّةَ:** [أي: في الذي يصلهم ويصلح الأمة، سواء كان المراد أمة الدعوة أو أمة الإجابة، فلا يدعهم يستغلون بما لا يعنيهم].  
**مِنْ مَسْئَلَتِهِمْ:** قال الحنفي بيان لما في قوله: ما يصله لهم، يعني أن ما يصلحهم والأمة هو مسئلتهم عنه، وتعقبه ابن حجر: بآن الأصول أن "من" تعليمية، والمعنى من أجل سؤالهم إياه عنه، قال المناوي: وفي نسخة "عنهem" أي: عن أحوالهم.  
**يَنْبَغِي لَهُمْ:** [أي: إخبار النبي ﷺ إياهم بالأحكام التي تلقي بهم وبأحوالهم وزمامهم ومكافهم والمعارف التي تسعها عقوتهم].  
**لَا يُسْتَطِعُ:** [مثل: النساء والعبيد والمرضى والغائبين].

وَلَا يُذْكُرُ عِنْهُ إِلَّا ذَلِكُ، وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ۔ يَدْخُلُونَ رُؤَادًا، وَلَا يَفْتَرُقُونَ إِلَّا عَنْ ذَوَاقٍ،  
وَيَخْرُجُونَ أَدْلَلَةً، -يَعْنِي عَلَى الْخَيْرِ۔ قَالَ: فَسَأَلَتْهُ عَنْ مَخْرُجِهِ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ؟ قَالَ كَانَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ، وَيَؤْلَفُهُمْ وَلَا يَنْفَرُهُمْ، وَيَكْرِمُ كُرْمَ كُلَّ قَوْمٍ وَيُوْلِيهُ عَلَيْهِمْ،

---

آپ کے نزدیک بڑے رتبہ والا وہی ہوتا تھا جو مخلوق کی غم گساری اور مدد میں زیادہ حضہ لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی مجلس کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نشست و برخاست سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف رکھتے اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ غالی مل جائے بیٹھ جایا کریں، لوگوں کے سروں کو پھلانگ کر آگے نہ جایا کریں، یہ امر جدا گانہ ہے کہ جس جگہ حضور بیٹھ جاتے وہی جگہ پھر صدر مجلس بن جاتی۔ آپ حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے یعنی بشاشت اور بات چیت میں جتنا اُس کا استحقاق ہوتا اُس کو پورا فرماتے کہ آپ کے پاس کا ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضور میرا سب سے زیادہ اکرام فرماتے ہیں۔ جو آپ کے پاس بیٹھتا یا کسی امر میں آپ کی طرف مراجعت کرتا تو حضور اُس کے پاس بیٹھے رہتے یہاں تک کہ وہی خود اٹھنے کی ابتدا کرے۔ جو آپ سے کوئی چیز مانگتا آپ اُس کو مرحمت فرماتے یا (اگر نہ ہوتی) تو زمی سے جواب فرماتے۔

---

إِلَّا ذَلِكُ: أي: ما يذكر من حاجات الناس والمتاح إلَيْهِ، وقوله: "وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مَنْزَلَةً تَأْكِيدَ لَمَّا تَقْدَمَ،" والمعنى: لا يذكر عنه إلا ما يفيدهم في دينهم أو دنياهם، دون ما لا ينفعها، فإنما لا تذكر عنه غالباً. رُؤَادًا: [جمع رائد، وهو في الأصل: من يتقدم القوم؛ لينظر لهم الكلاً ومساقط الغيث، والمراد هنا أكابر الصحابة الذين يتقدون في الدخول عليه في بيته ليستفيدوا منه ما يصلح أمر الأمة]. بضم فتشديد، جمع رائد بمعنى طالب، أي: طالبين المنافع في دينهم ودنياهم.

ذَوَاقٍ: [يعنى: مَذُوقٌ من الطعام، كما هو الأصل في الذوق، لكن العلماء حملوه على العلم والأدب، فالمعنى: لا يفترقون من عنده إلا بعد استفادة علم وخير]. بفتح أوله فعال بمعنى مفعول، أي عن مطعمه حسي على ما هو الأغلب، أو معنوي من العلم وغيره، فإنه يقوم للروح مقام الطعام للجسد. يخزن: بضم الزاي وكسرها، أي: يحبس ويحفظ. و"يعنيه" بفتح أوله، أي: بهمه.

وَيَؤْلَفُهُمْ: [يجعلهم ألفين له، مقبلين عليه بمحاطته لهم وحسن أخلاقه معهم، أو يولف بينهم حيث لا يبقى بينهم تباغض].

وَلَا يَنْفَرُهُمْ: بتشديد الفاء أي: لا يفعل لهم ما يكون سبباً لتفرقهم عنه؛ لما عنده من العفو والصفح والرأفة التي لانظير لها.

وَيُوْلِيهُ عَلَيْهِمْ: [أي: يعظم أفضل كل قوم بما يناسبه من التعظيم، ويجعله والياً عليهم وأميراً فيهم؛ لأنَّ القوم أطوع لكتيرهم].

وَيُحَدِّرُ النَّاسَ وَيَخْتَرُسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِي عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشُرُهٍ وَلَا خُلُقَهُ. وَيَفْقَدُ أَصْحَابَهُ، وَيُسَأَلُ النَّاسُ عَمَّا فِي النَّاسِ، وَيُحِسِّنُ الْحَسْنَ وَيُقَوِّيهُ، وَيُقْبَحُ الْقَبِحَ وَيُؤْهِيَهُ، مُعْتَدِلٌ الْأَمْرُ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ، وَلَا يَغْفُلُ مُخَافَةً أَنْ يَغْلُوا وَيَكُلُوا،

آپ کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لئے عام تھی۔ آپ تمام خلقت کے شفقت میں باپ تھے اور تمام خلقت حقوق میں آپ کے نزدیک برابر تھی۔ آپ کی مجلس علم و حیا اور صبر و امانت تھی (یعنی یہ چاروں باتیں اُس میں حاصل کی جاتی تھیں یا یہ کہ یہ چاروں باتیں اُس میں موجود ہوتی تھیں) کہ اُس میں شور و شغب ہوتا تھا نہ کسی کی عزت و آبرو اُتاری جاتی تھی۔ اس مجلس میں اگر کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی تھی تو اُس کو شہرت نہیں دی جاتی تھی۔ آپس میں سب برابر شمار کیے جاتے تھے (حسب نسب کی برابی سمجھتے تھے البتہ) ایک دوسرے پر فضیلت تقویٰ سے ہوتی تھی۔

بحذر: أي يحدِّر بعض الناس من بعض ويأمرهم بالحرام، أو يخوفهم من عذاب الله وأليم عقابه، قال القاري: ووقع في بعض الروايات: "ويحدِّر الناس الفتنة" فإن صاحب فهو وجه آخر. قلت: وعلى هذه المعانى كلها هو من التحذير، وضبطه بعضهم وحکاه ميرك عن أكثر الرواية بفتح الباء وتحفيظ الذال المفتوحة من الحذر بمعنى: الاحتراس، فيكون في معنى قوله: ويخترس منهم. والأوجه عندي الأول، كما في أي داود من قوله: أحوك البكري فلا تأمهنه.

ويخترس: قال القاري: أي يحفظ نفسه من أذائم، وقال المناوي: أي يتحفظ من كثرة مخاطبتهن المودية إلى سقوط هيبته وجلالته من قلوبهم. بشره: بكسر فسكون، طلاقة وجهه وشاشته، وفيه رفع توهם نشأ من قوله: "يخترس" ولذا أكدده بقوله: "ولا خلقه" بضمتين أو ضم أوله، أي: ولا حسن خلقه، قاله القاري. ويفقد: أي: يطلبهم ويسأل عنهم حال غيبتهم، فإن كان أحد منهم مريضاً يعوده، أو مسافراً يدعوه له، أو ميتاً فيستغفر له. عما في الناس: أي: عما وقع فيهم من المحسن والمساوي الظاهرة ليدفع ظلم الطالم عن المظلوم، أو عما هو متعارف فيما بينهم، وليس المعنى أنه يتخصص عن عيوبهم، ويتفحص عن ذنوبهم. ويقويه: [أي: يظهر فوته بدليل معقول أو منقول.]

ذبويهيد: [أي: يجعله واهيا ضعيفا بالمنع والرجز عنه]. ولا يغفل: [أي عن تذكيرهم وتعليمهم]. أذ يغلو: [أي عن إستفادة أحواله وأفعاله]. ويميلوا: بفتح الميم وتشديد اللام من الملالة، وفي نسخة: "أو يمليوا" بكلمة "أو" للتنويع، وما قال الحنفي: للشك غير صحيح، وفي نسخة "أو يمليوا" من الميل أي: يمليوا إلى الدعة والرفاهية.

لکل حال عنده عَتَاد، لا يُقْصَرُ عن الحق ولا يُجَاوِزه، الذين يَلُونَه من الناس: خيَارُهُم، أَفْضَلُهُم  
عنه أعمّهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن  
محلسه؟ فقال: كان رسول الله ﷺ لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس  
حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك. يعطي كل جلساً إله بنصيحة، لا يحسب جليسه أن أحداً  
أكرم عليه منه. من جالسه أو فاوذه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه،

هر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آتا تھا۔ بڑوں کی تعظیم کرتے تھے، چہوٹوں پر شفقت کرتے تھے، الہ حاجت  
کو ترجیح دیتے تھے، اجنبی مسافر آدمی کی خبر گیری کرتے تھے۔ فائدہ: الغرض ہر بات اور ہر امر شریفانہ اخلاق کے منتبا  
سے اور پر ٹھی اور کیوں نہ ہوتی جب کہ آپ کی بعثت ہی تکمیل اخلاق کے لئے ہوئی۔ چنانچہ خود حضور ﷺ کا ارشاد ہے:  
بعثت لأنتم مكارم الأخلاق. أو كما قال۔ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں، اس کے باوجود اس  
کی دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ! جیسا کہ تو نے مجھے حسن صورت عطا کی ہے، حسن اخلاق بھی عطا کر، حالانکہ حضور کے  
اخلاق کی بڑائی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور کئی قسم کی تاکید کے ساتھ اللہ عزوجل نے آپ کے غلق عظیم کو ذکر فرمایا۔

عَتَاد: بفتح أوله: العدة والتأهب، يعني أنه ﷺ أعد لكل أمر من الأمور حكماً من الأحكام، ودليلًا من أدلة الإسلام.  
خيَارُهُم: [أي: الذين يقربون منه لاكتساب العلوم وتعلمها خيار الناس؛ لأنهم هم الذين يوثق لهم علمًا وفهمًا].  
ومؤازرة: أي: معاونة في مهمات الأمور؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الرِّبْرَادِ وَالْقَوْيِ﴾ [المائدة: ٢] مأخوذه من الوزير،  
وهو الذي يؤازر الأمير أي: يعاونه، أو يحمل عنه وزره وثقله. معاونته له فيما ينقل عليه من الرأي. ذكر: قال القاري:  
قوله: "على ذكر" أي: على ذكر الله كما في نسخة، وفي عدم ذكره دلالة على كمال ذكره.

ينتهي به المجلس: [إذا وصل لقوم جالسين جلس في المكان الذي يلقاه حالياً من المجلس، فكان لا يترفع على أصحابه  
لتواضعه ومكارم أخلاقه، ومع ذلك فأينما جلس يكون هو صدر المجلس]. ويأمر بذلك: [أي: بالجلوس حيث ينتهي  
المجلس إعراضًا عن رعونة النفس]. أو فاوذه: أي: راجعه، مفاعة من التفويف، كان كل واحد منهم ردهما عنده إلى  
صاحبہ. و "أو" للتتوسيع، وأبعد الحتفي في تحويزها للشك. صابرہ: [أي: غلبه في الصير على الحالسة أو المکالمة، فلا يبادر  
بالقيام من المجلس، ولا يقطع الكلام، ولا يظهر الملل والسامة].

وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرْدَهُ إِلَّا بِهَا، أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ. قَدْ وَسَعَ النَّاسَ بِسَطْهٖ وَخُلُقِهِ، فَصَارَ لَهُمْ أَبَا، وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً. مجلسه: مجلس حلم وحياة، وصبر وأمانة،

لَا تُرْفَعُ فِيهِ الْأَصْوَاتُ،  
أَيْ لَا يُجَادَلُ كَمَا فِي الْمَدَارِسِ

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ بَلْ ثَمَّ زَمْ زِمْ زِمْ زِمْ اُجی کو پسند کرتے ہیں اور زمی پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو اور کسی چیز پر عطا نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص زمی سے محروم ہے وہ بڑی خیر سے محروم ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ تم میں سے زیادہ محبوب مجھے وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک صحابی نے حضور سے دریافت کیا کہ آدمی کو سب سے بہترین چیز جو عطا ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا: خوش خلقی۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت میں اعمال نامہ کی ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی اچھے اخلاق کی بدولت شب بیدار، روزہ دار کے درجہ کو پہنچ سکتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں یمن بھیجا گیا اور سواری پر سوار ہونے کے لئے رکاب میں پاؤں رکھا تو حضور نے سب سے آخری وصیت جو فرمائی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا۔ حضور کا ارشاد ہے کہ مومنین میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات میں حسن اخلاق کی تاکید فرمائی گئی اور یہ اُس کا نمونہ ہے جو اور پر ذکر کیا گیا۔

**بِمَيْسُورٍ:** ای: حسن، لا بمعسور خشن؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مُيْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٨] ومن الميسور: الوعد والشفاعة، والرغبة في العقبي، والرهبة عن الدنيا. وسع الناس: أجمعين حتى المنافقين. بسطته ای: بشره وطلقة وجهه وانبساطه، او جوده وكرمه. فصار لهم أبا: ای: في الشفقة والرحمة والإصلاح، بل أعظم من أبا؛ إذ غاية الأب أن يسعى في إصلاح الظاهر، وهو يسعى في إصلاح الظاهر والباطن. سواء: [ای: مُسْتَوِينَ فِي الْحَقِّ، وَلَا يَطْمَعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَتَمَيَّزَ عَنْهُ أَحَدٌ؛ لِكُمالِ عَدْلِهِ، وَسَلَامَتِهِ مِنَ الْأَغْرِيفَ النَّفْسَانِيَّةِ]. وحياة: [ای: كَانُوا يَجْلِسُونَ مَعَهُ عَلَى غَايَةِ الْأَدَبِ].

وَلَا تُؤْتِنُ فِيهِ الْحُرْمَ، وَلَا تُشْلِي فَلَتَّاَهُ۔ مُتَعَادِلِينَ، يَتَفَاضِلُونَ فِيهِ بِالْتَّقْوَىِ، مُتَوَاضِعِينَ، يُوقَرُونَ فِيهِ  
جمع فلتات: وهي الرلة يعني لم يكن مجلسه فلتات  
الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب. حدثنا محمد بن عبد الله بن  
بزيع، حدثنا بشير بن المفضل، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن <sup>(٨)</sup>أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال: قال  
رسول الله ﷺ: لَوْ أُهْدِي إِلَيْ كُرَاعَ لِقَبْلَتِ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأْجَبْتُ. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا  
عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن <sup>(٩)</sup>جابر رضي الله عنه قال: جاعني رسول الله ﷺ

(٨) حضرت انس رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے بکری کا ایک بیبر بھی دیا جائے تو میں قبول کروں اور اگر اس کی دعوت کی جائے تو میں ضرور جاؤں۔ فائدہ: یعنی مجھے ہدیہ قبول کرنے میں بلکہ کسی جگہ جانے میں بھی اس کا خیال نہیں ہوتا کہ اتنی ذرا سی چیز کے لئے کیا جاؤں، بلکہ اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو کمال رغبت سے قبول کرتا ہوں اور اصل یہ ہے کہ دعوت کے قبول کرنے میں وہ کہانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ دعوت کرنے والے کی دلداری مقصود ہوتی ہے۔

(٩) حضرت جابر رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ (میری عیادت کے لئے) تشریف لائے، نہ خچر پر سوار تھے نہ ترکی گھوڑے پر (یعنی نہ گھٹیا سواری پر سوار تھے نہ بڑھیا پر بلکہ پاپیادہ تشریف لائے)۔ فائدہ: حضور اقدس ﷺ کی تواضع

وَلَا تُؤْتِنَ: لا تؤبن بضم المشاء الفوقيانية فهمزة ساكنة فموحدة مخففة مفتوحة، وتشدد أيضاً آخره نون، من الأبن، هي العقد في القضايان؛ لأنها تعيبها، فالمراد به العيب، قاله المناوي. والحرم بضم الحاء وفتح الراء المهمليتين جمع الحرمة، وهي: ما لا يحل انتهاكه، وقيل: المراد بما القبائح، وروي بضمتي، فالمراد به النساء، والحاصل: أن مجلسه كان يصان من رفت القول وفحش الكلام. ولا تشي: بضم أوله وسكون النون وفتح المثلثة، أي: لا تشرع. "فلتاته" بفتح الفاء واللام، أي: زلاته، يعني: إذا فرطت من بعض حاضريه سقطة لم تنشر عنه، ذكره المناوي.

يَتَفَاضِلُونَ: أي: متافقين، كأنه خبر لـ "كان" المقدر أي: كانوا متعادلين متساوين، لا يتکبر بعضهم على بعض بالحسب والنسب. وَيُؤْثِرُونَ ذَا الْحاجَةَ: [أي: يقدمونه على أنفسهم في تكريبه للنبي ﷺ ليقضي حاجته منه].

وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ: [أي: يحفظون حقه وإكرامه لغريته، ويتحمل أن المراد الغريب من المسائل، فالمعنى: يحفظونه بالضبط والإتقان خوفاً من الضياع]. بزيع: بفتح موحدة وكسر زاي، فتحية فین مھملة. المفضل: بتشديد الضاد المعجمة المفتوحة. كُرَاعَ: بضم الكاف، ما دون الركبة من الساق على ما في النهاية، وما دون الكعب من الدواب على ما في المغرب.

لیس براکب بغل ولا برذون. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال: سمعت <sup>ابن فارسي</sup><sup>(١٠)</sup> يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سَمِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ،

صَحَّا حِصْرٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْعَجْلَى فِي ثَقَاتِ التَّابِعِينَ تَقْرِيبًا

مقصود ہے کہ امراء و سلاطین زمانہ کی طرح سواری کے عادی نہ تھے بلکہ پیداہ کثرت سے چلتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں اس عیادت کا قصہ ذرا مفصل ہے، وہ یہ کہ حضرت جابر رض کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سخت مریض ہوا۔ حضور اقدس ﷺ اور حضرت ابو بکر رض دونوں حضرات پاپیداہ میری عیادت کو تشریف لائے، یہاں پہنچ کر دیکھا کہ میں بے ہوش پڑا ہوں۔ حضور اقدس ﷺ نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا جس سے مجھ افاقت ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرمائیں تو میں نے اپنے ترکہ کے متعلق سوال کیا جس پر میراث کی آیت نازل ہوئی۔

(١٠) يوسف بن عبد الله رض کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے میرانام یوسف تجویز فرمایا تھا اور مجھے اپنی گود میں بٹھلا یا تھا اور میرے سر پر دستِ مبارک پھیرا تھا۔

فائدہ: اس حدیث سے حضور اقدس ﷺ کی کمال شفقت اور بچوں پر کمال رحمت معلوم ہوتی ہے۔ نیز تواضع کا کمال یہی ہے کہ ایسے کم عمر بچوں کو گود میں لینے سے اعراض واستنکاف نہ فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ میرے لئے برکت کی دعا فرمائی۔ اس حدیث سے بچوں کا بزرگوں کی خدمت میں لے جانا اور ان سے نام تجویز کرنا، دعا کرنا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری احادیث میں صحابہ کرام رض کا نومولود بچوں کا حضور کی خدمت میں لے جانا وارد ہے۔

برذون: بکسر موحدة و سكون راء وفتح ذال معجمة، هو الفرس الأعجمي، وقيل: التركى، أي: لم يكن راكب بغل ولا فرس، بل كان ماشيا طالباً لمزيد الثواب، ويدل عليه رواية البخارى من طريق عبد الله بن محمد، عن سفيان بهذا الإسناد: مرضت مرتضا فأتاني النبي ﷺ يعودني وأبو بكر، وهما ماشيان، الحديث. قال ميرك: وهذه الرواية صريحة في أنه جاء لعيادته ماشيا، وفيه إبطال ما توهه بعض المحدثين من أنه راكب، لكنه ليس براكب بغل ولا برذون.

عبد الله بن سلام: قال المناوي: بتحقيق اللام لغير، نص عليه الأئمة، لكن في شرح الشفاء للتلميسي عن بعضهم: أنه يخفف ويشدد. قلت: وبالتحقيق جزم القاري، وقال: صحابي صغير، وقد ذكره العجلانى في ثقات التابعين، وأنت تعلم أن هذا الحديث يدل على الأول. قال ميرك شاه: اختلف في صحبته فأثبتها البخاري، ونفتها أبو حاتم.

وأقعدني في حَجْرِهِ، ومسح على رأسِي. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو داود الطيالسي،

أخبرنا الربيع - وهو ابن صبيح - حدثنا يزيد الرقاشي، عن <sup>(١١)</sup>أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ

**حجّ على رحل رَبِّهِ، وقطيفة كنا ثُرِيَ ثمنها أربعة دراهم،** فلما استوت به راحلته قال: لبيك بإلان [خلفي، عين]

أي قات مثلاً به بحجة لا سمعة فيها ولا رباء. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن

**ثبت البُنَانِي وعاصم الأحوال، عن <sup>(١٢)</sup>أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله ﷺ**

[قبل: هو من موالي]

(١١) انس رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کجاوہ پر حج کیا جس پر ایک کپڑا تھا جس کی قیمت ہمارے خیال میں چار درہم ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ خدا یا! اس حج کو ریا اور شہرت سے برا فرمائیو۔ فائدہ: یہ حدیث اسی باب میں پانچویں نمبر پر گزر چکی ہے۔

(١٢) انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، کھانے میں شرید تھا اور اس پر کدو پڑا ہوا تھا۔ حضور کو کدو چوکہ مرغوب تھا اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے کدو نوش فرمانے لگے۔ حضرت انس رضي الله عنه کہتے ہیں کہ

حجّه: قال القاري: بفتح الحاء وكسرها، ذكره ميرك، ففي المغرب: حجر الإنسان بالفتح والكسر: حضنه، وهو: ما دون الإبط إلى الكشح، وقال البيحوري: المراد به حجر التوب، وهو: طرفه المقدم؛ لأن الصغير يوضع فيه عادة، ويطلق الحجر على معان، كما قال بعضهم:

ركبت حجراً وطفت البيت خلف الحجر  
الله حجر منعي من دخول الحجر  
ما قلت حجراً ولو أعطيت ملء الحجر

[ومعنى الحجر الأول: هو الأنثى من الخيل. والثانى: حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام. والثالث: الذهب أو الفضة. والرابع: الأمر الحرام. والخامس: هو المتع من التصرف. والسادس: حجر ثمود. والسابع: الذهب أو الفضة. والثامن: الحصن، وهو المراد ههنا]. إسحاق بن منصور: تقدم الحديث في أوائل هذا الباب برواية محمود بن غilan، عن أبي داود الحضرمي،

عن سفيان، عن الربيع بن صبيح، بهذا السند والمتن. حج على رحل: [أي: حال كونه كائنًا على رحل أي: قتب.] وقطيفة: [أي: والحال أن على الرحل كساء له أهداب]. ولا رباء: [أي: هي خالصة لوجهك، وإنما نهى الرياء والسمعة - مع كونه معصوماً منها - تواضعاً منه صلی اللہ علیہ وسلم وتعليمًا لأمته]. أنس بن مالك رضي الله عنه: تقدم الحديث في صفة إدامه صلی اللہ علیہ وسلم برواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بمعنى هذا الحديث، وتقدم هناك ما يتعلّق باسم الخياط.

فَقَرِبَ لَهُ ثَرِيداً عَلَيْهِ دُبَاء، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْخُذُ الدُّبَاء، وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَاء. قَالَ ثَابِتٌ:

[ابن حمزة متروك اللحم]

[يلقطها من القصبة]

فَسَمِعْتُ أَنَّسًا يَقُولُ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ أَقْدَرْتُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَاءٌ إِلَّا صُنِعَ. حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَثَنَا مَعاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَةَ قَالَتْ:

صَفَةُ الطَّعَامِ عَلَى صِنْعِ الْجَهْوَلِ

البحاری

اس کے بعد سے میرے لئے کوئی کھانا تیار نہیں کیا گیا جس میں مجھے کدو ڈلانے کی قدرت ہو اور کدو اس میں نہ ڈالا گیا ہو۔ فائدہ: ثرید شوربے میں بھی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں۔ یہ قصہ حضور کے سامنے کے باب کی گیارہ ہویں حدیث میں گزر چکا ہے وہاں بجائے ثرید کے، شوربے روٹی کا ذکر تھا، ممکن ہے کہ دونوں چیزیں ہوں: شوربہ روٹی بھی ہو اور ثرید بھی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ثرید اس کو مجازاً کہہ دیا ہو یا اس حدیث میں شوربہ روٹی اجزا کے لحاظ سے کہہ دیا ہو کہ ثرید بھی شوربہ روٹی ہی ہوتی ہے۔

(۱۳) عمرۃ فِیْ غَنَّا کہتی ہیں کہ کسی نے حضرت عائشہؓ فِیْ غَنَّا سے پوچھا کہ حضور اقدس سنتی علیہ السلام دولت کدہ پر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے۔ اپنے کپڑے میں خود ہی جوں تلاش کر لیتے تھے اور خود ہی کبری کا دو دھن نکال لیتے تھے اور اپنے کام خود ہی کر لیتے تھے۔

فائدہ: آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے کا یہ مطلب ہے کہ عام آدمیوں کی طرح اپنے گھر کا اکثر و بیشتر کام خود کر لیا کرتے تھے۔ اپنی ضروریات اور گھر کے کاروبار کرنے میں حضور کو کچھ گرانی یا تکبیر مانع نہ ہوتا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو کام اور لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں وہ حضور بھی کر لیا کرتے تھے، بعض روایات میں مثال کے طور پر کچھ کام بھی گناہ یئے جیسا کہ اس روایت میں گزارا ہے، اسی طرح دوسری روایات میں ہے کہ اپنا کپڑا اسی لیا کرتے تھے، اپنے جو تے کا پیوند خود ہی لگایا کرتے تھے، اپنے کپڑے کو پیوند لگایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ حدیث بالا میں جوں تلاش کرنے کا بھی ذکر ہے۔

دُبَاء: [بالقصر والمد، أَيْ: على الثريد دباء، وهو: القرع]. فَمَا صُنِعَ: صنع ببناء الجھول، و "ما" نافية، و "أَقْدَرْ" بكسر الدال من القدرة صفة لطعام. عمرۃ: قال البيهوري: بفتح العين وسكون الميم، هي في الرواية ستة، والمراد بها هنها: عمرۃ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارۃ. [وهي كانت في حجر أم المؤمنین. عائشة وروت عنها كثیراً.]

قال لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله ﷺ في بيته؟ قالت: كان بشراً من البشر، يغسل ثوبه، ويصلب شاته، ويخدم نفسه.  
من باب طلب

علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے بدن یا کپڑوں میں جوں نہیں پڑتی تھی، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جوں بدن کے میل سے پیدا ہوتی ہے اور پسینہ سے بڑھتی ہے اور حضور اقدس ﷺ سراسر نور تھے، وہاں میل کچیل کہاں تھا۔ اسی طرح آپ کا پسینہ سراسر گلب تھا جو خوبیوں میں استعمال کیا جاتا تھا، بھلا عرقِ گلب میں جوں کا کہاں گزر ہو سکتا ہے؟! اس لئے اسے تلاش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس احتمال سے کہ شاید کسی دوسرے کی جوں چڑھ گئی ہو، تلاش فرماتے تھے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ تلاش کرنا دوسروں کی تعلیم کے لئے تھا کہ جب حضور کو اس کا اہتمام کرتے دیکھیں گے تو زیادہ اہتمام کریں گے۔

كان بشراً: أي فرداً من أفراده، مهدت به لما تذكرة بعده؛ لأنها رأت من اعتقاد الكفار أنه لا يليق من صبه ما يفعله غيره من العامة، **﴿وَقَالُوا مَا لِهَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا﴾** [الفرقان: ٧].  
يغسل: بفتح فسكون فكسر، ويجوز أن يكون من التفليمة، ففي القاموس: فلى رأسه: بخث عن القمل كفلاء أي: يفترش قاله القاري، وقال المناوي: ظاهر الحديث أن القمل كان يؤذى بدن، لكن ذكر ابن سبع وتبعه بعض شراح الشفا: أنه لم يكن فيه قمل؛ لأنه نور، ولأن أصله من العفونة ولا عفونته فيه، وأكثره من العرق وعرقه طيب، ومن قال: إن فيه قملا فهو كمن نقصه، ولا يلزم من التفليمة وجود القمل، فقد يكون للتعليم أو التفتیش؛ لما فيه من نحو خرق ليرفعه أو لما علق به من نحو شوك ووسع، وقيل: إنه كان في ثوبه قمل ولا يؤذيه، وإنما كان يلتقطه استقداراً له.

ويصلب: بضم الدال ويكسر، فهذا تعليم بعد تخصيص، وفسر بصب الماء في الوضوء والغسل على الأعضاء، وفي رواية لأحمد وابن حبان: يخيط ثوبه ويكتصف نعله، ولابن سعد: يرقع ثوبه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوقهم، وفي رواية: يعمل عمل البيت، وأكثر ما يعمل الخياطة، وفي رواية لأحمد: ويرفع دلوه كذلك في شرحى الشمائل، وفي البداية والنهayah برواية أحمد بسنده إلى الأسود: قلت لعائشة: ما كان يصنع رسول الله ﷺ في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلة خرج إلى الصلة، وبسط الروايات في هذا المعنى.

## بابُ ما جاءَ فِي خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

حدثنا عباس بن محمد الدوری، حدثنا عبد الله بن يزید المقرئ، حدثنا لیث بن سعد، حدثني أبو عثمان الولید بن أبي الولید، عن سليمان بن خارجة،

### باب۔ حضور اقدس ﷺ کے اخلاق و عادات میں

فائدہ: حضور اقدس ﷺ کے اخلاق شہرہ آفاق ہیں۔ حق تعالیٰ جل جلال نے بھی کلام اللہ شریف میں ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤] سے آپ کے خلق کی تعریف فرمائی۔ آپ کے اخلاقِ جیلیہ اور عاداتِ شریفہ آج دنیا میں ضرب المثل ہیں اور اخلاقِ محمدی کی عالم میں دھوم ہے۔ اور اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ خود حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی، چنانچہ سورۃ القلم میں ارشاد ہے: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤] اس آیت شریفہ میں کئی نوع کی تاکید کے ساتھ ارشاد ہے کہ بے شک تم بڑے اخلاق پر ہو۔ حضور کے اخلاقِ حسنة کا احاطہ اور احصاء شوار ہے،

خلق: بضم فسکون وبضمتين: السجية والطبيعة، وهو الصورة الباطنة من النفس وأوصافها ومعانيها، بمنزلة الخلق للصورة الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهمما أوصاف حسنة أو قبيحة. وانختلف هل حسن الخلق غريزية طبيعية أو مكتسبة اختيارية؟ فقيل بالأول؛ لخبر البخاري: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وقيل: بل بعضه مكتسب؛ لما صلح في خبر الأشجع: إن فيك حصلتین يجدهما الله: الحلم والأئنة، قال: يا رسول الله! قدما كان في أو حديثا؟ قال: قدما، الحديث. قال ابن حجر: فتردید السؤال وتقریره ﴿أَلَا يَشْعُرُ بِأَنَّ مَا هُوَ جَلِيلٌ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مَكْتَسِبٌ﴾ وهذا هو الحق، ومن ثم قال القرطبي: هو جبلة في نوع الإنسان وهم متفاوتون فيه، فمن غلبه حسنة فهو المحمد وإلا أمر بالمحادثة حتى يصير حسناً، قال القاري: الأظهر أن الأخلاق كلها باعتبار أصلها جبلية، قابلة للزيادة والتقصان في الكمية والكيفية بالرياضات، كما يدل عليه العبارات التوبية والإرشادات الصوفية، منها حديث: إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق، رواه البخاري في تاريخه، والحاکم وأحمد عن أبي هريرة، والبزار بلفظ: "مكارم الأخلاق". قال المناوي: وقال أبو علي الدقاقي: قد خصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَزَايَا كَثِيرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَشْعُرْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بِمَثْلِ مَا أَثْنَى عَلَيْهِ بِخَلْقِهِ، فَقَالَ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤] وناهيك بهذا التفصيم. المقرئ: المقرئ اسم فاعل من الإقراء: بمعنى تعليم القرآن.

لیث بن سعد: [لیث بن سعد الفہمی، عالم اہل مصر، وکان نظریر مالک فی العلم، وکان فی الكرم غایة توفی یوم نصف شعبان سنۃ خمس وسبعين ومائۃ عن إحدی وثمانین سنۃ]. قیل: کان دخلہ فی السنۃ ثمانین ألف دینار وما وجہت علیہ زکوہ قط.

عن<sup>(۱)</sup> خارجة بن زید بن ثابت قال: دخل نَفَرٌ على زيد بن ثابت ف قالوا له: حَدَّثْنَا أَحَادِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَاذَا أَحَدَثْتُكُمْ؟ كَنْتُ جَارِهِ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بَعْثَ إِلَيْيَ فَكَبَّتْهُ لَهُ، فَكَنَا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرْهَا مَعْنَا، وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرْهَا مَعْنَا، وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرْهَا مَعْنَا، فَكُلُّ هَذَا أَحَدَثْتُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[لتلقهموا في الدين]

كتب حديث کا بہت بڑا حصہ انہی احادیث پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمونہ کے طور پر اس باب میں مصنف التغییلی نے پندرہ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) خارجہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت زید بن ثابت کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضور کے کچھ حالات سنائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور کے کیا حالات سناؤں (وہ احاطہ بیان سے باہر ہیں) میں حضور کا ہمسایہ تھا (اس لئے گویا ہر وقت کا حاضر باش تھا اور اکثر حالات سے واقف۔ اس کے ساتھ ہی کاتب وحی بھی تھا) جب حضور پر وحی نازل ہوتی تو آپ مجھے بلا بھیجتے، میں حاضر ہو کر اُس کو لکھ لیتا تھا (حضور ہم لوگوں کے ساتھ غایت درجہ دلداری اور بے تکلفی فرماتے تھے) جس قسم کا ذکر تذکرہ ہم کرتے تھے، حضور بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی تذکرہ فرماتے تھے۔ جب ہم لوگ کچھ دنیاوی ذکر کرتے تو حضور بھی اس قسم کا تذکرہ فرماتے (یہ نہیں کہ بس آخرت ہی کا ذکر ہمارے ساتھ کرتے ہوں اور دنیا کی بات سننا بھی گوارانہ کریں)

ماذَا أَحَدَثْتُكُمْ: أيَّ شَيْءٍ أَحَدَثْتُكُمْ، فَإِنْ شَاءَلَهُ لَا يَخُطِّطْهَا وَإِنْ اتَّهَى الْمُحَدِّثُ بَهَا إِلَى أَقْصَى الْغَايَاتِ، فَهُوَ الْحَقِيقُ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ:

تجاوز حق المدح حق كأنه  
بأحسن ما يثنى عليه يعب

ولكن لما كان من القواعد المقررة: "ما لا يدرك كله لا يترك كله" أفاد هم بعض ذلك.

كنت جاره: أي كان بيته يقرب بيته فأنا أعرف بحاله، وأشار بذلك إلى غاية ضبطه وإتقانه لأحواله. ذكرها معنا: [أي: ذكر أنواعه من المأكولات والمشروبات والقواكه، وما يتعلق به من منفعة ومضره، كما يعرف من الطبع النبوى]. قال المناوي: فكان لكمال خلقه، وحسن عشرته، وغاية تلطفه، يتحلق معنا؛ لثلا ندهش ونتكلم في مجلسه بما نشاء، ولا يتجنب التكلم معنا؛ لثلا نخجل، وكل ذلك ليزيد إقبالهم واستفادتهم منه. فكل: قال القاري: بالرفع على ما هو الثابت في الرواية، والرابطة في خبره مخدوف، والتقدير: أحدثكم إيه، وقال ابن حجر: يجوز النصب، وقال المناوي: الرواية بالرفع، لكنه لا يمنع جواز النصب، بل هو أولى؛ لاستغنائه عن الحذف.

حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا يونس بن بُكير، عن محمد بن إسحاق، عن زياد بن أبي زياد،  
عن محمد بن كعب القرطي،

اور جس وقت ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوتے تو حضور آخرت کے تذکرے فرماتے، یعنی جب آخرت کا کوئی تذکرہ شروع ہو جاتا تو اُسی کے حالات اور تفصیلات حضور بیان فرماتے اور جب کچھ کھانے پینے کا ذکر ہوتا تو حضور بھی ویسا ہی تذکرہ فرماتے، کھانے کے آداب، فوائد، لذیذ کھانوں کا ذکر، مضر کھانوں کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ گذشتہ ابواب میں بہت سے ارشادات حضور کے اس نوع کے گذر چکے ہیں کہ سر کہ کیا ہی اچھا سالن ہے، زیتون کا تیل استعمال کیا کرو کہ مبارک درخت سے ہے وغیرہ۔ یہ سب کچھ آپ ہی کے حالات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔

فائدہ: اس حدیث میں مختلف مضامین تھے جن کی کسی قدر توضیح ترجمہ کے ساتھ ذکر کی گئی۔ اخیر جملہ کا ترجمہ مشارع درس کے نزدیک یہ ہی ہے جو لکھا گیا۔ لیکن بندہ تاجیز کے نزدیک شروع حدیث میں (حضور کے کیا حالات سناؤں) کے ساتھ مرتبط ہے اور ترجمہ یہ ہے کہ (حضور کے ہر نوع کے حالات سناسکتا ہوں) اس لئے جس قسم کے تذکرہ کی درخواست کرو، وہ سناؤں کہ میں پڑو سی بھی تھا اور کاتبِ وحی بھی اور حضور کے معمولات میں دین اور دنیا، کھاناپینا غرض ہر قسم کے تذکرے شامل تھے، اس لئے کیا سناؤں اور کون سا تذکرہ کروں کہ ہر تذکرہ عجیب تھا اور ہر سماں لطیف و لذیذ۔

اس حدیث میں حضرت زید کا یہ فرمانا کہ: جب وحی نازل ہوتی مجھے بلا یا جاتا، یہ اکثر اوقات کے اعتبار سے ہے کہ قریب رہتے تھے، ورنہ اسکے علاوہ وحی کے لکھنے والے یہ حضرات بھی شمار کیے گئے ہیں: حضرت عثمان بن علی، حضرت علی بن علی، حضرت ابی، امیر معاویہ بن علی، خالد بن سعید، خلطة بن علی، علام حضرت علی بن علی، ابی بن سعید، یہ نو حضرات ہیں جو کتابین وحی ہیں۔ حدیث بالا میں ایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا کا ذکر، کھانے پینے کا ذکر ایک فضول تذکرہ معلوم ہوتا ہے اور حضور کی عادتِ شریفہ لا یعنی چیزوں میں مشغول ہونے کی نہیں تھی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں وارد ہے، گذشتہ باب کی طویل حدیث جو نمبرے پر گزری ہے، اس میں بھی ہے کہ حضور ضروری امور کے علاوہ سے اپنی زبان کو محفوظ رکھتے تھے۔

عن <sup>(۲)</sup> عمرو بن العاص قال: كان رسول الله ﷺ يُقبل بوجهه و حدیثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يُقبل بوجهه و حدیثه على حَتِّي ظنت أن خير القوم،

اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کا ہر تذکرہ فضول نہیں بلکہ دنیا کے اور کھانے پینے کے بہت سے تذکرے ضروری بلکہ حضور کے لئے تو واجب تھے اس لئے کہ ان چیزوں میں جائز ناجائز، کسی چیز کا اچھا ہونا یا بُرا ہونا وغیرہ امور حضور ہی کے ارشاد سے یا حضور کے سامنے تذکرہ آنے پر حضور کے اس پر سکوت فرمائے ہی سے معلوم ہو سکتے ہیں، چنانچہ اُسی حدیث میں یہ مضمون بھی گذر اہے کہ لوگوں کے حالات کی تحقیق فرمائ کر اچھی بات کی تحسین فرماتے اور بری بات کی بُرائی بتاتے، اسی لحاظ سے دنیاوی تذکرے حضور کی مجلس میں ہوتے تھے نہ یہ کہ لغویات ہوتی ہوں۔

(۲) عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قوم کے بدترین شخص کی طرف بھی حضور اقدس ﷺ تالیف قلوب کے خیال سے اپنی توجہ اور اپنی خصوصی گفتگو مبذول فرماتے تھے (جس کی وجہ سے اُس کو اپنی خصوصیت کا خیال ہو جاتا تھا) چنانچہ خود میری طرف بھی حضور کی توجہات عالیہ اور کلام کارخ بہت زیادہ رہتا تھا حتیٰ کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ میں قوم کا بہترین شخص ہوں اسی وجہ سے حضور سب سے زیادہ توجہ فرماتے ہیں۔ میں نے اسی خیال پر ایک دن دریافت کیا کہ حضور! میں افضل ہوں یا ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پھر میں نے پوچھا کہ میں افضل ہوں یا عمر رضی اللہ عنہ؟ حضور نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر میں نے پوچھا کہ میں افضل ہوں یا عثمان رضی اللہ عنہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ۔ جب میں نے حضور سے تصریح کیا پوچھتا تو حضور نے بلارعایت صحیح فرمادیا (میری مدارات میں مجھے افضل نہیں فرمایا، مجھے اپنی اس حرکت پر بعد میں ندامت ہوئی) اور یہ خیال ہوا کہ مجھے ایک بات ہرگز نہیں پوچھنی چاہئی تھی۔

أشر القوم: استعمال الألف فيه قليل، وقيل: لا يقال: "أشر" إلا في لغة ردية. وقال ميرك: "أشر" جاء على الأصل، ومنه صغرها شراها، ويقال: خير أخير، وشر أشر، لكن الذي بالألف أقل استعمالاً. يتألفهم: أي: يوانسهم بتلك المواجهة والإقبال، والجملة استثنافية من أسلوب الحكيم، كأنه قيل: لماذا يفعل ذلك؟ قال: لتألفهم، والضمير لـ"أشر"; لأنه جمع معنٍ، أو للقوم؛ لأن التألف عام لهم، لكنه في الأشر أزيد، ولا ينافيه استواء صحبه في الإقبال عليهم على ما سبق؛ لأن ذلك حيث لا ضرورة وھنَا التخصيص للضرورة. ظنت: لأنى كنت حديث عهد بالإسلام، إذ إسلامه كخالد بن الوليد قريب الفتاح، فكان لا يعرف شيمته ﷺ في التألف، فظن لکثرة إقباله أنه خير القوم.

فقلت: يا رسول الله! أنا خير أو أبو بكر؟ فقال: أبو بكر، فقلت: يا رسول الله! أنا خير أم عمر؟ فقال: عمر، فقلت: يا رسول الله! أنا خير أم عثمان؟ فقال: عثمان، فلما سأله رسول الله ﷺ فصدقني، فلَوْدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَائِلَهُ . حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر بن سليمان الصُّبُّعِيُّ، عن ثابت،

فائدہ: یہ اولاً حضور کی خاص توجہ کی بنا پر اپنے کو سب سے افضل سمجھتے تھے، اس لئے کہ پہلی طویل روایت سے معلوم ہو چکا ہے کہ حضور کی عادتِ شریفہ افضل کے ترجیح دینے کی تھی، لیکن باوقات تالیفِ قلب کے خیال سے مدارات میں غیر افضل کو بھی ترجیح دی جاتی تھی کہ کفار و منافقین تک کے ساتھ حضور اقدس ﷺ کا تالیف میں خصوصی برداشت ہوتا تھا۔ حدیثِ بالا میں یہ ترتیب سوال کی اس بناء پر ہے کہ خود حضور اقدس ﷺ کے زمانہ میں صحابہ کرام علیہم السلام عزیز امین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو افضل الناس جانتے تھے، چنانچہ احادیث میں اس کی تصریح آتی ہے کہ ہم حضور ہی کے زمانہ میں سب سے زیادہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کے زمانہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہ سمجھتے تھے، ان کے بعد سب سے افضل عمر کو، ان کے بعد عثمان کو، پھر ان کے بعد اور صحابہ میں کچھ ترجیح نہ دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان تین حضرات کی اس ترتیب سے ترجیح اور افضليت ایسی عیاں تھی کہ حضور کی حیات ہی میں ہم صحابہ کی جماعت اس کو مانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ محمد نے اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور کے بعد سب سے افضل شخص کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں نے پوچھا ان کے بعد؟ انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ۔

**صدقني:** بتحقيق الدال أي: أحبابي بحواب حق من غير مراعاه، وفي النسخ بدون الفاء وهو الظاهر؛ لأن إثبات "الفاء" في جواب "لما" غير مشهور، لكنه سائع كما صرحت به بعض أئمه النحو. **فلَوْدِدْتُ:** بكسر الدال أي: أحببت وتمنيت، قال الملاوي: حياءً لظهور خطأه وظننه. قال الملاوي: إنما وَذَلِكَ؛ لأنَّه قبل السؤال كان يظن إقباله عليه لغثيريته، فلما سأله بان له أن إقباله عليه إنما هو للتأليف، فالملاوي: لما ظهر خطأي ندمت على السؤال استحياء من فحش خطائي. **الصُّبُّعِيُّ:** بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة، نسبة إلى ضبيعة بن قيس، أو ضبيعة بن ربيعة، كذا في هامش التهذيب.

عن <sup>(۳)</sup> أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين، فما قال لي: "أفِّ" قط،

اسی طرح سے اور بہت سی روایات ہیں جن سے حضور کے زمانہ ہی سے یہ ترتیب معلوم ہوتی ہے اسی لئے انہوں نے اپنے سے مقابلہ کے لئے اسی ترتیب سے سوال کیا کہ اول اُس سے مقابلہ کیا جو سب سے افضل شمار ہوتا تھا، پھر نمبر ۲ پھر نمبر ۳ سے کہ میں اگرچہ افضل ترین شخص سے نہیں بڑھ سکتا تو شاید نمبر ۲ یا نمبر ۳ ہی سے بڑھ جاؤ۔

(۳) انس رضي الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے دس برس حضور اقدس ﷺ کی خدمت کی ہے مجھے کبھی کسی بات پر حضور نے افواہ تک بھی نہیں فرمایا، نہ کسی کام کے کرنے پر یہ فرمایا کہ کیوں کیا؟ اور اسی طرح نہ کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ فرمایا کہ کیوں نہیں کیا؟۔ حضور اقدس ﷺ اخلاق میں تمام دنیا سے بہتر تھے (ایسے ہی خلقت کے اعتبار سے بھی حتیٰ کہ) میں نے کبھی کوئی ریشمی کپڑا یا خالص ریشم یا کوئی اور نرم چیز ایسی نہیں چھوٹی جو حضور اقدس ﷺ کی بابرکت ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو اور میں نے کبھی کسی قسم کا مشکل یا کوئی عطر حضور اکرم ﷺ کے پیسہ کی خوبی سے زیادہ خوبی دار نہیں سو نگھا۔

فائدہ: یہ کوئی مبالغہ آمیز یا اعتقادی بات نہیں۔ حضور اقدس ﷺ کا پیسہ مبارک جمع کر کے خوبی کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا، جس سے آپ مصالحت کرتے تھے تمام دن اُس کے ہاتھ سے خوبی مہکتی تھی۔ گناہوں کی کثرت سے بدن کی سرماہند مجرّب ہے۔ حضور کا کسی چیز کے متعلق اُف تک نہ فرماتا یہ کمال اخلاق اور غایت تواضع کی بناء پر تھا کہ حضرت انس رضي الله عنه کے

عشر سنین: ہکذا فی أكثر الروايات، وفي رواية لمسلم: تسع سنين. قال المناوي: وحملت على التحديد، والأولى على التقريب، وقال النووي: لعل ابتداء خدمة أنس في أثناء السنة، ففي رواية التسع لم يجبر الكسر واعتبر السنين الكوامل، وفي رواية العشر جبرها واعتبرها سنة كاملة، وقال الحافظ ابن حجر: لا مغافرة بينهما، لأن ابتداء خدمة أنس كان بعد قدومه ﷺ المدينة وبعد تزويج أمه أم سليم بأبي طلحة، وعلى هذا يكون مدة خدمة أنس تسع سنين وأشهر، فالمعنى الكسر مرة وجبره أخرى، ويشكل عليه ما في معاذي البخاري: عن أنس أن النبي ﷺ طلب من أبي طلحة لما أراد الخروج إلى خير من يخدمه فأحضر له أنساً، وأجيب: بأنه طلب منه من يكون أنس من أنس وأقوى على الخدمة في السفر، فعرف أبو طلحة من أنس القوة فقال: إن أنساً غلام كيس فيخدمك في الحضر والسفر.

أَفِّ: بضم الهمزة وتشديد الفاء، مكسورة بلا تنوين، وبه، ومفتوحة بلا تنوين، فهذه ثلاثة لغات قرئ بها في السبع، وذكروا فيه أربعين لغات، كلمة تَبَرُّ و مَلَلْ يستوي فيها الواحد والثنى، الجمع والمذكر والمؤنث. قط: بفتح قاف وتشديد طاء مضمومة، كذلك في أصول، أي: أبداً، وهي لتوكييد نفي الماضي.

وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنْعَتَهُ، وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكَهُ: لَمْ تَرَكَهُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، لَمَّا سِنَتْ حَزَّاً وَلَا حَرِيرًا، وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلَيْنَ مِنْ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
تَعَمِّم بَعْدَ تَحْصِيصٍ

کرنے نہ کرنے کو ان کا اپنا فعل نہ سمجھتے تھے بلکہ مجاہب اللہ سمجھ کر اُسی پر راضی ہو جاتے تھے، چنانچہ ایک حدیث میں اس کے بعد یہ مضمون بھی ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمادیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، مقدر میں ہوتا تو ہو جاتا۔ یہ محبوب کے فعل کے ساتھ غایت لذت ہے اور صوفیہ کی اصطلاح میں رضا بر قرقاکی اصل اور سند ہے۔

رابعہ بصریہ کا مشہور مقولہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ: اے اللہ! اگر تو میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالے تو میری محبت میں اس سے کچھ اضافہ ہی ہو گا۔ اور کامیں صوفیہ کے تمام ہی حالات حضور اقدس ﷺ کے مختلف احوال سے اخذ کیے گئے ہیں، لیکن نبی کریم ﷺ کی ذات جامعیت کے کمال پر تھی، بعد میں جامعیت کا یہ درجہ نہیں رہ سکا اس لئے حضرات صوفیہ کرام میں کسی جگہ حضور کی کسی عادت کا ظہور ہوا اور کسی جگہ کسی دوسری حالت کا شیوع ہوا۔ یہاں یہ بات قبل لحاظ ہے کہ حضور کا یہ معاملہ اپنی ذات کے متعلق تھا۔

حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنی ذات کے لئے کبھی بھی انتقام نہیں لیا، البتہ اللہ بلطفہ کسی حرمت کا ہتک کیا جائے (مثلاً کسی حرام چیز کا ارتکاب کیا جائے) تو اس کا بدلہ ضرور لیتے تھے۔ حضور کی گفتگو کے باب میں نمبر ۳ پر بھی اس قسم کا مضمون گذر چکا ہے۔ (لطیفہ) اس حدیث کے اخیر جزو کے متعلق ایک عجیب قصہ ہے جس سے حضرات صحابہ کرام اور محدثین ثبوط عینہ بعینہ کی حضور کے ساتھ غایت محبت اور عشق کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت انس ؓ ایک مرتبہ غایت فرحت ولذت کے ساتھ کہنے لگے کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ مصافحہ کیا،

لشیء صنعته: أي: مما يتعلّق بآداب خدمة، لا فيما يتعلّق بالتكلّيف الشرعية، قاله القراري، وفي المشكوة برواية الشيحيين عن عائشة: ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه في شيء قط إلا أن ينتهك حرمة الله فينتقم له بها، وتقديم في باب كلامه شيء منه. لامست: لهذا الجزء من الحديث تسلسل بالمصافحة، ذكره الشاه ولی الله الدھلوی رحمۃ في رسالته المسليفات برواية أبي هرمز عن أنس، وقد ذكره الحافظ في اللسان بسنده برواية ثابت عن أنس.

حزراً: [ثواباً مُركباً من حرير وغيره، أو ثياب تعمل من صوف وحرير، أو ثياب تعمل من حرير وإبريس، وقيل: الحز اسم الدابة، ثم سمى المتعدد من وبرها فيكون فروا ناعماً]. حريراً: [أي: حالاً لغير ما قبله].

وَلَا شَمَّتْ مِسْكَا قُطُّ وَلَا عِطْرَا كَانَ أَطِيبُ مِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . حَدَثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِهِ - هُوَ الْضَّيْئُ - وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا: حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَلْمَ الْعَلَوِيِّ، عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِهِ أَثْرٌ صُفْرَةٌ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ،

أَيْ: يَكْرَهُ الرَّجُلُ ذَلِكَ الشَّيْءُ

میں نے کبھی کسی فرض کی حریر یا ریشم حضور کے ہاتھوں سے زیادہ زرم نہیں دیکھی۔ شاگرد نے جس کے سامنے یہ حدیث بیان کی اسی شوق سے عرض کیا کہ میں بھی ان ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں جن ہاتھوں نے حضور سے مصافحہ کیا۔ اُس کے بعد سے یہ سلسلہ ایسا جاری ہوا کہ آج ساڑھے تیرہ سو برس سے زیادہ تک یہ سلسلہ جاری ہے اور مصافحہ کی حدیث سے یہ مشہور ہے کہ اس حدیث میں مسلسل مصافحہ ہوتا آیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالتہ ”مسلسلات“ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے جس کے ذریعہ سے میرے استاذ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب فرقہ شافعیہ تک بھی اسی طرح پہنچی۔ (۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا جس پر زور دنگ کا کپڑا تھا۔ حضور اقدس ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ناگوار بات کو منہ درمنہ منع نہ فرماتے تھے، اس لئے سکوت فرمایا اور جب وہ شخص چلا گیا تو حضور نے حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس کو زور د کپڑے سے منع کر دیتے تو اچھا ہوتا۔

فائدہ: حضور اقدس ﷺ کی یہ امت پر غایت شفقت تھی کہ اکثر بالمواجه ایسے امور کو منع نہ فرماتے تھے اس لئے کہ مبادا وہ شخص انکار کر بیٹھے یا اعتراض کا سبب بن جائے جس سے کفر تک کی نوبت پہنچ جائے۔ اگر ان امور سے اطمینان ہوتا تو منع بھی فرمادیتے، چنانچہ عبد اللہ بن عمر و بن العاص کو ایسے ہی کپڑوں سے حضور نے خود منع فرمادیا تھا، اسی طرح اور

مسکا: [طیب معروف، وأصله: دم یتحمد فی خارج سرّة الطبلیة، ثم ینقلب طیبا، وهو ظاهر إجماعاً]. عرق: بفتحتين معروف، وفي نسخة: عرف بفتح عین وسكون راء ففاء، والمعتمد الأول. الضئي: بفتح الضاد المعجمة والباء المكسورة المشددة، نسبة إلى بني ضبة، وهم جماعة. سلم العلوی: سلم بفتح فسكون، قاله القاري، هو سلم بن قيس العلوی البصري، والعلوی نسبة لقبيلة بني علي بن ثوبان، قاله المناوي، وقال أبو داود في سننه: ليس هو علویا، كان ينصر في النجوم يعني فنسب إليه. أثر صفرة: [أي: عليه بقية صفرة من زعفران].

فلماً قام قال للقوم: لو قلتم له: يَدَعُ هذه الصُّفْرَة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله الجَذَلِيِّ، - واسمها عبد بن عبد -

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالم فاحشاً<sup>(۵)</sup>

بہت سے واقعات حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ نیز یہ تا خیر اور بالمواجہ منع نہ فرمانا یے ہی موضع میں تھا جہاں خلاف اولی بات ہو یا تا خیر میں کوئی نقصان نہ ہو، ورنہ حرام چیز کے ارتکاب میں یہ صورت نہ تھی، چنانچہ حضور کی گفتگو کے باب میں نمبر ۳ پر جو مفصل روایت گزری ہے اُس میں ہے کہ جب امر حق سے تجاوز کیا جاتا تو اُس وقت آپ کے عضدہ کی کوئی شخص تاب نہ لاسکتا تھا اور نہ کوئی اُس کو روک سکتا تھا جب تک کہ حضور اُس کا انتقام نہ لے لیں۔ آئندہ حدیث میں بھی اسی قسم کا مضمون آرہا ہے۔

(۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالم نہ تو طبعاً فحش گو تھے نہ بتکلف فحش بات فرماتے تھے، نہ بازاروں میں چلا کر (خلاف وقار) باتیں کرتے تھے۔ بُراً کا بدلہ بُراً سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف فرمادیتے تھے اور اس کا ذکر متذکرہ بھی نہ فرماتے تھے۔ فائدہ: بعض آدمی طبعاً فحش اور یہودہ مذاق کے عادی ہوتے ہیں اور بعض لوگ بتکلف مجلس کے طرز کو بھانے کے لئے فحش گوئی کیا کرتے ہیں، اس لئے حضرت عائشہ نے دونوں کی نفی فرمادی۔ بازار میں بغز و رت جانے میں مصائب نہیں ہے لیکن وہاں جا کر شور و شغب کرنا وقار کے خلاف ہے۔ سکون کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر کے چلا آئے۔ بازار میں شور کی نفی سے یہ لازم نہیں ہے کہ اور جگہ شور و شغب کرتے تھے بلکہ مقصد یہ ہے کہ بازار میں عموماً شور و غل ہوتا ہے اور جو شخص وہاں بھی سکون و وقار سے رہے گا اُس کا دوسرا جگہ سکون سے رہنا ظاہر ہے۔

للقوم: [أصحابه الحاضرين بالجلس]. لو قلتم له إلخ: قال المناوي: لأن فيها نوع تشبيه بالنساء، ولعله كان مباحاً وإنما آخر أمره بتركه، وقال القاري: هذا على الشيء المكره؛ إذ وجود أثر صفة من غير قصد التشبيه بالنساء مكره، وإنما فلو كان محاماً لم يؤخره إلى مفارقة الجلس. الجذلي: بفتح الجيم والدال المهملة، منسوب إلى قبيلة جديلة.

فاحشا: أي: ذا فحش في أقواله وأفعاله، وصفاته، وهو: ما خرج عن مقداره حتى يستتبع، إلا أن استعماله في القول أكثر، والمتفحش: المتتكلف للفحش، والمعنى: لم يكن الفحش طبيعياً له ولا كسيباً.

وَلَا مُتَفَحَّشًا، وَلَا صَحَابًا فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِئُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفُحُ.

بِالصَّادِ وَالسَّينِ

حدَثَنَا هَارُونَ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هَشَامِ بْنِ عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،  
بِسْكُونِ الْبَيْمَ

برائی کا بدله بُرائی سے نہ دینے کے متعلق حضور کی ساری سوانح بھری ہوئی ہے کہ کفار سے کیا کیا اذیتیں نہیں پہنچیں، احمد کی لڑائی میں حضور کے ساتھ کیا کیا پیش نہیں آیا اور جب صحابہ نے ان حالات سے متاثر ہو کر حضور سے بد دعا کی درخواست کی تو حضور نے دعا کی کہ اے اللہ! میری قوم کو ہدایت فرما کہ یہ ناواقف ہے۔ زید بن سمعہ پہلے سے یہودی تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نبوت کی علماتوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں رہی جس کو میں نے حضور میں نہ دیکھ لیا ہو بجز دو علماتوں کے جن کے تجربہ کی اب تک نوبت نہیں آئی: ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے عنقه پر غالب ہو گا، دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی جتنا بھی جہالت کا برداشت کرے گا اسی قدر آپ کا تخلی زیادہ ہو گا۔ میں ان دونوں کے امتحان کا موقع تلاش کرتا رہا اور آمد و رفت بڑھاتا رہا۔ ایک دن آپ جمرہ سے باہر تشریف لائے، حضرت علیؑ آپ کے ساتھ تھے کہ ایک بد وی جیسا شخص آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو بھر پور رزق تم کو ملے گا، اور اب حالت یہ ہے کہ قط پڑ گیا، مجھے یہ ذر ہے کہ وہ اسلام سے نہ نکل جائیں، اگر رائے مبارک ہو تو آپ کچھ اعانت ان کی فرمادیں۔ حضور نے ایک شخص کی طرف جو غالباً حضرت علیؑ تھے، دیکھا انہوں نے عرض کیا کہ حضور موجود تو کچھ نہیں رہا۔ زید جو اس وقت تک یہودی تھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم ایسا کر سکو کہ فلاں شخص کے باغ کی اتنی کھجوریں وقت معین پر مجھے دے دو تو میں قیمت پیشگی اب دے دوں اور وقت معینہ پر کھجوریں لے لوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ اگر باغ کی تعیین نہ کرو تو میں معاملہ کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کو قبول کر لیا اور میں نے کھجوروں کی قیمت اسی مثقال سونا (ایک مثقال مشہور قول کے موافق سائز ہے چار ماشہ کا ہوتا ہے) دے دیا۔

صَحَابَا: المقصود نفي الصحب لا نفي المبالغة، كأنها نظرت إلى أن المعتمد فيه هو المبالغة، ففتنه على صيغة المبالغة، وقيل: فعال قد يكون للنسبة كالتمار واللبان، وقيل: المقصود من أمثال هذا الكلام مبالغة النفي لا نفي المبالغة، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [ق: ٢٩] يعفو: [أى يعامل الجاني معاملة العافي]. ويصفح: أى: يعرض بظاهره، وأصله الإعراض بصفحة الوجه، والمراد عدم المقابلة بذكره وظهوره أثره، والمعنى: يغفوه بباطنه ويعرض عنه بظاهره كأنه لم يره.

آپ نے وہ سونا اُس بدوی کے حوالہ کر دیا اور فرمایا کہ انصاف کی رعایت رکھنا اور اس سے ان کی ضرورت پوری کرلو۔ زید کہتے ہیں کہ جب صحوروں کی ادائیگی کے وقت میں دو تین دن باقی رہ گئے تھے، حضور صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ جن میں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے، کسی کے جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے قریب تشریف فرماتھے۔ میں آیا اور آپ کے کرتے اور چادر کے بلکوں کو پکڑ کر نہیات ترش روئی سے کہا کہ اے محمد! تو میرا قرضہ ادا نہیں کرتا، خدا کی قسم! میں تم سب اولادِ عبد المطلب کو خوب جانتا ہوں کہ بڑے نادہند ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ع忿ہ سے مجھے گھورا اور کہا کہ اے خدا کے دشمن! یہ کیا بک رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر مجھے (حضور کا) ڈرنہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ لیکن حضور نہیات سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے اور قسم کے لہجہ میں عمر سے فرمایا کہ: عمر! میں اور یہ ایک اور چیز کے زیادہ محتاج تھے، وہ یہ کہ مجھے حق کے ادا کرنے میں خوبی برتنے کو کہتے اور اس کو مطالبه کرنے میں بہتر طریقہ کی نصیحت کرتے۔ جاذا اس کو لے جاؤ، اس کا حق ادا کر دو اور تم نے جو اس کو ڈانٹا ہے، اس کے بدالے میں میں صاع (تقریباً دو من کھجوریں) اس کے مطالبه سے زیادہ دے دینا۔

حضرت عمر مجھے لے گئے اور پورا مطالبه اور میں صاع کھجوریں زیادہ دیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ میں صاع کیسے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور کا یہی حکم ہے؟ زید نے کہا کہ عمر! تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ میں زید بن سعہنہ ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو یہود کا بڑا علامہ ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں! وہی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر حضور کے ساتھ تم نے یہ کیا برداشت کیا؟ میں نے کہا کہ علاماتِ نبوت میں سے دو علامتیں ایسی رہ گئیں تھیں جن کا مجھ کو اب تک تجربہ کرنے کی نوبت نہ آئی تھی: ایک یہ کہ آپ کا جلنم آپ کے ع忿ہ پر غالب ہو گا۔ دوسری یہ کہ ان کے ساتھ سخت جہالت کا برداشت کے جلنم کو بڑھائے گا، اب ان دونوں کا بھی امتحان کر لیا۔ لہذا تم کو اپنے اسلام کا گواہ بناتا ہوں اور میرا آدھا مال امتِ محمدیہ پر صدقہ ہے۔ اس کے بعد حضور کی خدمت میں واپس آئے اور اسلام لے آئے، اُس کے بعد بہت سے غزوتوں میں شریک ہوئے اور تبوک کی لڑائی میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہ وأرضاه (جمع الفوائد جمع الوسائل)۔

عن <sup>(۶)</sup> عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يده شيئاً قطّ إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادماً ولا امرأة. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن الزهرى، عن عروة، عن <sup>(۷)</sup> عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متصرفاً من مظالمه ظلمها الانتصار دادستدن فقط، مالم يُتَهَكَ من محارم الله تعالى شيء،

(۶) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اللہ کے راستہ میں جہاد کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کبھی کسی خادم کو نہ کسی عورت (بیوی باندی وغیرہ) کو۔  
فائدہ: اللہ کے راستہ اور جہاد ہی میں حدود بھی داخل ہیں۔ نیز اس مارنے سے عذہ میں قصد آمارنا مراد ہے، اسی کو مارنا عرف میں کہتے ہیں بلا ارادہ یا مزارح میں کسی کے لگ جانا جیسا کہ بعض روایات میں ہے، اس کے منافی نہیں۔

(۷) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں: میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور اقدس ﷺ نے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی کے ظلم کا بدلہ لیا ہو، البتہ اللہ جل جلالہ کی حرمت میں سے کسی حرمت کا ہٹک ہوتا (یعنی مثلاً کسی حرام فعل کا کوئی مرتكب ہوتا۔ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ اسی میں آدمیوں کے حقوق بھی داخل ہیں) تو حضور سے زیادہ عذہ والا کوئی شخص نہیں ہوتا تھا۔ حضور اقدس ﷺ جب کبھی دوامروں میں اختیار دیے جاتے تھے تو ہمیشہ سہل کو اختیار فرماتے جب تک کہ اس میں کسی قسم کی معصیت وغیرہ نہ ہو۔

فائدہ: تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگ احمد میں جب عتبہ نے آپ پر پھر چلایا اور آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا

خادماً ولا امرأة: خصهما بالذكر اهتماماً بشأنهما، أو لكثره وقوع الضرب عليهما عادة، فضرهما وإن حاز بشرطه فالأولى تركه، قالوا: وهذا بخلاف الولد فالأولى تأدبه، والفرق: أن ضربه مصلحة تعود عليه فلم ينذر العفو، بخلاف ضربهما فإنه لحظ النفس فنذر العفو عنهمما. مظلمة: بكسر اللام، اسم لما تطلب عن المظلوم وهو ما أخذ منك وبفتح اللام مصدر ظلمه، وقيل: بالكسر والفتح ظلم وهو وضع الشيء في غير محله.

ظلمها: ظلمها بصيغة المجهول، والضمير المستتر راجع إلى رسول الله، والظلم متعد إلى مفعول واحد فلا يظهر لتعدي ظلم هنا بالضمير المتصوب وجه إلا أن يقال بنزع الخافض قاله القاري. محارم: جمع محرم: أي: شيء حرمه الله تعالى. قال القاري: الظاهر أنه مصدر ميمي بمعنى المفعول، أي: مالم يرتكب مما حرمه الله على عباده.

فإذا انتهكَ من محارم الله تعالى شيءٌ كان من أشدِهم في ذلك غضباً، وما خُيُور بين أمرَيْن إلا اختصار أيسرِهما هالم يكُن مائماً.

اور چہرۂ انور خون آلود ہو گیا تو بعض حاضرین نے عرض کیا کہ اس موزی کے لئے بدعا فرمادیں۔ حضور ﷺ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ! میری قوم کو ہدایت عطا فرماء، یہ تناولق ہیں۔ ایک بدوی ایک مرتبہ آیا اور حضور کی چادر مبارک پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پر نشان پڑ گیا اور یہ کہا کہ میرے ان اونٹوں پر غلہ لدوا دو، تم اپنے مال میں سے یا اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دیتے ہو (گویا بیت المال کا مال ہم ہی لوگوں کا ہے، تمہارا نہیں ہے) حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو اس چادر کھینچنے کا بدلہ نہیں دے گا میں غلہ نہیں دوں گا۔ اُس نے کہا کہ خدا کی قسم! بدلہ نہیں دیتا۔ حضور تبسم فرمائے تھے اور اس کے اونٹوں پر غلہ لدوا دیا۔ ہم لوگ حضور کے نام لیوا ہیں، اتباع کے دعویدار ہیں، یہاں ذرا سی بات خودداری کے خلاف ہو جاتی ہے، کوئی ذرا سخت لفظ کہہ دے تو وقار کے خلاف بن جاتی ہے۔

حدیث کے اخیر جملہ کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ ﷺ کی طرف سے جب آپ کو بالخصوص امت کے حق میں دو امر وہ کا اختیار دیا جاتا تو آپ امت کے لئے جو سہل ہوتا اُس کو اختیار فرماتے اور اسی طرح دنیاوی امور میں جہاں دورائے ہو تیں اُن میں سے سہل کو اختیار فرماتے جب تک کہ اُس میں کسی قسم کا شرعی نقصان نہ ہو۔ بہت سی احادیث میں مختلف عنوانات سے حضور کے ارشادات بھی اس مضمون میں وارد ہوئے ہیں کہ سہولت اختیار نہ کرنا اور خواہ اپنے کو مشقتوں میں ڈالنا حضور کو پسند نہ تھا۔

**غضباً:** قال المناوي: ليس هذا داخلا فيما قبله حتى يحتاج لاستدراكه؛ لأن انتقامه الله عند انتهاك حرماته ليس انتقاماً لنفسه فهو كالاستثناء المقطوع. **خُيُور:** ببناء المجهول قوله: "بين أمرَيْن" قال المناوي: أي في الدين كذا قال شارح، وليس بقولي، فقد قال الحافظ ابن حجر أحداً من كلام ابن السير: المراد أمور الدنيا فقط؛ بدليل قوله: مالم يكن إلها؛ لأن أمور الدين لا إله فيها، وحكي القاري عن غيره التخيير، إما بأن يخيرة الله تعالى فيما فيه عقوبات فيختار الأخف، أو في قتال الكفار وأخذ الجزية فيختار أحدهما، أو في حق أمته في المواجهة في العبادة والاقتصاد فيختار الاقتصاد، أو تخير من الله تعالى في حق أمته بين وجوب الشيء ونفيه، أو حرمته وإباحته. مالم: أي: مالم يكن الأيسر مائماً، فإن كان مائماً اختار الأشد. ومائماً بالفتح أي: مفضيا إلى الإثم، ففيه مجاز مرسل من إطلاق المسبب على سببه، وبعضهم جعل الاستثناء مقطعاً إن كان التخيير من الله، ومتصلة إن كان من غيره؛ إذ لا يتصور تخير الله تعالى إلا بين حائزتين.

حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكير، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله ﷺ وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة،

(۸) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ سے ایک شخص نے حاضری کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلہ کا کیسا برا آدمی ہے! یہ ارشاد فرمانے کے بعد اُس کو حاضری کی اجازت مرحمت فرمادی اور اُس کے اندر آنے پر اُس کے ساتھ نہایت رُزی سے باقی تھیں کیم۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشة رضي الله عنها نے پوچھا کہ حضور نے اُس کے بارے میں حاضر ہونے سے پہلے تو یہ لفظ ارشاد فرمایا تھا پھر اس قدر رُزی سے اس کے ساتھ کلام فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ! بدترین لوگوں میں سے ہے وہ شخص کہ لوگ اُس کی بد کلامی کی وجہ سے اُس کو چھوڑ دیں۔

فائدہ: اس شخص کا نام اکثر علماء نے ”عینہ“ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دل سے اُس وقت تک مسلمان بھی نہ ہوا تھا بلکہ نفاق کے طور پر ظاہر مسلمان تھا، حضور کا معاملہ اُس وقت تک منافقین کے ساتھ مسلمانوں ہی جیسا تھا اس لئے اس کے ساتھ بھی یہی بتاؤ تھا، چنانچہ حضور کے وصال کے بعد جب ارتدا دکا زور ہوا تو یہ مرتد ہو گیا تھا اور اپنے مخفی کفر کو ظاہر کر دیا تھا اور جب حضرت ابو بکر رضي الله عنه کی خدمت میں پکڑ کر لا گیا اور مدینہ کے نو عرب لڑکوں نے آوازے کئے شروع کیے کہ یہ بھی مرتد ہو گیا تھا تو اس نے یہ جواب دیا تھا کہ میں مسلمان ہی کب ہوا تھا جو مرتد ہوتا، لیکن اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے اور حضرت عمر رضي الله عنه کے زمانہ میں جہاد میں بھی شریک ہوئے۔ حضور اقدس ﷺ نے اسی لئے اُس کے آنے سے قبل اُس کی حالت پر تنبیہ فرمادی اور چونکہ یہ بہ نیتِ اصلاح اور دوسروں کو مضررت سے بچانے کے لئے تھا، اس لئے یہ کلام شرعاً غائب کی حدود میں داخل نہیں ہے،

رجل: قال المناوي: هو عبيدة بن حصن الفزارى الذى يقال له: الأحق المطاع، وجاء في رواية عبد الغنى التصريح عن عائشة بأنه مخرمة بن نوفل، فإن كانت الواقعة تعددت فظاهره ولا فالذى عليه المعمول هو الأول لصحة روايته، ولذا قال الخطيب وعياض: الصحيح أنه عبيدة قالوا: ويبعد أن يقول المصطفى ﷺ في حق مخرمة: ما قال؛ لأنه كان من خيار الصحابة. زاد المناوي: وكان عبيدة إذ ذاك مضمر النفاق، ويدل على ذلك أنه أظهر الردة بعده ﷺ، وجيء به إلى أبي بكر أسيراً، فكان الصبيان يصيرون عليه في أزقة المدينة ويقولون: هذا الذي خرج من الدين فيقول له: عمكم لم يدخل حتى يخرج، فكان قوله ﷺ هذا علما من أعلام النبوة حيث أشار لمغيب يقع، لكن أسلم بعد ذلك. وحسن إسلامه وحضر بعض الفتوحات في زمن عمر ﷺ. بئس ابن العشيرة: [أي: بئس هذا الرجل من هذه القبيلة.]

-أَوْ أَخُ الْعِشْرَةِ - ثُمَّ أَذِنْ لَهُ، فَلَأَنَّ لَهُ الْقَوْلُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَلَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَلَتْ، مَا قَلَتْ ثُمَّ النَّفْتَ لَهُ الْقَوْلُ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةً! إِنَّ مَنْ شَرَّ النَّاسَ مِنْ تَرْكَهُ النَّاسُ -أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ- اتقاء فُحْشَهُ. حَدَثَنَا سَفِيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَثَنَا جُمِيعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَجْلَى، حَدَثَنِي رَجُلٌ مِّنْ بَنِي قَيْمٍ مِّنْ وَلَدَ أُبَيِّ هَالَةٍ زَوْجُ حَدِيجَةِ يُكَنِّي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبْنَى لَأُبَيِّ هَالَةٍ،

اس لئے کہ کسی شخص کی بُرائی کو اس وجہ سے ظاہر کرنا کہ لوگ اُس کی بُرائی کا شکار نہ بن جائیں اور کسی نقصان میں نہ پھنس جائیں، غیبت کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص علی الاعلان فاسق تھا اور جو کھلم کھلا فسق و فجور میں بنتا ہوا اُس کی غیبت جائز ہے۔ اس کے حاضر ہونے پر اس کے ساتھ نرم کلامی اس کی تایفِ قلب اور اس کے مانوس کرنے کے لئے فرمائی، جیسا کہ حضور کی خصوصی عادت تھی۔

نیز حضور اقدس ﷺ کی عادتِ شریفہ سب ہی کے ساتھ نرم کلامی کی تھی اور اسی وجہ سے اُس کے آنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ کو اس امر پر متنبہ بھی کر دیا کہ حضور کے اس طرز کی وجہ سے اُس کو مخلص نہ سمجھیں، وہ کچھ بھلا آدمی نہیں، ایسا نہ ہو کہ حضور کے اس طرزِ معاشرت کی وجہ سے اس کو مخلص اور خیر خواہ سمجھیں اور اس دھوکہ کی وجہ سے کسی مضرت میں پڑ جائیں، یا کوئی راز کی بات اُس کے سامنے کہہ دیں کہ ایسے منافق لوگ خصوصیات جانے کے لئے ایسے ہی خصوصی اور اہم تذکرے چھیڑا کرتے ہیں۔ اخیر جملہ میں حضور اقدس ﷺ کے پاک ارشاد "بدترین شخص" کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ اس کا تعلق آنے والے سے ہو یعنی اس کی فخش گوئی سے بچنے کے لئے اس کے ساتھ یہ برتابہ کیا گیا کہ یہ فخش گو ہے، یا اس کا تعلق حضور کی ذات سے ہے یعنی مجھے فخش گو تو نے کب دیکھا تھا کہ اس کی منتظر تھی۔

أَوْ أَخُ الشَّكِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ شَكٌ مِّنْ سَفِيَانَ، فَإِنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ رَوَوْهُ بِدُونِ الشَّكِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ "أَوْ لِلتَّحْيِيرِ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ فِي الْبَخَارِيِّ: "بَشَّ ابْنُ الْعَشِيرَةِ وَبَشَ أَخُو الْعَشِيرَةِ" بِدُونِ الشَّكِ قَالَهُ الْقَارِيُّ.

فَلَأَنَّ لَهُ الْقَوْلُ: [أَيْ: لَطْفَهُ لَهُ لِتَأْلِفِهِ، لِيُسْلِمَ قَوْمَهُ لِأَنَّهُ كَانَ رَئِيْسَهُمْ]. اتقاء: نصب على العلة، والمعنى: أني إنما تركت الانقباض في وجهه ابقاء فحشه، وفي رواية البخاري: متى عهدتني فحاشا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيمة من تركه الناس ابقاء شره. عمر: كذا في جميع النسخ الموجودة عندي، وتقدم في مبدء الكتاب أن المرجح فيه عمر بالتصغير.

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال الحسين بن علي: سألت أبي عن سيرة رسول الله ﷺ في جلسائه؟ فقال: (كان رسول الله ﷺ دائم البشر، سهل الخلق، لَسِين الجانب، ليس بفظٍ)،

وہ برا شخص ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس آنا چھوڑ دیں، میں اگر ایسی گفتگو کروں تو لوگ میرے پاس کی آمد و رفت بھی چھوڑ دیں جس سے اگرچہ ان کو ہی نقصان ہے مگر حضور ان کا نقصان کب گوارا فرماسکتے ہیں۔

(۹) (یہ اس بھی حدیث کا ایک مکارا ہے جو قریب ہی حضور اقدس ﷺ کی تواضع کے باب میں نمبرے پر گزر چکی ہے۔) حضرت امام حسن رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھ سے (میرے چھوٹے بھائی) حسین نے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضي الله عنه سے حضور کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ کا طرز پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خندہ پیٹھانی اور خوش خلقی کے ساتھ متصف رہتے تھے، یعنی چہرہ انور پر تبسم اور بشاشةت کا اثر نمایاں ہوتا تھا، آپ زم مزاج تھے یعنی کسی کسی بات میں لوگوں کو آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ سہولت سے موافق ہو جاتے تھے۔ نہ آپ سخت گو تھے اور نہ سخت دل تھے، نہ آپ چلا کر بولتے تھے نہ فرش گوئی اور بد کلامی فرماتے تھے، نہ عیب گیر تھے کہ دوسروں کے عیوب پکڑیں، نہ زیادہ مبالغہ سے تعریف کرنے والے، نہ زیادہ مذاق کرنے والے، نہ بخیل (تین لفاظ اس جگہ نقل کئے گئے تینوں کا ترجمہ لکھ دیا)

الحسن بن علي رضي الله عنهما: هذا الحديث جزء من الحديث الطويل الذي جزأه المصنف على أبواب، ذكر جزءاً منه في الباب الأول من الكتاب، وجزءاً منه في كلامه صلوات الله عليه، وجزءاً في تواضعه صلوات الله عليه، وذكره صاحب جمع الفوائد بطلوله برواية الموصلي والبزار والأوسط. البشر: بكسر أوله طلاقة الوجه وبشاشةته، واستشكل بما مر أنه كان متواصل الأحزان، وأحبيب بأن حزنه بسبب أحوال الآخرة، أما بالنسبة لأمور الدنيا يكون دائم البشر فكان حزنه ليس على فوت مطلوب أو حصول مكروه قاله المناوي. الخلق: بضم الخاء، أي: ليس بصعبه أو ليس بخشنه، فعلى الأول هو وصف خلقه بالنسبة إليه صلوات الله عليه، يعني لم يكن خلقه آیا غير منقاد، وعلى الثاني وصف له بالنسبة لغيره، يعني لم يكن خلقنا يتأنى به جليسه.

لَسِين: بكسر التحتية المشددة، أي: سريع العطف كثير اللطف، وقيل: قليل الخلاف قاله القاري، وقال المناوي: أي سليماً مطيناً منقاداً قليلاً الخلاف. بفظ: بفتح فاء وتشديد ظاء معجمة، وهو من الرجال سبع الخلق قاله الجزري، وقال الجوهري: هو الغليظ لكنه لا يلائم قوله: ولا غليظ، اللهم إلا أن يحمل أحدهما على فظاظة اللسان والآخر على فظاظة القلب، قال عز اسمه: فَوْلَوْ كُنْتَ فَظَاعْلَيْظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضْوَا مِنْ حَوْلِكَ [آل عمران: ۱۵۹]

ولا غلظ، ولا صحّاب، ولا فحاش ولا عيّاب، ولا مُشاحَّ، يتغافل عما لا يشهي، ولا يُؤيّس  
الصحاب: شدة الصوت  
منه، ولا يجىب فيه. قد ترك نفسه من ثلات: الماء، والإكبار، وما لا يعنيه، وترك الناسَ من  
الجدال ثلات: كان لا يذم أحداً، ولا يعنيه، ولا يطلب عورته،

آپ ناپسند بات سے اعراض فرماتے تھے یعنی ادھر الفاظ نہ فرماتے گویا سنی ہی نہیں۔ دوسرے کی کوئی خواہش اگر آپ کو پسند نہ آتی تو اُس کو مایوس بھی نہ فرماتے تھے اور اُس کا وعدہ بھی نہ فرماتے تھے۔ آپ نے تمین بالوں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ فرمائھا: جھگڑے سے اور تکبر سے اور بیکار بات سے۔ اور تمین بالوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا: نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے تھے۔ آپ صرف وہی کلام فرماتے تھے جو باعثِ اجر و ثواب ہو۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں (کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ پرند ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے) جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام کرتے (یعنی حضور اقدس اللہ تعالیٰ کی گفتگو کے درمیان میں کوئی شخص نہ بولتا تھا، جو کچھ کہنا ہوتا حضور کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا) آپ کے سامنے کسی بات میں نزاع نہ کرتے تھے۔ آپ سے جب کوئی شخص بات کرتا تو اُس کے خاموش ہونے تک سب ساکت رہتے۔

وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيمَا رَجَأَ ثَوَابَهُ، وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلْسَاهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، لَا يَتَنَازَعُونَ عَنْهُ الْحَدِيثُ، وَمَنْ تَكَلَّمَ عَنْهُ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرَغَ، حَدِيثُهُمْ عَنْهُ: حَدِيثُ أَوْهَمٍ، يَضْحَكُ مَا يَضْحَكُونَ مِنْهُ، وَيَتَعَجَّبُ مَا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، وَيَصِيرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقَهِ وَمَسْأَلَتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابَهُ لَيَسْتَجْلِبُونَهُمْ.

ہر شخص کی بات (تو جہ سے سنتے میں) ایسی ہوتی جیسے پہلے شخص کی گفتگو (یعنی بے قدری سے کسی کی بات نہیں سُنی جاتی تھی)، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مجلس کی ابتداء میں تو توجہ تام ہوتی ہے پھر کچھ دیر ہونے سے اکتنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ بے توجہ سے ہو جایا کرتی ہے) جس بات سے سب ہنسنے آپ بھی قبسم فرماتے اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ بھی تعجب میں شریک رہتے، یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، بلکہ معاشرت اور طرزِ کلام میں شرکاء مجلس کے شریک حال رہتے۔ ابھی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بے تمیزی کے سوال پر صبر فرماتے یعنی گاووی لوگ جایجا سوالات کرتے، آداب کی رعایت نہ کر کے ہر قسم کے سوالات کرتے۔ حضور ان پر گرفت نہ فرماتے، ان پر صبر فرماتے اور اس وجہ سے کہ وہ لوگ ہر قسم کے سوالات کر لیتے تھے، بعض صحابہ آپ کی مجلس اقدس تک مسافروں کو لے کر آیا کرتے تھے (تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات سے خود بھی مستقیم ہوں اور ایسی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے یہ حضرات خود نہ پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں) آپ یہ بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ جب کسی طالب حاجت کو دیکھو تو اُس کی امداد کیا کرو (اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ اُس کو گوارانہ فرماتے) البتہ اگر بطور شکریہ اور ادائے احسان کے کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ سکوت فرماتے کہ احسان کا شکر اُس پر ضروری تھا

حدیث أَوْهَمٌ: أي: ك الحديث أَوْهَم في عدم الملل منه، أو في الإصغاء إليه؛ إذ العادة جارية بالملال إذا كثر المقال قاله القاري، وقيل: لا يتحدث أولاً إلا من جاء أولاً على الترتيب، وقيل: المراد بأوهَم: أفضلهم، أي: يصغي الحديث كلهم كما يصغي الحديث أفضلهم. الجفوة: بفتح الجيم وقد يكسر، أي: على الجفاء والغلظة وسوء الأدب مما كان يصدر من جفاة الأعراب، وقد ورد: من بدا جفا. لِيَسْتَجْلِبُونَهُمْ: أي: يتمون مأني الغباء إلى مجلسه ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدهونه في غيبيتهم؛ لأنهم يهابون بسؤاله، وقيل: معناه يستجلبون حواطراهم مما رأوه من صبره لهم، وقيل: المراد جذبهم عن مجلسه ومنعهم عن الجناء.

ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الشفاء إلا من مكافىء، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. حدثنا محمد بن شمار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله ﷺ شيئاً قطّ فقال: لا. حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي، حدثنا إبراهيم بن سعيد، عن ابن شهاب،

اس لئے وہ گویا پنا فرضِ منصبی ادا کر رہا ہے۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تعریف حدود کے اندر کرتا تو سکوت کرتے یعنی حد سے تجاوز کرتا تو روک دیتے۔ کسی کی گفتگو کو قطع نہ فرماتے تھے کہ دوسرے کی بات کاٹ کر اپنی شروع فرمادیں، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے۔ تاکہ وہ خود روک جائے۔ فائدہ: یہ حدیث گذشتہ باب کی ساتویں حدیث کا لکھرا ہے۔ مفضل روایت جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام سوالات سمجھا ہیں، جمع الغواہ اور شفاعة قاضی عیاض میں موجود ہے۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے مختلف بابوں کی مناسبت سے اس حدیث کو کئی بابوں میں تھوڑی تھوڑی ذکر کی ہے۔

(۱۰) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے کبھی کسی شخص کے کوئی چیز مانگنے پر انکار نہیں فرمایا۔ فائدہ: اگر اُس وقت موجود ہوتی تو عطا فرمادیتے ورنہ دوسرے وقت کا وعدہ فرمائیتے، یا اُس کے حق میں واعفرماتے کہ حق تعالیٰ ﷺ اُس کو کسی اور طریقہ سے عطا فرمادیں۔

مكافی: یعنی إذا اصطنع فائٹنی عليه على سبیل الشکر والجزاء قبله، وإذا ابتدئ بشائے کرھه، ذکرہ الزمخشري، وقيل: معناه مقارب وممايل اي، في مدحه غير مجاوز به عن حد، الایری أنه قال: لا تطروني كما أطربت النصارى. يجوز: بالجيم والزاي، اي: يتتجاوز عن الحد، وفي نسخة بالجيم والراء من الجور و الميل. او قيام: [اي: فيقطع عليه الصلاة والسلام حدیث ذلك الأحد إذا جاوز الحد إما بنهي له عن الحديث إن أفاد، بأن لم يكن معاندا، أو قيام من المجلس إن كان معاندا.]

فقال: يبنه الحديث السابق بأنه لم يرده إلا بها أو عيسور من القول، ولنعم ما قيل:

ما قال لا قط إلا في تشهده لولا الشهد كانت لاؤه نعم

عن عبید اللہ، عن<sup>(۱)</sup> ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: کان رسول اللہ ﷺ

(۱۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ اول تو تمام لوگوں سے زیادہ ہر وقت ہی سخت تھے (کہ کوئی بھی حضور کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کہ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے اور عطاوں میں بادشاہوں کو شرمندہ کرتے تھے۔ نہایت سخت احتیاج کی حالت میں ایک عورت نے چادر پیش کی اور سخت ضرورت کے درجہ میں پہنی، جب ہی ایک شخص نے مانگ لی اُس کو مرحمت فرمادی۔ قرض لے کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور قرض خواہ کے سخت تقاضے کے وقت کہیں سے اگر کچھ آگیا اور ادائے قرض کے بعد فتح گیا تو اتنے وہ تقسیم نہ ہو جائے گھرنے جاند۔ ایسے مشہور واقعات اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا) بالخصوص رمضان المبارک میں تمام مہینہ اخیر تک بہت ہی فیاض رہتے (کہ خود حضور کی گیارہ مہینہ کی فیاضی بھی اس مہینہ کی فیاضی کے برابر نہ ہوتی تھی) اور اس مہینہ میں بھی جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لا کر آپ کو کلام اللہ شریف سناتے اُس وقت آپ بھلائی اور نفع پہنچانے میں تیز بارش لانے والی ہو اسے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔

فائدہ: اس ہوا کے ساتھ تشبیہ تیزی اور سُرعت میں ہے کہ ہوا اس قدر تیز نہیں چلتی جتنی تیز حضور کی سخاوت چلتی تھی یا نفع کے عام ہونے میں ہے کہ بارش کا نفع اس قدر عام اور سب کو شامل نہیں ہوتا جتنی عام حضور کی سخاوت تھی۔ بارش کے ساتھ تشبیہ صورت کے اعتبار سے ہے ورنہ حضور کی سخاوت کو بارش سے کیا نسبت! کہ یہ صرف مادی چیزوں کو اگانے والی ہے اور حضور کی بارش ظاہر و باطن ضروریات دنیویہ اور دینیہ کو پوری کرنے والی تھی، یہ زمین کو زندہ کرتی ہے وہ دلوں کو بھی زندہ کرتی تھی۔ ترمذی کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے پاس ایک مرتبہ نوے ہزار درہم جس کے تقریباً میں ہزار روپیہ سے زیادہ ہوتے ہیں، کہیں سے آئے۔ حضور اقدس ﷺ نے ایک بوریے پر ڈلوادیے

عبد اللہ: قال المناوی: يحتمل أنه عبید الله بن عياض، ويحتمل عبید الله بن أبي رافع كاتب علي، فإنهم برويابن عن ابن عباس وعنهمما الزهرى. مختصرًا، وقال القارى: إنه ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأحاطًا من قال: إنه ابن أبي مليكة. وقال البيحوري: إنه ابن عبد الله بن عتبة، خلافا لما قال المناوی. قلت: و بابن عبد الله بن عتبة جزم الحافظان: ابن حجر والعيين في شرح البخاري، فإن البخاري أخرجه في صحيحه في خمسة مواضع.

**أَجْوَدُ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسُلُخَ، فَيَأْتِيهِ جَبَرِيلُ، فَيُعَرِّضُ**  
 أي: یعنی کمال حودہ کان فی جمیع رمضان  
**عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جَبَرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّبِيعِ الْمَرْسَلِ.**

اور وہیں پڑے پڑے سب تقسیم کرادیے۔ ختم ہو جانے کے بعد ایک سائل آیا جس کا قہرہ تیری حدیث میں حدیث نمبر ۱۳ کے ذیل میں آرہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمادیا کہ میرے پاس تو کچھ رہا نہیں ہے، تو کسی سے میرے نام سے قرض لے لے، جب میرے پاس ہو گا ادا کر دوں گا۔ یہ تو حضور کی عام عادت تھی اور رمضان المبارک کے اس وقت کا تو کیا پوچھنا کہ وہ مالک الملک کی طرف سے افضل البشر کے پاس افضل الكلام افضل ترین اوقات میں فرشتوں کے لے کر آنے کا وقت تھا،

"أَجْوَدُ" بالنصب على انه اسم "كَانَ" ، أَفْعَلُ تفضيل من الجود، وهو: إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي على ما ينبغي، وـ"الخير" شامل لجميع أنواعه حالاً وما لا من العلم والخلق والمال والجاه، فكان يسمع بالمحظوظ؛ لكنه مطبوعاً على الجود، فكان إذا وجد حاد، وإن لم يجد وعد، ولا يخلف المعهد. وكان أَجْوَدُ: قال المناوي: برفع "أَجْوَد" وذكروا له عشرة أوجه، وقال القاري: الرفع في "أَجْوَد" أَجْوَد، على ماروبي في أكثر الروايات، كما صرحت به العسقلاني على أنه اسم "كَانَ" وخبره مخدوف حذفه واجباً وـ"ما" مصدرية، ومعنى: أَجْوَدُ أَكوانه، وـ"في رمضان" في محل الحال، واقع موقع الخير الذي هو "حاصل"، فمعنى: أَجْوَدُ أَكوانه حاصلاً في رمضان.

حق ینسلخ: [المعنى: أن غاية حودہ كانت تستمر في جميع رمضان إلى أن يفرغ؛ لأنها موسم الخبرات، فإن الله يتفضل على عباده في هذا الشهر مالا يتفضل عليهم في غيره، فهو متخلق بالأخلاق ربه.] فيعرض: قال ميرك: فاعل "يعرض" يتحمل أن يكون جبرئيل، وضمير "عليه" للنبي ﷺ، كما هو ظاهر السياق، ويتحمل العكس؛ لما في البخاري: يعرض عليه النبي ﷺ، وترجم عليه في فضائل القرآن: كان جبرئيل يعرض القرآن، قال العسقلاني: هذا عكس الحديث، وكأنه أشار إلى بعض طرقه فأشار إلى أن كلامهما كان يعرض على الآخر، ويريد ما في رواية للبخاري بلفظ: "فيدارسه القرآن"؛ إذ المدارسة مفاعة من الجانين.

بالخير: أَجْوَدُ بالخير، أي: أَسْخَى بِيذْلِ الْخَيْرِ مِنَ الرَّبِيعِ الْمَرْسَلِ -فتح السين- . فإِلَهًا يَنْشَأُ عَنْهَا حُودُ كَثِيرٌ؛ لأنَّهَا تُنْشَرُ السحاب وتملؤها ماءً، ثم تبسطها، لتعم الأرض فيحيي به الموات ويخرج النبات، وتعبيره بـ"أَفْعَل" نص في كونه أعظم حودا منها؛ لأنَّهَا قد تخلي عن المطر، وهو ﷺ لا ينفك عن مطر الجود والسعاد، والتشبث به في تعليم العطاء أو السرعة. والحاصل أنه فضل حودہ على حود الناس، ثم فضل حودہ في رمضان على حودہ في غيره، ثم فضل حودہ في رمضان عند لقاء جبرئيل على حودہ في غيره، فإنه وقت إتيان الملائكة إلى أفضل الخلق بأفضل كلام من أفضل متكلم في أفضل أوقات.

حدثنا قتيبة بن سعید، حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن <sup>(۱۲)</sup>أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ لا يدخل خر شيئاً لغد. حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقة الفروي المديني. حدثني أبي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه،

اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی تھی کہ حضور اقدس ﷺ حق تعالیٰ ﷺ کے اخلاق کے ساتھ کمال درجہ میں متصف تھے کہ اصل کمال عادات الحياء کے ساتھ متصف ہونا ہے اور حق تعالیٰ ﷺ کے یہاں سے اس ماہ مبارک میں جس قدر رحمت و انعام کے دروازے کھلتے ہیں اُس کا کچھ نمونہ دیکھنا ہو تو بنده کا رسالہ ”فضائل رمضان“ دیکھو۔

(۱۲) حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ دوسرے دن کے واسطے کسی چیز کو ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے۔ فائدہ: یعنی جو چیز ہوتی کھلا پلا کر ختم فرمادیتے۔ اس خیال سے کہ کل کو ضرورت ہوگی، اُس کو محفوظ نہ رکھتے تھے۔ یہ حضور کا غایت توکل تھا کہ جس مالک نے آج دیا ہے وہ کل بھی عطا کرے گا، یہ اپنی ذات کے لئے تھا۔ یہیوں کا نفقة ان کے حوالہ کر دیا جاتا، وہ جس طرح چاہیں تصرف کریں، چاہے رکھیں یا تقسیم کر دیں۔ مگر وہ بھی تو حضور ہی کی بیباں تھیں، حضرت عائشہ رضي الله عنها کی خدمت میں ایک مرتبہ دو گوئیں درہموں کی نذرانہ کے طور پر پیش کی گئیں جن میں ایک لاکھ سے زیادہ درہم تھے، انہوں نے طباق منگایا اور بھر بھر کر تقسیم فرمادیا، روزہ دار تھیں، افطار کے وقت ایک روٹی اور زیتون کا تیل تھا جس سے افطار فرمایا۔ باندی نے عرض کیا: ایک درہم کا اگر آج گوشت منگا لیتیں تو آج ہم اُسی سے افطار کر لیتے۔ ارشاد فرمایا کہ اب طعن دینے سے کیا ہو، اُس وقت یاد دلادیتی تو میں منگا دیتی ”حکایات صحابہ“ میں ان سچے اتباع کرنے والوں کے کچھ نمونے دکھائے گئے ہیں، اس لئے اگر حدیث کا مطلب یہ ہو کہ نہ اپنے لئے نہ گھر والوں کے لئے دوسرے دن کا ذخیرہ نہ ہوتا تھا تب بھی بے محل نہ ہوگا۔

لا يدخل: أي: لخاصة نفسه، فلا ينافي ما في الصحيحين: أنه رضي الله عنه كان يدخل لأهله قوت سنة، وقيل: عدم الادخار غالب أحواله أو في أولئك أمراء؛ إذ قد ثبت في البخاري عن أنس يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده تسع نسوة، والأولى أن يجمع: بأنه كان يدخل لهم قوت سنة، ثم من جوده وكرمه على الوافدين كان يفرغ زادهم قبل تمام السنة.

الفروي: بفتح الفاء وسكون الراء، نسبه إلى فرو اسم جده.

عن عمر بن الخطاب ﷺ، أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فسأله أَنْ يُعْطِيهِ، فقال النبي ﷺ: ما عندي شيءٍ، ولكن أَبْتَعُ عَلَيْهِ إِذَا جاعني شيءٌ قصبيه، فقال عمر: يا رسول الله! قد أَعْطَيْتِهِ، فما كَفَكَ اللَّهُ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلَ عُمَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْفَقْتُ أَنْفَقْتُ [إِنْ غَلَبَ عَلَيْهِمُ الْإِيمَانُ] مِمَّا لَا تَخْفَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلِلاً فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَرَفَ الْبِشَرَ فِي وَجْهِهِ لِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ،

(۱۲) حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی ضرورت مند نے حضور القدس ﷺ سے کچھ سوال کیا۔ آپ نے ارشاد فرمادیا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ موجود نہیں ہے۔ تم میرے نام سے خرید لو، جب کچھ آجائے گا تو میں ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ دے چکے ہیں اور جو چیز آپ کی قدرت میں نہیں ہے اُس کا حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ حضور کو حضرت عمر بن الخطاب کا یہ مقولہ ناگوار گزرا تو ایک انصاری صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جس قدر جی چاہے خرچ کیجئے، عرش کے مالک سے کمی کا اندیشہ نہ کیجئے (کہ جو ذات پاک عرش بریں کی مالک ہے اُس کے بیہاں آپ کو دینے میں کیا کمی ہو سکتی ہے) حضور کو انصاری کا یہ کہنا بہت پسند آیا اور حضور نے تبسم فرمایا جس کا اثر پھرہ مبارک پر ظاہر ہوتا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ نے مجھے اسی کا حکم فرمایا ہے۔ فائدہ: خود نبی کریم ﷺ کا حضرت بلاں ﷺ سے بھی بھی ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ

ابتع: بتقدم الموحدة على المثنى الفوقة، أي: اشتراط وأ عدد واحسب الثمن على، وروي بتقدم المثنى على الموحدة، أي: أحل علينا بدينك الذي عليك. قال الزمخشري: أتبعت فلانا عن فلان. قد أعطيته: أي: السائل قبل هذا، أو أعطيت الميسور من القول، وهو قوله: "ما عندي شيء" قاله المناوي. قلت: ويحتمل أن يكون الضمير إلى المال، والقصة مختصرة، وفي نشر الطيب عن الترمذى: أنه أتى إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير، فما رد سائلا حتى فرغ منها، فجاءه رجل فسأله فقال: ما عندي شيء ولكن أبتاع على، الحديث. فيحتمل أن يكون المرجع ذلك المال الذي قسمه ﷺ، لكن ظاهر الشفاء أنهما قستان متغائران، وهو ظاهر شروح الشفاء، وهو الظاهر عندي.

قول عمر: [أي: من حيث استلزمـه حرمان السائل، لا لمحالفته للشرع]. إقلالاً: قال القاري: هو مصدر، قل الشيء يقل وأقله غيره، وزاد في الناج: أن معناه الافتقار، وقال المناوي: من أقل بمعنى افتقر، وهو في الأصل بمعنى: صار ذا فلة. البـشر: بكسر الموحدة، أي ظهر في وجهه البشرية.

ثُمَّ قَالَ: بَهْذَا أُمِرْتُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ،

حضور ﷺ نے حضرت بلاں ﷺ کے پاس کھوروں کی ایک ڈھیری گلی ہوئی دیکھی۔ حضور نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ آئندہ کی ضروریات کے لئے روک لیا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے اس کا ذر نہیں ہے کہ اس کی بدولت کل قیامت کے دن جہنم کا کچھ دھواں تک پہنچ جائے اُس کے بعد ارشاد فرماید اُنفِقْ بِلَالٌ! وَلَا تَخَشُ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلِالًا۔ اے بلال! خرچ کرو اور عرش کے مالک سے کی کا ائیش نہ کر۔ حضور کی سخاوت اور کرم کے واقعات جس کثرت سے ہیں ان کے احاطہ کی کس کو طاقت ہے، اس کرم کے لئے یہ بھی ضروری نہ تھا کہ حضور کے پاس موجود ہی ہو، ضرورت مندوں کے لئے قرض لے کر اُن پر خرچ کرنا حضور کا عام معمول تھا جیسا کہ اوپر کی حدیث میں خود موجود ہے۔

ایک شخص نے حضرت بلاں ﷺ سے پوچھا کہ حضور کے اخراجات کی کیا صورت تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور کے پاس تو کچھ رہتا ہی نہ تھا، میں ہی اخیر تک اس کا منتظم رہا۔ عادتِ شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہوتا اور آپ اُس کو ننگا دیکھتے تو مجھے اس کے انتظام کا حکم فرماتے۔ میں کہیں سے قرض لے کر اس کے کپڑے بناتا اور کھانے کا انتظام کرتا۔ ایک دن مشرکین میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور آکر کہنے لگا کہ مجھے بڑی وسعت حاصل ہے تمہیں جو کچھ قرض لینا ہو مجھ سے لے لیا کرو اور کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اُس سے قرض لینے لگا۔ ایک دن میں وضو کر کے اذان کہنے ہی کو تھا کہ وہ مشرک چند تاجر و میتوں کو ساتھ لئے ہوئے آیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ او جبشی! میں نے کہا: حاضر ہوں۔ وہ نہایت تُرش روئی سے مجھ کو بُرا بھلا کہنے لگا اور کہا کہ اس مہینہ کے ختم میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا کہ مہینہ تو ختم کے قریب ہے۔ کہنے لگا کہ چار دن باقی ہیں، اگر اُس وقت تک قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے قرضہ میں غلام بنا لوں گا اور جیسا کہ پہلے غلامی کی حالت میں بکریاں چرا کرتا تھا وہی صورت پھر ہو جائے گی۔

بهذا أمرت: قال القاري: أي: بالإإنفاق وعدم الخوف، أو بالعطاء في الموجود وبالقول الميسور في المفقود، لا بما قاله عمر رضي الله عنه، قال المناوي: قال تعالى: هُوَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُحْلِفُهُ [سبأ: ٣٩]، وفيه: أن الإنفاق مأمور به في كل حال دعت المصلحة إليه ولو بنحو استدامة. علي بن حجر: الحديث بسنده ومتنه مكرر، تقدم في آخر "باب فاكهة النبي ﷺ" إلا أن الرواية هناك بالشك، ولهنا بلفظ: "حلياً وذهبًا" بالجزم.

عن الرَّئِيْع بْن مَعْوِذ بْن عَفْرَاء قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَنَاعٍ مِّن رُّطْبٍ وَأَجْرٌ زُغْبٌ، فَأَعْطَانِي مِلَأً كَفِهِ حُلَيَاً وَذَهَبًا. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْن خَشْرُمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ،  
[طبق]  
الصغار من النساء

حضرت بلاں رَبِّ الْمُؤْمِنِينَ کہتے ہیں کہ اُس کی یہ باتیں سن کر جو لوگوں پر گزرتی ہے مجھ پر بھی گزری۔ میں عشا کی نماز کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا تھہر سنا کر عرض کیا کہ حضور اتنی جلدی انتظام کیا ہو سکتا ہے، ادا بیگنی کے لئے نہ آپ کے پاس کچھ ہے نہ میرے پاس۔ میں روپوش ہو جاؤں، جب آپ ادا بیگنی فرمادیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا ورنہ وہ مجھے سخت ذلیل کرے گا۔ صح کی نماز سے قبل ایک شخص دوڑا ہوا آیا کہ حضور بلا رہے ہیں، میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا اللہ عَزَّالَهُ نے تیرے قرضہ کا انتظام کر دیا، یہ چار اوٹیاں جو سامان سے لدی ہوئی کھڑی ہیں یہ فدک کے حاکم نے ہدیہ بھیجا ہے۔ میں نے صح کو وہ سب قرضہ بے باق کیا اور حضور کو اطلاع دی کہ اللہ بلَّغَ شَانَ نے قرضہ سے آپ کو سبد و ش کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اُس سامان میں سے کچھ بچایا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ بچ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو تقسیم کر دے کہ مجھے راحت ملے۔ شام ہو گئی کچھ پھر بھی بچ گیا۔ عشا کے بعد حضور نے دریافت فرمایا، میں نے عرض کیا کہ مسْتَحْقِينَ آئے ہی نہیں، ابھی کچھ باقی ہے تو حضور نے وہ رات مسجد میں گزاری، مکان پر تشریف نہیں لے گئے۔ دوسرے دن عشا کے بعد پھر دریافت فرمایا، میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے اُس کے بارے آپ کو سبد و ش فرمادیا، وہ سب تقسیم ہو گیا۔ تب حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے مکانوں پر تشریف لے گئے۔ (ابوداؤر)

(۱۲) ریبع کہتی ہیں کہ میں ایک طباق کھبوروں کا اور کچھ چھوٹی چھوٹی پتلی سکلریاں لے کر حاضر خدمت ہوئی تو حضور اقدس سنتیؐ نے مجھے اپنادست مبارک بھر کر سونا اور زیور مرحمت فرمایا۔ فائدہ: یہ حدیث حضور کے میوہ کے ذکر میں نمبر ۷، ۶ پر گزر چکی ہے۔

زُغْبٌ: [وَهُوَ صِيَغٌ الشِّعْرُ وَلِيْنَهُ، وَالْمَرَادُ صَغْرٌ رِيشَهُ]. عیسیٰ بن یونس: قال الترمذی والبزار: لانعرف هذا الحديث موصولاً إلا من حديث عیسیٰ بن یونس، وهو عند الناس مرسلاً، وقال البخاري بعد إيراد هذا الحديث: لم يذكر وكيف ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة، وأشار بهذا أن عیسیٰ تفرد بوصله. قال الحافظ العسقلاني: رواية وكيف وصلها ابن أبي شيبة عنه بلفظ: "وَيَشَبَّهُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا"، ورواية محاضر لم أقف عليها.

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يقبل الهدية وينسب إليها.<sup>(۱۵)</sup>  
أي: يعطي في مقابلتها شيئاً

(۱۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس پر بدلہ بھی دیا کرتے۔  
فائدہ: کمالِ خلق ہے کہ ہدیہ واپس کرنے میں دوسرے کی دل شکنی کا خیال ہے اور بدلہ نہ دینے میں اس کو کوئی نفع نہیں۔  
بلکہ بسا اوقات غلبہ محبت میں آدمی خود مشقت اٹھا کر ہدیہ دیا کرتا ہے، بدلہ کی صورت میں اس کی دلداری بھی ہو گئی اور اس کو کوئی نقصان بھی نہ ہوا بلکہ نفع ہو۔ اس لئے کہ بعض حدیثوں میں وَيُنْهَا كَمِنْهَا كَمِنْهَا كَمِنْهَا وَارِد ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس سے بہتر بدلہ دیتے تھے اور دوسری روایات سے بھی حضور کا یہ معمول معلوم ہوتا ہے کہ ہدیہ سے زیادہ بدلہ دیتے تھے۔

## بابُ ما جاءَ في حَيَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة،

### باب۔ حضور اقدس ﷺ کی حیا کا ذکر

فائدہ: یہ مضمون اگرچہ عادات کا جزو ہے اور اس لحاظ سے گذشتہ باب میں داخل ہو سکتا تھا مگر غایت اہتمام کی وجہ سے اس کو مستقل ذکر کیا کہ خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ کے معاملات میں حیا پر ایک مستقل مدار ہے، حدیث میں وارد ہے کہ جب تجھ سے حیا جاتی رہے پھر جو چاہے کر گذر۔ حضور اقدس ﷺ کا ہر کمال درجہ منصب پر تھا، جس باب کو شروع کیا جائے اُس میں آپ کے اوصاف بیان کرنے کے لئے الفاظ کماحتہ میسر نہیں ہوتے، آپ کی حیا کے دو چار واقعات نہیں ہیں سیکڑوں واقعات اس کے شاہد ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کثرت حیا کی وجہ سے کسی شخص کے چہرہ پر نگاہ نہیں جاتے تھے یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی سے بال مقابل نہ ہوتے تھے۔

امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے بھی نمونے کے طور پر اس باب میں دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حیا کئی قسم کی ہوتی ہے: ایک کرم کی حیا کہلاتی ہے، جیسا کہ حضور اقدس ﷺ نے جب حضرت زینب کاویمہ کیا تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چند لوگ بیٹھے رہے اور بالتوں میں مشغول رہے۔ نبی اکرم ﷺ پر ان کا بیٹھنا بار تھا اور بار بھی باہر تشریف لے جاتے تھے کبھی اندر تشریف لاتے تھے مگر شرم کی وجہ سے ان کو اٹھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ قرآن پاک میں بھی سورۃ الحزاب کے اخیر کے قریب اس قسم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دوسری قسم عاشق کی اپنے محبوب سے شرم ہوتی ہے کہ بولنا بھی دشوار ہوتا ہے:

شوق افزوں مانعِ عرضِ تمناً دا بِ حسن  
بارہا دل نے اٹھائے ایسی لذت کے مزے

حیاء: الحیاء هبنا بالمد، وأما بالقصر فهو بمعنى المطر، وكلاهما مانحوذ من الحیوة، فإن أحدهما حیوة الأرض والآخر حیاة القلب، وهو في اللغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وفي الشرع: خُلُق يبعث على احتساب القبيح، وهو أقسام: منها حیاء الكرم، كاستحیائه ﷺ أن يقول لمن طول القيام في وليمة زینب ﷺ: انصرف، وحیاء المحب من محبوه حق إذا خطر بقلبه حاج الحیاء، وحیاء العبودية بأن يشهد تقصيره فيها فیزداد خجلة، وحیاء المرء من نفسه بأن تشرف همه فیستحیي من رضى نفسه بالنقص بجد نفسه مستحیا من نفسه حتى كان له نفسین، وهذا أكمل أنواع الحیاء.

عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يُحَدِّث عن<sup>(۱)</sup> أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ أشد حياء من العذراء في خِدْرِهَا، وكان إذا كرَه شيئاً عرفناه في وجهه.

تیری قسم بندگی کی شرم ہوتی ہے کہ بندگی میں اپنے آپ کو قاصر پائے اور مولا سے شرم میں بڑھتا جائے۔ چو تھی خود اپنی ذات سے شرم ہوتی ہے کہ آدمی ہمت سے کسی کام کو شروع کرے اور اُس میں کوئی نقص رہ جائے تو خود اپنے سے شرم آنے لگتی ہے کہ ذرا سا کام بھی نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ شرم کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جو شخص خود اپنے سے شرماتا ہے وہ دوسرے سے بطریق اولیٰ شرمایا کرتا ہے۔

(۱) ابو سعید خدری رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ شرم و حیا میں کنواری لڑکی سے جو اپنے پرده میں ہو، کہیں زائد بڑھے ہوئے تھے، جب حضور کو کوئی بات ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرہ سے پہچان لیتے۔ (حضر غایت شرم کی وجہ سے اظہار ناپسندیدگی بھی نہ فرماتے تھے)۔

فائدہ: کنواری جو اپنے پرده میں ہو، کے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں: ایک جماعت علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے پرده نشین کنواری مراد ہے کہ وہ اُس کنواری لڑکی سے جو باہر پھرتی ہو، بہت زیادہ شر میلی ہوتی ہے گو کنواری ہر ایک ہی شرم دار ہوتی ہے، اسی لئے شریعت نے کنواری لڑکی کے نکاح کی اجازت کے لئے اُس کے سکوت کو کافی بتایا ہے کہ کنواری کے لئے شرم طبعی چیز ہے اور بالخصوص پرده نشین لڑکی۔ اور بعض علماء نے پرده نشین سے وہ لڑکی مرادی ہے جو پرده میں تربیت دی گئی ہو کہ اُس کو عورتوں سے بھی پرده کرایا گیا ہو، چنانچہ باہر کی پھرنے والی عورتوں سے پرده بہت سے خاندانوں میں مروج ہے

عبد الله: [وهو عبد الله بن أبي عتبة البصري الفقيه الأعمى، أخذ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة رضي الله عنه والكبار من الصحابة، وهو معلم عمر بن عبد العزيز، وكان من بخار العلم، خرج له الجمعة، مات سنة ثمان وتسعين خِدْرِهَا: بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة، ستر يجعل للبكر في ناحية البيت، والظرف حال من العذراء أو صفة لها، وهو تميم للفائدة، فإن العذراء إذا كانت متربة في سترها تكون أشد حياء لسترها حتى عن النساء، بخلافها إذا كانت في غير بيتها، أو كانت داخلة خارجة فإذاً كان مانعاً منها، وجاء في رواية عنها: ما رأيت منه ولا رأى مني يعني الفرج. في وجهه: لأنه ما كان يتكلم بالشيء الذي يكرهه حياء، بل يتغير وجهه فيفهم كراهته له، وكذا البنت المخدرة غالباً لم تتكلم في حضور الناس بل يرى أثر رضاها وكراحتها في وجهها، وهذا يظهر وجه الارتباط بين الجملتين.]

حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: أَخْبَرَنَا سَفِيَّانُ، عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْحَطَّمِيِّ، عَنْ مَوْلَىٰ لِعَائِشَةَ قَالَ: قَالَتْ<sup>(۲)</sup> لِعَائِشَةَ: مَا نَظَرْتَ إِلَى فَرْجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: مَا رَأَيْتَ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطًّا.

کہ یہ لڑکی جس قدر شر میلی ہو گی ظاہر ہے۔ دوسرا مطلب بعض علماء نے اپنے پردہ میں ہونے سے کنایہ بتایا ہے شبِ عروس کا کہ کنواری لڑکی پہلی شب میں جس قدر شر میلی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے۔

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ (حضور کی حیا اور تستر کی وجہ سے) مجھے کبھی آپ کے محل شرم دیکھنے کی ہست نہیں پڑی اور کبھی نہیں دیکھا۔

فائدہ: جب حضور کی شرم کی وجہ سے ہست نہیں پڑی تو خود حضور تو کیا دیکھتے، اور اصولی بات ہے کہ شر میلے آدمی کے سامنے دوسرے کو مجبور آشرم کرنا پڑتی ہے اور ایک دوسری روایت میں بالصریح اس کی بھی نظری ہے کہ نہ حضور نے کبھی میرے ستر کو دیکھا اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باوجود یہ تمام یہیوں میں سب سے زیادہ بے تکلف تھیں، سب سے زیادہ محبوب تھیں، ان کا یہ حال ہے تو اور وہ کا کیا ذکر، چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور بیوی سے صحبت کرتے تو آئکھیں بند کر لیتے اور سر جھکا لیتے اور بیوی کو بھی سکون و وقار کی تاکید فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ جمروں کے پیچھے جا کر غسل کیا کرتے، حضور کے محل ستر کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ نبوت سے قبل جب کہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حضور بھی پتھر اٹھا رہے تھے، عرب کے دستور کے موافق کہ ستر کے چھپانے کا کچھ ایسا اہتمام نہ تھا، حضور نے لگی کو پتھر کے پیچے رکھ لیا، اُسی وقت بیویوں ہو کر گرنے، حالانکہ شرعی احکام اُس وقت تک نازل بھی نہ ہوئے تھے۔

**الخطمي:** بفتح معجمة وسكون مهملة، نسبة إلى خطم قبيلة من العرب كذا قاله القاري وغيره، وضبطه المناوي بكس أوله.  
**مانظرت:** [ولم يراد أنه كان من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم لا يمكنها النظر إلى فرجه، مع احتياطه بفعل ما يجب امتناعها من رؤيته، وروى ابن الجوزي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى امرأة من نسائه: غض عينيه، وقع رأسه، وقال للتي تختنه: عليك بالسكينة واللوقار] قال الحنفي: فإن حياءه صلى الله عليه وسلم حينما تكون قليلة الحياء، وأغرب ابن حجر، حيث قال تبعا لميرك: إذ الخلوة مظنة وقوع الفعل به، ووجه غرابته لا يخفى، فإنه لو كان المراد هذا المعنى لقليل: أشد حياء من العذراء عند زفافها.

## بابُ ما جاء في حجامة رسول الله ﷺ

حدثنا عليّ بن حُجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر،

### باب۔ حضور اقدس ﷺ کے سینگی پچھنے لگوانے کا ذکر

فائدہ: اس باب میں مصنف رَدِ الشَّعْلَیَہ نے چھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، جن میں سینگی کے استعمال کے مختلف واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ معمولاتِ نبویہ میں علاج بدن اور دوا کا استعمال کرنا بھی تھا، علاج کا کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ سے بڑھ کر متوكل کون ہو گا، مگر اس کے باوجود حضور سے علاج کے طور پر سینگی کا استعمال متعدد احادیث میں نقل کیا گیا ہے اور حق یہ ہے کہ توکل اسباب کے منافی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رَدِ الشَّعْلَیَہ نے اپنے اُس رسالہ میں جس میں اپنے مبشرات کو جمع کیا ہے اور اپنے بہت سے مکاشفات اور حضور اقدس ﷺ سے خوابوں میں جو سوالات کئے ہیں، ذکر کئے ہیں۔ لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ سے روحانی سوال کیا کہ اسباب کے اختیار کرنے میں اور اسباب کے ترک کرنے میں کوئی چیز افضل ہے؟ تو مجھ پر حضور اقدس ﷺ کی طرف سے ایک روحانی فیض ہوا جس کی وجہ سے اسباب و اولاد غرض ہر چیز سے طبیعت سرد پڑتی، اُس کے بعد میری طبیعت پر ایک انکشاف ہوا جس کا اثر یہ ہوا کہ طبیعت تو اسباب کی طرف متوجہ ہے اور روح تسلیم و توفیض کی طرف مائل ہے فقط۔ حق یہ ہے کہ یہی اصل توکل ہے کہ اسباب کو بالکل غیر موثر سمجھیں، اسباب میں تاثیر بھی اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہے، اُس کی مشیت کے بغیر اسباب بھی کچھ نہیں بنا سکتے۔

از قفار سکنگیں صرا فزو  
رو غن بادام خشکی مے نمود

حجامة: هو بالكسر اسم من الحجم على ما ذكره الجوهري، وفي القاموس: الحجم: المص، المحجم والمحمة بكسرهما: ما يحتم به، وحرفه الحجامة ككتابه، قال القاري: ولعلها مشتركة بينهما، وإن فالناس يختلفون في المقام المعنى الأول، وقال المناوي: وجه مناسبة هذا الباب بالشمائل أن من أجلها التوكل، وقضيته أن يكمل حفظ بدنه إليه سبحانه وتعالى، ولا يتداوى بجسم ولا بغيره، فما زال ذلك ببيان: أن تدبير البدن مشروع غير مناف للتوكل؛ لأنه إسناد الأمر إليه تعالى واعتقاد استغناه في التأثير.

<sup>(۱)</sup> عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجّام، فقال أنس: احتجم رسول الله ﷺ [أو معرف الحجامة]  
**حجّمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن**  
أي: كلّم صاحبه في تخفيف خراجه  
**أفضل ما تداوِيْتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما دوائكم الحجامة.**  
بكسر الحاء المهملة

مقدرات الہیۃ کے سامنے کسی کا بھی بس نہیں ہے۔ سرکہ کے استعمال سے صفرابڑھ جائے اور بادام روغن کے استعمال سے خشکی ہونے لگے۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحب رض کے ایک دوسرے رسالہ میں ہے کہ یہ اسباب کامسلکہ مسجد میں ان تین وصیتوں کے ہے جن کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اور شاہ صاحب کے طبعی رجحان کے خلاف پر مجبور کیا گیا۔ دوسرا تفضیل شیخین کا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر۔ اور تیسرا مسلکہ تقلید چھوڑنے کا ہے کہ شاہ صاحب کا میلان تقلید کے چھوڑنے پر تھا مگر مجبور کیا گیا کہ کسی ایک امام کی تقلید ضرور کریں۔ تفصیل کا یہاں محل نہیں ہے۔ شاہ صاحب کے رسائل ”فضل مبنی“ اور ”فیوض الحر مین“ میں ہر دو کی تفصیلات ہیں۔

(۱) حضرت انس رض سے کسی نے سینگی لگوانے کی اجرت کامسلکہ پوچھا کہ جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ابو طيبة نے حضور کے سینگی لگائی تھی، آپ نے دو صاع کھانا (ایک روایت میں کھجور بھی آیا ہے) مرحمت فرمایا اور ان کے آقاوں سے سفارش فرمائی کے ذمہ جو محصول تھا، اُس میں کمی کرادی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سینگی لگانا بہترین دوہے ہے۔

أبو طيبة: بفتح طاء مهملة وسكون تختية بعدها موحدة، قن لبني حارثة أو لأبي مسعود الأنصاري أو غيره، وخطأ  
 الحافظ ابن حجر من قال: كالثوري لبني بياضة، اسمه نافع على الصحيح، وقول البغوي: ميسرة، رد بأنه اشتبه عليه  
 باسم أبي جمية الرواى حديث الحجامة، وقول ابن عبد البر: اسمه دينار، وهو فيه، لأن دينار الحجام تابعي، روى عن  
 أبي طيبة لا أبو طيبة نفسه. بصاعين: [ثنية صاع، والصاع أربعة أداد، والمد عند أبي حنيفة رطلان فيكون الصاع ثمانية  
 أرطال. فالحاصل أنه مكيال تکال بالحروب ونحوه]. وكلم أهله: [أي: وكلم مواليه، وهم بنو حارثة على الصحيح].  
 خراجه: بفتح الحاء المعجمة، ما يوظف على الملوك كل يوم، ولفظ ”كلم“ مشعر بالشفاعة دون الأمر. الحجامة: [قال أهل  
 المعرفة بالطبع: ذلك لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة، أمّا البلاد الباردة فالقصد لهم أولى، وهو: إخراج  
 مقدار دم من وريد المريض بقصد العلاج]. أفضل: الخطاب للشباب من أهل الحرمين ككل دموي بقطر حار كالحجاز.  
 الحجامة: شك من الرواى، قال القسطلاني: وأظنه إسماعيل، وكذا حکاه القارى عن ميرك شاه، ثم قال: فإن البخاري  
 أخرجه من طريق ابن المبارك، عن حميد، عن أنس بلفظ: إن من أمثل ما تداوِيْتم به الحجامة.

حدَثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلَىٰ، حدَثَنَا أَبُو دَاوُدُ، حدَثَنَا وَرَقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عنْ عَبْدِ الْأَعْلَىِ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ،  
 عنْ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَمْرَنِي فَأُعْطِيَتِ الْحَجَّامُ أَجْرُهُ۔ حدَثَنَا هَارُونَ بْنُ إِسْحَاقَ  
 الْمَهْدَانِيُّ، حدَثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَفِيَّانَ الثُّوْرَىِّ، عَنْ جَابِرِ،

فَائِدَةٌ: جَبَ حَضُورُنَّا خَوْدَ قِيمَتَ اُوْفَرَمَائِيَّ تَوْسِلَةَ كَاجَوابَ ظَاهِرٍ ہوَگِيَا۔ غَالِبًا سَوْالَ كَامْشَائِيَّ ہوَگَا کَہ بعضُ حَدِيثَوْنَ مِنْ اس  
 پَیْشَہِ کَیِّ نَذْمَتَ آئَیَ ہے جَسْ کَامْقُصُودَ یَہِ ہے کَہ اسْ مِنْ چُونَکَہ خُونَ جُوْسَنَا پَسْتَاَ ہے جَوْ اِيكَ نَپَاكَ چِيزَ ہے اسْ لَئِے اسْ مِنْ  
 احْتِيَاطِ کَیِّ بَهْتَ ضَرُورَتَ ہے کَہ مَنْهَ کَوْ پَاكَ کَرْنَے کَامْهَتَامَ کَيَا جَاءَ اُوْ اسَ کَيِّ احْتِيَاطِ رَكْھِيَ جَاءَ۔ اسِ طَرَحِ بعضُ دَوْسَرَے  
 پَیْشَہِوْنَ کَمَتَعْلِقَ بَهْيِ بَعْضُ اَهَادِيَّثِ مِنْ کَچُونَ تَبَيَّنَهَاتِ وَارَدَ ہوَئَیَ ہیں جَسْ سَے بعضُ لوْگُوْنَ کَوْ اَشْكَالَاتَ اُوْ اَشْتَبَاهَاتَ پَیدَا  
 ہوَگَئَ، حَالَانِکَہ رَوَايَاتَ کَامْفَهُومَ صَافَ اُوْ دَاضِيَّ ہے کَہ جَسْ پَیْشَہِ کَمَتَعْلِقَ بَهْيِ اَرْشَادِ عَالِيِّ وَارَدَ ہوَا ہے اُسْ مِنْ کَوَئِيِّ خَاصَ  
 اَهَمَّ بَاتِ قَابِلِ لَحَاظٍ اُوْ قَابِلِ اِصْلَاحٍ تَحْتِی جَسْ پَرْ تَبَيَّنَهَ مَقْصُودَ ہے۔

حَدِيثِ بَالَا مِنْ مَحْصُولِ سَے یَہِ مرادَ ہے کَہ غَلامَ کَوَاسِ شَرْطَ پَرْ چَھُوڑِ دِیا جَاتا ہے کَہ اَتَنِي مَقْدَارِ رُوزَانَہِ ہَمَانَے حَوَالَہَ کَرْ دِیا کرو،  
 بَقِيَّہِ سَے ہَمِیں کَچُونَ کَامَ نَہِیں وَہ تَمَہَارَ۔ اسِ طَرَحِ کَامَ غَلامَ "عَبْدُ مَاذُونَ" کَہلَاتَا ہے۔ انَّ کَارِرُوزَانَہِ تَمِنَ صَاعَ مَقْرُرَتَهَا، حَضُورُنَّا  
 سَفَارَشَ سَے اِيكَ صَاعَ کَمَ ہوَکَرَ دَوْ صَاعَ رَهْ گَیَا تَحَدَّ۔ صَاعَ مِنْ عَلَمَاءِ کَا اَخْتِلَافَ ہے، فَقَهَائِیَّ حَنَفِیَّ کَے نَزَدِیکَ تَقْرِیَباً چَارِ سِيرَ  
 وزَنَ کَا اِيكَ صَاعَ ہوتا ہے۔ حَضُورُنَّا کَیِّ اَرْشَادَ کَہ سَینِگَلِ لَگَانَا بَهْتَرِینَ دَوَا ہے، بَالِکَلِّ تَحْمِیَّ ہے مَگَر اسَ کَمَ مَخَاطِبَ حَرَمَیِنَ کَے  
 نُوْجُوانَ ہیں اُوْ اِیسَے ہی ہر گَرمَ مَلَکَ کَے رَبِّنَے وَالَّے کَہ انَّ کَاخُونَ رَقِيقَ ہونَے کَیِّ وجَہَ سَے بَدَنَ کَے سَطْحَ ظَاهِرَ کَیِّ طَرَفَ  
 زَيَادَهَ مَائِلَ ہوتا ہے اُوْ مَلْکِیِّ حرَارَتِ اسَ کَوْ ظَاهِرَ کَے زَيَادَهَ قَرِيبَ کَرْ دِیتَیَ ہے۔ اسِ وجَہَ سَے عَلَمَاءُ چَالِیسَ سَالَ سَے زَيَادَهَ عمرَ  
 وَالَّے کَ لَئِے سَینِگَلِ کَوْ مَفِيدَ نَہِیں بتَاتَے۔

(۲) حَضِرتُ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَہتَے ہیں کَہ حَضُورُنَّا مَعْلَمَاتَ نَے اِيكَ مَرْتَبَهِ سَینِگَلِ لَگَوَائِيَّ اُوْ مجَھَے اُسَ کَمَزْدُورِیِّ دَینَیِنَ کَا حَكْمَ فَرَمَیَ،  
 مَیِنَ نَے اُسَ کَوَادِکِیَا۔ فَائِدَةٌ: اسِ حَدِيثِ مِنْ بَهْيِ دَوْ فَائِدَے ہیں: سَینِگَلِ کَمَتَعْلِمَ اُوْ اسَ کَيِّ اَجْرَتَ اُوْ اَكْرَنَے کَاجَوابَ۔

عن الشعبي، عن<sup>(٣)</sup> ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال: إن النبي احتجم في الأخدعين، وبين الكففين، لا يوجد لفظ "أظنه" في بعض النسخ وأعطى الحجاج أجره، ولو كان حراما لم يعطه. حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن<sup>(٤)</sup> ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ دعا حجاجاً، فحجمه، هو أبو طيبة

(٣) ابن عباس رضي الله عنهما کہتے ہیں کہ حضور نے گردن کی دونوں جانب بچھنے لگوانے اور دونوں شانوں کے درمیان اور اس کی اجرت بھی مرحمت فرمائی، اگر ناجائز ہوتی تو حضور کیے مرحمت فرماتے۔

فائدة: چونکہ سینگی لگانے میں منہ سے خون کھینچنا پڑتا ہے، اس وجہ سے بعض احادیث میں اس کمائی اور اس پیشہ کی بُرائی آئی ہے، جیسا کہ شروع میں گزرا ہے۔ بعض روایتوں میں اس کی کمائی کو خبیث فرمایا ہے، جس کی بنا پر بعض علماء اس کی اجرت کو ناجائز فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضي الله عنه عليه وسلم دونوں روایتوں میں اس طرح جمع کرتے ہیں کہ ممانعت کی روایت کو آزاد لوگوں کے حق میں بتاتے ہیں اور اجازت کی روایات کو غلاموں کے حق میں، اور چونکہ ابو طيبة بھی غلام تھے اس لئے اجرت دینے میں کوئی اشکال نہیں۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ خبیث اس لئے فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کی ضرورت ہے جس کی اعانت دوسرے مسلمانوں پر واجب ہے، اس لئے بلا اجرت سینگی لگانا چاہئے تھا۔ غرض علماء اس بارے میں مختلف ہیں۔ حضرت ابن عباس رضي الله عنهما حضور کے اس فعل سے جواز پر استدلال کرتے ہیں کہ اگر یہ ناجائز ہوتی تو حضور کیوں مرحمت فرماتے۔

(٤) ابن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک سینگی لگانے والے کو بلایا۔ جس نے آپ کے سینگی لگائی، حضور نے ان سے ان کا روزانہ کا محصول دریافت فرمایا تو انہوں نے تین صاع بَلَلِيَّ بدلایا۔ حضور نے ایک صاع کم کرادیا اور سینگی لگانے کی اجرت مرحمت فرمائی۔

الشعبي: بفتح شين معجمة وسكون عين مهملة، عامر بن شراحيل، نسبة لشعب بطن من همدان. [من أكابر التابعين وأحد الأعلام، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، قال: أدركت حمسة من الصحابة أو أكثر، وقد مرّ به ابن عمر رضي الله عنهما وهو يحدث باللغازي فقال: شهدت القوم وهو أعلم بما يُنْهَا، وقال ابن سيرين لأبي بكر: ألم الشعبي، فقد رأيته يستفت وأصحاب النبي ﷺ بالكوفة، وقال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن بالبصرة، ومكحول بالشام، ولا حدثت بمحدث إلا حفظه، توفي عليه السلام سنة ثلاثة أو أربع ومائة]. الأخدعين: [ها عرقان في جانبي العنق، والحجامة على الأخدعين تمنع من أمراض الرأس والوجه والأذنين والأسنان والأنف]. وبين الكففين: [أي: على كاهله، وهو أعلى ظهره، والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المكبين والحلق] ابن أبي ليلى: [اسمه عبد الرحمن الأنصاري المدني ثم الكوفي]

وَسَأْلَهُ كَمْ خِرَاجٌ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَةِ آصْعَ، فَوُضِعَ عَنْهُ صَاعًا، وَأُعْطَاهُ أَجْرَهُ۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَدْوَسِ بْنُ مُحَمَّدٍ<sup>(٥)</sup> الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا قَاتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدُعِينَ وَالْكَاهِلَ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعِ عَشَرَةَ،

فَائِدَهُ: بظاهر یہ وہی ابو طیبہ ہیں جن کا قصہ باب کی پہلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ ابتداء میں ان کا روزانہ محصول تین صاع یومیہ تھا، حضور کی سفارش پر ایک صاع کم کر دیا گیا اور دو صاع رہ گیا۔

(۵) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس اللہ تعالیٰ گروں کی دونوں جانبوں میں اور ہر دو شانوں کے درمیان سینگی گلواتے تھے اور عموماً ۱۹۲۱ یا ۱۹۲۲ تاریخ میں اس کا استعمال فرماتے تھے۔

فَائِدَهُ: ان تاریخوں کی اور بھی بعض روایتوں میں خصوصیت آئی ہے، اطباء کا قول بھی اس کے موافق ہے۔ ابن سینا سے نقل کیا گیا ہے کہ سینگی لگانا مہینے کے شروع اور ختم میں اچھا نہیں ہے، بلکہ مہینے کے وسط میں ہونا چاہئے۔ اس روایت سے حضور اقدس اللہ تعالیٰ کا کثرت سے بار بار مختلف ایام میں سینگی گلوانا معلوم ہوتا ہے اور بھی جو روایات اس باب میں ذکر کی جا رہی ہیں ان سے مختلف مقالات پر سینگی کا لگانا معلوم ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہود نے خبر میں حضور کو زہر قاتل کھلا دیا تھا جو نہیت سخت تھا اور مقصد یہ تھا کہ حضور کے وصال سے یہ مخالفت کا قصہ ہی ختم ہو جائے، اگرچہ اس گوشت کو جس میں زہر تھا حضور نے پورا نوش نہ فرمایا تھا مگر جس قدر حصہ بھی کھایا گیا تھا اس کا اثر یہ تھا کہ وہ سمیت مختلف اوقات

آصْعُ: اعترض على هذا الجمع: بأنه ليس في القاموس ولا في الصحاح، وإنما فيهما "أصوع" بالواو أو "أصوع" بالهمزة، وأجيب: بأن "آصع" مقلوب "أصوع" بالهمز، فصار "أءاصع" همزتين، ثم قلبت الثانية ألفاً. والكاهل: بكسر الهاء، ما يبين الكتفين، وقال ميرك: هو مقدم الظهر مما يلي العنق وهو الكند. قالوا: والحجامة على الأخدعين تمنع من أمراض الرأس والوجه والأذنين والعينين والأسنان، وعلى الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق، وعلى ظهر القدم من قروح الفخذين والساقيين وانقطاع اللمس والحكمة العارضة في الأنثيين.

لسبع: وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: من احتجم لسبع عشرة وتنس عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، وهو من روایة سعید بن عبد الله الجمحي، وثقة الأکثرون ولینه بعضهم، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذی، رجاله ثقات لكنه معلول، وشاهد آخر من حديث انس عند ابن ماجة وسنده ضعیف.

وتسع عشرة، وإحدى وعشرين. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن <sup>(١)</sup>أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ احتجم وهو مُحِرم بِمَلِّ عَلَى ظَهَرِ الْقَدْمِ.

میں بالخصوص گرمی کے زمانہ میں بار بار عود کرتی تھی اور جس جانب مادہ کا زور ہوتا تھا اُسی جانب حضور کو سینگی کے استعمال کی ضرورت ہوتی تھی اور سی مادہ چونکہ خون میں حلول کرتا ہے اور وہ سارے بدن میں سرایت کرتا ہے اس لئے مختلف مقامات پر اُس کا زور ہوتا تھا۔

(۲) حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس اللہ تعالیٰ نے موضع ملل میں (جو مکہ مکرہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے) حالتِ احرام میں پشت پر سینگی لگوائی۔

فائدہ: حالتِ احرام میں سینگی لگوانا بعض ائمہ کے نزدیک مکروہ ہے لیکن حفیہ کے نزدیک جائز ہے بشرطکہ بال نہ اکھریں۔ ان روایات میں سینگی کا استعمال کثرت سے نقل کیا گیا ہے اور بھی احادیث کی کتابوں میں سینگی کا استعمال حضور کے قول اور فعل دونوں سے نقل کیا گیا ہے اور فصل کا استعمال نقل نہیں کیا گیا، حالانکہ اطباء کے نزدیک فصل بہ نسبت سینگی کے زیادہ نافع ہے اور بہت سے امراض میں اکسیر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں علی الاطلاق نافع نہیں ہیں بلکہ ان میں تفصیل ہے۔ جزاً کا ملک گرم ہے اور جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اس ملک کے سینگی زیادہ مناسب ہے، اس لئے کہ موسم کے گرم اور سرد ہونے سے مزاجوں میں بے حد تفاوت ہو جاتا ہے۔ گرم ملکوں میں اور اسی طرح دوسرے ملکوں میں گرمی کے زمانہ میں حرارت بدن کے ظاہری حصہ پر آ جاتی ہے اور باطنی حصہ میں برودت کا اثر ہوتا ہے،

واحدی وعشرين: [لأنَ الدَّمَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَآخِرِهِ يَسْكُنُ، وَبَعْدَ وَسْطِهِ يَتَزَايدُ وَيَهْيَجُ، وَقَدْ وَرَدَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَعْبِينِ الْأَيَّامِ: الْخَمِيسِ، وَالْثَّلَاثَاءِ، وَالْإِثْنَيْنِ، وَاحْتَبِيوا يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ وَالْجَمْعَةِ وَالْسَّبْتِ وَالْأَحَدِ، وَرَوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: الْحِجَامَةُ عَلَى الرَّبِيقِ دَوَاءٌ، وَعَلَى الشَّيْعَ دَاءٌ، وَفِي سِعَ عَشْرَةِ مِنَ الشَّهْرِ شَفَاءٌ، وَيَوْمَ الْثَّلَاثَاءِ صَحَّةُ الْبَدْنِ، وَلَقَدْ أَوْصَانِي حَلِيلِي جَرِيلَ بِالْحِجَامَةِ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا بَدْ مِنْهَا]. مُحِرمٌ: كَرِهَهُ مَالِكٌ رضي الله عنه مُطْلَقاً، وَالْحَدِيثُ حَجَّةٌ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ الْحَنْفِيَّةُ: لَا بَأْسَ فِي احْتِجَامِ الْمُحِرمِ مَا لَمْ يَنْقُضْ شَعْرًا. بِمَلِّ عَلَى كَحْمَلٍ: مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ عَلَى سِعْ عَشَرَ مِيلًا مِنَ الْمَدِينَةِ طَرْفُ لـ "احْتِجَمْ".

.....

یہی وجہ ہے کہ گرمی کے زمانہ میں پسینہ کی کثرت ہوتی ہے اور باطنی برودت کی وجہ سے کھانے کے ہضم میں دیر لگتی ہے اور مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں، بخلاف سرد ملکوں کے۔ اور اسی طرح سے سردی کے زمانہ میں دوسرے ملکوں میں آدمی کی حرارت ماحول کی سردی کی وجہ سے اندر وہ بدن میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہضم میں قوت پیدا ہوتی ہے، پیشاب میں بھاپ لکتی ہے، امراض میں کمی ہوتی ہے، اسی لئے بقراطاً کا مقولہ ہے کہ سردی کے موسم میں اندر وہ بدن گرم زیادہ ہوتا ہے اور نیند زیادہ آتی ہے اور کھانا بسولت ہضم ہوتا ہے، اسی وجہ سے ثقلِ غذا میں سردی میں بسولت ہضم ہو جاتی ہیں اور گرمی میں بدقت، اسی وجہ سے الی حجاز کو شہد کھجور وغیرہ گرم چیزوں کے استعمال سے نقصان نہیں ہوتا۔ سینگی میں چونکہ خون ظاہر بدن سے نکلتا ہے اور حجاز میں ظاہر بدن پر حرارت زیادہ ہوتی ہے اس لئے سینگی وہاں کے زیادہ مناسب ہے اور فصل میں اندر وہ بدن سے اور رگوں سے خون کھپتا ہے اس لئے فصل وہاں کے مناسب نہیں ہے، اسی لئے حضور کے استعمال میں یہ منقول نہیں ہے۔

## بابُ ما جاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغیر واحد قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم (رضي الله عنه)، عن <sup>(۱)</sup>أيه قال: قال رسول الله ﷺ: إن لي أسماءً

## باب۔ حضور اقدس اللہ علیہ السلام کے بعض نام اور بعض القاب کا ذکر

فائدہ: حضور اقدس اللہ علیہ السلام پر بہت سے القاب معنی کے لحاظ سے تعظیماً اور تعریفاً استعمال کیے گئے ہیں، چنانچہ ترمذی کی شرح میں ابن العربی سے ایک ہزار نام نقل کیے جاتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ مستقل حضور اقدس اللہ علیہ السلام کے ناموں میں تصنیف فرمایا ہے جس میں تقریباً پانچ سو نام ذکر کیے ہیں۔ احادیث میں خاص خاص موقع میں خاص خاص ناموں کا ذکر کیا ہے، سب ناموں کا احصائی ایک روایت میں نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ میرے قرآن شریف میں سات نام ہیں: محمد، احمد، لیل، طہ، مزمل، مدثر، عبد اللہ۔ ناموں کی کثرت شرافت اور عزت پر عموماً دلالت کیا کرتی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ہر باب میں مختصر مختصر نمونہ کے طور پر چند احادیث وارد کی ہیں، اس لئے اس باب میں بھی صرف دو حدیثیں ذکر فرمائی جن میں نونام آگئے ہیں۔

(۱) جبیر بن مطعم رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں، منجملہ ان کے "محمد" ہے اور "احمد" ہے اور "ماجی" ہے، جس کے معنی مٹانے والے کے ہیں، حق تعالیٰ جل جلالہ میرے ذریعہ سے کفر کو مٹایا ہے۔ ایک نام "حاثر" ہے

أسماء: جمع اسم، وهي: كلمة وضعت بيازاء شيء، متى أطلقت فهم منها، وهي إما معرفة أو مخصصة، وفي كون الاسم عين المسمى أو غيره خلاف طويل الذيل. قال القاري: المراد بالأسماء ههنا: الألفاظ تطلق على رسول الله ﷺ، أعم من كونه علماً أو وصفاً، وقد نقل ابن العربي في شرح الترمذی عن بعضهم: إن الله ألف اسم وللنبي ﷺ ألف اسم، ثم ذكر منها على سبيل التفصیل بضعاً وستين، والمصنف ذكر منها تسعة، وقد أفرد السیوطی رسالة في الأسماء النبوية، سماها بـ"البهجة السنیة"، وقد قاربت الخمسة. [والقاعدة: أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى]

إن لي أسماء: وفي رواية للبخاري إن لي خمسة أسماء أي: اختص بها، لم يسم بها أحد قبلي، أو هي معظمها، أو هي مشهورها في الأمم الماضية، فالحصر الذي أفاده تقديم الجار إضافي.

أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدٌ، وَأَنَا الْمَاحِيُّ الَّذِي يُحْكُمُ اللَّهُ بِالْكُفَّارِ، وَأَنَا الْخَاطِرُ الَّذِي يُحْشِرُ النَّاسَ عَلَى  
قَدْمَيِّيِّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو  
بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،

بفتح الطاء وكسر الراء المهمتين

کہ حق تعالیٰ شانہ قیامت میں حشر کے لئے سب سے پہلے آپ کو انھائیں گے اور تمام امت آپ کے بعد حشر کی جائے گی، اور انھائی جائے گی تو گویا حضور اقدس ﷺ تمام امت کے حشر کا سبب بنے۔ اور ایک نام میرا ”عاقب“ ہے جس کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں، حضور اقدس ﷺ اس باب انبیاء سے پیچھے تشریف لائے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فائدہ: اخیر کے تین نام مع وجہ تسلیہ کے ذکر کیے گئے لیکن اول کے دوناموں کی وجہ روایت میں نہیں ہے، بظاہر اس وجہ سے کہ پہلے دونام ہیں اور باقی صفات ہیں، یا اس وجہ سے کہ ان ناموں کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں، یا اس وجہ سے کہ ان کی وجہ ظاہر تھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ محمد کا مبالغہ ہے، جس کے معنی ہیں بہت حد کیا گیا۔ یا تو اس وجہ سے حضور کا نام ہے کہ آپ کی خصال حمیدہ بہت زیادہ ہیں، یا اس وجہ سے کہ آپ کی تعریف مرتبہ بعد مرتبہ کی گئی، یا اس وجہ سے کہ اللہ نے آپ کی کثرت سے حد کی ہے اور اسی طرح ملائکہ نے، ساتھیں انبیاء نے، اولیاء نے، یا تقاویل کے طور پر ہے کہ بہت زیادہ حد کی جائے یا اس وجہ سے کہ اولین و آخرین سب ہی آپ کے شاخواں ہیں اور قیامت میں سب ہی آپ کے جہنم کے نیچے ہوں گے جس کا نام ”حمد کا جہنم“ ہے اور احمد کے معنی ”زیادہ تعریف کرنے والا“ ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے

محمد: [سمی ب بذلك إلهاما من الله تعالى ورجاء لكتة الحمد له، ولذلك قال جده لما قيل له: لم سميت ابنك محمداً وليس في أسماء آبائك ولا من قومك؟: رجوت أن يُحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله رجاءه، فإن الله حمده، وكذلك الملائكة والأبياء والأولياء، وكما جاء: أن اسم محمد مكتوب على ساق العرش، وفي السموات السبع وفي قصور الجنة.]  
أحمد: [سمى بذلك؛ لأنه يُبلى أحمد الحامدين لربه]. يُحشر: ببناء المجهول، والمعنى أنه يُحشر قبل الناس، كما جاء في حديث آخر: أنا أول من تشق عن الأرض، فالمعنى أنهم يُحشرون بعدى أو يتبعونى، وقيل: يُحشرون على أثر زمان نبوى، ليس بعدي نبى. ثم كل من الماحي والحاشر في الحقيقة هو الله، فإذا لفلاهما عليه لكونه سببا لهم.

ليس بعده: قيل: هذا قول الزهرى، قال الحافظ العسقلانى: ظاهره أنه مدرج، لكن في رواية سفيان بن عيينة عند الترمذى أى: في الجامع بلفظ: "الذى ليس بعدي نبى". عياش: بفتح عين مهملة وتشديد مثناة تعلقة آخره معجمة.

عن حُذيفَةَ صَدِيقِهِ قَالَ: لَقِيتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدٌ، وَأَنَا نَبِيٌّ الرَّحْمَةُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَأَنَا الْمَقْفُىٰ، وَأَنَا الْخَاطِرُ،

معنی بھی ”زیادہ تعریف کیے گئے“ ہوں، اس صورت میں یہ لفظ پہلے لفظ کے ہم معنی ہے، لیکن پہلے معنی زیادہ مشہور ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے آپ سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ کی تعریف کرنے والے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے بھی ظاہر ہے اور آخرت میں ہے ہی کہ قیامت میں حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہو گا۔ مقام محمود آپ کے لئے ہے، شفاعت کے وقت آپ اللہ جل جلالہ کی ایسی حمد کریں گے جو کبھی بھی کسی نے نہ کی ہو۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اُس وقت اللہ جل جلالہ کی وہ تعریفیں مجھے القا ہوں گی جو اس وقت مستحضر نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ”محمد“ حضور کا مخصوص نام ہے جو پہلے لوگوں میں سے کسی نے نہیں رکھا، البتہ جب حضور کی ولادت کا زمانہ قریب تھا تو بہت سے لوگوں نے اس امید پر کہ شاید ہماری ہی اولاد ان بشارتوں کی مُستحق بن جائے جو پہلی کتابوں میں ہیں اور یہی نبی بن جائے، محمد نام رکھا، لیکن ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُ﴾۔ رسالتہ (الأَنْعَامُ: من الآية ١٢٤) اللہ ہی بہتر جانے والا ہے اُس جگہ کو جہاں اپنی رسالت کو تجویز فرماتا ہے۔

(۲) حذیفہ شیعیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس اللہ تعالیٰ سے راستہ میں ملا۔ حضور تشریف لے جا رہے تھے تذکرہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام ”محمد“ ہے اور ”احمد“ ہے اور ”نبی الرحمة“ ہے اور ”نبی التوبہ“ ہے اور میں ”مقفقی“ ہوں اور ”خاطر“ ہوں اور ”نبی ملام“ ہوں۔ فائدہ: ان اسماء کو خاص طور سے اس لئے ذکر کیا کہ یہ نام پہلی کتابوں میں پیش گوئی کے طرز پر لکھے ہوئے تھے۔

نبی الرحمة: [قالَ تَعَالَى: ۝إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝] (الأَنْبِيَاءُ: ٧٠) فقد رحم الله جميع المخلوقات لأمنهم به من الخسف والمسخ وعذاب الاستيصال۔ ونبي التوبة: [أَيْ: نبی مخبر عن الله عز وجل بقبوله بالتوبۃ بشروطها، أو نبی یأمر بالتوبۃ، أو نبی کثیر التوبۃ، فقد ورد: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سِعْنَ مَرَّةً أو مائةً مَرَّةً۔]

المقفقی: بفتح القاف وكسر الفاء المشددة، أي: الذي قفي آثار من سبقه من الأنبياء وتبع أطوارهم، قال تعالى: ﴿أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هَذِي اللَّهُ فِيهِدَاهُمْ أَفْنِدُهُمْ﴾ (الأَعْمَامُ: ٩٠) يعني أنه متبع للأنبياء في أصل التوحيد ومكارم الأخلاق وإن كان مخالف بعضهم في بعض الفروع، وروي بصيغة المفعول، أي: أنا الذي قفي بي على آثار الأنبياء، أي: أرسلت إلى الناس بعدهم وختم بي الرسالة، يقال: قفوت أثر فلان، أي: تبعته، وقفت على أثره بفلان، أي: اتبعته إياه، قال تعالى: ﴿وَفَقَيْنَا عَلَى آثارِهِمْ بِرَسُولِنَا﴾ (المائدۃ: ٤٦) فحذف حرف الصلة في الحديث تحفيفا.

وَبْنِي الْمَلَاحِمِ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ، حَدَّثَنَا التَّضَرُّ بْنُ شُمِيلٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَرِّ، عَنْ حَذِيفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . هَكُذَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَرِّ، عَنْ حَذِيفَةَ ﷺ .

اہل کتاب ان اسماء و صفات سے آپ کو پہچانتے تھے۔ ان میں پہلا نام "بُنِي الرَّحْمَة" ہے، جس کا ترجمہ ہے رحمت کا نبی یعنی حق تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کی ذات و صفات کو مسلمان اور کافر سب کے لئے باعثِ رحمت بنایا ہے، چنانچہ خود قرآن شریف میں ہے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٧] ہم نے تم کو تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمانوں کے لئے آپ کا رحمت ہونا تو ظاہر ہے کہ دنیا و آخرت میں آپ ہی کا وسیلہ ہے، کفار کے لئے اس لئے کہ حضور کے الاف و شفقت کی وجہ سے پہلی امتوں کی طرح اس امت پر عذابِ عامہ نازل نہ ہوا بلکہ قرآن پاک میں یہ وعدہ ہو گیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کافروں کو ہر گز عذاب نہ کریں گے۔ اور نیز اتنے آپ کے دین کا بقارہ ہے گا اتنے تمام عالم کا نظام باقی رہے گا، جس وقت تمام دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا نظام عالم درہم برہم ہو کر قیامت قائم ہو جائے گی۔ نیز آپ کی بعثت تمام عالم کے لئے ہے، کسی امت یا جماعت کی خصوصیت نہیں ہے، اس لحاظ سے بھی آپ تمام عالم کے لئے رحمت ہیں کہ جس کا دل چاہے اس رحمت میں داخل ہو جائے۔ نیز آپ لوگوں کے آپس میں تراحم اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت کی تعلیم لے کر آئے ہیں، اس لحاظ سے بھی آپ رحمت کے نبی ہیں۔ نیز اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کی وجہ سے کھلے ہوئے ہیں۔ نیز آپ اللہ کی رحمتوں کی خبریں اور بشارتیں دینے والے ہیں،

**المَلَاحِمُ:** بفتح الميم وكسر الحاء المهملة، جمع ملحمة، وهي: الحرب ذات القتل الشديد، سمى لها؛ لاشتباك الناس فيها كالسُّدُى واللَّحْمَةُ في الثوب، وقيل: لكثره لحوم القتلى فيها، سمى <sup>جَهَاد</sup>؛ لكثره الجهاد مع الكفار في أيام دولته، وكذا بعده مستمر في أمته إلى أن يقتل آخرهم الدجال، وفي القاموس: سمى به؛ لأنَّه سبب لاتسائهم واجتماعهم، وقال شارح: الملحمة: الواقعة العظيمة في الفتنة. هكذا قال حماد: ذكر المصنف هذا السندي الثاني لمكان الاختلاف بين السندين، ثم ثبَّتَ بهذا الكلام على محل الخلاف بأنَّ حماد بن سلمة لم يقل: عن عاصم، عن أبي وائل كما قاله أبو بكر بن عياش، بل ذكر بدل أبي وائل زرأً. [واختلاف الإسنادين من راوين محمول على تعدد الطرق]

ان معانی کے اعتبار سے بھی آپ رحمت کے نبی ہیں۔ نیز آپ کا دین سراسر رحمت ہے۔ اس لئے بھی آپ رحمت کے نبی ہیں، نیز آپ کی امت کی صفت قرآن شریف میں ﴿رَحْمَاءُّهُمْ﴾ [الفتح: ۲۹] وارد ہوئی ہے، یعنی آپس میں رحمت کا برنا تو کرنے والے، اس لحاظ سے بھی آپ رحمت کے نبی ہیں۔ دوسرا نام آپ کا ”نبی التوبہ“ ہے جس کا ترجمہ ہے توبہ کا نبی کہ آپ کی امت کے لئے صرف توبہ اپنے شرائط کے ساتھ گناہوں کی معافی کے لئے کافی کر دی گئی، بخلاف بعض پہلی امتوں کے کہ ان کی توبہ قبول ہونے کے لئے قتل نفس وغیرہ شرط تھا۔ نیز آپ امت کو کثرت سے توبہ کا حکم کرنے والے ہیں۔ نیز آپ خود نہایت کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، ان وجوہ میں سے ہر وجہ ایسی ہے جس کی بناء پر حضور کو توبہ کا نبی کہا جاسکتا ہے۔ ایسے ہی ایک نام ”مققی“ ہے یعنی سب سے پیچھے آنے والا، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، یا پہلے انبیاء کا اتباع کرنے والا۔ علماء نے دونوں معنی لکھے ہیں۔ دوسرے معنی کا حاصل یہ ہے کہ اصل توحید اور اصولِ دین میں آپ جملہ انبیاء ﷺ کے موافق تھے اور تمام انبیاء ایک دوسرے کے اصلِ دین، توحید اور مکارم اخلاق میں موافق رہے، فروعاتِ مذہب میں اختلاف رہا۔ ایک نام ”حاشر“ ہے جس کا مطلب گذشتہ حدیث میں گزر چکا ہے۔

ایک لقب آپ کا ”نبی الملاحم“ ہے (یعنی ملمحوں کا نبی) ملجم اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں بہت کثرت سے قتل و قتال ہو۔ حضور کے اس نام کی وجہ ظاہر ہے کہ جہاد جس قدر حضور کے زمانہ میں اور حضور کی امت میں ہوا اتنا کسی نبی کی امت میں نہیں ہوا، نیز اس امت میں ہمیشہ رہے گا، چنانچہ آپ کی پیشش گوئی ہے کہ میری امت میں جہاد قیامت تک رہے گا حتیٰ کہ اخیر حصہ امت دجال سے قتال کرے گا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس لفظ کے معنی اجتماع اور الیام کے ہیں اور حضور کی امت میں جو اجتماعی صورت گزر چکی ہے اور باوجود اختلافات اس گئے گزرے دور میں بھی پائی جاتی ہے، کسی نبی کی امت میں ایسی مسلسل نہیں پائی جاتی۔ نیز ملجم کے معنی فتنہ عظیم کے بھی ہیں، اس معنی کے اعتبار سے بھی حضور کا نام صحیح ہے، اس لئے کہ اس امت میں قیامت کے تریب ایسے بڑے اور سخت سخت فتنے پیدا ہوں گے جن کی نظری کسی نبی کی امت میں نہیں ہے، ایک دجال ہی کا فتنہ ایسا سخت ہے کہ حد نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نوح ﷺ کے زمانہ سے لے کر ہر نبی نے دجال کے فتنے سے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ ایسے ہی یا جوج ماجوج کا خروج وغیرہ وغیرہ سخت حوادث آنے والے ہیں جن کے آثار شروع ہیں۔ اللہم احفظنا منها بمنك وفضلك وجاه نبیک وحبيبك.

## باب ما جاء في عيش النبي ﷺ

حدثنا قُبَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عن سِمَّاكَ بْنِ حَرْبٍ،

### باب - حضور اقدس ﷺ کے گزر اوقات کا ذکر

فائدہ: یہ باب پہلے بھی گذر چکا ہے۔ بعض نسخوں میں سب روایات ایک ہی جگہ ذکر کی ہیں، مقام کے مناسب بھی یہی بات ہے، لیکن جو نئے ہمارے پاس موجود ہیں ان میں یہ باب مکرر پایا جاتا ہے۔ اگر نقل کرنے والوں کی غلطی سے ایسا نہیں ہوا تو بہت ممکن ہے کہ خود امام ترمذی رضی اللہ عنہ علیہ نے کسی مصلحت سے اس کو مکرر لکھا ہو۔ غور سے متفرق مصالح اس کی صحیح میں آتی ہیں، ممکن ہے کہ امام ترمذی نے ایک طفیل اشارہ اس طرف کیا ہو کہ حضور کا اس فقرہ اور تنگی کو اختیار فرمانا ابتداء سے لے کر اخیر تک رہا، اس لئے ابتدائی زمانہ کی طرف اول اشارہ فرمایا اور وفات کے قریب اس باب کو ذکر فرمایا کہ اخیر زمانہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ باوجود خبر اور خینہ وغیرہ کی غنیمتیوں کے اپنا حال وہی فقر و فاقہ تھا اور حق یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل جلالہ حرص و طمع دُور فرمائے تو فقر و فاقہ میں بھی لذت ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ میرے لئے مکہ کی زمین کو سونے کی بنا دے۔ میں نے عرض کیا: یا اللہ! یہ نہیں بلکہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تاکہ تیرا شکر کروں اور ایک دن بھوکا رہوں کہ تیرے سامنے عاجزی کروں۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں تم لوگوں پر فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا بلکہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا اس طرح پھیل جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر پھیل گئی تھی اور تم اُس میں اس طرح دل گانے لگو جس طرح ان لوگوں نے دل لگایا اور یہ تم کو بھی اسی طرح ہلاک کر دے جیسا کہ ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی لئے حضور اکرم ﷺ نے ایک جگہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ! محمد کی اولاد کی روزی بقدر کفایت تجویز فرمَا (مکملہ)۔ مصنف رضی اللہ عنہ علیہ نے اس موجودہ باب میں نو حدیثیں ذکر کی ہیں، جن میں سے بعض مکرر ہیں جو پہلے ابواب میں گزر چکی ہیں۔

باب إلخ: هذه الترجمة مكررة، تقدمت في أول الكتاب، ولا شك أن زيادة بعض الأحاديث في باب لا توجب تكرار العنوان، وبعضهم ذكرروا هناك توجيهات متقلفة. في عيش النبي ﷺ: [أي: باب بيان ما ورد من الأحاديث في كيفية معيشته ﷺ حال حياته، وقد ذكر هذا الباب سابقاً، وأعاده بزيادات أخرى جتره عن التكرار، وهذا الباب مما يدل على ضيق عيش في آخر أمره، وذلك مما يدل على أول أمره إشارة إلى استواء حاليه]. حدثنا قُبَيْة إلخ: الحديث بسنده ومتنه مكرر، تقدم في باب صفة إadam النبي ﷺ.

قال: سمعت<sup>(١)</sup> النعمان بن بشیر يقول: أَلْسُنُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شَتَّمْ؟ لَقَدْ رَأَيْتَ نِسِكَمْ ﷺ  
وَمَا يَجِدُ مِن الدَّقَّلَ مَا يَمْلأُ بَطْنَهُ.  
حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة، عن هشام بن عمروة،  
عن أبيه، عن عائشة<sup>بنت النبي ﷺ</sup> قالت: إن كنا -آل محمد- نمكث<sup>بفتح الميم</sup> شهراً ما نستوقد بنار<sup>بفتح الميم</sup>، إن هو إلا  
التمر والماء. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار، حدثنا سهل بن أسلم، عن يزيد بن  
أبي منصور، عن أنس،  
فتح مهملة وشدة تحفظ

(١) نعمان بن بشیر رضي الله عنه کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ کھانے پینے میں اپنی مرضی کے موافق منہک نہیں ہو؟ (اور جتنا دل چاہے تم  
لوگ نہیں کھاتے ہو؟) حالانکہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ کے یہاں روئی کھجوریں بھی پیٹ بھر نہیں  
تھیں۔ فائدہ: یہ حدیث سالم کے باب میں دوسرے نمبر پر گزر چکی ہے۔

(٢) حضرت عائشہ<sup>رضي الله عنها</sup> فرماتی ہیں کہ ہم لوگ یعنی حضور کے اہل و عیال ایک ماتک تھبہرے رہتے ہمارے یہاں آگ نہیں  
جلتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر گزارا تھا۔ فائدہ: آگ نہ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ پکانے کے لئے کوئی چیز ہوتی ہی نہ تھی جس کے  
لئے آگ جلانا پڑتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ پانی کا تند کرہ اس لئے فرمایا کہ کھجور بھی اتنی نہ تھی کہ بغیر پانی کی مدد کے پیٹ بھرنے کے  
لئے کافی ہوتی، بلکہ چند کھجوریں کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ بھرنے کی مقدار ہوتی تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو مہینے  
کامل گزر جانے کے بعد تیسرے مہینہ کا چاند نظر آ جاتا تھا اور حضور کے گھروں میں مطلقاً آگ جلنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ ایک حدیث  
میں آیا ہے کہ ایک چاند پھر دوسرا چاند ہو جاتا تھا، حضور کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی آگ جلنے کی نوبت نہ آتی تھی۔

الستم: [أي: ألسُنُمْ مُتَنَعِّمِينَ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ الَّذِي شَتَّمُوا مِن التَّوْسِعَ وَالْإِفْرَاطِ]. ما شَتَّمْ: "ما شَتَّمْ" صفة مصدر  
محذوف، أي: ألسُنُمْ مُتَنَعِّمِينَ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مُقدار ما شَتَّمْ، فـ "ما" موصولة، ويجوز أن يكون مصدرية.  
آل محمد: بدل من ضمير الفاعل وبالنصب على المدح، أو بتقدير "أعني"، وجعله خير "كنا" بعيد؛ لأن المقصود بالإفادة  
ليس كونهم آل محمد، بل قوله: "نمكث". ما نستوقد: حال، وجعله خيراً بعد خير بعيد. بنار: [أي: ما نوقد نار الطبخ  
أو الخبز]. عبد الله بن أبي زياد: بالإضافة إلى لفظ الحلال، فما في بعض النسخ بدونه تصحيف من الناسخ، وبلفظ  
الحلال آخر جمه المصنف في جامعه.

عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ الجوع، ورفعنا عن بطننا عن حجر حجرٍ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ خالہ جان! پھر کس چیز پر گزارہ تھا؟ فرمایا کہ کھور اور پانی، البته حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پڑو سی انصار میں ایسے تھے جن کے بیہاں دودھ کے جانور تھے، ان میں سے کوئی ہدیہ کے طور پر دودھ پیش کر دیتا تو وہ ہم کو بھی پلایا جاتا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ڈیڑھ مہینہ مسلسل ایسا گزر جاتا کہ حضور کے گھر میں روشنی کے لئے یا کسی اور چیز کے لئے آگ نہ جلتی تھی۔ روشنی کے لئے آگ جلنے سے مراد چدائغ کا جانا ہے (جمع الوسائل) ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بکری کی ایک مانگ پیش کی، رات کا وقت تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اندھیرے ہی میں اُس کے ٹکڑے کرنے لگیں، کسی نے کہا کہ گھر میں چدائغ نہیں ہے؟ فرمانے لگیں کہ اگر چدائغ میں جلانے کے لئے تیل ہوتا تو اُس کو کھانے ہی میں نہ استعمال کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے اپنے اور اپنے گھر کے لوگوں کے لئے اس حالت کو پسند فرمایا، حالانکہ خزانوں کی سنجیاں حضور پر پیش کی گئیں، اس کے بعد امت چار حصوں پر منقسم ہو گئی: ایک وہ جماعت جنہوں نے نہ تو خود دنیا کی طرف رُخ کیا نہ دنیا ہی نے ان کا ارادہ کیا، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ دوسری وہ جماعت جنہوں نے دنیا کا رُخ نہ کیا لیکن دنیا نے ان کا ارادہ کیا، جیسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تیسرا وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی طرف رُخ کیا، اور دنیا نے بھی ان کی طرف رُخ کیا جیسے بنو امیہ کے بادشاہ عمر بن عبد العزیز کے علاوہ۔ چوتھے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کا ارادہ کیا، مگر دنیا نے اوہر کا رُخ نہ کیا جیسے وہ لوگ جن کو اللہ نے فقیر بنا یا اور دنیا کی محبت ان کے دل میں ہو گئی۔ (مناوی)۔

(۳) ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شدت بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے پھر دکھلائے کہ ہر شخص کے پیٹ پر بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک ایک پھر بندھا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر دو پھر بندھے ہوئے دکھلائے کہ حضور کو شدت بھوک ہم سے زیادہ تھی اور ہم سے زیادہ وقت بدون کھائے گزر چکا تھا۔

عن بطننا: حکی عن الطبی: أن "عن الأولى متعلق بـ"رفعنا" بتضمين معنی الكشف، والثانية صفة مصدر مذوف، أي: كشفنا ثيابنا عن بطوننا كشفا صادرًا عن حجر حجر، وقال زین العرب: "عن حجر" بدل اشتعمال عما قبله.

فرفع رسول الله ﷺ عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

فائدہ: اہل مدینہ کی یہ عادت تھی کہ شدت بھوک کے وقت جب عاجز ہو جاتے تو پیٹ سے پھر باندھ لینے تاکہ اُس کی سختی کی وجہ سے چلنے پھرنے میں ضعف لا جن نہ ہو۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ مدینہ کے ایک پھر کے ساتھ خاص ہے جس کا نام "مشیع" ہے، اُس پھر میں اللہ تعالیٰ شانے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اُس کے باندھ لینے سے بھوک میں کسی قدر تسلیم ہو جاتی ہے لیکن ظاہر پہلا ہی قول ہے، اس لئے کہ اب بھی اکثر ایسا کیا جاتا ہے کہ شدت بھوک کے وقت پیٹ سے کسی کپڑے کا سخت باندھ لینا ضعف اور بھوک کی بے چینی میں مفید ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ خالی پیٹ میں فتح پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور پھر کو یا کسی سخت چیز کو باندھ لینے سے اس سے امن رہتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب پیٹ بالکل خالی ہو جائے تو انتربیوں کے اتر جانے کا خدشہ ہوتا ہے، بالخصوص چلنے پھرنے میں اور پیٹ کو باندھ لینے سے یہ خدشہ نہیں رہتا، نیز پیٹ کے بالکل خالی ہو جانے سے کمر بھی جک جاتی ہے، کبڑا ہونے کا اندریشہ ہوتا ہے۔ اس حدیث پر ایک قوی اشکال ہے،

فرفع إلخ: أشكل على الحديث بروايات الوصال وقوله عليه الصلوة والسلام: يطعمي ربي ويستقيني، ولذا اضطر ابن حبان إلى إنكار أحاديث "وضع الحجر" رأساً، وليس كذلك، وإنما ثابتة بوجوهه، فلا بد من الجمع: بأن الإطعام منه تعالى مخصوص بالوصلان، أو يجمع بشيء آخر بخلاف الأحوال باختلاف الأوقات، أو بحمل ذلك على أول الأمر، وقال المناوي: فعل ذلك؛ ليعلم صحبه أن ليس عنده ما يستأثر به عليهم، لا أنه فعله من شدة الجوع، فإنه كان يبيت عند ربه ليطعمه ويستقيه، ويدل لذلك ما جاء عن جمع: أنه كان مع ذلك لا يتغيب عليه أثر الجوع أصلاً، وبهذا يعلم أن لا ضرورة إلى ما سلكه أبو حاتم ابن حبان من إنكار أحاديث "وضع الحجر" رأساً في قوله: إنما باطلة خبر الوصال، وإن الرواية إنما هي "الحجر" بالزاي فتصحيف، قال الحافظ ابن حجر: وقد أكثر الناس في الرد عليه.

هذا الوجه: قال القاري: يعني غرابة ناشئة من طريق أبي طلحة لامن سائر الطرق، وقال ميرك: ورواته ثقفات، يعني فلا يضره الغرابة، فإنما لا تنافي الصحة والحسن، فإن الغريب ما يتفرد برواية عدل ضابط من رجال النقل، فإن كان التفرد برواية متنه فهو غريب متنا، وإن كان برواية عن غير المعروف عنه، كأن يعرف عن صحابي فغيره عدل وحده عن صحابي آخر فهو غريب إسناداً، وهذا هو الذي يقول فيه الترمذى: غريب من هذا الوجه، بنحوه جزم المناوى إذ قال: غرابة ناشئة من طريق أبي طلحة لا من سائر الطرق، وقال البيهقى: غريب من حدیث أبي طلحة، أي: حال کونه من حدیث أبي طلحة.

وَعَنْ قَوْلِهِ: "وَرَفَعْنَا عَنْ بَطْوُنَنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ" كَانَ أَحَدُهُمْ يَشَدُّ فِي بَطْنِهِ الْحَجَرَ مِنَ الْجَهَدِ وَالضَّعْفِ الَّذِي بِهِ مِنَ الْجُوعِ.

وہ یہ کہ بہت سی احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کئی دن کا مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے اور جب صحابہ کرام نے حضور کے اتباع میں روزوں کے تسلسل کا ارادہ کیا تو حضور نے منع فرمادیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری خصوصیت ہے کہ بغیر افظار کے کئی دن کا مسلسل روزہ رکھوں، اس لئے کہ حق تعالیٰ بَلْ غَيْرَ بَلْ مجھے کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ یہ کھلانا پلانا کس طرح ہوتا تھا، یہ اپنی گلہ پر ہے، لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ ظاہری طور پر کھانائینا چھوڑنے سے حضور پر بھوک کا اثر محسوس نہ ہوتا تھا، ایسی صورت میں پیٹ سے پھر باندھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور چونکہ روزے والی روایات کثیرہ ہیں اس لئے بعض علماء نے محدثین کے قواعد کے ماتحت ان پھر والی روایتوں کو ضعیف قرار دیا۔ لیکن اکثر محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ اس مضمون کی روایات بھی کئی ہیں، نیز روزے والی روایتوں سے کوئی ایسی مخالفت بھی نہیں ہے کہ دونوں کا مختلف حالات پر حمل نہ ہو سکتا ہو، اس لئے ان روایات کے ضعیف قرار دینے کی ضرورت نہیں اس کے بعد پھر مختلف اقوال ان دونوں روایتوں کے متعلق وارد ہوئے ہیں۔

نمبر ۱: پھر والی روایات ابتدائے زمانہ کی ہوں اور یقیناً حضور اکرم ﷺ کی ترقیات روز افزوں تھیں اس لئے کھلانے پلانے والی روایات بعد کی ہوں۔

نمبر ۲: کھلانا پلانا روزے کی حالت کے ساتھ مخصوص ہو اور عام موئین میں بھی یہ بات مشاہدہ میں آتی ہے کہ روزے کی حالت میں فاقہ کا اثر اور لقب اتنا نہیں ہوتا جتنا بغیر روزے کے فاقہ سے مشقت اور بار ہوتا ہے، تو پھر حضور کا کیا کہنا جہاں روزہ حیقی اور کمال کے درجہ پر تھا۔

وَعَنْ: هَذَا أَحَدُ الوجوه الواردة فيهِ، قال المناوي: كعادة أهل الرياضة أو العرب أو أهل المدينة إذا حللت أجوفهم لثلا تسترخي، أو لأن البطن الخالي يضعف صاحبه عن القيام لتفوّس ظهره، ولأنه يسكن أو يدفع النفح أو ألم الجوع؛ لأن محل الجوع من شدة حرارة المعدة الغريزية، فإذا انضمت على المعدة الأحشاء خدت نارها بعض الخمود فسكن الألم بعض السكون.

الجهد: بضم الجيم، وفي نسخة بفتحها، فقيل: بالضم: الْوَسْعُ وَالْطَّاقَةُ، وبالفتح: الْمَشْقَةُ، وَقَيلٌ: الْمَبَالَغَةُ وَالْغَايَةُ، وَقَيلٌ: هَمَا لَعْنَانٌ فِي الْوَسْعِ وَالْطَّاقَةِ، فَأَمَا فِي الْمَشْقَةِ وَالْغَايَةِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرُهُ، وَمِنْ تَعْلِيلَهُ الْمَذْكُورُ، وَمِنْ بَيَانِهِ لِلْمَوْصُولِ أَوْ الْبَدَائِيَّةِ.

حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا آدم بن أبي اياس، حدثنا شيبان أبو معاویة، حدثنا عبد الملك بن عمیر،  
البحاری بکسر افمزة صغری عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: خرج النبي ﷺ في ساعة لا يخرج فيها،  
[أي: من بيته]

نمبر ۳: مختلف حالات کے اعتبار سے دونوں حالات حضور کے بھی ہوتے ہوں، جیسا کہ مشائخ سلوک کے مختلف احوال ہوا کرتے ہیں۔ اس قول کے موافق ان روایات کو ابتدائے زمانہ پر محول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اخیر زمانہ میں بھی مختلف اوقات کے اعتبار سے مختلف احوال ہو سکتے ہیں۔

نمبر ۴: حضور پر بھوک کا اثر یقیناً نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود پھروں کا باندھنا فقراء اور مسکین کے ساتھ اشتراک عمل کی غرض سے تھا اور عام دستور ہے کہ جس مشقت اور تکلیف میں اپنے بڑے بھی بتلا ہو جاتے ہیں اُس میں سعادت مند چھوٹوں کے لئے ان کے مقابلہ میں اپنی تکلیف کا التفات بھی نہیں رہتا۔ پھر صحابہ کرام جیسے سعید عشاق کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔

نمبر ۵: حق تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے کھلانا پلانا اعزاز و اکرام ہی تو تھا، کوئی وجوبی امر نہ تھا، تو کسی وقت جب کہ صحابہ کرام پر تنگی و غرست کا غلبہ ہو، فقر و فاقہ اس حالت پر پہنچ گیا ہو کہ پیٹ سے پھر باندھنا پڑ جائیں، حضور خود اُس اکرام سے مستفید نہ ہوتے ہوں کہ بچہ اگر بھوک میں تڑپا ہو تو ماں کے حلق میں مکڑا انکا کرتا ہے، پھر حضور کی امت پر شفقت کا کیا پوچھنا! جہاں ہزاروں ماوس کی شفقتیں قربان۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت دولت خانہ سے باہر تشریف لائے کہ اُس وقت نہ تو حضور کی عادتِ شریفہ باہر تشریف لانے کی تھی نہ کوئی شخص حضور کی خدمت میں اُس وقت دولت خانہ پر حاضر ہوتا تھا۔ حضور کی باہر تشریف آوری پر حضرت ابو بکر صدیق رض حاضر ہوئے۔ حضور نے ابو بکر رض سے خلافِ معمول بے وقت آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا: جمالِ جہاں آرائی زیارت اور سلام کے لئے حاضر ہوا ہوں (یہ حضرت ابو بکر صدیق رض کے کمالِ تناصب کی وجہ سے تھا کہ حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خلافِ عادت باہر تشریف آوری کی نوبت آئی تو اُس کیجاں دو قابل پر بھی اس کا اثر ہوا۔ بندہ کے نزدیک یہی وجہ اولیٰ ہے اور یہی کمالِ تناصب بڑی وجہ ہے نبوی دور کے ساتھ

شیبان: بشین معجمۃ فتحتہنیۃ فموحدۃ، هکذا فی النسخ الہندیۃ، وکذا اخرجه المصنف فی الجامع وقال: شیبان ثقة عندهم صاحب کتاب، فما فی أكثر نسخ الشمائل المصرية بدله "سفیان" سهو من الناسخ.

ولا يلقاء فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله ﷺ، وأنظر في وجهه، والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر،  
بفتح المودة

خلافت صدیقیہ کے اتصال کی کہ حضور کے وصال کے بعد اگر کوئی دوسرا خلیفہ ہوتا تو مناسبت تامہ نہ ہونے کی وجہ سے وقتو  
احکام میں کچھ تغیر ضرور ہوتا اور صحابہ کرام کے لئے حضور کے فراق کے ساتھ یہ دوسرا مرحلہ مل کر رنج و ملال کو ناقابل  
برداشت بنانے والا ہوتا، بخلاف صدیق اکبر شیخ شیخ کے کہ حضور اقدس ﷺ کے ساتھ اس درجہ اتصال اور قلبی یک جہتی  
تھی کہ جن موقع پر جو حضور کا طرز عمل تھا، ہی اکثر حضرت ابو بکر صدیق شیخ شیخ کا بھی تھا، چنانچہ حدیبیہ کا قصہ مشہور ہے  
جس کا ذکر حکایات صحابہ میں بھی گزر چکا ہے۔ مسلمانوں نے نہایت دب کر ایسی شرائط پر کفار سے صلح کی تھی کہ بعض  
صحابہ اُس کا تتمم بھی نہ کر سکے، اور حضرت عمر شیخ شیخ نہایت جوش میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر  
عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا: بے شک۔ حضرت عمر: کیا ہم حق پر اور  
دشمن باطل پر نہیں ہے؟ حضور: بے شک۔ حضرت عمر: پھر ہم کو دین کے بارے میں یہ ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ حضور:  
میں اللہ کا رسول ہوں اور اُس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ حضرت عمر: کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ  
ہم مکہ جائیں گے اور طواف کریں گے؟ حضور: بے شک، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال مکہ میں جائیں گے؟  
حضرت عمر: نہیں، یہ تو نہیں کہا تھا۔ حضور: بس تو مکہ میں ضرور جائے گا اور طواف کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر شیخ شیخ  
اسی جوش میں حضرت ابو بکر شیخ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ابو بکر! کیا یہ اللہ کے سچے نبی  
نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر: بے شک۔ حضرت عمر: کیا ہم حق پر اور دشمن باطل پر نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر: بے شک۔  
حضرت عمر: پھر دین کے بارے میں ہم ذلت کیوں دیے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر: او آدمی! یہ بلا تردد سچے رسول ہیں اور  
اللہ کی ذرا بھی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، وہی ان کا مددگار ہے

ما جاء بك: الباء للتعدية، أي: ما الذي أحضرك في هذا الوقت؟. والتسليم: بالنصب على أنه مفعول فعل مقدر  
معطوف على الفعلين، أي: ألقى وأنظر وأريد التسليم، وبالحر، أي: أتشرف بالتسليم عليه، أو عطف على "اللقى"  
بحسب المعنى، أي: للقاء ﷺ والتسليم عليه.

فقال: ما جاء بك ياعمر؟ قال: الجوع يا رسول الله! فقال النبي ﷺ: وأنا قد وجدت بعض ذلك،

تو ان کی رکاب کو مضبوط پکڑے رہ۔ حضرت عمر: کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے اور طواف کریں گے؟ حضرت ابو بکر: کیا تجھ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اسی سال جائیں گے؟ حضرت عمر: نہیں، یہ تو نہیں کہا تھا۔ حضرت ابو بکر: تو مکہ میں جائے گا اور طواف کرے گا۔ (بخاری شریف میں یہ قصہ مفضل مذکور ہے اور بھی اس قسم کے متعدد واقعات حیرت انگیز ہیں۔ حتیٰ کہ اگر حضور سے اجتہادی خطاب ہوئی تو اس میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شریک ہیں، جیسا کہ بدر کے قیدیوں کے معاملہ میں جس کا قصہ سورہ انفال کے اخیر میں ہے۔ اس صورت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس وقت خلاف معمول باہر آنا ”دل را بدیل رہیست“ حضور کے قلبِ اطہر کا اثر تھا، گو بھوک بھی لگی ہوئی ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آنا بھی بھوک کے تقاضے کی وجہ سے تھا، لیکن حضور کے چہرہ انور کو دیکھ کر اُس کا خیال بھی جاتا رہا، اسی لئے حضور کے استفسار پر اُس کا ذکر نہیں کیا۔

یاد سب کچھ ہیں مجھے بھر کے صدے ظالم بھول جاتا ہوں مگر دیکھ کے صورت تیری

بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری بھوک ہی کی وجہ سے تھی، مگر اس کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ حضور کو گرانی نہ ہو کہ دوست کی تکلیف اپنی تکلیف پر غالب ہو جایا کرتی ہے) تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضرِ خدمت ہوئے، حضور نے اُن سے بھی بے وقت حاضری کا سبب پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ حضور! بھوک کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھوک تو کچھ میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تینوں حضرت ابوالیشم انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ اہل ثروت لوگوں میں تھے، کھجوروں کا بڑا باغ تھا، بکریاں بھی بہت سی تھیں، البتہ خادم اُن کے پاس کوئی نہیں تھا، اس لئے گھر کا کام سب خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ یہ حضرات جب اُن کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ گھر والوں کے لئے میٹھا پانی لینے لگے ہیں جو خادم نہ ہونے کی وجہ سے خود ہی لانا پڑتا تھا۔

بعض ذلك: وفي رواية مسلم عن أبي هريرة أيضاً، فإذا هو يأتي بكر و عمر فقال: ما أخر حكما من بيوتكمأ هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله! قال أما والذى نفسي بيده لأخر جن니 الذى أخر حكما، فقيل: هما قضيتان، أو لما جاء عمر و ذكر الجوع ذكره أبو بكر أيضاً، رووي في معنى الباب عن حابر، قال القاري: وبعض الزيادات في بعض الروايات محفوظة من بعض الرواة.

فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التیهان الأنصاري، وكان رجلاً كثیر التخل والشأء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، فلم يلبشو أن [أي: يجيء لنا بالماء العذب]

جاء أبو الهيثم بقربة يَنْزَعُبُها،  
أي إلا أن جاء أو لأن جاء

لیکن ان حضرات کے پہنچنے پر تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ بھی مشکیزہ کو جو مشکل سے امتحنا تھا، بدقت اٹھاتے ہوئے واپس آگئے اور حضور کی زیارت سے مشرف ہو کر (اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتے اور زبان حال سے:

هم نشیں جب میرے ایام بھلے آئیں گے      بن بلائے میرے گھر آپ چلے آئیں گے

پڑھتے ہوئے) حضور سے لپٹ گئے اور حضور پر اپنے ماں باپ کو نثار کرنے لگے، یعنی عرض کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان! اس کے بعد باغ میں چلنے کی درخواست کی، وہاں پہنچ کر فرش بچایا اور دین و دنیا کے سردار، مایہ فخر مہمان کو بھاکر ایک خوشہ (جس میں ہر طرح کی کچھی کچھی اور کچھری کھجوریں تھیں) سامنے حاضر کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سارا خوشہ توڑنے کی کیا ضرورت تھی اس میں ابھی کچھ کچھی بھی ہیں جو ضائع ہوں گی، کچھی کچھی چھانٹ کر کیوں نہ توڑ لیں۔ میزبان نے عرض کیا: تاکہ اپنی پند سے کچھی اور گدری ہر نوع کی حسبِ رغبت تو شرمائیں، تیتوں حضرات نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ اس کے بعد حضور اقدس ﷺ نے جن کا ہر ہر لمحہ تعلیم امت تھا، ارشاد فرمایا کہ اُس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے،

أبي الهيثم: قال القاري: في رواية عند الطبراني وابن حبان في صحيحه أبي أيوب الأنصاري، فالقضية متعددة، وفي رواية مسلم: رجل من الأنصار، وهو محتمل لهم، قال المناوي: وانطلاقهم إلى منزله لا ينافي كمال شرفهم، فقد استطاع موسى والختنصر قبلهم، وكان للنبي ﷺ مندوحة عن ذلك، ولو شاء لكان جبال قماة تمشي معه ذهباً، لكن الله سبحانه أراد أن يعزى الخلاقون بهم، وأن يسعن هم السنن، ففعلوا ذلك تشريفاً للأمة. وهل خرج ﷺ قاصداً من أول خروجه إلى إنسان معين أو إنما جاء التعيين بالاتفاق؟ الظاهر الثاني.

الـتـيـهـانـ: بفتحـ النـاءـ الفـوـقـانـيـ وـكـسـرـ التـحـتـانـيـ المـشـدـدـةـ، وـهـوـ لـقـبـ، وـاسـمـ أـبـيـ الـهـيـثـمـ مـالـكـ.  
 خدم: بفتحـتينـ، جـمـعـ خـادـمـ أـعـمـ منـ الذـكـرـ وـالـأـنـثـيـ، وـلـيـسـ المـرـادـ نـفـيـ الجـمـعـ، بلـ نـفـيـ الإـفـرـادـ، وـهـذاـ توـطـةـ لـقولـهـ الآـتـيـ: "فـلـمـ يـجـدـوـهـ". يـسـتعـذـبـ إـلـخـ: [أـيـ: يـأـتـيـ لـنـاـ بـمـاءـ عـذـبـ مـنـ بـهـ، وـكـانـ أـكـثـرـ مـيـاهـ الـمـدـيـنـةـ مـالـحـةـ] يـنـزـعـبـهاـ: بـتـحـتـيـةـ مـفـتوـحةـ فـرـايـ  
ساـكـنـةـ فـعـيـنـ مـهـمـلـةـ مـفـتوـحةـ، مـنـ زـعـبـ الـقـرـبـةـ: مـلـأـهـاـ، وـقـيلـ: يـدـفعـهاـ لـثـقـلـهاـ، يـقـالـ: جـاءـنـاـ سـيـلـ يـزـعـبـ زـعـباـ، أـيـ: يـتـدـافـعـ.

فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي ﷺ، ويُفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق هم إلى حدائقه، فبسط لهم  
بساطاً، ثم انطلق إلى نخلة، فجاء بقنو، فوضعه، فقال النبي ﷺ: أَفَلَا تَنْقِتُ لَنَا مِنْ رُطْبَه؟  
يُعانقه منْ همْ فراشا  
إفراد الجيد من الردي

یہ بھی اس نعمیں داخل ہے جن کا سوال قیامت میں ہو گا اور سورہ الہاکم التکاثر کے ختم پر حق تعالیٰ بل شانے اس کا ذکر فرمایا ہے، اُن کے شکر کے متعلق سوال ہو گا کہ ہماری نعمتوں کا کس درجہ شکر ادا کیا۔ اللہم لا أُحصي شاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْبَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ پھر اس وقت کی نعمتوں کے اظہار شکر کے طور پر فرمایا کہ ٹھنڈا سایہ، ٹھنڈا پانی اور تروتازہ کھجوریں۔ اس کے بعد میزبان کھانے کی تیاری کے لئے جانے لگے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ فرطِ محبت میں کیفماں اتفاق مت ذبح کر دینا، بلکہ ایسا جانور ذبح کرنا جو دودھ کا نہ ہو، میزبان نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور بجلت تمام کھانا تیار کر کے حاضرِ خدمت کیا اور مہمانوں نے تناول فرمایا۔ حضور نے اس وقت یہ ملاحظہ فرمایا کہ مختار میزبان سب کام خود ہی کر رہا ہے اور شروع میں میٹھا پانی بھی خود ہی لاتے دیکھا تھا، دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی خادم نہیں؟ نفی میں جواب ملنے پر حضور نے فرمایا کہ اگر کہیں سے غلام آئیں تو تم یاد دلانا، اس وقت تمہاری ضرورت کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اتفاقاً ایک جگہ سے صرف دو غلام آئے تو ابوالہیثم نے حاضر ہو کر وعدہ علیجہ کی یاد دہانی کی۔ حضور نے فرمایا کہ ان دونوں غلاموں میں سے جو ناسوں چاہے پسند کر لو جو تمہاری ضرورت کے مناسب ہو۔ (یہ جان ثار حضور کی موجودگی میں اپنی کیارائے رکھتے، اس لئے) درخواست کی کہ حضور ہی میرے لئے پسند فرمائیں (وہاں بجز دینداری کے اور کوئی وجہ ترجیح اور پسندیدگی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس لئے) حضور نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، اس لئے میں امین ہونے کی حیثیت سے فلاں غلام کو پسند کرتا ہوں،

يلترزم: [أي: يلتصق صدره به ويعانقه تبركاً به] ويفديه: بتشديد الدال من التنفيذية، وفي نسخة كبير ميه، وفي آخرى من الإفداء، وكلها بعيد؛ لأن الفداء إنقاذ الأسير بإعطاء شيء، والإفداء قبول فدائه. هم: الباء للتعديدة أو المصاحبة، أي: ذهب معهم، وأنكر القاري الأول؛ لعدم ملائمته مقام الإكرام. بقنو: بكسر القاف وسكون النون بوزن حمل، أي: عذق كما في رواية مسلم، وهو: الغض فيه بسر وقر ورطب. فوضعه: [أي: بين أيديهم؛ ليتفكروا منه قبل الطعام].  
أَفَلَا تَنْقِتُ لَنَا مِنْ رُطْبَه؟ [أي: إذا أدرك ونضج]

فقال: يا رسول الله! إني أردت أن تختاروا - أو تخيروا - من رُطبه وبُسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال النبي ﷺ: هذا والذى نفسي بيده من النعيم الذى تُسألون عنه يوم القيمة، ظِلْ<sup>٢</sup>  
بارد، ورُطب طيب، وماء بارد،

اس لئے کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا، لیکن میری ایک دوست اس کے بارے میں یاد رکھیو کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجیو! (اول حضور نے مشورہ کے ضابطہ کو ذکر فرمایا اس پر تسبیہ فرمائی کہ میری جو پسندیدگی ہے وہ ذمہ دارانہ اور امانت داری کی ہے، پھر ایک کو پسند فرمایا کہ وجہ ترجیح بھی ظاہر فرمائی کہ وہ نمازی ہے۔ یہ وجہ ہے اس کو راجح قرار دینے کی۔ ہمارے زمانہ میں ملازم کا نمازی ہونا گویا عیب ہے کہ آقا کے کام کا حرج ہوتا ہے) ابوالہیثم خوش خوش اپنی ضرورتوں کے لئے ایک مددگار ساتھ لے کر گھر گئے اور حضور کا فرمان عالی شان بھی یوں کو سنا دیا۔ یوں نے کہا کہ حضور کے ارشاد کی کماقہ تعییل نہ ہو سکے گی اور اس درجہ بھلائی کا معاملہ کہ ارشاد عالیجاہ کا انتقال ہو جائے، ہم سے نہ ہو سکے گا اس لئے اس کو آزاد ہی کر دو کہ اسی سے انتقال ارشاد ممکن ہے۔ سراپا شجاع اور محبّیم اخلاص خاوند نے فوراً آزاد کر دیا اور اپنی دقتون اور تکالیف کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ حضور اقدس ﷺ کو جب واقعہ اور جان ثار صحابی کے ایثار کا حال معلوم ہوا تو اظہار مسرت اور یوں کی مدح کے طور پر ارشاد فرمایا کہ ہر نبی اور اس کے جانشینوں کے لئے حق تعالیٰ بل شاد و باطنی مشیر اور صلاح کا پیدا فرماتے ہیں، جن میں سے ایک مشیر تو بھلائی کی ترغیب دیتا ہے اور ہر بُرائی سے روکتا ہے، دوسرا مشیر جاہ و بر باد کرنے میں ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ جو شخص اس کی بُرائی سے بچا دیا جائے وہ هر قسم کی بُرائی سے روک دیا گیا۔

أو تخيروا: بمحذف إحدى التائين، أي: تخيروا، شك من الرواية، فإن الاختيار والتخيير بمعنى التقنية، ومن قال "أو" للتبني وفرق بينهما فتكلف حق صار تعسفا. تَسْأَلُونَ: إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُشَائِلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [النكاثر: ٨] والمراد السؤال عن القيام بشكره على ما قاله القاضي عياض، وقال النووي: الذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم، وإعلامه بالامتنان، وإظهار كرمه بإسباغها، لا سؤال محاسبة. قال المناوي: والخير صريح في رد زعم جمع مفسرين كالواحدي أن السؤال عن النعيم يختص بالكافر، وليس في اللفظ ولا في السنة ما يقتضي الاختصاص بل عدمه، وما نقله عن الحسن أنه لا يسأل أهل النار فباطل قطعا إما عليه أو منه. رطب: قوله: رطب طيب، تذکیر الوصف يدل على أن الرطب ليس بجمع، بل هو اسم جنس يطلق على القليل والكثير.

فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي ﷺ: لا تذبحنّ لنا ذات دَرّ، فذبح لهم عَنَاقاً أو جَدِيَا، فأتاهم بها، فأكلوا، فقال النبي ﷺ: هل لك خادِم؟ قال: لا، قال: فإذا أتانا سَيِّئٌ فأتنا، فأتي النبي ﷺ برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي ﷺ: اختر منهما، فقال: يا نَبِيَّ اللَّهُ! اخترلي، فقال النبي ﷺ: إن المستشار مُؤْتَمِنٌ، خذ هذا فإني رأيته يُصلّى، واستوص به معروفاً، فانطلق أبو الهيثم إلى أمراته، فأخبرها بقول رسول الله ﷺ، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي ﷺ إلا أن تعتقه، قال: فهو عتيق،

فائدہ: ابوالہیثم کی بیوی بمنزلہ بہترین مشیر کار کے تھیں، جنہوں نے مشورہ دے کر ایک کار خیر یعنی ایک نمازی غلام کو آزاد کر دیا اور اپنی ضروریات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور نہ اس کی پرواہ کی کہ کس قدر مشتکیں اٹھانے کے بعد خادم ملا ہے، کچھ دن تو اس کی وجہ سے آرام اٹھائیں، بعد میں آزاد کر دیں گے۔

طعاماً: الخبر من مستدلات الشافعي على أن الرطب فاكهة لا طعام، وقال أبو حنيفة: إن الرطب والرمان ليسا بفاكهة، بل الرطب غذاء والرمان دواء؛ لقوله تعالى: **﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَحْلٌ وَرَمَانٌ﴾** [الرحمن: ٦٨] بناء على أن الأصل في العطف المغایرة، والفاكهة: ما يتفكه به تلذذاً. عناقاً: بفتح العين المهملة وتحقيق النون، هي: الأشى من أولاد المعز. أو جَدِيَا: شك من الرواى، والعناق بفتح العين: أشى المعز لها أربعة أشهر، والجدي بفتح الجيم وسكون الدال: ذكر المعز مالم يبلغ سنة. مُؤْتَمِنٌ: بصيغة المفعول، وهو حديث صحيح كاد أن يكون متواتراً، ففي الجامع الصغير: المستشار مُؤْتَمِنٌ، رواه الأربعة عن أبي هريرة، والترمذى عن أم سلمة، وأ ابن ماجة عن ابن مسعود، والطبرانى في الكبير عن سمرة، وزاد: إن شاء أشار وإن شاء لم يشر، وفي الأووسط عن علي، وزاد: فإذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه، والمعنى: أن الذي طلب منه المشورة جعله أميناً، فيلزم رعاية حال المستشير، ولا يحل له كتم أمر فيه صلاحه، فإن فعل خرج عن كونه أميناً، وصار خائناً، قال ذلك إعلاماً أو تعليماً لأبي الهيثم، أو إحضاراً له من نفسه ليعمل به.

استوص بالغ: أي: افعل به معروفاً وصبة مني، فـ"معروفاً" منصوب بـ"استوص"؛ لتضمينه معنى افعل، وقيل: منصوب بنزع الخفاض، أو على أنه صفة لمصدر محنوف، أي: استيضاءً معروفاً، وقيل: مأخوذ من استوصى بمعنى أوصى إذا أمر أحداً بشيء، ويعدى بالباء أي: مره بالمعروف، وعظمه معروفاً. يبالغ: أي: ما أنت يبالغ حق المعروف الذي وصاك به النبي ﷺ إلا بعتقه.

فقال النبي ﷺ: إن الله تعالى لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بِطَانَةٌ تأمره بالمعروف، فضلاً عن غيرها  
وتنهاد عن المنكر، وبِطَانَةٌ لاتأله خَبَالاً، ومن يُوقَّع بِطَانَةَ السُّوءِ فقد وَقَى. حَدَثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ  
السوء والسوء كالكرو وكروه  
بن مُجَالَدٍ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَثَنِي أَبِي، عَنْ بَيْانِ بْنِ بَشَرٍ، حَدَثَنِي قَيسُ بْنُ أَبِي حَازِمَ قَالَ: سَمِعْتَ سَعْدَ  
بن أَبِي وَقَاصَ يَقُولُ: إِنِّي لِأَوَّلِ رَجُلٍ أَهْرَاقَ دَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

(۵) سعد بن ابی وقارص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلا شخص جس نے کسی کافر کا خون بھایا ہو، میں ہی ہوں اور ایسے ہی پہلا وہ شخص جس نے جہاد میں تیر پھینکا ہو، میں ہوں۔ ہم لوگ (یعنی صحابہ کی جماعت ابتدائے اسلام میں) ایسی حالت میں جہاد کیا کرتے کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، درختوں کے پتے اور کمکر کی پھلیاں ہم لوگ کھایا کرتے تھے جس کی وجہ سے منہ کے جڑے زخمی ہو گئے تھے اور پتے کھانے کی وجہ سے پاخانہ میں بھی اونٹ اور بکری کی طرح مینگنیاں نکلا کرتی تھیں، اس کے بعد بھی قبیلہ نوادر کے لوگ اسلام کے بارے میں مجھ کو دھمکاتے ہیں۔ اگر میرے دین سے ناداقیت کا یہی حال ہے جیسا یہ لوگ بتاتے ہیں تو ﴿خَسِيرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ [المحج: ۱۱] دنیا اس تنگی و عمرت میں گئی اور دین کی یہ حالت کہ نماز سے بھی داقیقت نہ ہوئی۔

فائدہ: اس حدیث میں چونکہ امام ترمذی رضی اللہ عنہ کو صرف اس وقت کی تنگی دکھانا مقصود تھی اس لئے تمام قصہ کو مختصر کر دیا

خلیفۃ: [العلماء والأمراء والولاة والقضاة]. بِطَانَةٌ: [الْمَلَكُ وَالشَّيْطَانُ، أَوِ النَّفْسُ الْأَمَارَةُ وَالْلَّوَامَةُ، أَوْ وزیرین: أحدھما صالح والآخر طالح، أَو لکل إنسان قوّةٌ ملکیّةٌ تُخْلِهُ عَلَى الْخَيْرِ، وقوّةٌ حیوانیّةٌ تُخْلِهُ عَلَى الشَّرِّ]. بِطَانَةٌ إِلَخ: بکسر الباء الموجدة: صاحب سره الذي يطلعه على خفايا أمروره يستشيره فيها، تشبيها له ببطانة التوب. خَبَالاً: بمعجمة مفتوحة موحدة، أي: لا تقتصر في إفساد حالة، فالخبال: الإفساد، والألو: التقصير، وعبر هنها بهذا، وفي بطانة الخير بما سبق تنبیهًا على أنه يکفي في كون الشر السکوت على الفساد، وفي الخير لا يکفي إلا الأمر به.

وَقَى: [أي: حفظ من الفساد ومن جميع الأسواء والمكاره في المبدأ والمزاد] مُجَالَدٌ: بضم ميم فحيم فکسر لام، فما في بعض النسخ: بالباء بدال اللام، تصحیف من الناسخ. بیان: بموجة مفتوحة فتحتیة، ابن بشر بکسر موحدة فسکون معجمة. أَهْرَاقٌ وَصَبَّ: [أراق وصبّ، أي: أول رجل سفك دمًا في سبیل الله، أي: من شحة شحتها المشرك في شعب من شعاب مکة].

وإِنِّي لِأَوْلَ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتِنِي أَغْزَرْتُ فِي الْعِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
مَا نَأْكُلُ إِلَّا وَرْقَ الشَّجَرِ وَالْحَبْلَةِ، حَتَّى تَقْرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا، حَتَّى أَنْ أَحْدَنَا لِيَضْعُ كَمَا تَضْعُ الشَّاهَا  
وَالْبَعْيرُ. وَأَصْبَحْتُ بَنُو أَسْدٍ يُعَزَّرُونَنِي فِي الدِّينِ! لَقَدْ خَبَتْ إِذَا وَضَلَّ عَمَليِ صارت

کہ مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ تنگی اور عسرت کی وجہ سے مجاہدین کو غذا بھی نہ ملتی تھی، یہ اسلامی فوج درختوں کے پتے کھا کر جہاد کرتی تھی، لیکن حضرت سعد نے اس حدیث میں اپنے کارنامے اور اپنی مسامی جیلیہ اور قدیم الاسلام ہونا بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ میں کوفہ کے امیر تھے۔ کونہ کے کچھ لوگوں نے حضرت عمر بن الخطاب سے ان کی بہت سی شکایات کیں، حتیٰ کہ یہ بھی شکایت کی کہ یہ نماز تک بھی اچھی طرح سے نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے ان کو بلوایا اور بلا کرا رہا شاد فرمایا کہ لوگ تمہاری بہت سی شکایات کرتے ہیں، حتیٰ کہ نماز تک کی بھی شکایت کرتے ہیں۔ اس پر انہوں نے اپنی صفائی میں اپنا قدیم الاسلام ہونا، اسلام کے بارے میں مشتقتوں کا برداشت کرنا وغیرہ بیان کر کے عرض کیا کہ اس پر یہ لوگ مجھے نماز پر دھمکیاں دیتے ہیں۔ میں نے جس طرح حضور اقدس شریف کو نماز پڑھتے دیکھا اُس سے ذرا بھی کوئی نہیں کرتا۔ اس پر حضرت عمر بن الخطاب نے ان کے ساتھ کوفہ میں دو آدمی بھیجے کہ وہ وہاں گشت کر کے ان کے متعلقہ شکایات کی تحقیق کر کے آئیں۔ انہوں نے کوئی مسجد کوفہ کی ایسی نہیں چھوڑی جس میں جا کر نمازوں سے حالات کی تحقیق نہ کی ہو۔

رمی بسهم: [أي: في سرية عبيدة بن الحارث، وهي الثانية من سراياه إلى بطن رابع، في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة.] والحلبة: الجلة بضم مهملة وسكون موحنة: ثمرة السمرة، يشبه اللوبية، وقيل: ثمر العضة، والعضاء: كل شجرة يعظم وله شوك. أشداقنا: جمع شدق، في القاموس: الشدق بالكسر ويفتح، والدال مهملة: طفطفة الفم من باطن الخدين، جمعه أشداق، أي: صارت أطراف الفم ذات قروح. والبعير: [يعني: أن فضلتهم تشبه فضلة الشاة والبعير في البيس؛ لعدم الغذاء المألف للمعدة، وكان ذلك في سرية الخطب ستة ثمان، وأميرهم أبو عبيدة بشّ.]

بنو أسد: [أي: ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مصر، قال الحافظ: وبنو أسد كانوا فيمن ارتد بعد النبي وتبعوا طليحة بن خويلد الأسدية لما ادعى النبيّة، ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر الصديق، وكسهم، ورجعوا بقيتهم إلى الإسلام، وتاب طليحة وحسن إسلامه، وسكن معظمهم الكوفة.] يعزروني: [أي: يعيرون عليًّا ويلوموني أنني لا أحسن الصلاة.] لقد خبَتْ: [أي: والله لقد خبَتْ، من الخيبة، وهي: الحرمان، أي: حرمتَ الخير.]

حدثنا محمد بن بشّار، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوّيّ

سب نے ان کی تعریف کی، البتہ ایک شخص نے یہ کہا کہ جب قسم دے کر پوچھتے ہو تو سچیق تباوں کے سعد جہاد کے لئے نہیں نکلتے گویا اپنی جان پیاری ہے، دوسرے یہ کہ تقسیم میں مساوات اور برابری نہیں کرتے اور فیصلہ میں انصاف نہیں کرتے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ تین شکایات کی ہیں اس لئے تین بد دعائیں کرتا ہوں ہر ایک کے مناسب۔ اے اللہ! اگر یہ شخص جھوٹا ہے، محض شہرت اور دنیا کو دکھلانے کی غرض سے کھڑا ہوا ہے کہ بڑے آدمی پر تقدیم کرنے سے شہرت ہوا کرتی ہے، تو اس کی عمر بڑھادے اور فقر میں اضافہ کر اور فتوؤں میں بتلا فرما۔ اس کے بعد دیکھنے والا اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے پلکیں آنکھوں پر گرگئی تھیں اور فقیر ہو گیا تھا، لگی کوچوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور کوئی پوچھتا کہ یہ کیا حال ہو گیا؟ تو کہتا کہ سعد کی بد دعا لگ گئی۔ اللہُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضِيلَ وَغَضَبِ رَسُولِكَ وَغَضَبِ أُولَيَاءِكَ۔ حضرت سعد رض نے اس حدیث میں تین قصوں کی طرف اشارہ فرمایا۔

نمبر۱: یہ کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے کسی کافر کا خون گرا یا۔ یہ ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں لوگ نہایت پریشان اور مصائب میں بتلا تھے، کفار سے چھپ کر نمازوں وغیرہ عبادات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چند حضرات جن میں حضرت سعد رض بھی تھے، ایک گھانی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی، ان لوگوں کو بُرا بھلا کہا اور لڑائی پر اتر آئی تو حضرت سعد رض نے اونٹ کا ایک جبارہ وہاں پڑا تھا، اُس کو اٹھا کر ایک کافر کے مارا جس سے اُس کے خون جاری ہو گیا۔ یہی مراد ہے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے خون گرانے سے۔

نمبر۲: یہ کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلا یا۔ یہ ہجرت کے بعد سنہ اہجری کا واقعہ ہے اور اسلام میں سب سے پہلا سری ہے، یعنی سب سے پہلی فوج ہے جس کو حضور نے ہجرت کے بعد حضرت عبیدۃ بن حارث کی ماتحتی میں ”رائخ“ بھیجا ہے۔ اس میں کفار سے مقابلہ ہوا دونوں جانب سے تیر چلائے گئے، مسلمانوں میں سب سے پہلا تیر حضرت سعد رض نے چلا یا تھا۔

قال: سمعت<sup>(۱)</sup> خالد بن عمیر و شویسا ابا الرقاد قالا: بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان

نمبر ۳: تیرا قصہ اس جگہ کا ہے جس کا ذکر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے درختوں کے پتے کھانے سے فرمایا، یہ قصہ "سریہ خط" کہلاتا ہے جو باختلاف اقوال سنه ۵ ہجری یا رجب سنه ۸ ہجری میں ہوا ہے۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے تین سو مهاجرین اور انصار کو حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی ماحتی میں مدینہ منورہ سے پانچ روز کی منزل پر سمندر کے کنارے قبیلہ جینہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا تھا۔ اس لشکر میں اول تین دوست یومیہ ذبح ہوتے تھے اور جب اونٹوں کی قلت کے خوف سے امیر نے ذبح کی ممانعت فرمادی تو کچھ مقدار کھجوریں تقسیم ہوتی تھیں اور وہ بھی کم ہوتے ہوئے یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ایک کھجور یومیہ فی آدمی ملت تھی کہ اس کو بخوبی رہتے اور پانی پیتے رہتے، لیکن جب وہ بھی ختم ہو چکیں تو درختوں کے پتے جہاڑ کر کھانے کی نوبت آئی۔ خط کے معنی پتے جہاڑ نے کے ہیں اسی لئے اس کا نام "سریہ خط" مشہور ہو گیا۔ اس کا طویل قصہ ابتداءً سخت پریشانی اور عسرت کا اور انتہاءً لطف کا ہے جس کو تاریخ اسلام کی طویل کتابوں میں دیکھا جائے۔ مختصر طور پر حکایات صحابہ کے تیرے باب میں بندہ نے بھی لکھ دیا ہے۔

(۶) خالد بن عمیر اور شویسا کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن غزوان کو حکم فرمایا کہ تم اپنے رفقاء کے ساتھ (جو تین سو مجاهد تھے، عجم کی طرف) پلے جاؤ اور جب منتائے سر زمین عرب پر پہنچو جہاں کہ سر زمین عجم بہت قریب رہ جائے تو وہاں قیام کرنا (مقصد ان کی روائی کا یہ تھا کہ در بار عمری میں یہ اطلاع پہنچی تھی کہ عجم کا ارادہ عرب پر حملہ کرنے کا ہے اور بروایت دیگر یہ ذجر نے عجم سے امداد ملکائی ہے جس کا یہ راستہ تھا، اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو ناکہ بندی کے لئے ارسال فرمایا تھا) وہ لشکر چلا اور جب مرید بصرہ پر پہنچے تو وہاں عجیب طرح کے سفید سفید پتھر نظر پڑے، لوگوں نے اول تجھ سے آپس میں پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بصرہ ہیں (بصرہ اصل لغت میں سفیدی مائل پتھروں کو کہتے ہیں،

شویسا: مصغراً بمعجمة أوله ومهملة آخره، هو شویس بن حیاش. "أبو الرقاد" بضم الراء بعدها قاف حفيفة. عتبة بن غزوان: [وكان سابع سبعة أسلموا على ظهر الأرض، قال عنه عمر رضي الله عنه، إنَّ عتبة بن غزوan من الإسلام مكاناً، كان قائداً للجيش، وعلى يده فتح الأيله (مدينة في جوار البصرة ألحقت بها، وغدت جزءاً منها)، وهو أول من نزل البصرة، وهو الذي احتطها، وكان أول من بناء مسجدها العظيم]. بفتح غين وسكون زاي معجمتين، وعتبة من أكابر الصحابة، أسلم قديماً، وهاجر المحررتين، أول من نزل البصرة، وهو الذي احتطها.

وقال: انطلق أنت ومن معك! حتى إذا كتم في أقصى أرض العرب وأدنى بلاد العجم، فأقلوا حتى إذا كانوا بالمربد وَجَدُوا هذَا الْكَذَانَ،

اس کے بعد پھر شہر کا نام پڑ گیا تو گویا انہوں نے جواب دیا کہ یہ بھی ایک قسم کے پتھر ہیں) اس کے بعد حضرت عمر بن الخطبؓ کی ہدایت کے موافق آگے بڑھے اور جب دجلہ کے چھوٹے پل کے قریب پہنچے تو لوگوں نے تجویز کیا کہ حضرت عمر بن الخطبؓ کی متعینہ جگہ یہی موقع ہے، اس لئے وہاں پڑا ذوال دیا۔ راوی نے اس جگہ تمام فہرست (یعنی خراسان کے شکر کے آنے کا اور عتبہ کے فتح کرنے کا پورا فہرست) مفصل ذکر کیا (مگر امام ترمذی کو چونکہ اس جگہ ذکر کرنے سے مقصود اُس وقت کی نیگ حالی کا بیان کرنا تھا جس کا ذکر اس حدیث کے اخیر میں ہے، اس لئے تمام حدیث کو مختصر کر کے اس جملہ کو ذکر کر دیا)

حضرت عتبہ نے فتح کے بعد ایک خطبہ بھی پڑھا تھا جو عربی حاشیہ میں نقل کیا گیا، اُس میں دنیا کی بے ثباتی، آخرت کا دامنی گھر ہونا وغیرہ امور ارشاد فرمائے تھے۔ چنانچہ حمد و صلوٰۃ کے بعد فرماتے ہیں کہ دنیا ختم ہو رہی ہے اور منہ پھیر کر جارہی ہے، دنیا کا حضہ اتنا ہی باقی رہ گیا جیسا کہ کسی برتن کا پانی ختم ہو جائے اور اخیر میں ذرا ساقطرہ اُس میں رہ جائے۔ تم لوگ اس دنیا سے ایک ایسے عالم کی طرف جارہے ہو جو ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، لہذا ضروری ہے کہ بہترین ماحضر کے ساتھ اس عالم سے جاؤ۔ اس لئے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم (جو اللہ کے نافرمان لوگوں کا گھر ہے) اتنی گھری ہے کہ اگر اُس کے اوپر کے کنارہ سے ایک ڈھیلا پھینکا جائے تو ستر برس تک بھی وہ جہنم کے نیچے کے حصہ میں نہیں پہنچتا اور آدمیوں سے اس مکان کو بھرا جائے گا۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے، نیز ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت (جو اللہ کے فرمان بردار بندوں کا مکان ہے)

**انطلق إلَّيْ:** [وسبِب بعثهم إلى ذلك الموضع: أنَّ عمرَ رضي الله عنه بلغه أنَّ العجمَ قصدوا حربَ العربِ، فأرسلَ هذا الجيشَ لينزلَ بين أراضيِ العربِ والجمَّ، ويرابطوا هنالكَ، وينعوا العجمَ عن بلادِ العربِ]. فأقلوا: قال القاري: فعل ماضٍ من الإقبال، بمعنى توجهوا، قال المناوي: أي: توجهوا إلى المحل الذي أمرهم عمر بالانطلاق إليه، وسبب أمرهم بذلك السير ومشتملهم بذلك الموضع: أنه كان محل خروج الهند من الجزائر إلى أرض فارس، وكان يزدجر التمس منهم الإعانتة لقتال العرب، فأراد عمر أن يرابطوا بذلك الشغر ليضطروا ذلك الجهة. بالمربد: بكسر ميم فسكون ففتح موحدة، موضع بالبصرة، وأصلها من: "ربد بالمكان" إذا أقام به، وهو موضع حبس الإبل، أو تخفيف الربط.

**الْكَذَانَ:** بفتح الكاف وتشديد الذال: حجارة رخوة مائلة إلى البياض، والبصرة أيضاً: حجارة رخوة مائلة إلى البياض.

**فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة، فساروا حتى إذا بلغوا حيَالَ الجسر الصغير فقالوا: ههنا أمر تم.**

أي: في هذا المكان بالإقامة والرسول مقابل

اس قدر وسیع ہے کہ اس کے دروازہ کی چڑائی میں ایک جانب سے دوسری جانب تک چالیس برس کی مسافت ہے اور آدمیوں ہی سے وہ بھی پُر کی جائے گی (اس نے ایسے اعمال اختیار کرو جن کی وجہ سے پہلے مکان سے نجات ملے اور اس مکان میں جو اللہ کی رضا کا مکان ہے، داخلہ نصیب ہو۔ اس کے بعد اپنا گزشتہ حال) بیان کیا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی یہ حالت دیکھی ہے کہ میں ان سات آدمیوں میں سے ایک ہوں جو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ہمارے پاس کھانے کے لئے درخوت کے پتوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا، ان کے کھانے سے ہمارے منہ چھل گئے تھے۔ مجھے اتفاقاً ایک چادر مل گئی تھی جس کو میں نے اپنے اور سعد کے درمیان نصف نصف تقسیم کر لی (حق تعالیٰ جل جلالہ نے اس نگ حالی اور تکالیف کا دنیا میں بھی یہ اجر مرحمت فرمایا کہ) ہم سات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی جگہ کا امیر نہ ہو (چونکہ یہ جماعت بڑی تکالیف برداشت کرنے اور مجاہدات کے بعد امیر ہوئی ہے اس لئے اس کا معاملہ اپنی جماعتوں کے ساتھ بہترین معاملہ ہے جو تم کو بعد میں آنے والے امراء کے تجربہ حال سے معلوم ہو گا اس لئے کہ) تم ان امراء کا عنقریب تجربہ کرنے والے ہو جو بعد میں آنے والے ہیں۔

**فقالوا: أي: استفهم بعضهم بعضا. قالوا: أي أجاب بعضهم، فالجملة الأولى استفهم، والثانية حوار البعض، وليس في بعض النسخ هنا لفظ: "قالوا" فلا يبعد أن يكون هزة الاستفهام مقدرة، وفي معجم البلدان: أن المسلمين حين وافوا مكان البصرة نظروا إليها من بعيد، وأبصروا الحصا عليها فقالوا: "إن هذه أرض بصرة"، يعنيون حصبة فسميت بذلك، ثم ذكر أقوالاً أخرى في وجه تسميتها بذلك.**

**البصرة:** قال القاري: بنها عتبة بن غزوan في خلافة عمر رضي الله عنه سنة سبع عشر، وسكنها الناس سنة ثمان عشر. قيل: لم يعبد بأرضها صنم. وفي فتوح البلدان: لما نزل عتبة بن غزوan الحرية كتب إلى عمر يعلمه نزوله إياها، وإنه لا بد للMuslimين من منزل يشتون به إذا شتوا، ويكتسون فيه إذا انصرفوا من غزوهم، فكتب إليه: أن اجمع أصحابك في موضع واحد، ول يكن قريباً من الماء والمراعي، فكتب إليه: إني وجدت أرضاً كذلك، فكتب إليه: أن أنزلها الناس، فأنزل لهم إياها، فبنوا مساكن بالقصب، وبنى عتبة مسجداً من قصب، وذلك في سنة أربع عشر، إلى آخر ما بسطه.

**الجسر الصغير:** كان ذلك الجسر على الدجلة في عرضها، يسير عليه المشاة والركبان، واحترز به عن الجسر الكبير، وهو عند بغداد، بينهما عشرة أيام. ههنا: [أي: في هذا المكان أمركم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بالإقامة لأجل حفظ بلاد العرب من العجم.].

**فَنَزَلُوا - فَذَكَرُوا الْحَدِيثُ بِطُولِهِ -** قال: فَقَالَ عَتْبَةُ بْنُ غُزْوَانَ: لَقَدْ رأَيْتِنِي وَإِنِّي لِسَابِعِ  
سَبْعَةِ مَعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرْقُ الشَّجَرِ، حَتَّى تَقْرَحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَالْتَّقَطَتْ بُرْدَةً  
أَيْ صَارَتْ ذَاتُ قَرْحٍ

فَأَكَدَهُ: بظاهر حضرت سعد كمقصد اپنی اس حالت کے بیان کرنے سے دو امر ہیں: اول یہ کہ دین کے بارے میں جو مشقت  
اٹھائی جاتی ہے اس کا شرہ دنیا میں بھی اکثر ملتا ہے، تا اس لئے تم لوگ جو مشقت برداشت کرو گے انشاء اللہ اس کا شرہ پاؤ  
گے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت کے امراء سے اگر کوئی ناگواری کی بات تم کو پیش آئے اُس کو برداشت کرو کہ یہ بہت نفیمت  
ہے اُن حالات کے اعتبار سے جو عنقریب آنے والے ہیں۔

**فَذَكَرُوا: الْمَرَادُ بِالْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ، وَفِي نَسْخَةٍ: "فَذَكَرَا" وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إِلَى خَالِدٍ وَشَوَّيْسَ، وَفِي  
نَسْخَةٍ: "فَذَكَرٌ" بِالْإِفْرَادِ، أَيْ: ابْنُ بَشَارٍ، عَلَى مَا ذُكِرَهُ ابْنُ حَمْرَةَ وَالْمَنَّاوِيِّ، أَوْ أَبْنَى نَعَامَةَ، كَمَا اخْتَارَهُ الْقَارِيُّ.**  
الْحَدِيثُ: ذُكْرُهُ الطَّبِيرِيُّ فِي تَارِيخِهِ بِهَذَا السَّنَدِ إِلَى خَالِدٍ وَشَوَّيْسَ قَالَ: بَعْثَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَتْبَةَ بْنَ غُزْوَانَ، فَقَالَ لَهُ: انْتَلِقْ  
أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، حَتَّى إِذَا كَتَمْتِ فِي أَقْصَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَأَدْنَى الْعُجْمِ فَأَقْيِمُوكَمْ، فَأَقْبَلُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمَرْبُدِ وَجَدُوا هَذَا  
الْكَذَانَ، قَالُوا: مَا هَذِهِ الْبَصَرَةُ! فَسَارُوا حَتَّى بَلَغُوا حِيَالَ الْجَسْرِ الصَّغِيرِ، فَإِذَا فِيهِ خَلْفَاءُ وَقْصَبَ نَابِتَةٍ، فَقَالُوا: هَهُنَا أَمْرَتُمْ،  
فَنَزَلُوا دُونَ صَاحِبِ الْفَرَاتِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: إِنْ هُنَّا قَوْمًا مَعْهُمْ رَأْيٌ وَهُمْ يَرِيدُونَكُمْ، فَأَقْبَلُ فِي أَرْبَعَةِ آلَافِ أَسْوَارٍ فَقَالَ:  
مَا هُمْ إِلَّا مَا أَرَى، اجْعَلُوهُ فِي أَعْنَاقِهِمُ الْجَبَالَ، وَأَتُؤْنِي هُمْ، فَجَعَلَ عَتْبَةَ بِرْجَلٍ وَقَالَ: إِنِّي شَهَدْتُ الْحَرْبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى إِذَا  
زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ: احْمَلُوهُ فَحَمَلُوهُمْ فَلَمْ يَقِنْ أَحَدٌ إِلَّا صَاحِبُ الْفَرَاتِ، أَحْذَنُوهُ أَسْرِيًّا، فَقَالَ عَتْبَةَ بْنَ غُزْوَانَ:  
ابْغُوا لَنَا مَنْزِلًا هُوَ أَنْزَهُ مِنْ هَذَا، وَكَانَ يَوْمَ عَكَّاكَ وَدَمَدَ، فَرَفَعُوا لَهُ مِنْبَرًا، فَقَامَ يَخْطُبُ فَقَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَصْرَمَتْ وَوَلَّتْ  
حَذَاءَ، وَلَمْ يَقِنْ مِنْهَا إِلَّا صَبَابَةُ الْإِنَاءِ، أَلَا وَإِنَّكُمْ مِنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، فَانْتَقَلُوا بِخَيْرِ مَا بِحُضُرَتِكُمْ، وَقَدْ ذَكَرَلِي:  
لَوْ أَنْ صَخْرَةَ الْأَقْيَتِ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمِ هُوَ سَبْعِينَ حَرِيفًا، وَلَتَمَلِئَهُ أَوْعَجَبَتِمْ، وَلَقَدْ ذَكَرَلِي: إِنَّمَا بَيْنَ مَصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِعِ  
الْجَنَّةِ مِيسَرَةُ أَرْبَعِينَ عَامًا، وَلِيَأْتِنَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيْفٌ، وَلَقَدْ رأَيْتِنِي وَأَنَا سَابِعُ سَبْعَةِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْخَطَّابُ الْحَاكِمُ فِي  
الْمُسْتَدِرِكِ بِسُنْدِهِ إِلَى حَمِيدِ بْنِ هَلَالٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمِيرٍ بِنْ حَوْهُ هَذَا، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَأَقْرَهَ عَلَيْهِ الْذَّهَبِيُّ.  
سَبْعَةٌ: [أَيْ: فِي الْإِسْلَامِ إِنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَ سَبْطَ نَفْرٍ، قَالَهُ الْقَارِيُّ]. تَقْرَحَتْ أَشْدَاقُنَا: [أَيْ: ظَهَرَ فِي جَوَانِبِهَا قَرْوَحٌ مِنْ حَشُونَةِ ذَلِكِ  
الْوَرْقِ وَحَرَارَتِهِ]. فَالْتَّقَطَتْ: [أَيْ: أَنْحَذَتْ مِنَ الْأَرْضِ، وَقَالَ مَرِيكُ: الْاِلْتَقَاطُ: أَنْ يَعْثِرَ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَطَلْبٍ].  
بُرْدَةٌ: بِضمِ الْبَاءِ الْمُوحَدَةِ وَسَكُونِ الرَّاءِ الْمُهَمَّلَةِ، الشَّمْلَةُ الْمُخْطَطُ، وَقَيْلٌ: كَسَاءُ أَسْوَدٍ مَرْبَعٍ.

قسمتها بینی و بین سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدهنا. حديثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن <sup>٧١</sup>أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لقد أخفت في الله، وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله، وما يؤذى أحد،

في ابتداء الإسلام

(۷) حضرت أنس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسالم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں اُس وقت خوف دلایا گیا ہوں جس وقت کوئی بھی نہیں ڈرایا گیا اور اس قدر ستایا گیا ہوں کہ کوئی شخص بھی نہیں ستایا گیا۔ مجھ پر تمیں شب و روز ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لئے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے بجز اس تھوڑی سی مقدار کے جو بلال کی بغل میں چپھی ہوئی تھی۔

فائدہ: یہ قصہ جیسا کہ مصنف الشیعۃ نے اپنی جامع میں لکھا ہے، کسی وقت مکرمہ سے باہر تشریف لے جانے کے زمانہ کا ہے جو ہجرت کا زمانہ نہیں، اس لئے کہ ہجرت کے سفر میں حضرت بلال رضي الله عنه آپ کے ساتھ نہ تھے بلکہ اُس کے علاوہ کسی اور موقع پر یہ قصہ پیش آیا۔ حضور کے ارشاد میں ”اُس وقت خوف دلایا گیا ہوں“ کا یہ مطلب ہے کہ ابتدائی زمانہ میں جب میں اکیلا تھا، کوئی رفیق اور ساتھی نہ تھا، اُس وقت مجھے اللہ کے راستے میں اذیت و تکالیف پہنچائی گئیں اور ڈرایا گیا اور قاعدہ کی بات ہے کہ مجمع میں مصیبت ہلکی بن جاتی ہے اور تنہائی شخص کو اذیت زیادہ پہنچتی ہے۔

سعد: أي: ابن أبي وقار على ما في الأصول المصححة، وفي بعض النسخ: سعة، وهو سهوا؛ لما في رواية مسلم: فقسمتها بینی و بین سعد بن مالک، فاتسررت بصفها و اتزر سعد بصفها، قاله القاري. قلت: ولفظ الحاكم في المستدرک: فشققتها بینی و بین سعد بن أبي وقار فارس الإسلام. وستجربون: [أي: ستخدوهم ليسوا مثلنا في الديانة والإعراض عن الدنيا، وكان الأمر كذلك]. روح: بفتح الراء وسكون الواو وآخره حاء مهملة، و”مسلم“ على وزن أكرم. أخفت في الله: [أي: أخافني المشركون بالتهديد والإيذاء الشديد بسبب إظهاري لدين الله وتبلیغه].

وما يخاف: بضم أوله، أي: والحال أنه لا يخاف أحد غيري؛ لأنك كنت وحيداً في ابتداء إظهار ديني، أو ما يخاف مثل ما أخفت، وكذا الكلام في قوله: ”ولقد أوذيت“، وقال المناوي: أو هو دعاء، أي: حفظ الله المسلمين عن الإلحاد، أو مبالغة في الإلحاد، وذلك متعارف في اللغة، يقال: لي بلية لا يبلی بها أحد.

ولقد أتت عليّ ثلاثة من بين ليلة ويوم، وما لي وللال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط  
لال. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أبناه عفان بن مسلم، حدثنا أبان بن بزيyd العطار، حدثنا قتادة،  
عن <sup>(٨)</sup> أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي ﷺ لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على  
ضفاف. قال عبد الله: قال بعضهم: هو كثرة الأيدي. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن  
[كتبه أبي الأبيات]  
إسماعيل بن أبي فديك، حدثنا ابن أبي ذئب، عن مسلم بن جنديب، عن <sup>(٩)</sup> توفل بن إياس الهذلي  
قال: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسًا،

(٨) حضرت أنس رضي الله عنه کہتے ہیں کہ کبھی حضور اقدس ﷺ کے دستخوان پر صبح کے کھانے میں یا شام کے کھانے میں روٹی اور گوشت دونوں چیزوں جمع نہیں ہوتی تھیں مگر حالت ضفاف میں۔ فائدہ: ضفاف کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ حضور کے گزاروقات کے بارے میں جو باب پہلے ذکر ہو چکا ہے، اُس کی اخیر حدیث کے ذیل میں اس کی مفصل تقریر گزر چکی ہے۔ اگرچہ اس حدیث کا مضمون اُس سے مختلف ہے جو وہاں گزری ہے۔ اس کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ جب حضور تنہا ہوتے تھے جب تو جو میسر ہوتا ہی نوش فرمائیتے خواہ غالی روٹی ہو یا تنہا گوشت ہو، البتہ جب مہمان ہوتے تو اس کا اہتمام فرماتے کہ دونوں چیزوں کو مہیا کیا جائے اس لئے دونوں کا اجتماع مجمع ہی کے وقت ہوتا تھا۔

(٩) توفل بن إياس کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، ہمارے ہم نہیں تھے اور حقیقت میں بہترین ہم نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ہم ان کے ساتھ کسی جگہ سے لوٹے، واپسی میں ان کے ساتھ ہی ان کے مکان پر چلے گئے۔

من بين ليلة: تأكيد للشمول أي: ثلاثة يوماً وليلة متواترات ولا ينقص منها شيء. ذو كبد: أي حيوان، أي: ما معنا طعام، سواء يأكله الدواب أو الإنسان. إبط لال: [أي: إلا شيء يسير، فكتى بالمواارة تحت الإبط عن كونه يسيرا جداً. ويعلم من ذلك أنه لم يكن إذا ذاك ظرف يضع الطعام فيه من منديل ونحوه] يعني كان إذا ذاك رفيقي، قال المصنف في جامعه: كان هذا لما خرج من مكة هاربا، واعتبره العصام: بأن بلاً لم يكن معه حين الهجرة، وقال المناوي: الظاهر أن المصنف لم يرد خروجه مهاجرا فإنه قد قدم أنه خرج قبل الهجرة إلى الطائف وغيره.

ضفاف: قوله: ضفاف، تقدم الكلام على هذا اللفظ في حديث مالك بن دينار في آخر باب المعيشة المتقدم.  
عبد الله: أي: عبد الله بن عبد الرحمن شيخ المصنف.

وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم، حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل، ثم خرج، وأتينا  
بصحفة فيها خبز ولحم، فلماً وُضعت بكى عبد الرحمن، فقلت له: يا أبا محمد! ما يُكِيك؟ قال:  
الباء للتعديـة، الصحفة: كاسـه، الصحافـ جمع  
هـلـكـ رـسـولـ اللهـ صلوات الله عليه، وـلمـ يـشـبعـ هوـ وـأـهـلـ بيـتهـ منـ خـبـزـ الشـعـيرـ، فـلاـ أـرـانـاـ أـخـرـنـاـ لـماـ هـوـ خـيـرـ لـنـاـ.  
[معناه: فارق الدنيا]  
في سـعـةـ عـيشـ عـلـىـ خـلـافـ ماـ كـانـ رـسـولـ اللهـ صلوات الله عليه

انہوں نے گھر جا کر اول غسل کیا، جب وہ غسل سے فارغ ہو چکے تو ایک بڑے برتن میں روٹی اور گوشت لایا گیا۔  
عبد الرحمن صلوات الله عليه اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے پوچھا: کیا بات ہوئی کیوں روئے؟ کہنے لگے کہ حضور اقدس صلوات الله عليه کو  
وصال تک کبھی بھی اس کی نوبت نہیں آئی کہ آپ نے یا آپ کے گھروں نے جو کی روٹی ہی سے شکم سیری فرمائی ہو۔  
اب حضور کے بعد جہاں تک میرا خیال ہے ہم لوگوں کی یہ ثروت کی حالت کسی بہتری کے لئے نہیں ہے۔  
فائدہ: حضرات صحابہ صلوات الله عليه کو ایسی حالت میں اس کا خوف ہوتا تھا کہ خدا نخواستہ اس وعید میں داخل نہ ہو جائیں کہ تم  
انی خوبیوں کا بدله دنیا میں پاچکے ہو۔ جس کا قرآن شریف کی اس آیت میں ذکر ہے: **وَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتُكُمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا**۔

انقلب بنا: الباء بمعنى مع أو المصاحبة، أي: انقلب معنا أو مصاحباً لنا مع السوق، ويحتمل أن يكون للتعديـة، أي: ردنا  
من الطريق، قاله القاري، واحتار المناوي الأخير. رأتـنا: بناءـ المجهـولـ منـ الإـتـيانـ، قالـهـ القـاريـ وـالـمنـاويـ.  
فـلاـ أـرـانـاـ: بضمـ الـهـمـزةـ عـلـىـ بـنـاءـ الـمـجـهـولـ، أيـ: فـلاـ أـظـنـ إـيـاناـ. أـخـرـنـاـ لـخـ: [أـيـ: أـبـقـيـناـ مـوـسـعـاـ عـلـيـنـاـ لـماـ هـوـ خـيـرـ لـنـاـ؛ لأنـ مـنـ  
وـسـعـ عـلـيـهـ يـخـافـ أـنـ رـبـماـ عـجـلتـ لـهـ طـبـيـاتـهـ فـيـ الـحـيـاةـ الدـنـيـاـ].

## بابُ ما جاءَ فِي سنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

أي: عمره

حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكرياً بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي ﷺ بمكة ثلاثة عشر سنةً يوحى إليه، وبالمدينة عشرًا وتوفي وهو ابن ثلاثة وستين.

## باب۔ حضور اقدس ﷺ کی عمر شریف کا ذکر

فائدہ: حضور اقدس ﷺ کی عمر شریف کے بارے میں تین روایتیں وارد ہوئی ہیں، سب سے زیادہ صحیح جو جمہور محدثین اور موئخین کے نزدیک رائج ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی عمر شریف تریس سال کی ہوئی ہے، دوسری روایت سانچہ بر س کی بھی وارد ہوئی ہے جس کے متعلق خیال ہے کہ گنے میں بسا اوقات کسر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لئے سانچہ کہہ دیا، اور تیسرا روایت پنیسھ کی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اُس میں سن ولادت اور سن وفات دونوں کو مستقل سال شمار کر لیا گیا۔ اس باب میں مصنف رضی الله عنہ نے چھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں:

(۱) ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نبوت کے بعد تیرہ سال مکہ مکرمہ میں رونق افروز رہے، ان تیرہ برس میں وحی نازل ہوتی رہی، اُس کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور دس سال مدینہ منورہ میں قیام رہا اور تریس سال کی عمر میں وصال ہوا۔ فائدہ: حضور اقدس ﷺ کی عمر شریف میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں جن کا مختصر تذکرہ کتاب کے شروع میں بھی گزر چکا ہے، محدثین اور اہل تاریخ کے نزدیک یہی روایت زیادہ صحیح ہے۔

سن رسول اللہ ﷺ: أي: مقدار عمره الشريف، وسميت بالحارحة سنة؛ لأنها يستدل بها على طول عمره، وقال في المصباح: السن إذا عنيت بها العمر مؤنة؛ لأنها معنى المدة. يوحى إليه: أي باعتبار مجموعها؛ لأن مدة فترة الوحي وهي ستة ونصف من جملتها. وبالمدينة عشرة: [أي: عشر سنين باتفاق، فإنهم اتفقوا على أنه أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين كما اتفقوا على أنه أقام بمكة قبلبعثة أربعين سنة، وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد البعثة، وال الصحيح أنه ثلاثة عشر سنة، فيكون عمره الشريف ثلاثة وستين سنة]. ابن دزت: قال البخاري: هذا أكثر، ورجح أحمد أيضاً هذه الرواية. قال ميرك: في قدر عمره ﷺ ثلاثة وثلاثة وستين سنة، وهي أصحها وأشهرها.

حدثنا محمد بن بشّار، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، عن جرير، عن معاوية (۱) أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وهو ابن ثلاث وستين، وأبو بكر وعمّر، وأنا ابن ثلاث وستين. حدثنا حُسين بن مهديّ البصريّ، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جُرِيْج عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة (۲) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ مات وهو ابن ثلاث وستين سنة.

(۱) امیر معاویہ رض نے ایک مرتبہ خطبہ میں یہ فرمایا کہ حضور اقدس ﷺ کا وصال تریسٹھ سال کی عمر میں ہوا۔ حضرات شیخین رض یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رض کا وصال بھی تریسٹھ سال کی عمر میں ہوا، میری بھی اس وقت تریسٹھ سال کی عمر ہے۔ فائدہ: یعنی کیا بعدی ہے کہ مجھے بھی یہ طبعی اتباع نصیب ہو جائے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رض کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی اس لئے کہ ان کا وصال تقریباً اسی سال کی عمر میں ہوا ہے۔ حضرت عثمان رض کا ذکر اس حدیث میں نہیں کیا، حالانکہ ان سے بہت خصوصیت تھی، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حضرت عثمان رض کا انتقال اسی سال سے زیادہ عمر میں ہوا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی غرض اس روایت کے ذکر کرنے سے پہلی روایت کی تائید اور تقویت ہے کہ حضور کا وصال تریسٹھ سال کی عمر میں ہوا اور اس بارے میں طبعی اتباع حضرات شیخین رض کو بھی نصیب ہوا۔

(۲) حضرت عائشة رض سے بھی یہی مروی ہے کہ حضور کا وصال تریسٹھ سال کی عمر میں ہوا۔ فائدہ: اس روایت سے بھی اس پہلے مضمون کی تقویت مقصود ہے یعنی حضور کا تریسٹھ سال کی عمر میں وصال متعدد روایات سے ثابت ہے، لہذا اس کے خلاف جو روایتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں یا اپنے ظاہر پر نہیں ہیں۔

أنه سمعه: يعني أن جريراً سمع معاویة حال كونه خطيباً. ثلاث وستين: [أحسن العمر ثلاث وستون كعمره صلوات الله عليه وسلم]. وصاحبيه، وهذا لما بلغ عمر بعض العارفين هذا السن هيأ له أسباب مماته إيماء إلى أنه لم يبق له لذة في بقية حياته. وأنا ابن إلخ: أي: فأنا متوقع أن أموت في هذا السن موافقة لهم، قال ميرك: لكن لم ينزل مطلوبه، بل مات وهو قريب من ثمانين، فقيل: بلغ ثمان وسبعين، وقيل: ثمانين، وقيل: ستاً وثمانين. ابن جرير: [عبد الملك بن عبد العزيز بن جرير].

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْعِنْ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِقِيُّ قَالَا: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدِ  
الْحَذَّاءِ، حَدَثَنِي عُمَارُ مَوْلَى بْنِ هَاشَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ<sup>(٤)</sup> أَبْنَ عَبَاسَ يَقُولُ: تَوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
وَهُوَ أَبْنَ حَمْسٍ وَسَتِينَ. حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ قَالَا: حَدَثَنَا مَعاذُ بْنُ هَشَامَ،  
حَدَثَنِي أَبِي، عَنْ قَاتِدَةَ، عَنْ الْحَسْنِ، عَنْ دَغْفَلَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُبِضَ وَهُوَ أَبْنَ  
حَمْسٍ وَسَتِينَ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَدَغْفَلَ لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ  
ﷺ رَجُلًا. حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَثَنَا مَعْنُ، حَدَثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ  
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

(۲) ابن عباس رضي الله عنه سے یہ منقول ہے کہ حضور کا وصال پنیسھ سال کی عمر میں ہوا۔ فائدہ: یہ روایت پہلی سب  
روایتوں کے خلاف ہے۔ باب کے ختم پر بھی اس کی کچھ گفتگو آئے گی اور پہلے بھی گزر چکی ہے۔

(۵) دغفل بن حنظله سدوی سے بھی یہی روایت ہے کہ حضور اقدس سنتی کا وصال پنیسھ سال کی عمر میں ہوا۔  
فائدہ: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ دغفل حضور اقدس سنتی کے زمانہ میں موجود تھے اور بڑی عمر  
کے تھے، مگر حضور سے ان کی ملاقات ثابت نہیں۔ گویا یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کہ ان کی یہ روایت بھی کسی  
دوسرے سے نہیں ہوئی ہے۔

إِسْمَاعِيلُ: أَبْنَ إِبْرَاهِيمَ، وَعُلَيْهِ بِضْمِ عَيْنِ مَهْمَلَةٍ وَفُتحٌ لَامٌ وَتَشْدِيدٌ تَحْتِيَةٍ، اسْمُ أَمَّهِ، وَكَانَ يَكْرِهُ أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَبْنَ عُلَيَّةَ، لَكِنْ  
غَلَبَ عَلَيْهِ بِالشَّهَرَةِ. عُمَارُ: بِفَتْحِ فَتْشِدِيدٍ، أَبْنَ أَبِي عُمَارَ مَوْلَى بْنِ هَاشَمَ، وَفِي نَسْخَةٍ: عُمَارَةُ، وَهُوَ سَهُونَ مِنَ الْكَاتِبِ،  
فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَوْلَى بْنِ هَاشَمَ مِنْ اسْمِهِ عُمَارَةُ، وَأَيْضًا لَيْسَ فِيمَنْ رَوَى عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ وَلَا فِي مِنْ رَوَى عَنْهُ خَالِدٌ عُمَارَةُ.  
أَبْنَ حَمْسٍ وَسَتِينَ: قَالَ الْمَنَاوِيُّ: نَسْبَتْ هَذِهِ الرَّوَايَةُ إِلَى الْغَلْطَةِ؛ وَقَالَ الْقَارِيُّ: هِيَ مَتَأْوِلَةٌ بِإِدْخَالِ سَنَتِ الْوِلَادَةِ وَالْوَفَاءِ، أَوْ  
حَصَلَ فِيهَا اشْتِبَاهٌ، وَقَدْ أَنْكَرَ عَرْوَةُ عَلَى أَبْنِ عَبَاسٍ، وَنَسَبَهُ إِلَى الْغَلْطَةِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَدْرِكْ أُولَى النَّبُوَةِ وَلَا كَثُرَ صَحِيبَتِهِ،  
بِخَلْفِ الْبَاقِينَ. دَغْفَلُ: بِفَتْحِ الدَّالِ الْمَهْمَلَةِ أُولَى الْحَرْفَوْنَ، ثُمَّ مَعْجَمَةٌ سَاكِنَةٌ فَفَاءٌ مَفْتُوحَةٌ كَجَعْفَرِ.

لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا: قَالَ الْقَارِيُّ: وَبِؤْيَدَهُ مَا فِي التَّقْرِيبِ: أَنَّ دَغْفَلَ السَّدُوْسِيَّ مُخَضَّرٌ، وَقِيلَ: لَهُ صَحَّةٌ وَلَمْ يَصُحُّ، وَقَالَ  
الْحَمِيدِيُّ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَقْيَى بْنَ مُخْلَدٍ فِي سَنَدِهِ أَنَّ دَغْفَلًا لَهُ صَحَّةٌ.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله ﷺ ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالأدم، ولا بالجعد القاطط، ولا بالسيط. بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة، فأقام بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وتوفاه الله على رأس ستين سنة، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك، نحوه.

نقدم هنا الحديث في أول الكتاب

أي قصير قصير [الشديد المجموع] [الشديد السبوطة]

(۲) حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبے قد تھے نہ پستہ قد، (نیز رنگ کے لحاظ سے) نہ بالکل سفید تھے نہ بالکل گندی رنگ۔ آپ کے بال نہ بالکل چیچیدہ تھے نہ بالکل سید ہے (بلکہ ہلکی سی چیچیدگی اور گھوگریاں پن لئے ہوئے) چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اُس کے بعد دس سال حضور نے کمک مکرمہ میں قیام فرمایا اور دس سال مدینہ منورہ میں، ساٹھ سال کی عمر میں حضور کا وصال ہوا، اُس وقت آپ کے سر مبارک اور داڑھی میں تقریباً میں بال بھی سفید نہیں ہوں گے۔ فائدہ: حضرت انس رضي الله عنه کی یہ حدیث کتاب کے بالکل شروع میں گزر چکی ہے، اُس کے فائدہ میں بھی ان تینوں روایتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور مختلف روایات میں توجیہ بھی ذکر کر دی گئی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عمر شریف کے بارے میں تریٹھ سال کی روایت صحیح ہے، باقی روایتیں اُس کی طرف راجع کی جاسکتی ہیں، یا ان میں نیچے کے راویوں سے کسی قسم کی غلطی ہوئی۔ چنانچہ حضرت انس رضي الله عنه کی اس روایت کے متعلق یہ توجیہ کی جاتی ہے کہ گنتی میں باوقات صرف دہائیاں ذکر کر دی جاتی ہیں، اوپر کی اکائیوں کو چھوڑ دیا جایا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضي الله عنها کے بھانجے عروۃ بن الزبیر نے حضرت ابن عباس رضي الله عنه کی پیشہ بر س والی روایت کو غلط بتلایا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اُس کو وضاحت سے تحریر فرمایا ہے۔

أنه سمعه: يعني أن عبد الرحمن سمع عن أنس أنه كان يقول. ولا بالأبيض الأمهق: [أي: البالغ في البياض كما في الجصّ، بحيث لا حمرة فيه أصلاً، فلا ينافي أنه ﷺ] كان أبيض مُشرباً بحمرة. [عشر سنين: [أي: بعد فترة الوحي، فلا ينافي أنه أقام بما ثلث عشر سنة. اتفقوا على أنه أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين، وعمره قبل النبوة أربعين سنة وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة، والصحيح أنه ثلث عشر سنة، ووجه الخلاف في مدة البعث والدعوة؛ لأن دعورته بمحاجرة بعد ثلث وأربعين بعد نزول آية: ﴿فَاصْدِعْ بِمَا تُؤْمِنُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾]. [الحجر: ٩٤]

## بابُ ما جاءَ فِي وفَاتَةِ رَسُولِ اللَّهِ

حدَثَنَا أَبُو عَمَّارُ الْحُسْنَى بْنُ حَرْيَثٍ وَقَتِيَّةَ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرَ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ،  
صَفَرًا

### باب۔ حضور اقدس ﷺ کے وصال کا ذکر

فائدہ: حضور اقدس ﷺ کا وصال بااتفاق اہل تاریخ دو شنبہ کے روز ہوا ہے لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ اکثر مورخین کا قول بارہ ربیع الاول کا ہے۔ مگر اس میں ایک نہایت قوی اشکال ہے، وہ یہ کہ سنہ ۱۰ھ کی نوذی الحجہ جس میں حضور اقدس ﷺ کی حج کے موقع پر عرفات میں تشریف فرماتھے، وہ جمعہ کا دن تھا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ محدثین کا نہ مورخین کا۔ حدیث کی روایات میں بھی کثرت سے اس کی تصریح ہے کہ حضور کا حج یعنی نوذی الحجہ جمعہ کو ہوا، اس کے بعد خواہ ذی الحجہ، محرم اور صفر تینوں مہینوں ۳۰ دن کے ہوں یا ۲۹ دن کے یا بعض میں ۲۹ کے اور بعض ۳۰ کے، غرض کسی صورت سے بھی بارہ ربیع الاول دو شنبہ کی نہیں ہو سکتی، اسی لئے بعض محدثین نے دوسرے قول کو ترجیح دی کہ حضور کا وصال دوری ربیع الاول کو ہوا۔ حضور کے مرض کی ابتداء کے درد سے ہوئی، اس روز حضور اقدس ﷺ حضرت عائشہؓ کے مکان میں تھے، اس کے بعد حضرت میمونہؓ کی باری کے دن میں مرض میں شدت پیدا ہوئی، اسی حالت میں حضور یہیوں کی باری کی تقسیم پوری فرماتے رہے، مگر جب مرض میں زیادہ شدت ہو گئی تو حضور کے ایماء پر تمام یہیوں نے حضرت عائشہؓ کے مکان پر بیماری کے ایام گزارنے کو اختیار کر لیا تھا، اس لئے حضرت عائشہؓ کے دولت کدہ پر حضور کا وصال ہوا۔

باب : [أي: باب بيان الأحاديث التي وردت في تمام أحله الشريف عليه السلام] وفاة: قال القاري: الوفاة بفتح الواو: الموت، من وفي بالتحفيف بمعنى: تم أجله، وتوفي عليه السلام يوم الاثنين ضحى من ربیع الأول في السنة الحادية عشرة من المحرمة، قيل: للشتبه حلتنا منه، وقيل: لاثنتي عشرة حللت منه وهو الأكثر، ورجح جمع من المحدثين الرواية، لورود إشكال على الثانية، وهو أن جمهور أرباب السير على أن وفاته في يوم الاثنين، واتفق أئمة التفسير والحديث والسير على أن عرفة في تلك السنة كانت يوم الجمعة، فلا يمكن أن يكون يوم الاثنين الثاني عشر من ربیع الأول، سواء كانت الشهور ثلاثة يومنا أو تسعا وعشرين. وحله أن يقال: يحتمل اختلاف أهل مكة والمدينة في رؤية هلال ذی الحجه، فيكون غرقها عند أهل مكة الخميس، وعند أهل المدينة الجمعة، وكان الوقوف برؤية أهل مكة، فلما رجع إلى المدينة اعتبر برؤيتها، وكان الشهور الثلاثة كواهل، فيكون أول ربیع الأول يوم الخميس ويوم الاثنين الثاني عشر منه.

عن الزهری عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرُها إلی رسول الله ﷺ: كشف الستارة يوم الاثنين،

کل مدت مرض بارہ یا چودہ یوم ہے، اور دو شنبہ کے روز چاشت کے وقت وصال ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وصال دو شنبہ کے روز ہوا اور چاشت کے وقت ہوا۔ اس کے خلاف جور و ایت ہو گی اُس کی توجیہ کی ضرورت ہو گی۔

(۱) حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ مجھے جس وقت حضور ﷺ کا آخری دیدار نصیب ہوا وہ وقت تھا جب کہ حضور نے مرض الوفات میں دو شنبہ کے روز صحیح کی نماز کے وقت دولت کدہ پر پردہ اٹھایا کہ امتیوں کی نماز کا آخری معاشرہ فرمائیں۔ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک صفائی اور انوار اور چمک میں گویا مصحف شریف کا ایک پاک صاف ورق تھا، لوگ اُس وقت صدیق اکبر رض کی اقدام میں صحیح کی نماز ادا کر رہے تھے (صحابہ رض آپ کو دیکھ کر فرط خوشی میں پیچھے ہٹنے لگے اس خیال سے کہ شاید آپ تشریف لاتے ہوں، اس لئے کہ اس سے پہلے بھی یہاڑی کے ایام میں حضرت ابو بکر رض نماز پڑھاتے رہے اور جس وقت حضور کو افاقہ ہوتا تھا، تشریف لا کر جماعت میں شرکت فرماتے تھے) حضور نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہ اور اُسی دن وصال ہو گیا۔

فائدہ: یہ وہی دو شنبہ کے روز کا آخری نظارہ ہے جس پر حضور ﷺ نے یہ انداز فرمایا کہ نظام شرعی قائم ہو گیا اور قدیمی رفیق ابو بکر نیابت کا حق ادا کر دے گا اور امت کا بوجھ سنبھال لے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جس کو دنیا کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ حضور کے انتقال کا حادثہ جس کے سامنے دنیا کے سارے ہی حادث کا لعدم اور لاشی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ارتداد کا نقطہ اور ساری دنیا کا مقابلہ۔ لیکن اُس کو استقلال نے سب ہی کو برداشت کیا اور پھر کی چٹان سے زیادہ سخت بن کر ہر نکراو کو پاش پاش کر دیا، حق یہ ہے کہ نیابت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر جیسا اسلامی سقون کہ دوست و شمن سب ہی اُن کی بہادری، شجاعت، قوت کی دھاگ مانتے ہیں، وہ بھی نرمی کی درخواست کریں اور حضرت ابو بکر رض کو بزرگی کا طعنہ دیں۔

آخر نظرة: [يعني آخر نظرة نظرها إلى رسول الله ﷺ نظرة إلى وجهه الكريم حين كشف الستارة، أو زمن آخر نظرة نظرها إلى رسول الله ﷺ هو يوم الاثنين]. كشف الستارة: أي: أمر بكشف الستارة المعلقة على باب البيت، وكانوا يعلقون الستور على البيوت. يوم الاثنين: منصوب على الظرفية، فلفظ "كشف الستارة" ساد مسد الخبر، أي: آخر نظرة نظرها إلى وجهه حين كشف الستارة يوم الاثنين، وقيل: مرفوع على أنه خبره، وقوله: "كشف" بصيغة الماضي المعلوم، حال من رسول الله ﷺ، بقدر "قد" كما قاله بعضهم، أو بدوها كما جوزه آخرون.

فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مُصحفٍ، والناس يصلون خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن ابْتُوا، وأبو بكر يؤمّهم، وألقى السجف، وُتوفى رسول الله ﷺ من آخر ذلك اليوم. حدثنا محمد بن مسعود البصري، حدثنا سليم بن أخضر، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة النبي ﷺ إلى صدري، أو قالت: إلى حجري، فدعا بِطَسْتٍ ليول فيه، ثم بال فمات صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲) حضرت عائشہؓ فیضتبا فرماتی ہیں کہ وصال کے وقت میں نے حضور عالیٰ کو اپنے سینہ پر سوارا دے رکھا تھا کہ آپ نے پیشab کیلئے طشت منگایا اور پیشab سے فراغت حاصل کی، اُس کے بعد پھر وصال ہو گیا۔ فائدہ: حضرت عائشہؓ فیضتبا کے یہ مفاخر میں ہے کہ آخری تلبیس ان کو حاصل ہوا۔ حضور دنیا سے جب تشریف لے گئے اور وصال ربیٰ حاصل ہوا تو سر مبارک ان کی گود میں تھا۔

**مصحف:** بثليلت الميم من أصحف بالضم، أي: جعلت فيه الصحف، قال العصام: وجه الفتح والكسر غير ظاهر؛ لأن اسم المثل من الإفعال كمفعوله، ولم يأت اسم الآلة منها فهو على غير القياس، ثم وجه الشبه هو حسن البشرة وصفاء الوجه واستمارته وهاء النظر، وأغرب الحنفي في قوله: الوجه هو الإهداء والمداية، ولا يظهر أن يكون أمراً متعلقاً بظاهر الصورة، وجه غرابة لا يخفى. خلف أبي بكر: [أي: قد اقتدوا به في صلاة الصبح بأمره ﷺ].

**السجف:** بفتح السين المهملة، وقيل: بكسر وسكون الجيم: السترة. [هو الستارة نفسها، وهذا هو الذي عبر عنه أولاً بالستارة.] آخر ذلك اليوم: وهذا ينافي جزم أهل السير، وحكي عليه الاتفاق بأنه توفي حين اشتد الضحى، قال العسقلاني: ويجمع بينهما بأن إطلاق الآخر يعني ابتداء الدخول في أول النصف الثاني، وقال ميرك: يجمع بينهما بأن يحمل هذا على تحقق وفاته عند الناس. مسندة: على بناء الفاعل، أي: جعلت ظهره مسندًا إلى صدره. حجري: [أي: حضني، وهو: مادون الإبط إلى الكشكح.] بسطت: هو الطس في الأصل، والباء فيه بدل من السين، ولذا يجمع على طساس، ويصغر على طسيس، وفي المغرب: الطست مؤنثة أعمجمية والطس تعريتها، وأشكل بتذكير ضمير "ليبول فيه" ووجه بأنه باعتبار معناه من الظرف وغيره. ثم بال: لعل تراخي البول عن إحضار الطست لضعفه، وفي نسخة: "ثم مال" باليمين، والظاهر أنه تصحيف.

فمات: ظاهره أنه ~~كثير~~ مات في حجرها، ويوافقه ما في البخاري عنها: توفي في بيته في يومي بين سحري ونحري، ولا يعارضه ما للحاكم وابن سعد من طرق: أن رأسه المكرم كان في حجر على ~~شيء~~: لأن كل طريق منها لا يخلو عن شيء، كما ذكره الحافظ العسقلاني، وعلى تقدير صحته يحمل على أنها تناوياه. قلت: وحالة البول تؤيد حضور الزوجة لا غيرها.

(۲) حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن الأhad، عن موسى بن سرجسٍ، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله ﷺ وهو بالموت، وعنه قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح، ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال: على سَكَرات الموت. حدثنا الحسن بن صباح البزار، حدثنا مُبِشِّر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن العلاء، عن أبيه، عن ابن عمر، عن عائشة رضي الله عنها،

(۳) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتي ہیں کہ وصال کے وقت حضور اقدس ﷺ کے قریب ایک پیالہ میں پانی رکھا ہوا تھا کہ اس میں حضور بار بار ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے (کہ یہ شدت حرارت اور گھبراہٹ کے وقت سکون کا سبب ہوتا ہے) اُس وقت حضور بارگاہ الہی میں یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ! موت کی شدائد پر میری امداد فرم۔ فائدہ: یہ ایک جانب امت کو تعلیم ہے تو دوسری جانب نزع کے وقت جب کہ روح بدن سے نکل رہی ہو، نہایت ثبات و استقلال اور اللہ جل جلالہ کی طرف غایت توجہ کا مظہر ہے کہ نزع کے وقت جب کہ روح بدن سے جدا ہو رہی ہو، تکلیف کا ہونا طبعی اور فطری امر ہے، اُس وقت اللہ ہی سے استدعا اور سہولت کی طلب تھی۔

(۴) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتي ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کی شدت تکلیف کے بعد مجھے کسی شخص کے مرض الموت میں تکلیف نہ ہونے پر شک نہیں ہوتا۔ فائدہ: اس لئے کہ شدت مرض گناہوں کے سقوط اور مراتب کے بلند ہونے کا سبب ہوتا ہے اور مرض کی شدت پیام اجل ہونے کی وجہ سے استغفار کی کثرت اور موت کی تیاری کا ذریعہ ہے۔

سرجس: كجعفر بعهملات وجيم قاله المناوي، وقال القاري: بفتح فسكون ففتح منتصفا، وفي نسخة بكسر حيم غير مصروف. وهو بالموت: [أي: مشغول به، أو متلبس به]. يمسح وجهه: [لأنه كان يعمى عليه من شدة المرض، فيفعل ذلك ليقين، ويحسن فعل ذلك من حضره الموت]. منكرات: المنكر ضد المعروف، والمراد شدائده ومكروهاته، ولا شك أنها أمور منكرة لا يألفه الطبيع. سَكَرات الموت: [أي: استغراقاته، وهذا مما كان يحسب ما يظهر للناس مما يتعلق بحاله الظاهر لأجل زيادة رفع الدرجات والترقي في أعلى المقامات والكرامات، أما حاله رضي الله تعالى عنه مع الملائكة، فإن حبريل جاءه ثلاثة أيام، كل يوم يقول له: إن الله أرسلني إليك إكراما وإعظاما وتفضيلا، يسألك عما هو أعلم به منك: كيف تحدث؟ وفي اليوم الثالث جاءه بملك الموت فاستأذنه في قبض روحه الشريفة فأذن له، ففعل]. مُبِشِّر: بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة الثقيلة.

قالت: لا أغبط أحداً بهون موتٍ بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله ﷺ. قال أبو عيسى: سألت أبا زرعة، فقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ فقال: هو عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن أبي بكر - هو ابن المليكيّ - عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قُبض رسول الله ﷺ اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله ﷺ شيئاً ما نسيته،

(۵) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال کے وقت آپ کے دفن میں صحابہؓ کا اختلاف ہوا۔ (کسی نے مسجد نبوی کو پسند کیا اور کسی نے آپ کے صحابہؓ کے قرب کی وجہ سے بیچع کو، کسی کا خیال جد ۱ علی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مدفن پر پہنچانے کا ہوا تو کسی کا وطن اصلی مکہ مکرمہ واپس لانے کا۔ غرض مختلف رائیں ہو رہی تھیں) کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ میں نے خود حضور اقدس اللہ تعالیٰ سے ایک بات سنی ہے جو مجھے خوب محفوظ ہے کہ انبیاء کا وصال اُسی جگہ ہوتا ہے جہاں ان کا دفن پسندیدہ ہو، اس لئے حضور کو آپ کے وصال ہی کی جگہ دفن کرنا چاہئے۔

**فائدہ:** چونکہ حضور اقدس اللہ تعالیٰ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے یہ سب امور انجام پانے مقدر ہو چکے تھے اس لئے لا اغیط: بکسر المودہ، ای: لا أغار، وفیہ إشعار بأنه لو كان كرامة لكان **بَلْ** أولى به، والتحقيق أن الشدة كانت في مقدمات الموت لا في نفس سکراته، كما یتوهم، فمراد عائشة **بنت أبي طالب**: أی لا اگنی من غیر سبق مرض.  
بھون موت: ای: برفقه، من إضافة الصفة إلى الموصوف، ای: بالموت السهل، والھون مصدر، هان عليه الشيء، ای: خفف. [ای: سهولته، ومرادها بذلك: إزالة ما تقرر في النفوس من تمني سهولة الموت؛ لأنما لما رأت شدة موته **بَلْ** علمت أنها ليست علامۃ ردیءة، بل مرضية، فليست شدة الموت علامۃ على سوء حال المیت، كما یتوهم، ولیست سهولته علامۃ على حسن حاله. والحاصل: أن الشدة ليست أمارة على سوء ولا ضدہ، والسهولة ليست أمارة على خير ولا ضدہ.]  
من عبد الرحمن: قال القاري: وإنما استفهم عنه؛ لأن عبد الرحمن بين العلاء متعدد بين الرواۃ.

اللجلاج: بجميدين وفتح اللام الأولى، كذا في هامش التهذيب عن المغنى. هو ابن إخ: الضمير إلى عبد الرحمن؛ لأن المشهور بهذه النسبة هو عبد الرحمن بنفسه لا أبو بكر. والملكي بضم الميم مصغراً. اختلفوا: فقيل: في مسجده، وقيل: بالبيع، وقيل: عند جده إبراهيم عليهما السلام، وقيل: بمكة.

قال: ما قبض اللہ نبیاً إلا في الموضع الذي يُحب أن يُدفن فيه، إدْفِنوه في موضع فراشه.  
أي: النبي أو الله

اس نوع کے مسائل بھی خصوصیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہی کو معلوم تھے۔ نمونہ کے طور پر پندرہ حدیثیں مختصر طور پر نقل کرتا ہوں:

نمبر۱: کسی نبی کی وفات اُس وقت تک نہیں ہوتی کہ امت میں سے کسی کا مقتدی بن کر نماز نہ پڑھے۔

نمبر۲: زکوٰۃ وصول کرنے کی حدیثیں اور اس کے نصاب۔

نمبر۳: میرے گھر یعنی قبر اور منبر کا درمیانی حضہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

نمبر۴: انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔

نمبر۵: حق تعالیٰ جب کسی نبی کو کوئی رزق عطا فرماتے ہیں تو اُس کا متولی وہ شخص ہوتا ہے جو نبی کا خلیفہ ہو۔

نمبر۶: جو شخص خلیفہ اور بادشاہ بنے اور وہ لاپرواں سے کسی کو نائب بنائے اُس پر اللہ بنی اسرائیل کی لعنت ہے۔ لاپرواں کا مطلب یہ ہے کہ حق کی رعایت نہ کرے۔

نمبر۷: حدیث زنا کی حدیث۔

نمبر۸: جہاد میں مشورہ کی حدیث۔

نمبر۹: دین کا مدار لا الہ الا اللہ پر ہے۔

نمبر۱۰: خلافت کا قریش میں ہونا۔

نمبر۱۱: انصار کے فضائل اور ان کے بارے میں خلیفہ کو خیر خواہی کی وصیت۔

نمبر۱۲: چوری کی سزا۔

نمبر۱۳: مُضف متواضع بادشاہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔

نمبر۱۴: جو یہ چاہے کہ جہنم کی سختی سے محفوظ رہے اور اللہ کے سایہ میں رہے، مومنین پر سختی نہ کرے، ان کے ساتھ رحم کا برتاو کرے۔

الموضع اخ: أشكل عليه بنقل موسى عليه السلام يوسف عليه السلام من مصر إلى فلسطين، وأشكل أيضاً أن مقتضى الحديث أن وفاة عيسى عليه السلام تكون في الحجرة الشريفة، والتوجيه في كليهما متسع.

حدثنا محمد بن بشّار، وعباس العنيريّ، وسوّار بن عبد الله، وغير واحد قالوا: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوريّ، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، أن أبا بكر قَبَّلَ النَّبِيَّ صلوات الله عليه بعد ما مات. حدثنا نصر بن عليّ الجهميّ، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن أبي عمران الجونيّ، عن يزيد بن بابُوس، عن عائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر دخل على النبي صلوات الله عليه بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على ساعدية، وقال: وَانِّيَاهُ! وَاصْفِيَاهُ! وَاخْلِيلَاهُ!.

نمبر ۱۵: جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے عذابِ عامہ میں بتلا ہوتی ہے (تاریخ الحلفاء) ان کے علاوہ اور بھی ایسی روایات ہیں جن کا تعلق حضور کے وصال اور وصال کے بعد کے انتظامات سے ہے۔

(۱) حضرت ابن عباس رضي الله عنهما اور حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضي الله عنهما حضور کے وصال کے بعد تشریف لائے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔

فائدہ: یہ حدیث مختصر ہے، آئندہ مفضل قصہ آرہا ہے۔ یہ بوسہ دینا تبرک اور تیمین کا تھا جیسا کہ شراح حدیث نے لکھا ہے، اور بندہ کے ناقص خیال میں الوداع کا تھا کہ محبوب کی دائمی مفارقت ہو رہی تھی۔

(۲) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضي الله عنهما تشریف لائے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آپ کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا ہے نبی! ہے صفائی! اور ہے خلیل! فائدہ: یہ الفاظ نوحہ کے طور پر نہیں تھے،

العنيري: نسبة لبني العنير، طائفه من قيم. عبيده الله: مصغرا، ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قبل: بتشديد المونحة. قال القاري: بين عينيه كما سيفي، أو جبهته كما رواه أحمد، قال المناوي: فعله تيمتنا و تبرك و اقتداء بتقبيله صلوات الله عليه عثمان بن مطعون. الجوني: بفتح الجيم، نسبة إلى دون بطن من أزد. [اسمه عبد الملك ابن حبيب البصري الأزدي، من علماء البصرة، ثقة، توفي سنة ثمان وعشرون ومائة، خرج له الجمعة.] بابُوس: بموجدة فألف فموحدة ساكنة فنون مضمومة فمهملة، بصرىً كذا في المناوي. وَانِّيَاهُ: بهاء ساكنة للسكت، تزاد وقفا لإرادة ظهور الأنف، قال المناوي: فيه حلّ عدّ أوصاف الميت من غير نوح ولا ندب، أصله: يا نبی الحق، آخره ألف الندية ليتمد بها الصوت ليتميز المتذوب عن المنادي.

حدثنا بشر بن هلال الصواف البصريُّ، حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس <sup>(٨)</sup>  
قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة أضاء منها كلُّ شيءٍ، فلما كان اليوم  
الذي مات فيه، أظلم منها كلُّ شيءٍ. وما نَفَضْنَا أيدينا من التراب وإنما لفي دفنه،

اس لئے کوئی اشکال نہیں ہے، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رض حضور کے سرہانے کی طرف  
تشریف لائے اور چہرہ انور پر سر جھکایا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا: وَانْبَيَا! ہائے نبی، اُس کے بعد سر اٹھایا، پھر سر جھکایا  
اور پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا: وَالْخَلِيلَ!

(٨) حضرت أنس رض فرماتے ہیں کہ جس روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، مدینہ کی ہر چیز منور اور  
روشن بن گئی تھی (اور جب انوار کی کثرت ہوتی ہے تو اس قسم کی روشنی محسوس بھی ہو جاتی ہے، رمضان المبارک کی اندر ہیری  
راتوں میں بسا اوقات انوار کی کثرت سے روشنی ہو جاتی ہے) اور جس دن حضور کا وصال ہوا ہے مدینہ کی ہر چیز تاریک بن گئی  
تھی۔ ہم لوگ حضور کے وصال کے بعد مٹی سے ہاتھ جھاڑنے نہ پائے تھے کہ ہم نے اپنے قلوب میں تغیر پایا۔

فائدہ: یہ مطلب نہیں کہ کسی قسم کا اعمال و عقائد میں تغیر ہو گیا تھا بلکہ فیضِ صحبت اور مشاہدہ ذات کے انوار جو ہر وقت  
مشاہدہ ہوتے تھے، وہ حاصل نہ رہے تھے، چنانچہ اب بھی سالکین کو مشائخ کے یہاں کی حاضری اور غیبت میں انوار کا میں  
فرق محسوس ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان انوار کے حاصل کرنے کے لئے اب مجاہداتِ ذکر کی کثرت اور مرافقہ کا اہتمام  
کرایا جاتا ہے اور اس وقت کسی چیز کی بھی ضرورت نہ تھی، جمالِ جہاں آرائی زیارت ہی سیکڑوں جلووں سے زیادہ تھی اور  
ایمان و احسان کی اُس انتہائی نسبت کو پیدا کرنے والی تھی جو سیکڑوں مجاہدوں سے بھی پیدا نہیں ہوتی کہ صحابی بنے کے بعد

أضاء: ضاءت وأضاءت. معنى: استضاءت وصارت مضيئة. قال المناوي: ظاهره أن الإضاءة والإظلام محسوسان معجزة،  
 وأن الإضاءة دامت إلى موته، فعقبها الإظلام من غير مهلة، كما يدل عليه قوله: فلما كان إلخ وقيل: هما معنويان كنایة  
عن صلاح المعاش والمعاد وكمال السرور والنشاط، وعكسه القاري تبعاً للطبيسي؛ إذ قال: الأظهر أنهما معنويان،  
خلافاً لابن حجر، حيث قال: الظاهر أنهما محسوسان معجزة. [وقيل: الإضاءة كنایة عن الفرح التام لسكنى المدينة]

التراب: [أي: تراب قبره رض الشرييف. ونفض الشيء: تحريرك له ليزول عنه الغبار.]

حتی انکرنا قلوبنا. حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عامر بن صالح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن <sup>(٩)</sup> عائشة رضي الله عنها قالت: توفى رسول الله ﷺ يوم الاثنين. حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن <sup>(١٠)</sup> أبيه قال: قُبض رسول الله ﷺ يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، ودُفِنَ من الليل.

الله اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلہ میں تن من، جان و مال سب بے حقیقت چیزیں بن جاتی تھیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری زندگی اس کی شاہید عدل ہے۔

(٩) حضرت عائشة رضي الله عنها سے روایت ہے کہ حضور کا وصال دو شنبہ کے روز ہوا۔

فائدہ: یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ دو شنبہ کے دن حضور کا وصال ہونا محدثین و مؤرخین کا اجماعی مسئلہ ہے۔

(١٠) امام باقر رض سے منقول ہے کہ حضور کا وصال دو شنبہ کے روز ہوا، یہ روز اور سہ شنبہ کا روز انتظام میں گزر اور متکل بده کی درمیان شب میں حضور والا کو قبر شریف میں اٹارا۔ سفیان جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام باقر کی حدیث میں تو یہی ہے جو گزری، لیکن اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اخیر حصہ شب میں پھاؤڑوں کی آواز آتی تھی۔

حق انکرنا قلوبنا: [أي: تغيرت حالها بوفاة النبي ﷺ] عما كانت عليه من الرقة والصفاء؛ لانقطاع الوحي وبركة الصحبة وفقدان ما كان يحصل لهم من قبل الرسول ﷺ من التأييد والتعليم، ويحتمل أن يراد: إنكار القلوب باعتبار أنها لا تمنع من الإقدام على نفض التراب عليه ص، ويؤيد هذا الاحتمال ما روي عن أنس بن مالك رض قال: قالت فاطمة رض: يا أنس! أطابت أنفسكم أن تخفوا التراب على رسول الله ﷺ. [ بصيغة المتكلم للماضي: أي: تغيرت قلوبنا لوفاته ص] ولم تبق على ما كانت من الرقة والصفاء، وفي الحديث حجة لمشائخ الصوفية، ورد على من أنكر مجاهدات المشائخ مستدلاً بأن الصحابة ص لم يفعلوه. يوم الاثنين: [كما هو متفق عليه عند أرباب النقل].

عن أبيه: [أي: محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي، توفي سنة ثمان وأربعين ومائة عن خمس وستين سنة، ودفن بالبيع مع أبيه وجده، وهو من التابعين، فالحديث مرسل]. وليلة الثلاثاء: قال المناوي: وفي نسخ بدل لليلة الثلاثاء "يوم الثلاثاء"، وقال القاري: قوله: "ليلة الثلاثاء" بالمد، وزيد في بعض النسخ بعده: "و يوم الثلاثاء". من الليل: أي: ليلة الأربعاء على ما عليه الأكثر، وفي أقوال آخر من ليلة الثلاثاء، ويوم الثلاثاء، وغير ذلك قاله المناوي، وقال القاري: قال في جامع الأصول: دفن ليلة الأربعاء وسط الليل، وقيل: ليلة الثلاثاء، وقيل: يوم الثلاثاء، والأول أكثر.

قال سفیان: وقال غيره: يُسمع صوت المساحي من آخر الليل.

فائدہ: گویا اخیر حضرت شب میں قبر کھودی گئی۔ اس حدیث میں یہ خلبان کیا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسلم کے دفن میں اس قدر تاخیر کیوں کی گئی؟ حالانکہ دفن کی تعمیل میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر جس قدر مراحل درپیش تھے ان کے لحاظ سے یہ بھی کچھ تاخیر نہیں ہوئی بلکہ تعمیل ہی تھی کہ اول تو اس حادثہ ہائلہ کی وجہ سے ہوش و حواس ہی ابو بکر کے علاوہ کس کے رہ گئے تھے۔ کوئی مدھوش تھا، کوئی حیرت زده کہ زبان سے بات نہ نکلتی تھی، کوئی صدمہ کی شدت سے حضور کے وصال کا یقین ہی نہ کرتا تھا، حضرت عمر جیسا بہادر اور استقلال و شجاعت کا مجسمہ بے قابو تھا، اس کے بعد جو مراحل انتظامیہ درپیش تھے وہ ایک سے ایک بڑھ کر۔ اس لئے کہ سب سے اہم کام اس وقت خلافت کا مسئلہ تھا کہ تجہیز و تکفین کے ہر ہر جزو میں اُس کی ضرورت تھی کہ ہر جزو میں اختلاف ہو رہا تھا، نیز نبی ہونے کی وجہ سے ہر ہر جزو میں حکم معلوم کرنے کی بھی ضرورت تھی۔

چنانچہ گز شستہ اختلاف سے معلوم ہو گیا کہ کوئی مکہ مکرمہ واپس لے جانے پر مصر تھا اور کوئی مدفن ابراہیمی پر لے جانا چاہتا تھا وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی تجہیز و تکفین اور صلوٰۃ الجمازہ میں اشکالات تھے کہ عام لوگوں کی تجہیز و تکفین ہمیشہ دیکھنے میں آئی مگر کسی نبی کو اس سے قبل دفاترے کی نوبت نہ آئی تھی، کس طرح غسل دیا جائے، کس طرح نماز پڑھی جائے، ہر مسئلہ میں احادیث کے معلوم کرنے کی ضرورت تھی، چنانچہ کپڑوں ہی میں حضور کو غسل دیا گیا اور بغیر جماعت کے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی گئی، جیسا کہ آئندہ آرہا ہے اور تمام مسلمانوں کی علیحدہ علیحدہ نماز کے لئے جتنا وقت چاہئے تھا وہ بھی ظاہر ہے۔

المساحي: بفتح الميم وكسر الحاء المهملة جمع مساحة، وهي كالجمرة إلا أنها من حديد على ما في الصحاح، وفي النهاية: أن ميمه زائدة؛ لأنه من السحو يعني الإزالة والكشف. من آخر الليل: قال القاري: هذا لا ينافي ما في الجامع من أنه وسط الليل؛ لأن المراد بالوسط: الجوف، أو كان الابتداء من الوسط، وانتهى إلى آخر الليل. [ وإنما آخر دفنه بَلْ مع أنه يسن تعجيله؛ لعدم اتفاقهم على محل دفنه، ووقوع الاضطراب بين الأصحاب، ودهشتهم من ذلك الأمر الهائل الذي لم يقع قبله ولا بعده مثله، وكأنهم أحسان بلا أرواح، وأجسام بلا عقول، حتى أنَّ منهم من صار عاجزاً عن النطق، ولا شغاف لهم بنصب الإمام الذي يتولى مصالح المسلمين. ]

(۱۱) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: توفي رسول الله ﷺ يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا نصر بن علي الجهمي، أخبرنا عبد الله بن داود، حدثنا سلمة بن نبيط، أخبرنا عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط،

اس کے علاوہ انصار میں بیعت کا مسئلہ بحث میں آجائے سے یہ ممکن اور بھی زیادہ سخت بن گئی تھی کہ اگر کوئی نااہل امیر بن گیا تو دین کا سنبھالنا مشکل پڑ جائے گا اور اس کو امارت سے ہٹانا ایک مستقل فتنہ کا دروازہ ہو گا، اس لئے اس وقت دین کا تحفظ صرف امارت ہی کے مسئلہ پر موقوف بن گیا تھا۔ چنانچہ شام تک بیعت کا مسئلہ طے ہوا اور دوسرے دن بیعت عامہ ہو جانے کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر رضي الله عنه کے ارشاد کے موافق ہر مرحلہ سہولت سے طے ہوتا گیا۔

(۱۲) ابو سلمہ رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کا وصال دو شنبہ کے روز ہوا اور سہ شنبہ کو دفن کیے گئے۔ فائدہ: منگل بدھ کی درمیانی شب میں حضور اقدس ﷺ دفن فرمائے گئے جس کو عرفًا منگل کا دن بھی کہا جاسکتا ہے اور بدھ کا دن بھی، اس لئے یہ روایت پہلی روایت کے کچھ خلاف نہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ خلافت کے مسئلہ سے فراغت کے بعد سہ شنبہ کے دن میں تجدیہ و تکفیر کی شب میں فراغت ہوئی۔

يوم الثلاثاء: قيل: هذا سهو من شريك، وقيل: يجمع بينهما بأن الحديث الأول باعتبار الانتهاء، وهذا باعتبار الابتداء، يعني: الابتداء بتحهيزه في يوم الثلاثاء، وفراغ الدفن من آخر ليلة الأربعاء. بن نبيط: بنون وموحدة تحية ومهملة مصغراً، وسلامة هذا ولد نبيط بن شريط الآتي، قال الحافظ في ترجمته: سلمة بن نبيط بن شريط بن أنس الأشجعي أبو فراس الكوفي، روى عن أبيه، وقيل: عن رجل، عن أبيه، وعن نعيم بن أبي هند إلى آخر ما قاله.

أخبرنا: ببناء المجهول على ما عليه الأكثر من شارح الشماائل، وقيل ببناء الفاعل، فلفظ "أخبرنا" قبل "سلامة" زائد، ويؤيد هذه فقданه في بعض النسخ. قال القاري في نسخة صحيحة بخط ميرك: أربأنا عبد الله بن داود، قال سلمة بن نبيط: أخبرنا بصيغة الفاعل عن نعيم بن أبي هند، قال ميرك: ويؤيده أيضاً ما وقع في بعض النسخ: حدثنا سلمة بن نبيط أن نعيم بن أبي هند. بن شريط: شريط، قال الجرجري: بفتح الشين المعجمة صحيح، وبضمها غلط فاحش.

عن سالم بن عبیدٍ - وكانت له صحبة - قال: أغمي على رسول الله ﷺ في مرضه، فأفاق،  
هو صحابي من أصحاب الصفة  
 فقال: حضرت الصلوة؟ فقالوا: نعم،

(۱۲) سالم بن عبید صحابی کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کو مرض الوفات میں بار بار غشی ہوتی تھی اور جب افاق ہوتا تو زبان سے یہ نکلتا کہ نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں؟ اور نماز کا وقت ہو جانے کا حال معلوم ہونے پر چونکہ مسجد تک تشریف لے جانے کی طاقت نہ تھی اس لئے ارشاد عالی ہوتا کہ بلال سے کہو کہ نماز کی تیاری کریں اور صدیق اکبر نماز پڑھائیں، متعدد مرتبہ ایسا ہی ہوا (لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ طبعی طور پر نرم دل پیدا ہوئے تھے، رقت اکثر طاری ہو جاتی تھی اور پھر حضور کے ساتھ کا تعلق، ان کی بیٹی حضرت عائشہ بھی جانتی تھیں کہ میرے باپ سے آپ کی خالی جگہ نہ دیکھی جائے گی اس لئے) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے درخواست کی کہ میرے باپ ابو بکر ر قیق القلب ہیں، جب حضور کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو رونے لگیں گے اور نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھیں گے، اس لئے کسی اور کو فرمادیجئے کہ نماز پڑھائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعدد مرتبہ سوال و جواب پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کے تقہہ والی عورتیں بننا چاہتی ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔

فائدہ: اس قول کی شرح میں کہ ”تم یوسف علیہ السلام والی عورتیں ہو“ علماء کے چند اقوال ہیں: اول یہ کہ تم سے مراد صرف عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں اور ان عورتوں سے مراد صرف زیلخا ہیں اور جمع کا لفظ تعظیمی محاورہ کے اعتبار سے فرمادیا۔ اس قول کے موافق: (الف) تشبیہ بجابت پر اصرار کرنے میں ہے کہ جیسا زلخانے ایک ناحق اور نامناسب بات پر حضرت یوسف پر بہت زیادہ اصرار کیا، ایسے ہی تم بھی ایک بے جابت پر اصرار کر رہی ہو۔ (ب) یہ کہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ جیسے زلخانے اپنی

أَغْمِيَ: بصيغة المجهول أي: غشي، وفي الحديث حواز الإغماء على الأنبياء، بخلاف الجنون، فإنه نقص ينافي مقامهم، وقيد الشيخ أبو حامد من الشافعية بغير الطويل، وبه حزم البليقيني، وقال السبكي: ليس إغماءهم كإغماء غيرهم؛ لأنَّه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبيهم وقوفهم الباطنة؛ لأنَّها إذا عصمت من النوم الأخف فالإغماء بالأولي، وأما الجنون فيمتنع عنهم قليله وكثيره، قال القاري: لأنَّه لما نفى الله عنهم مطلقاً في مواضع. حضرت الصلوة. [أي: أحضرت صلاة العشاء الأخيرة؟ كما ثبت عند البخاري، أي: أحضر وقتها].

فقال: مُرُوا بلا لَا فلِيؤْذنُ، وَمُرُوا أبا بكر فليصل للناس -أو قال: بالناس- ثم أغمى عليه، فأفاق، فقال: حضرت الصلوة؟ قالوا: نعم، فقال: مُرُوا بلا لَا فلِيؤْذنُ، وَمُرُوا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى، فلا يستطيع، فلو أمرت غيره، قال: ثم أغمى عليه، فأفاق، فقال: مُرُوا بلا لَا فلِيؤْذنُ، وَمُرُوا أبا بكر فليصل بالناس، فإنك صواحب -أو صواحبات - يوسف.

لامت كرن واليوبن کو دعوت کے نام سے بلایا اور ظاہر یہ کیا کہ دعوت مقصود ہے، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ وہ حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر زیلخا کو معذور سمجھیں، ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ظاہر تو یہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن دل میں یہ ہے جیسا کہ خود حضرت عائشہ سے دوسری جگہ منقول ہے کہ مجھے حضور سے بار بار مراجعت کرنے کا تقاضا اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ میرے نزدیک لوگ اُس شخص کو کبھی بھی پسند نہ کریں گے جو حضور کی جگہ کھڑا ہو اور اُس کو منحوس سمجھیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تم سے مراد حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام والی عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کو زیلخا نے دعوت کے نام سے بلایا تھا۔ اس قول کے موافق بھی: (الف) تشبیہ بے جا بات پر اصرار میں ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما بے جا بات پر اصرار فرمادی تھیں، چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت حفصہ نے بھی اس چیز پر اصرار کیا۔

فلیؤذن: بتشدید الذال من التأذين، أي: فليناد بالصلوة، وهو يحتمل كلاً من الأذان والإقامة، والثاني أقرب قاله الفاري، وقيل بسكون الهمزة وتحفيف الذال معنى: فليعلم. أسيف: فعليل. معنى فاعل من الأسف، وهو شدة الحزن، أي: يغلب عليه الحزن والبكاء. صواحبات یوسف: [أي: مثلن في إظهار خلاف ما يبطن، حيث إن زليخا استدعت النسوة، وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، وأضمرت لهن ينظرون إلى حسن یوسف فيغدرها في حبه، وعائشة رضي الله عنها أظهرت أن سبب محبتها صرف الإمامة عن أبيها: أنه رجل أسيف، وأنه لا يستطيع ذلك، وأضمرت أن لا يتشاءم الناس به، لأنها ظنت أنه لا يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، والخطاب وإن كان بلفظ الجمع، لكن المراد به واحدة، وهي عائشة. وكذلك الجمع في قوله: "صواحب" الذي هو جمع صاحبة. وصواحبات الذي هو جمع صواحب، فهو جمع الجمع، والمراد به: امرأة العزيز.]

قال: فامر بلال فاذن، وأمر أبو بكر فصلّى بالناس، ثم إن رسول الله ﷺ وجد خففة، فقال:  
انظروا لي من أتكم عليه، فجاءت بريرة ورجل آخر، فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر،  
[أي: اعتمد عليه عند الخروج]

(ب) یہ کہ تشبیہ وہی دل کے خلاف بات ظاہر کر کے اصرار کرنے میں ہے کہ (حضرت عائشہؓؑ کے ذہن میں تو یہ مضمون تھا کہ لوگ حضور کی جگہ حضرت صدیق کو کھڑا ہوادیکھیں گے تو نبوست کا وسوسہ کریں گے اور حضرت عمرؓؑ کی بیٹی حضرت حفصہؓؑ سے بھی موافقت پر اصرار کرایا، اور ان کے دل میں اپنے والد کی بڑھوتری ہو کہ نبی کی نیابت کا حق ادا کرنے کا وہم ہو، اس لئے حضور نے ان کو یوسفؓؑ کے قصہ والیوں کے ساتھ تشبیہ دی کہ وہ ظاہر میں تو حضرت یوسفؓؑ پر زیخاری موافقت کا اصرار کر رہی تھیں لیکن درحقیقت ہر ایک اپنی طرف مائل کرنے کا انداز برت رہی تھی۔

بعض علماء نے وجہ تشبیہ اور بھی بتالی ہیں۔ چونکہ حدیث طویل تھی اس لئے اس فائدہ کو مختصر طور پر درمیان میں لکھ دیا۔ آگے بقیہ حدیث کا ترجمہ آتا ہے اور کچھ فوائد بھی مختصر درمیان میں آگئے۔ بعض روایات میں اس جگہ حضور اقدس سنتی ﷺ کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کے سوا اور کسی کو نہیں مانیں گے) اقبال حکم پر حضرت ابو بکر صدیقؓؑ نے نماز پڑھائی (اور حضور کے وصال تک سترہ نمازیں ادا فرمائیں، اس لئے کہ یہ قصہ جس کا ذکر اوپر سے ہو رہا ہے، تج شنبہ کی شام کا ہے، تج شنبہ کے روز حضور اقدس سنتی ﷺ کی طبیعت مبارک زیادہ ناساز رہی اور جمعہ کی شب میں عشاء کی نماز کے وقت کی یہ تمام گفتگو ہے اور عشاء کی نماز سے حضرت ابو بکرؓؑ نے نماز پڑھانا شروع کی اور دو شنبہ کے روز

فصلیٰ بالناس: [أي: تلك الصلوة، ومجموع ما صلی هم سبع عشرة صلاة، كما نقله الدمياطي. أولها عشاء ليلة الجمعة، وآخرها صبح يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله ﷺ]. فجاءت بريرة: وهي بريرة بنت صفوان، قبطية وحشية، مولاة عائشةؓؑ. والمراد أنها أرادت توصله إلى الياب، ثم الأصحاب يوصلونه إلى الخراب.

ورجل آخر: قال ميرك: اسمه نوبية بضم النون والمودحة المخففة، كما جاء في بعض الروايات، ووهم من زعم أنه امرأة، قال القاري: في رواية ابن حبان: بريرة ونوبية، وضبطه ابن حجر بضم فسكون ثم قال: إنه أمّة هذا، وجاء في رواية الشیخین في سياق آخر رجلان: عباس وعلي، وفي طريق آخر: ويده على الفضل بن عباس ويده على رجل آخر، وجاء في رواية: أحد هما أسامة، وعند الدارقطني: أسامة والفضل، وعند ابن سعد: الفضل وثوبان، وجمعوا بين هذه الروايات على تقدیر ثبوت جميعها بتعدد الخروج، أو بأئمّة تناوبوا.

ذهب لِينْكُصْ، فَأَوْمًا إِلَيْهِ أَنْ يَبْتَ مَكَانَهُ، حَتَّى قُضِيَ أَبُو بَكْرَ صَلَوَتَهُ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قُبْضٌ إِلَاضْرِبَتْهُ بِسِيفِي هَذَا! قَالَ: كَانَ النَّاسُ أُمِيَّنِ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ-

چاشت کے وقت حضور کا وصال ہوا، اس لئے کل سترہ نمازیں ہوئیں جو مسلسل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کے شدتِ مرض کے ایام میں پڑھائیں۔ بندہ ناکارہ کے نزدیک چونکہ مرض کی ابتداء سے بہت پہلے سے تھی اس لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان ایام میں بھی کبھی کبھی نماز پڑھائی۔ دورانِ مرض میں ایک مرتبہ حضور کو کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا: دیکھو کوئی سہارا دیکر مسجد تک لے جانے والا ہے؟ اس ارشاد پر دو شخصوں نے حضور کا ساتھ پکڑا اور حضور ان کے سہارے مسجد تک تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کو دیکھ کر پیچھے ٹہنے کا ارادہ فرمایا تو حضور نے اشارہ سے منع فرمادیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نماز پوری کر دی (بالآخر دو شببہ کے روز) حضور کا وصال ہو گیا (صحابہ رضی اللہ عنہم کے اوپر یہ سخت وقت جس قدر بھی مشکل اور کٹھن تھا وہ ظاہر ہے، مذاقین اور مخالفین کے فتنے اور حضور کے ۲۳ سالہ باعث کی حفاظت اور ان سب کے ساتھ حضور جیسی قدسی ذات کی مفارقت اور اُس محبوب کی جدائی جس کی بدولت گھر بار، خویش و اقارب،

لِينْكُصْ: قال الحنفي: بضم الكاف، وقال القاري: الأولى أن يضبط بكسر الكاف طبق ما في القرآن: ﴿عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُون﴾ [المؤمنون: ٦٦] بالكسر على ما أجمع عليه القراء السبعة والعشرة وما فوقهم، نعم! قال الزجاج: يجوز ضم الكاف، وكذا جوزه صاحب الصحاح، أي: ليتأخر والنكوص: الرجوع فهقرى. فأوماً: بالهمز على الصحيح، وفي نسخة: فأومى، ولعله مني على التخفيف، أي: أشار النبي ﷺ. أن يبْتَ مَكَانَهُ: [أي: ليقى على إمامته ولا يتأخر عن مكانه.] حتى قضى: قال المناوي: ظاهره أن النبي ﷺ اقتدى به، وبه صرحت رواية البيهقي، وقال القاري: ظاهره أنه ﷺ رجع، خلافاً لابن حجر حيث قال: ظاهره أنه ﷺ اقتدى به، والمعتمد عندنا أن اقتداء به كان قبل ذلك. قضى: [أي: قضى الله روحه الشريفة، وأبُو بَكْرَ غائب بالعالية عند زوجته خارجة بعد إذنه ﷺ لحكمة إلهية]. أَعَالَ عمر: [أي: والحال أنه سُلّ سيفه، والحامِل له على ذلك: ظنه عدم موته، وأن الذي عرض له غشيَّ تام]. لا أَسْعِ إِلَّا: وكان يقول: إنما أرسل إليه كما أرسلي موسى، فلبت عن قومه أربعين ليلة، أو يظن أنه من الغشيان المعتاد له ﷺ. أَمِيَّنْ: [أي: وكان العرب لا يقرؤون ولا يكتبون]. هذا هو معنى الأميين في الأصل، والمراد هنا بهم: من لم يحضر موت نبی قبله، فقوله: "لم يكن فيهم نبی قبله" تفسير وبيان للمراد بالأميّن].

فَأَمْسِكَ النَّاسُ، قَالُوا: يَا سَالِمٌ! انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَادْعُهُ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرًا، وَهُوَ

فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَيْتُهُ أَبْكِي دَهْشَا،

بفتح الدال وكسر الشين، أي: متجرزاً

مال و متع سب لثاد يا تھا اور چونکہ آج صبح سے افاقہ کے آثار معلوم ہو رہے تھے جو در حقیقت سنھالا تھانہ کہ افاقہ، اس لئے حضور کے وصال کی خبر کے باوجود بہت جلد خبر مشہور ہو جانے کے بہت سے حضرات کو یقین نہیں آیا، چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب (جیسے باعظمت اور قوی القلب آدمی بھی بایں فضل و کمال اور بدیں شجاعت و ہمت، تخل نہ فرمائے اور از خود رفتہ ہو کر برہنہ توار لے کر کھڑے ہو گئے اور یہ) فرمانے لگے کہ واللہ! (حضرت اوسال نہیں ہوا) جو شخص یہ کہے گا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے اُس کی گردن اڑا دوں گا۔ چونکہ صحابہ کو کسی نبی کی وفات کا پہلے تجربہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے کوئی نبی ان میں نہیں ہوا تھا اور عام طور سے اُنی تھے کہ پہلے انبیاء کی کتب اور حالات بھی نہ پڑھ سکتے تھے، اس لئے حضرت عمر بن الخطاب کے ارشاد پر سب ساكت ہو گئے کہ ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ بعض صحابہؓ نے سالم سے کہا کہ حضور کے ساتھی ابو بکر بن عبد الرحمن کو بلا کر لاو (وہ ہی اس طغیانی کے وقت اس کشتی کو کنارے لگائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ افاقہ کی صورت دیکھ کر

فَأَمْسِكَ النَّاسُ: [أَيْ: أَمْسِكُوا أَسْتَهْمُ عن النُّطْقِ بِعُوْتَهِ حَوْفَةِ مِنْ عُمْرِهِ]. صاحب: [الذِّي هُوَ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّهُ مِنْ أُطْلَقَ اِنْصَرَفَ إِلَيْهِ؛ لِكُونِهِ كَانَ مَشْهُورًا بِهِ بَيْنَهُمْ]. فَادْعُهُ: [أَيْ: لِيَحْضُرْ، فِيَّنِ الْحَالُ وَيُسْكُنُ الْفَتْنَةُ، فَإِنَّهُ قَوْيِ الْقَلْبُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ، وَرَاسِخُ الْقَلْبُ عِنْدَ الرِّلَازِلِ]. فِي الْمَسْجِدِ: قال القاري: الظاهر مسجد محلته، وبه جرم التوبي وغيره، والظاهر عندي أن المراد: المسجد النبوی؛ لما في جمع الوسائل من روایة: أن أبو بكر أرسل غلامه ليأتيه بخبر رسول الله ﷺ، فجاءه الغلام فقال: سمعت أهتم يقولون: مات محمد ﷺ، فركب أبو بكر على الفور، وقال: وا حمدناه! وانقطاع ظهراه! وبنکي في الطريق، حتى أتى مسجد رسول الله ﷺ، وأخرج البخاري برواية عائشة: أن أبو بكر ﷺ أقبل على فرس من مسكنه بالسنع حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، ففيهم رسول الله ﷺ وهو مغشى ثوب حرثة، الحديث. وفي المawahib اللدنیة عن سالم بن عیید قال: لما مات رسول الله ﷺ كان أجزع الناس كلهم عمر بن الخطاب، فأخذ بقائم سيفه وقال: لا أسع أحداً يقول: "مات رسول الله ﷺ" إلا ضربته بسيفي هذا، قال: فقال الناس: يا سالم! اطلب صاحب رسول الله ﷺ قال: فخرجت إلى المسجد فإذا بأبي بکر، فلما رأيته أجهشت بالبكاء، فقال: يا سالم! أمات رسول الله ﷺ الحديث. فالظاهر من هذه الروایات أن المراد: المسجد النبوی، وأن أبو بکر لما استخیر من العلام، وأصحابه بأنه سمع ذلك، رجع أبو بکر من السنع على فرس، ودخل المسجد، فلاقي سالماً وسألـه تصدیق الخبر.

فَلَمَّا رَأَيْنَا قَالَ لِي: أَقْبِضَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَلْتُ: إِنْ عُمْرَ يَقُولُ: لَا أَسْعَ أَحَدًا يَذْكُرُ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
 قُبْضًا إِلَّا ضَرَبَهُ بَسِيفِي هَذَا، فَقَالَ لِي: انطَّلَقْ، فَانطَّلَقْتُ مَعْهُ، فَجَاءَ هُوَ وَالنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا عَلَى  
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْرِجُوكُمْ لِي، فَجَاءَ حَتَّى أَكْبَرَ عَلَيْهِ، وَمُسْئَهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ مَيْتٌ  
أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْرِجُوكُمْ لِي، فَجَاءَ حَتَّى أَكْبَرَ عَلَيْهِ، وَمُسْئَهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ مَيْتٌ  
أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْرِجُوكُمْ لِي، فَجَاءَ حَتَّى أَكْبَرَ عَلَيْهِ، وَمُسْئَهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ مَيْتٌ  
أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْرِجُوكُمْ لِي، فَجَاءَ حَتَّى أَكْبَرَ عَلَيْهِ، وَمُسْئَهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ مَيْتٌ  
 [الزمر: ٣٠] ثُمَّ قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ! أَقْبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ:  
 نَعَمْ، فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدِقَ. قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ! أَنْصَلِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟

حضور کی اجازت سے گھر والوں کی خبر لینے کے لئے اپنے مکان تشریف لے گئے تھے، جو تقریباً ایک میل تھا) سالم کہتے ہیں  
 کہ میں روتا ہوا مستحیر انہ صدیق اکبر شیخ الشیخوں کے پاس گیا، وہ اس وقت مسجد میں تھے، میری مضطربانہ حالت دیکھ کر دریافت فرمایا  
 کیا حضور کا وصال ہو گیا؟ میں نے اس کی اطلاع کی اور یہ بھی عرض کیا کہ عرض شیخوں یہ کہتے ہیں کہ میں جس کو یہ کہتے ہوئے  
 سنوں گا کہ حضور کا وصال ہو گیا اس کی گردن اڑاؤں گا۔ صدیق اکبر شیخ الشیخوں میرے ساتھ تشریف لائے اور مجمع کو ہٹا کر  
 حضور کے پاس تشریف لے گئے اور حضور کے چہرہ مبارک پر گھری نظر ڈال کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ آیت پڑھی:  
 ﴿إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠] لِمَحْمُودِ النَّبِيِّ! بے شک تم بھی وفات پانے والے ہو اور وہ سب دشمن بھی  
 مرنے والے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اے حضور کے رفق! کیا آپ کی وفات ہو گئی؟ حضرت صدیق اکبر شیخ الشیخوں نے فرمایا  
 کہ بے شک آپ دارالبقاء کو روانہ ہو چکے ہیں، اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کو یقین ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپ سے دیگر امور دریافت  
 کئے، اس لئے کہ ہر جز میں اختلاف خصوصیت تھا، اس لئے اول نماز جنازہ کو پوچھا کہ حضور پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟

قال: قال المناوي: وفي نسخ: وقال لي، فحواب "لما" قوله: "قلت: إن عمر". وقال القاري: بالواو قبل "قال" على ما في  
 الأصول المصححة، والظاهر تركها، وقال ميرك: يحتمل أن يقال: جملة حالية أو اعتراضية، وحوار "لما" قوله: "قلت إن  
 عمر". أفرجوا لي: [أي: أوسعوا لي لأجل أن أدخل]. أكبَّ عليه: [فوجده مسجى برد حرمة، فكشف عن  
 وجهه الشريف وقبّله، ثم بكى وقال: بأي أنت وأمي! لا يجمع الله عليك متين].

قال: [أي: قرأ استدلالاً على موته]. أن قد صدق: مخففة من الثقلية، يعني صدق في إخباره بموته ﷺ لاستدلاله بالآية.  
 أنصلي: [ وإنما سأله؛ لتوهم أنه مغفور له فلا حاجة له إلى الصلاة؛ لأن المقصود منها الدعاء والشفاعة للميت].

قال: نعم، قالوا: و كيف؟ قال: يدخل قوم، فَيَكْبُرُونَ وَيَدْعُونَ وَيُصْلَوْنَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَدْخُلُ قوم فَيَكْبُرُونَ وَيُصْلَوْنَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسَ.

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پڑھی جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کس طرح پڑھیں؟ (تمام الہ مذینہ مشاق ہیں) آپ نے فرمایا کہ ایک ایک جماعت جو جرہ کے اندر جائے اور بلا جماعت نماز پڑھ کر چلی آئے، اسی طرح سب لوگ نماز پڑھیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا : کیا حضور وفن کیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یقیناً وفن کیے جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ کس جگہ قبر شریف بنائی جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ آپ کا وصال ہوا ہے وہی جگہ مدفن ہے، اس لئے کہ حق تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کا وصال اسی جگہ فرمایا جو جگہ حق تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہر ہر بات پر اطمینان ہوتا رہا اور ”بے شک بح فرمایا“ کہتے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے الہ بیت اور حضور کے قریب رشتہ داروں کو تجویز و تتفین کے انتظام کا حکم فرمایا (اور حفاظتِ اسلام اور رفع اختلافات کے لئے کسی شخص کو مدار رائے بنانے کی تجویز شروع ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تواریخ ہوئے کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا

نعم: [أي: يصلى عليه لمشاركته لأمته في الأحكام، إلا ما خرج من الخصوصيات للدليل]. يدخل إخ: قيل: إن فوجاً فوجاً دخلوا عليه السلام، وكل واحد منهم صلى عليه على حدة، وروي أن علياً عليه السلام قال: لا يؤم أحدكم عليه؛ لأنه إمامكم حال حيote وحال ماته، وقد ورد في بعض الروايات: أنه عليه السلام أوصى على الوجه المذكور؛ ولذا وقع التأثير في دفته.

فيکبiron: أي: أربع تکبیرات، و”الواو“ لمطلق الجمع، إذ الصلة مقدمة على الدعاء، وقدم الدعاء؛ لما تقرر أن الاستفهام للتردد في أنه عليه السلام هل يحتاج إلى الدعاء؟ فإنه مغفور له لا محالة، فلا حاجة إلى الدعاء، قال القاري: ولم يذكر التسبیح لما هو معلوم من وقوعه بعد التکبیر الأول. حق يدخل: أي: وهكذا حتى يصلی الناس جميعاً، وروى ابن ماجة: ألم ما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس إرسالاً أي: قوماً بعد قوم، يصلون عليه، حتى إذا فرغوا دخلت النساء، حتى إذا فرغن دخل الصبيان، وما يؤم الناس عليه أحد، وروي عن علي عليه السلام: أنه قال: لا يؤم أحدكم عليه؛ لأنه إمامكم حال حيote وحال ماته، وورد في بعض الروايات أنه عليه السلام أوصى على الوجه المذكور، وروى الحاکم في المستدرک والبزار: أن المصطفی حين جمع أهله في بيت عائشة عليه السلام قالوا: فمن يصلی عليك؟ قال: إذا غسلتموني وكفتموني فضعوني على سريري، ثم أخرجوا عني ساعة، فإن أول من يصلی علي جبریل، ثم میکائیل، ثم إسرافیل، ثم ملک الموت مع جنوده من الملائكة بآجعهم، ثم ادخلوا علي فوجاً بعد فوج، فصلوا علي وسلموا تسليماً.

قالوا: يا صاحب رسول الله! أيدفن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قضى الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. واجتمع المهاجرون يتشارون، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار [في أمر الخلافة] ومن جملة القائلين عمر **نُدْخِلُهُم مَعْنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: مِنْا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ،** أي: في أمر نصب الخليفة لا في أمر الخلافة

کہ حضور کا وصال ہو گیا، اس کی گروں اڑادوں گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے اس مقولہ پر تنبیہ فرمائی اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کلام پاک کی آیت ﴿وَمَا سَمِحَ اللَّهُ لِأَرْسَلْنَا﴾ [آل عمران: ١٤٤] تلاوت فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو شخص محمد ﷺ کی پرستش کرتا ہو تو حضور کا تو وصال ہو چکا، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا ہو تو اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لوگ سب کے سب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خطبہ کی آواز سن کر منبر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے اسی خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ دین کی حفاظت کے لئے ایک شخص کی ضرورت ہے جو اس کی نگرانی کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ تم لوگ اپنی اپنی رائے اس بارے میں بتاؤ۔ مہاجرین نے آپس میں مشورہ کیا، پھر یہ تجویز ہوا کہ) انصار کی شرکت بھی اس مشورہ میں ضروری ہے، ان کی شرکت سے کوئی امر قرار پانا چاہئے، اس لئے ان کی مجلس میں یہ حضرات گئے، وہاں یہ مسئلہ پہلے سے چھڑا ہوا تھا۔ انصار نے یہ تجویز کی کہ انصار میں ایک امیر مستقل ہو اور مہاجرین میں علیحدہ امیر ہو (اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور کا ارشاد: "الائمة من قريش"

**أيدفن:** [يعني: يدفن أو يترك بلا دفن على وجه الأرض لسلامته من التغير، أو لانتظار رفعه إلى السماء].  
**نعم:** [لأن الدفن من سننسائر الأنبياء والمرسلين]. في المكان إلخ: [ورد أنه استدل على ذلك بقوله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما فارق الدنيا بي قطُّ إلَّا يدفن حيث قُبِضَ روحه"، قال علي رضي الله عنه: أنا سمعته أيضًا]. قد صدق: [وهذا تبين كمال علمه وفضله وإحاطته بكتاب الله وسنة نبيه]. بنو أبيه: وهم علي والعباس وابنهان فضل وقسم وأسمة بن زيد وصالح الحبشي. والمراد ببني أبيه: مباشرتهم لغسله، وهو لا ينافي مساعدة غيرهم.

**فقالت الأنصار:** [يعني: فانطلقو إليهم، وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، فتكلموا معهم في شأن الخليفة، فقال قائلهم-الخطاب بن المنذر-: منا أمير ومنكم أمير].

فقال عمر بن الخطاب ﷺ: من له مثل هذه الثالث: **﴿ثَانِيَ أُشْيِنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾** [التوبہ: ٤٠] من هما؟ قال: ثم بسط يده فبایعه، وبایعه الناس بیعة حسنة جمیله.

امیر قریش میں سے ہو، نقل کیا) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: کون ہے وہ شخص جس کے لئے ایک ہی واقعہ میں تین فضیلیتیں ہوں چہ جائیکہ اور فضائل، اور پھر یہ تین بھی ایسی کہ جن میں ہر ایک کمال فضل پر دال ہو: اول حضرور اقدس ﷺ کے ساتھ اتحاد و ارتبلاء اور تہائی کے وقت ساتھ دینا جس کو حق تعالیٰ بلقیان **﴿ثَانِيَ أُشْيِنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾** [التوبہ: ٤٠]

سے ارشاد فرمائے ہیں۔ دوسرے حق تعالیٰ بلقیان کو حضور کا ساتھی اور رفیق فرمائے ہیں۔ تیسرا اللہ کی معیت کہ حضور اقدس ﷺ نے ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت حضور اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دو ہی حضرات وہاں تھے جن کے متعلق حضور نے ”ہمارے ساتھ“ فرمایا۔ تم ہی بتاؤ کہ وہ دو کون تھے جن کا آیت میں ذکر ہے؟ کس قدر بڑی ذات ہے ان دونوں حضرات کی (یعنی حضرور اقدس ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کوئی ہستی ہو سکتی ہے)۔ اس کے علاوہ اور بھی گفتگو درمیان میں ہوتی رہی جو مختلف روایات میں وارد ہوئی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے انصار! تمہیں معلوم ہے کہ حضور نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مصلی پر کھڑا کیا اور بیماری کے زمانہ میں حکماً نماز پڑھوائی۔ تم میں سے کون گوارا کر سکتا ہے کہ ایسے شخص کو امامت سے ہٹائے جس کو حضور نے امام بنایا ہو؟ انصار نے کہا اللہ کی پناہ! ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کے لئے ہاتھ پھیلایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اس کے بعد سقیفہ کے سب لوگوں نے برضا و رغبت بیعت کی۔

من له مثل ایخ: أي: من ثبت له مثل هذه الفضائل ثلاثة التي لأبي بكر، فهو استفهام إنكاری على الأنصار، حيث توهموا أن لهم حقا في الخلافة؛ إذ جعل رسوله ثانی اثنين، والثانیة إثبات الصحابة، والثالثة إثبات المعية.

من هما: الاستفهام للتقریر والتفحیم، أي: من الاثنان المذکوران في هذه الآية، أي: هل هما إلا النبي وأبو بكر، والاستفهام للتقریر والتفحیم، أو للتهویل، وأبعد الحنفی إذ قال: يجوز أن يرجع الضمير إلى الأمرين، فحيثندی يكون الاستفهام للإنكار والتحقیر. حسنة جمیله: لوقوعها عن ظهور واتفاق من أهل الحل والعقد، ولذا أکدہ بقوله: "جمیله" قاله المناوي، قال القاري: لا إکراهاً ولا إجباراً ولا ترغيباً ولا ترهيباً.

حدثنا نصر بن عليّ، حدثنا عبد الله بن الزبير - شيخ باهليّ قسم بصرىّ -، حدثنا ثابت البُنانيّ، عن <sup>(١٣)</sup> أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله ﷺ من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله عنها: واكرِباه! فقال النبي ﷺ: لا كَرْب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحداً، -الوفاة- يوم القيمة. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصريّ ونصر بن عليّ قالا: حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفيّ قال: سمعت جديّ -أبا أمي- بيان للحد

فائدہ: یہ ابتدائی بیعت تھی جو انصار کی مجلس میں ہوئی، اُس کے بعد دوسرے دن مسجد نبوی میں بیعت عامہ ہوئی، جس میں اول حضرت عمر رضي الله عنه نے ایک خطبہ دیا جس میں حضرت ابو بکر رضي الله عنه کے فضائل بھی تھے اور دیگر امور ارشاد فرمائے، اُس کے بعد حضرت ابو بکر رضي الله عنه نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی فتنم! میں کبھی بھی خلیفہ بنی نے کاخواہشند نہیں ہوا، نہ مجھے کبھی اس کی ترغیب ہوئی، نہ کبھی بھی پوشیدگی میں یا علانية اس کے حصول کی دعا کی، اپنے انکار پر امت میں فتنہ پیدا ہو جانے کے ڈر سے میں نے اس کو قبول کیا ہے، مجھے اس میں کوئی راحت نہیں ہے اور جو کام مجھ پر ڈال دیا گیا میری طاقت سے باہر ہے۔ اللہ ہی کی مدد سے کچھ کام چل سکتا ہے۔

(١٣) حضرت أنس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور القدس ﷺ جب مرض الوفات کی سخت تکلیف برداشت فرمارہے تھے تو حضرت فاطمہ رضي الله عنها نے عرض کیا کہ ہائے ابا کی تکلیف! حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تیرے باپ پر کچھ تکلیف نہیں رہے گی، بے شک آج تیرے باپ پر وہ اٹل چیز اتری ہے یعنی موت جو قیامت تک کبھی کسی سے ملنے والی نہیں۔ فائدہ: ”ہائے“ کا لفظ عربی میں اظہارِ افسوس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مقصود رنج کا اظہار ہے۔

واکِرِباه: بفتح الكاف وسكون الراء وھاء ساکنة في آخره، غم يأخذ بالنفس إذا اشتد عليه. لا كرب إلخ: [للانتقال حينئذ إلى الحضرة القدسية، فكربه سريع الروال، ينتقل بعده إلى أحسن النعيم]. ما ليس بتارك: أي: أمر عظيم، ليس الله عزوجلّ بتارك من ذلك الأمر أحداً، والوفاة بيان لـ”ما“، وفي نسخة: ”الموافقة“ بدل الوفاة، وهو يعني: الإتيان والملاقاة، وقيل: يفسر الموافقة هنها بالوفاة. يوم القيمة: منصوب بنزاع الخافض، وهو كلمة ”إلى“، وجوز أن يكون مفعولاً فيه، ويراد به يوم الوفاة؛ لأن يوم موت كل أحد يوم قيامته كما ورد.

سمّاك بن الوليد يُحدّث: أنه سمع<sup>(١٤)</sup> ابن عباس رضي الله عنهما يحدّث: أنه سمع رسول الله صلوات الله عليه وسلم يقول: من كان له فَرَطْان من أمتى أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت له عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فَرَطْ من أمتك؟ قال: ولمَنْ كان له فَرَطْ، يا مُوْفَقَةً! قالت: فمن لم يكن له فَرَطْ من أمتك؟ قال: فأنا فَرَطْ لأمتى، لَنْ يُصَابُوا بِمُثْلِي.

(١٥) ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس سنتین کے ارشاد فرمایا کہ جس کے دو پچھے ذخیرہ آخرت بن جائیں تو حق تعالیٰ جل شان کی بدولت اُس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضي الله عنها نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جس کا ایک ہی پچھے ذخیرہ بنا ہو اُس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا ایک ہی پچھے چل دیا ہو وہ بھی بخش دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضي الله عنها نے پوچھا کہ جس کا ایک بھی پچھے نہ مرا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اُن کے لئے میں ذخیرہ بخوبی گا اس لئے کہ میری وفات کارنچ آل واولاد سب سے زیادہ ہو گا۔ فائدہ: یقیناً حضور کی جدائی ایسی ہی چیز ہے کہ ماں باپ، اعزہ احباب، یوں، اولاد ہر شخص کی جدائی اور موت حضور کی جدائی اور وفات کے مقابلہ میں کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ اسی لئے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو میری جدائی کی مصیبت سے تسلی حاصل کرے۔ یعنی یہ سوچے کہ جب حضور کی مفارقت پر صبر کر لیا تو اُس کے مقابلہ میں یہ کیا حقیقت رکھتی ہے۔

فرطان: بفتح الفاء والراء تثنية فرط، وهو المتقدم في طلب الماء، فيه لهم الأرشاء والدلاء، ويمدد الحياض، ويستقي لهم، فعل يعني فاعل كتبع يعني تابع. [أي: الولدان صغيران يموتان قبله، فإنهما يوم القيمة يهيايان نزلا ومنزلا في الجنة]. يا موفقۃ: لتعلم شرائع الدين أو في الخيرات، أو الأسئلة الواقعية موقعها، أو المعنى: وفقط الله لما يحصل بسبب السؤال عنه، وهذا تحريم لها على السؤال. لَنْ يُصَابُوا بِمُثْلِي: [كما ورد في مسلم: "إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيها قبلها فجعله لها فَرَطْاً وَسَلْفًا بين يديها، وإذا أراد هلاك أمة عذُّها، ونبيها حيٌّ فأهلتها وهو ينظر، فاقرَّ عينه هلاكها حين كذبوا وعصوا أمره".]

## بابُ ما جاءَ فِي مِيراثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنْبِعٍ، حدَثَنَا حَسِينُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدَثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ،

### باب۔ حضرَةُ الْقَدِيسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمِيراثِ كَاذِكَر

**فائدہ:** اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سات حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، سب کا حاصل یہی ہے کہ آپ کا جملہ متزوکہ مال صدقہ ہے، وہ وارثوں پر تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ علماء کا اجتماعی مسئلہ ہے اس میں کسی عالم کا بھی اہل سنت والجماعت میں سے خلاف نہیں ہے کہ حضور کے ترک میں وراثت نہ تھی، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ حکم حضرَةُ الْقَدِيسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ خاص تھا یا تمام انبیاء کا یہی حکم ہے؟ جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ تمام انبیاء کا یہی حکم ہے کہ ان کے متزوکہ مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ میں علماء کے متعدد اقوال ہیں اور متعدد وجوہ ہونے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ مختصرًا چند وجوہ لکھی جاتی ہیں:  
**نمبر۱:** انبیاء علیهم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں لہذا ان کی ملک باقی رہتی ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی یہیوں سے کسی کے نکاح کرنے کی قرآن پاک میں صاف لفظوں میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔

**نمبر۲:** نبی کی کوئی چیز زندگی میں بھی ملک نہیں ہوتی، وہ متولیانہ تصرف کرتے ہیں۔ صوفیہ میں بھی یہ مقولہ مشہور ہے: الصوفی لا یملک صوفی مالک کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ یہ مطلب نہیں کہ شرعاً مالک نہیں ہوتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان ناپائیدار چیزوں کو اپنی نہیں سمجھتا۔

**نمبر۳:** دنیا کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے اور نبی اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تصرف کرتا ہے۔

**نمبر۴:** اگر انبیاء کے مال میں میراث جاری ہو تو احتمال ہے کہ کوئی بد نصیب وارث مال کی طمع میں نبی کی ہلاکت کا ذریعہ بنے یا تمثنا کرے اور دونوں چیزوں اُس کی بربادی کا سبب ہوں گی۔

**نمبر۵:** لوگوں کو یہ واجہہ نہ گزرے کہ نبوت کا دعویٰ مال جمع کرنے کے واسطے اور اپنے اہل و عیال کو مالدار چھوڑ کر جانے کے واسطے ہے۔

**نمبر۶:** مال کے زنگ اور میل کچیل سے ان کی قدسی ذات کو محفوظ رکھنے کی وجہ سے ہے۔

عن عمرو بن الحارث - أخبي جُوَيْرِيَة، له صحابة - قال: ما ترك رسول الله ﷺ إلا سلامة، وبغلته، وأرضاً جعلها صدقة.  
صحابي قليل الحديث  
في سبيل الله

نمبرے: نبی تمام امت کے لئے بمنزلہ باپ کے ہے، لہذا اس کا مال تمام اولاد کا مال ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے احکامات کی حکمتیں بے نہایت ہوتی ہیں آدمی اپنی سمجھ کے موافق حکمتوں کا بیان کرتے ہیں، ان کے علاوہ نہ معلوم کتنی حکمتیں اللہ کے علم میں ہیں۔

(۱) عمرو بن الحارث رض جو ام المؤمنین جویریہ رض کے بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے اپنے ترکہ میں صرف ہتھیار اور (اپنی سواری کا) خچر اور کچھ حلقہ زمین کا چھوٹا تھا اور ان کو بھی صدقہ فرمائے تھے۔ فائدہ: چونکہ یہ چیزیں صدقہ کے حدود میں داخل ہو گئی تھیں اس لئے ان میں میراث جاری نہیں ہوئی۔ حضور اقدس ﷺ کے استعمالی کپڑوں کا ذکر معمولی چیز ہونے کی وجہ سے نہیں کیا گیا۔

ما ترك إلخ: [الحصر في الثلاثة التي ذكرها في هذا الخبر إضافي، وإنما فقد ترك ثيابه وأمتעה بيته، لكنها لم تذكر؛ لكنها يسيرة بالنسبة إلى المذكورات]. سلامة: بكسر السين، أي: مما كان يختص بلبسه من نحو: سيف ورمح ودرع ومغفرة.

وبغلته: البيضاء التي يختص برکوها هي "الدلدل"، وكان لها بغال آخر، وقد أخرج البخاري بسنده إلى عمرو بن الحارث بلفظ: ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهماً، ولا ديناراً، ولا عبداً، ولا أمة، ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء، وسلامة، وأرضاً جعلها صدقة. قال العيني رحمه الله: كانت له رض ست بغال: بغلة شهباء، يقال لها: الددلل، أهدتها له المقوس، وبغلة يقال لها: فضة، أهدتها له فروة الجذامي، فوهبها لأبي بكر، وبغلة بعثها صاحب دومة الجندل، وبغلة أهدتها ملك إيلية، يقال لها: إيلية، وقال مسلم: كانت بيضاء، وبغلة أهدتها النجاشي، وبغلة أهدتها كسرى، ولم يثبت، ولم يكن فيها بيضاء إلا الإيلية، ولم يذكر أهل السير بغلة بقیت بعده رض إلا الددلل. قالوا: إنما عمرت حتى كانت عند علي رض. وبعده عند عبد الله بن جعفر، وكان يخشى لها الشعير لتأكله لضعفها، والظاهر أنها هي التي في الحديث؛ لأن الشبهة غلبة البياض على السواد، ومنه تسمى الشهباء بيضاء، مختصرأ.

وأرضاً: [وهي نصف أرض فَدَك، وثلث أرض وادي القرى، وسهمه من خُمُس خير، وحصته من أرض بني النضير]. جعلها صدقة: قيل: الضمير راجع إلى الثلاثة؛ لقوله صلوات الله عليه: "نحن معاشر الأنبياء، لا نورث، ما تركناه صدقة"، والظاهر أنها للأرض؛ لأن المراد بقوله: "جعلها صدقة" بين كونها من الصدقات حال حياته، ولم يضف الأرض إليه كالأولين لاختصاصهما به دونها، إذ نفعها كان عاماً له ولغيره من عياله.

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،  
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبى بكر رضي الله عنهما، فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلى  
وولدي. فقالت: مالى لا أرث أبى؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نورث"  
ولكتى أعول على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلوه،

(۲) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لا میں اور دریافت فرمایا کہ تمہارا کون وارث ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے اہل و عیال۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: بھر میں اپنے والد کے متود کی وارث کیوں نہیں بنی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ البتہ (میں وقف کا متولی ہونے کی وجہ سے) جن لوگوں کا روزینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائکھا اس کو میں بھی ادا کروں گا اور جن لوگوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے ان پر میں بھی خرچ کروں گا۔

فائدہ: بظاہر حضرت فاطمہؓ خیال فرماتی تھیں کہ باشاہ ہونے کی وجہ سے حضور کے مال کو ترکہ، میراثی قرار نہیں دیا گیا، اس لئے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے دریافت فرمایا کہ تمہارا بھی کوئی وارث ہو گا یا نہیں؟ حضرت ابو بکرؓ نے شرعی مسئلہ کے موافق جواب مرحمت فرمایا اور نہ ان کی اپنی وصیت کے موافق جس میں انہوں نے فرمایا کہ اس مال کو بیت المال

أهلی: أدخل أباً قحافة في الأهل تغليباً، فلا ضير في حصره الوارث في الأهل والولد، ونص على الولد مع دخوله في الأهل؛ لأنَّه مناط مقصود فاطمة. لا ثُورَث: بضم الثون وسكون الواو وفتح الراء، وفي نسخة بكسر الراء، وفي المغرب: كسر الراء خطأ رواية، يعني يصح [رأيَة، إذ المَعْنَى]: لا تترك ميراثاً لأحد لمصیره صدقة، حتى زعم بعضهم أنه الأَظْهَرَ معنى، ففي الصحاح والمغرب: يقال: أورثه مالاً: تركه ميراثاً له، ثم قال ميرك: أصل المجهول لا يورث منا، فحذف "من"، واستر ضمير المتكلِّم في الفعل، فانقلب الفعل من الغائب إلى المتكلِّم، ولا يخفى أنَّ هذا مبني على أنه لا يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه، على ماذهب إليه صاحب القاموس وغيره، وأما على ما جعله بعض اللغويين متعدياً إليه بنفسه فلا حذف ولا تحويل، ففي الناج للبيهقي: أنه يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه، وبـ"من"، فيقال: ورث أباً مالاً، فالأب والمال كلاهما موروث، وقول فاطمة في هذا الحديث: "من يرثك"، "ومالي لا أرث أبي" موافق له. [والحكمة في عدم الإرث من الأنبياء: أنَّ لا يتمتع بعض الورثة بموتهم فيهلك، وأنَّ لا يظنُّ بهم أكْمَن راغبون في الدنيا وجمعها لورثتهم، وأنَّ لا يرحب الناس في الدنيا وجمعها.]

وأنفق على من كان رسول الله ﷺ ينفق عليه. حدثنا محمد بن المنى، حدثنا يحيى بن كثير العنيري أبو غسان، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مُرّة، عن <sup>(٣)</sup> أبي البختري،

میں واپس کر دینا، اُس کے موافق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی وارث نہیں ہوا۔ حضور کا یہ ارشاد کہ ”ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا“، مشہور حدیث ہے جو مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے۔ بعض روایات میں اتنا ہی ہے جو اوپر ذکر کیا گیا، بعض روایات میں ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب زین العابدین نے ”مسوی“ میں لکھا ہے۔ یہ مضمون کہ حضور کا کوئی وارث نہیں ہے، دس صحابہ سے زیادہ حضرات سے منقول ہے۔

(٣) ابوالبختري رضي الله عنه كهتے ہیں کہ حضرت عباس اور حضرت علي رضي الله عنهما دونوں حضرات حضرات عمر رضي الله عنه کے دورِ خلافت میں ان کے پاس تشریف لائے، ہر ایک دوسرے پر اعتراض کر رہا تھا اور اُس کو انتظام کے ناقابل بتارہا تھا۔ حضرت عمر رضي الله عنه نے اکابر صحابہ: حضرت طلحہ رضي الله عنه، حضرت زیر رضي الله عنه، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حضرت سعد بن ابی وقاص رضي الله عنه ان سب حضرات کو متوجہ فرمایا کہ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں! کیا تم سب نے حضور سے نہیں سُنا کہ نبی کا تمام مال صدقہ ہوتا ہے، بجز اُس کے جو وہ اپنے اہل کو کھلائے، ہم انبیاء کی جماعت کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔ فائدہ: امام ترمذی رضي الله عنه کا مقصود صرف میراث نہ ہونے کا ذکر تھا وہ حاصل ہو گیا تھا اس لئے پورا قصہ طویل ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں فرمایا۔ امام ابو داؤد نے اس کو ذرا تفصیل سے ذکر کیا اور تھوڑا سا ذکر کرنے کے بعد

وأنفق: الظاهر أنه عطف تفسير كما قاله الحنفي، ويمكن أن يفرق بينهما، بأن يخص قوله: "أعول" بأهل بيته كما يشير إليه لفظ العيال، ويراد بقوله: "أنفق" غير أهل بيته، فاندفع ما جزم به ابن حجر من: أنه جمع بينهما تأكيداً.

البختري: بفتح المودحة وإسكان الخاء المعجمة وفتح الفوقيانية، هو سعيد بن فیروز بن أبي عمر بن أبي عمران، فما قيل: بالخاء المهملة، منسوب إلى البختري يعني: حسن المشي، ليس بشيء، قاله القاري، والحديث أخرجه أبو داود برواية عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري قال: سمعت حدثنا من رجل فأعجبني فقلت: أكتب لي، فأتنى به مكتوباً مذيراً: دخل العباس وعليه عمر رضي الله عنه، الحديث مختصراً، وأحال بعض منه على حدث مالك بن أوس، وقال الحافظ في التقريب: أبو البختري، عن رجل لعله مالك بن أوس. وفي الشمائل ترك الواسطة فليحرر، وفي التهذيب: كان كثير الحديث يرسل حديثه، ويروي عن الصحابة، ولم يسمع من كثير أحد، وفيه أيضاً أنه عن عمر مرسلاً.

أن العباس وعلياً جاءا إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا، أنت كذا.

[في أيام حلاقته]

فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدٍ رضي الله عنهما: نشدتكم بالله، أَسْمَعْتُم رسولَ الله ﷺ

سوگند دادن

يقول: "كل مال نبي صدقة إلا ما أطعنه الله، إنا لا نورث"؟ وفي الحديث قصة. حدثنا محمد بن

المشى، حدثنا صفوان بن عيسى، عن أسامة بن زيد، عن الزهريّ، عن عروة،

مالك بن اوس رضي الله عنه کی حدیث پر جو نمبر ۶ پر آرہی ہے، حوالہ کر دیا، اس لئے کہ مالک بن اوس کی روایت مشہور تھی، حدیث کی سب کتابوں میں کثرت سے ذکر کی گئی۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور خود ابو داؤد شریف میں مفصل ذکور تھی اس لئے ایک قصہ کو پورا پورا ہر جگہ ذکر کرنا تطولیل کا سبب تھا۔

ابوداؤد شریف کی روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ ابوالحنیفی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے ایک حدیث سنی جو مجھے بہت پسند آئی، میں نے اُن سے درخواست کی کہ یہ حدیث مجھے لکھ دیجئے تو وہ ایک نہایت پختہ تحریر لائے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ شخص غالباً مالک بن اوس ہی ہیں۔ اُس تحریر میں یہ لکھا تھا کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اُس وقت حضرات طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھین پہلے سے موجود تھے، وہ دونوں حضرات یعنی حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپس میں جھگڑ رہے تھے یعنی ایک دوسرے کو بد نظمی کا الزام دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ وغیرہ چاروں حضرات کو مخاطب بنانکریہ دریافت فرمایا۔ کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نبی کا ہر مال صدقہ ہوتا ہے مگر وہ مال جو وہ اپنے اہل و عیال کو کھلانے یا پہنانے اس لئے کہ ہم لوگوں کا (یعنی انبیاء کا) کوئی وارث نہیں ہوتا؟ ان چاروں حضرات نے اقرار کیا کہ بے شک حضور نے ایسا فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ پس حضور اقدس اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات میں اس میں سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے رہے اور جو حق جاتا تھا اُس کو صدقہ کر دیتے تھے۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور اپنی دو سالہ زندگی میں وہی عمل درآمد کرتے رہے جو حضور اقدس اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ اس کے بعد امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ مالک بن اوس کی حدیث کے قریب قریب آگے سارا قصر ہے۔

قصة: [كما سيدكره في الحديث السادس من الباب أي: في حديث مالك بن اوس.] قصة أخرجها أبو داؤد وغيره مفصلاً بطرق.

<sup>(٤)</sup> عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تُورث، ما تركناها فهو صدقة. حدثنا محمد بن بشّار، حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يَقْسِم ورثيَّة ديناراً ولا درهماً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملٍ، فهو صدقة.

(۲) حضرت عائشہؓ سے بھی یہی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم انبیاءؐ کی جماعت جو مال چھوڑتی ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ فائدہ: یعنی صدقات کے موقع میں خرچ کیا جاتا ہے۔

(۵) ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وس علیہ وآله و سلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ورشہ دینار اور درہم تقسیم نہ کریں۔ میرے ترکہ سے اہل و عیال کا نفقة اور میرے عامل کا نفقة نکالنے کے بعد جو کچھ بچے وہ صدقہ ہے۔ فائدہ: عامل سے مراد وہ شخص بھی بتلایا گیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وس علیہ وآله و سلم کے بعد خلیفہ وقت ہونے والا ہو اور وہ بھی کہا گیا ہے جو زمینوں کی پیداوار جمع کر کے لانے والا ہو، یعنی ان زمینوں کا منتظم اور تنظیم اور ٹکرائیں ہو۔ دونوں محتمل ہیں کہ خلیفہ کی تختواہ بھی بیت المال کے ذمہ ہے اور ہر وقت کے ٹکرائیں اور منتظم کو اُس وقف سے حق الخدمة لینے کا حق ہے، دینار و درہم کی تخصیص مقصود نہیں ہے۔

ما تركنا: "ما" موصولة، والعائد مذوف، أي: ما تركناه، قوله: "صلقة" حجر "ما"، والفاء لضمن المبتدأ معنى الشرط. الأعرج: [هو عبد الرحمن بن هرمز كان يكتب المصاحف]. لا يقسم: بفتح التحتية، والنفي. معنى النهي أبلغ من النهي الصريح. ديناراً إلخ: التقييد بهما بناءً على الأغلب من المخلفات، أو لأن مراعي الكل في القسمة إليهما، أو المعنى ما يساوي قيمتهما، فهو أولى مما قاله ابن حجر من أن التقييد بهما للتتبّيه على أن مافقهما بذلك أولى قاله القاري، ووافق المناوي ابن حجر. نساني: [أي: زوجاتي، فنفتقهنّ واجبة في تركته ~~بذلك~~ مدة حياهنّ، لأنهنّ في معنى العتادات لحرمة نكاحهن أبداً، ولذلك اختصصنّ بسكنٍ بيونهن مدة حياهنّ].

ومؤنة: المؤنة الشقل، فعولة من مانت القوم احتملت مؤنتهم، وفي الصحاح: المؤنة تهمز ولا تهمز. قال الفراء: مفعلة من الآين وهو التعب والشدة، وقيل: مفعلة من الأون، وهي الخرج والعدل؛ لأنها تنقل على الإنسان.

عاملی: هو الخليفة بعده أو القائم على تلك الصدقة، والناظر فيها وخدمه في حوائطه ووكيله وأجيره، أو كل عامل للمسلمين، وكان عليه السلام يأخذ من صفاتيابه نفقة أهله، ثم أبو بكر رض، ثم عمر رض، واستغنى عنه عثمان رض بهاله فأقطعها مروان وغيره من أقاربه، فلم تزل في أيديهم حتى رده عمر رض بن عبد العزيز.

حدثنا الحسن بن عليّ الخلال، حدثنا بشر بن عمر قال: سمعتمالك بن أنس، عن الزهري، عن <sup>(٢)</sup> مالك بن أوس بن الحَدَثان قال: دخلت على عمر، فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء عليّ والعباس يختصمان.

تشیل کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے جیسا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ روپیہ پیسہ تقسیم نہ کریں کہ اور چیزیں بطریق اولی داخل ہو گئیں، یا یہ کہا جائے کہ تقسیم ہمیشہ قیمت لگا کر ہوتی ہے جو روپیہ پیسہ ہی کی طرف لوٹ آئے۔

(۶) مالک بن اوس کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے (اُس کے تھوڑی دیر بعد) حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جھگڑتے ہوئے تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب حضرات کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اُس ذات پاک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، کیا تمہیں حضور کے اس ارشاد کا علم ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت کسی کو اپنا اوراثت نہیں بناتے، جو کچھ ہم ترکہ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ اُن سب حضرات نے فرمایا کہ بے شک یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس حدیث میں ایک طویل تصریح ہے۔

فائدہ: یہ وہی تصریح ہے جس کی طرف نمبر ۳ پر ابو الجنtri کی روایت میں بھی اشارہ گزر چکا ہے۔ تصریح طویل ہے اور حدیث کی تقریباً ساری کتب میں مختصر یا مفصل نقل کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے اس کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے اور توضیح کے طور پر فتح الباری وغیرہ سے دوسری روایات میں جو اضافے ہیں وہ بھی بقدر ضرورت ساتھ ہی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ مالک بن اوس کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر تھا، دن کچھ چڑھ گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاصد مجھے بلانے آیا، میں حاضر خدمت ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بوریے پر بیٹھے ہوئے تھے جس پر کوئی اور کپڑا بھی بچھا ہوانہ تھا۔ میں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے کچھ ضرورت مند لوگ آئے تھے، میں نے ان کو کچھ دینے کو کہہ دیا ہے، تم اس کو لے جا کر ان پر تقسیم کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ تقسیم کے لئے کسی اور کو تجویز فرمادیتے تو اچھا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم ہی تقسیم کر دو۔

فقال لهم عمر: أَنْشَدْتُكُمْ بِالذِّي يَأْذِنُهُ تَقْوِيمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدْقَةً؟ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. وَفِي الْحَدِيثِ قَصْةٌ طَوِيلَةٌ. حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشَّارٍ، حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهَدِّيٍّ، حَدَثَنَا سَفِيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زَرِّ بْنِ حُبَيْشَ،

یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ آپ کے خادم جن کا نام یرفا تھا، حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرات عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زیر اور سعد بن ابی و قاص رض حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ بعض روایات میں حضرت طلحہ کا بھی شمار ہے۔ حضرت عمر رض نے حاضری کی اجازت دے دی۔ یہ حضرات تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں یرفا دوبارہ آئے اور عرض کیا کہ حضرت عباس اور حضرت علی رض حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رض نے اجازت فرمادی، وہ دونوں تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے اور حضرت عباس رض نے فرمایا کہ میرے اور اس ظالم کے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت عباس رض نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ”ظالم“ کے علاوہ اور بھی کچھ سخت لفظ کہے، دونوں حضرات میں آپ میں سخت کلامی ہو گئی۔ حضرت عثمان وغیرہ حضرات جو پہلے سے بیٹھے تھے، انہوں نے ان کی تائید اور سفارش کی کہ آپ ان کا فیصلہ ضرور کر دیجئے اور ایک کو دوسرا سے نجات دیجئے۔ مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے۔ مالک بن اوس کہتے ہیں کہ مجھے ان کی سفارش اور تائید کے انداز سے یہ خیال ہوا کہ ان دونوں حضرات نے ان سب حضرات کو اپنی تائید ہی کے لئے آگے بھیجا تھا۔ حضرت عمر رض نے فرمایا: ذرا تھہرو۔ اس کے بعد اس جماعت کی طرف خطاب کر کے فرمایا۔ تم کو اس پاک ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان زمین قائم ہیں، کیا تم کو معلوم ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے؟ اس جماعت نے اقرار کیا کہ بے شک! حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔

**أَنْشَدْكُمْ:** بفتح الميم وضم المعجمة، أي: أسألكم أو أقسم عليكم قاله القاري. زاد المناوي: من أنشد، وهو رفع الصوت.  
**اللَّهُمَّ:** صدر الكلام به لتأكيد الحكم كما هو العرف، وللاحتجاط والتحرز عن الوقوع في الغلط. والميم فيه بدل حرف النداء، والمقصود من النداء في حقه سبحانه هو التضرع والتذلل لا حقيقة النداء؛ فإنه ليس بعيد ولا بغاية قاله القاري.  
**قصة طويلة:** [بسطها مسلم في صحيحه في أبواب الفيء]. زر بن حبيش: بكسر الزاي وتشديد الراء، وحبيش بضم الحاء المهملة تصغير حبش.

اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب دنوں حضرات عباس و علی بن ابی طالب کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی طرح ان سے بھی قسم دے کر دریافت کیا۔ ان دنوں حضرات نے بھی اس کا اقرار کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ شروع سے سنو! اللہ جل شانہ نے یہ فیض کامال (باغ وغیرہ) مخصوص طور پر حضور کو دیا، کسی دوسرے کی اس میں شرکت نہ تھی، لیکن حضور نے اس کو اپنے لئے مخصوص نہیں فرمایا بلکہ تم لوگوں پر تقسیم کر دیا اور بہت تھوڑا سا حصہ زمین کا اپنے اور اپنے عیال کے گزران کے لئے رکھا اور اس میں بھی گھروں میں تھوڑا سا دینے کے بعد جو پچتا وہ اللہ کے راستہ میں خرچ فرمادیتے تھے۔ میں تم لوگوں کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا ایسا ہی تھا یا نہیں؟ اول ان پانچوں کو قسم دے کر ان سے اس کی تصدیق کرائی، اس کے بعد ان دنوں حضرات سے قسم دے کر تصدیق کرائی۔

پھر حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا: اس کے بعد حضور کا وصال ہو گیا اور حضرت ابو بکر بن الخطاب خلیفہ بنے اور انہوں نے اس سب پیداوار میں اُسی طرز کو جاری رکھا جو حضور کا معمول تھا اور اللہ پاک کی قسم! ابو بکر اپنے اس روایت میں نیکی پر تھے، رہ راست پر تھے، حق کا اتباع کرنے والے تھے، لیکن تم لوگوں نے ان کو چنان چنیں سمجھا، تم (حضرت عباس) اپنے بھتیجے (اللهم علیک) کی میراث طلب کرنے آئے اور تم (حضرت علی) اپنی بیوی کے حصہ کا مطالبه کرنے آئے۔

حضرت ابو بکر نے حضور کا ارشاد کہ ”ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا“ سنایا، تم نے ان کی بات کو صحیح نہ سمجھا، اس کے بعد حضرت ابو بکر نے وفات پائی اور میں خلیفہ بنا اور اپنی خلافت کے ابتدائی دو سال تک حضور اقدس ﷺ اور حضرت ابو بکر بن الخطاب کے طریقہ کے موافق اس میں عمل کرتا رہا اور اللہ جل جہاں خوب جانتا ہے کہ میں اپنے اس طرز میں سچا ہوں، نیکی پر عمل کرنے والا ہوں، حق کا اتباع کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد تم دنوں میرے پاس آئے اور وہی ایک کلمہ، ایک بات، بھتیجے کی میراث کا مطالبه اور بیوی کا حصہ۔ میں نے تم سے حضور کا ارشاد کہ ”ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا“ سنایا، اس کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ بطور تولیت کے تمہارے حوالے کر دوں تو میں نے تم سے عہد و پیمان لیا کہ تم اس میں اُسی طرح عمل درآمد کرو گے جس طرح حضور اقدس ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دو برس تک میں خود عمل کرتا رہا ہوں۔ تم نے اس کو قبول کیا اور اس طرح میں نے اس کو تمہارے حوالہ کیا۔ تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں! کیا میں نے اسی طرح حوالہ نہیں کیا ہا؟ اُس جماعت نے بھی اس کا اقرار کیا اور ان دنوں حضرات نے بھی اس کا اقرار کیا۔

اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ اب تم اس کے خلاف مجھ سے فیصلہ کرنا تاچاہتے ہو، اُس ذات کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، اس کے خلاف ہرگز فیصلہ نہ کروں گا۔ اگر تم اس کے انتظام سے عاجز ہو تو مجھے واپس کر دو، میں خود انتظام کرلوں گا۔ یہ ہے وہ طویل قصہ جس کی طرف امام ترمذی رض نے اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔ اس میں چند امور قابل لحاظ ہیں:

۱: حضرت عباس رض نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ظالم وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا اور دونوں حضرات میں سخت کلامی ہوئی، یہ چیز بظاہر مسبعد معلوم ہوتی ہے، مگر ایک تو حضرت عباس رض حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چچا ہیں، اس حیثیت سے ان کو تنبیہ کا حق ہے، دوسرے جب وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ناقص سمجھ رہے ہیں جس کی تفصیل آگے آرہی ہے ان کے فعل کو ظلم سمجھنا ہی چاہئے۔

۲: یہ کہ جب حضرت عباس اور حضرت علی رض کو یہ حدیث معلوم تھی جیسا کہ انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب کے سوال پر اقرار کیا تو پھر کیوں حضرت ابو بکر رض سے مطالبه کیا اور کیوں حضرت عمر بن الخطاب سے مطالبه کیا؟ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ پہلے سے معلوم نہ تھی، حضرت ابو بکر رض کے کہنے سے معلوم ہوئی تو پھر جب حضرت ابو بکر رض اس حدیث کی وجہ سے انکار فرمائے تھے تو پھر حضرت عمر بن الخطاب سے دوبارہ کیوں سوال کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث تو یقیناً ان کو معلوم تھی مگر بظاہر اس حدیث کو وہ مخصوص سمجھتے تھے، مثلاً: درہم اور دینار ہی کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہوں، جیسا کہ پہلے ایک حدیث میں ان دونوں کا ذکر آچکا ہے، لیکن اور سب حضرات کے نزدیک سب چیزوں کو شامل ہے، جیسا کہ بہت سی حدیثوں میں ”جو کچھ میں چھوڑوں وہ صدقہ ہے“ کا لفظ آیا ہے۔

اس صورت میں حضرت ابو بکر رض سے اولاً سوال اپنے اُس خیال کے موفق ہو کہ یہ حضرات اُس کو خصوصیت پر سمجھتے تھے اور اُس کے بعد دوبارہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ خلافت میں ان سے سوال اس خیال سے ہو کہ شاید حضرت عمر بن الخطاب کی رائے ان دونوں حضرات کے موفق ہو، یعنی حضرت عمر بن الخطاب بھی اس کو مخصوص خیال فرماتے ہوں، لیکن مطالبه کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن الخطاب کی رائے بھی وہی ہے جو اور سب حضرات کی ہے اور حدیث کے الفاظ کا ظاہر بھی یہی ہے کہ یہ ارشاد سب چیزوں کو شامل ہے، کسی چیز کی تخصیص نہیں۔

یہاں ایک نہایت اہم اور ضروری چیز یہ ہے، ان شیخن کر لینا ضروری ہے کہ جب حضرات شیخین ﷺ کے متعلق ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضور اقدس ﷺ کے پاک ارشاد کی وجہ سے میراث تقسیم کرنے سے مخدور و مجبور تھے اور باوجود ان حضرات کے اصرار کے تقسیم نہ فرمایا، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ان اکابر کی شان میں کسی قسم کا سوءِ ملن کرنا کہ حب مال کی وجہ سے بار بار اصرار کرتے تھے اور حضور کے اس صاف اور صریح ارشاد کے خلاف عمل چاہتے تھے، انتہائی بے ادبی ہے، ان کا اصرار اس وجہ سے تھا کہ یہ حضرات اس کو ایک شرعی حق سمجھتے تھے اسی وجہ سے اپنی تحقیق کے خلاف ہونے کی وجہ سے مخالفت کرنے والوں پر انکار کرتے تھے، جس کو حضرت عمر بن الخطاب نے اپنے اس کلام سے ظاہر کیا کہ تم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چنان چنیں سمجھا۔

۳: یہ کہ جب حضرت ابو بکر و حضرت عمر بن الخطاب کے انکار پر اور حضور کے اس ارشاد پر کہ ”ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا“ ان دونوں حضرات نے متفقہ طور پر اپنی ولایت میں لے لیا تھا تو اب آپس میں جھگڑا پیدا ہو جانے کی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپس میں سخت کلامی کی نوبت آئی اور اب تقسیم کی استدعا کس وجہ سے تھی جب کہ پہلے ہی سے تقسیم کا انکار ہوتا چلا آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز تو محقق ہو گئی تھی کہ اس میں میراث جاری نہیں ہوتی اسی وجہ سے حضرات شیخین ﷺ نے انکار بھی کر دیا تھا اور ان حضرات نے قبول بھی کر لیا تھا، اس کے باوجود پھر ان دونوں حضرات کا آپس میں تقسیم کے مطالبہ کی وجہ میرے والد صاحب نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ کیفیتِ خرچ میں دونوں میں کثرت سے اختلاف ہوتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نہایت منتظم اور مدبر تھے، دور اندیش تھے، وہ ہر مال کو نہایت احتیاط سے خرچ فرمانا چاہتے تھے اور ضرورت کے موقع کے لئے پس انداز اور ذخیرہ فراہم رکھنا چاہتے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نہایت فیاض، سخنی، زاہد اور متوفک تھے، حضور کے طرز کے موافق جو آیا فوراً تقسیم کر دینا چاہتے تھے کہ ایک درہم بھی باقی نہ بچے، اس وجہ سے دونوں حضرات میں ہر وقت کشاکشی پیش آتی تھی۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں دارقطنی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان حضرات کا آپس کا اختلاف میراث کے بارے میں نہیں تھا۔ بلکہ تولیت اور مصارف کے بارے میں تھا کہ اس پیداوار کو کس طرح صرف کیا جائے۔ امام ابو داؤد نے لکھا ہے کہ ان دونوں حضرات کی درخواست یہ تھی کہ اس مال کو دونوں میں نصف نصف تقسیم کر دیا جائے، نہ یہ کہ حضور کے ارشاد کے بعد اب میراث کا مطالبہ نہ۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً ولا درهماً ولا شاةً ولا بعيراً.<sup>(٧)</sup>  
قال: وأشك في العبد والأمة.

۳: یہ کہ جب یہ حضرات تولیت علیحدہ کرنا چاہتے تھے، میراث نہیں چاہتے تھے تو پھر عمر بن الخطاب کو کیا مانع تھا؟ اس میں بظاہر کوئی اشکال نہ تھا کہ ہر ایک کا تولیت نامہ علیحدہ ہوتا، وہ اپنی رائے سے اپنی پیداوار کو جلدی یا بدیر تقسیم کرتا۔ اس کی وجہ علاء نے لکھی ہے کہ اس صورت میں بعد میں میراث بن جانے کا احتمال تھا اور اس پر استدلال کی گنجائش ملتی کہ حضرت عمر بن الخطاب نے اپنے پہلے فیصلے سے رجوع کر لیا۔ اس لئے کہ دونوں میں نصف نصف تقسیم ہی میراث کی تقسیم تھی کہ آدھا بیٹی کا حصہ ہے اور آدھا عصہ ہونے کی وجہ سے چھاکا۔ اس لئے اگر یہ فیصلہ حضرت عمر بن الخطاب منظور فرمائیتے تو بعد میں آنے والوں کو اس جائیداد کے میراث ہونے کے لئے حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہی دلیل اور جدت بن جاتا۔

۴: یہ کہ ابتداءً ان حضرات اہل بیت کا خیال اگرچہ یہی تھا کہ یہ میراث ہے اور اسی لئے اس کا حضرات شیخین سے مطالبہ ہوا مگر اخیر میں ان حضرات کی رائے بھی شیخین کی رائے کے موافق ہو گئی تھی، اسی لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کو اسی طرح باقی رکھا، ورنہ اگر وہ میراث سمجھتے تو اپنی خلافت کے زمانہ میں اُس کو تقسیم کر دیتے۔ ابتداء میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن الحسن کی مشترک تولیت رہی، حضرت عثمان بن علی کے زمانہ خلافت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس سے علیحدگی اختیار فرمائی، تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قبضہ میں رہی، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے، پھر حضرت حسین بن علی کے، پھر علی بن حسین کے (فتح الباری)۔ یہ چند ضروری ابجات مختصر طور پر اس قسم کے متعلق ذکر کر دی گئیں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ابجات اس میں ہیں جن کو اخصار کی وجہ سے ترک کر دیا گیا۔

(۷) حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ بکری، نہ اونٹ۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے غلام اور باندی کے ذکر میں شک ہو گیا کہ حضرت عائشة رضي الله عنها نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ”نہ غلام، نہ باندی“ یا نہیں فرمایا۔ فائدہ: کسی نقل کرنے والے کو اس روایت میں تردود ہو گیا اس لئے انہوں نے اس پر متنبہ کر دیا۔ دوسری روایات میں اس کی تصریح ہے کہ نہ غلام نہ باندی۔

قال: أي: زر الرواية عن عائشة على ما هو الظاهر، كما قال به ميرك، وجزم به ابن حجر، ويحتمل أن يكون فاعله راو آخر دونه. قال القاري: شك الرواية في أن عائشة رضي الله عنها هل ذكرهما أم لا، وإنما في البخاري عن جويرية: ولا عبداً ولا أمة.

## بابُ ما جاء في رؤية رسول الله ﷺ في المنام

حدثنا محمد بن بشّار، حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص،

### باب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ

فائدہ: خواب کی حقیقت کیا ہے اور یہ واقعی چیز ہے یا مجرد خیالات ہیں۔ طویل بحثیں ہیں جو اس جگہ کے مناسب نہیں ہیں۔ مثلاً اطباء کا خیال ہے کہ آدمی کے مزاج میں جس خلط کا غالبہ ہوتا ہے اُس کے مناسبات خیال میں آتے ہیں، جیسے کسی کا مزاج بُغی ہو تو پانی اور اُس کے متعلقات دریا، سمندر، پانی میں تیرنا وغیرہ دیکھے گا اور جس کے اندر صفا کا غالبہ ہو وہ آگ اور اُس کے متعلقات دیکھے گا یا ہوا میں اڑنا وغیرہ، اسی طرح دوسرے اخلاق و م اور سودا کا حال ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک جو واقعات عالم میں روئما ہوتے ہیں ان کی صورتِ مثالیہ فوٹو کی طرح سے عالم بالا میں منقوش ہے، اس لئے نفس کے سامنے ان میں سے کوئی چیز آتی ہے تو اُس کا انکاس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ احوال مختلف ہیں۔ الٰی سنت کے نزدیک یہ تصورات ہیں

رؤیہ: اختلفوا في أن الرؤية والرؤيا متحدةان أو مختلفةان، والأظهر أن الأولى أعم؛ ولذا قيدها المصنف بالمنام، وقال صاحب الكشف: الرؤيا بمعنى الرؤية إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام، وقال الواحدی: الرؤيا مصدر كالبشرى والرسقيا، إلا أنه لما صار اسمها لهذا المتخيل في المنام جرى بجري الأسماء. قال المناوي: اختلفوا في الرؤيا، وطال خبطهم فلأطباء والحكماء والمنجمين والمعزلة فيه كلام، كلهم رجم بالغيب، فالطبيعيون جعلوها لغلبة الأخلاط، وكثير من الحكماء ذكروا أن الصور منقوشة في ظل العرش، فعند زوال الحجب الظلمانية تتنشق الصور الغيبة في غيب النفس، ومال إليه ابن عربي، وزعم متقدموا المعزلة أنه تخيلات لا حقيقة لها، والقاضي أبو بكر أنها خواطر واعتقادات، وقال القاري: حق البيضاوي في تفسيره أنها انبساط الصورة المنحدرة من أفق التخييلة إلى الحس المشترك، والصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملائكة؛ لما بينهما من المناسبة عند فراغها عن تدبير البدن، ثم التخييلة تحاكىء بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة، ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغفت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه. وقال المناوي: مذهب أهل السنة أن حقيقة الرؤيا خلق الله تعالى في قلب النائم اعتقادات كخلقه في قلب اليقظان، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وخلقها علم على أمور آخر يلحقها في ثاني الحال، كالغيم علما على المطر، وبسط شيء من ذلك في هامش الكوكب الدرى.

جن کو حق تعالیٰ شانہ بندہ کے دل میں پیدا کرتے ہیں جو کبھی بواسطہ فرشتے کے پیدا کیے جاتے ہیں اور کبھی شیطان کے ذریعہ سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خواب تین طرح کا ہوتا ہے: ایک تو اس فرشتے کے تصرف سے ہوتا ہے جو اس پر مقرر ہے، یہ حق ہوتا ہے اور دوسرا شیطانی اثر سے ہوتا ہے کہ شیطان اپنے تصرف سے کچھ مثالیں اور تصویریں دکھاتا ہے۔ تیسرا نفسانی خطرات بھی اس کا سبب ہوتے ہیں کہ جس قسم کے خیالات جائیں گے آتے ہیں وہی سوتے ہوئے دل میں گزرتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے پاک ارشاد سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ذکر کیا ہے کہ خواب تین طرح کا ہوتا ہے: ایک روایا صالح یعنی مبارک خواب۔ یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے۔ دوسرا اذراً خواب جو شیطان کی طرف سے رنج پہنچانا ہوتا ہے۔ تیسرا وہ خواب جو آدمی کے اپنے خیالات اور وساوس ہوتے ہیں۔

علمائے تعبیر نے لکھا ہے کہ جو فرشتہ خواب دکھانے پر متعین ہے اُس کا نام ”صدیقون“ ہے، جو مثالوں سے آدمیوں کو خواب کی شکل میں سمجھاتا ہے۔ یہ عام خواب کے متعلق ہے۔ حضور اقدس ﷺ کی زیارت اگر خواب میں ہو تو وہ تصرفات شیطانی سے خالی ہوتی ہے۔ خود نبی کریم ﷺ کا ارشاد متعدد احادیث میں آرہا ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اُس نے حقیقتاً مجھ ہی کو خواب میں دیکھا، اس نے کہ شیطان کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ میری صورت بنالے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص نبی کریم ﷺ کی خواب میں زیارت ایسی طرح کرے کہ حضور کی شان کے مناسب نہیں ہے، مثلاً جو حلیہ شریف آپ کا شروع کتاب میں گزرا ہے، اُس کے خلاف دیکھے۔ یا کوئی ایسی بات دیکھے جو آقا نے نامدار ﷺ کی بیماری یا پریشانی وغیرہ کو ظاہر کرے، یا کسی ایسے کام کا حکم کرتے یا منع کرتے ہوئے دیکھے جو خلاف شرع ہو۔ یا شانِ نبوی کے مناسب نہ ہو تو وہ دیکھنے والے کی غلطی، کوتاہی اور قصور کی بنا پر ہوتا ہے، اس کو شراح و مشارخ آئینہ سے تشییہ دیا کرتے ہیں کہ ایک شے کو اگر سرخ آئینہ میں دیکھو تو سرخ نظر آتی ہے اور سبز میں سبز ایسے ہی سیاہ سفید اور لمبی چوڑی، غرض مختلف الانواع نظر آتی ہے۔ اسی طرح خواب میں ذاتِ توبی کریم ﷺ ہی کی نظر آتی ہے لیکن اُس ذاتِ اقدس کے ساتھ جو احوال اور اوصاف نظر آتے ہیں وہ خواب دیکھنے والے کے تخیل اور ادراک کا اثر ہے کہ جس قسم کے احوال دیکھنے والے کے ہوں گے ویسی ہی صفات کے ساتھ زیارتِ نصیب ہوگی، مثلاً بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ نبی کریم ﷺ اس کو دنیا کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں تو اس میں دیکھنے والے کی ظلمت کا شامل ہے کہ وہ کسی مکروہ فعل کے ارتکاب میں بلا ارادہ بتلا ہے۔

عن <sup>(١)</sup> عبد الله بن عثيمين، عن النبي ﷺ قال: من رأى في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا محمد بن بشّار ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن <sup>(٢)</sup> أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من رأى في المنام فقد رآني،

مصنف الشعيلية نے اس باب میں سات حدیثیں ذکر فرمائی ہیں:

(۱) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اُس نے حقیقتاً مجھے کو دیکھا ہے، اس لئے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔

(۲) ابو ہریرہ رضي الله عنه سے بھی آپ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اُس نے حقیقتاً مجھے ہی کو دیکھا ہے، اس لئے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ فائدہ: حق تعالیٰ جل جلالہ نے جیسا کہ عالم حیات میں حضور القدس ﷺ کو شیطان کے اثر سے محفوظ فرمادیا تھا ایسے ہی حضور کے وصال کے بعد بھی شیطان کو یہ قدرت مرحمت نہیں فرمائی کہ وہ آپ کی صورت بنا سکے۔ یہ امر طے شدہ ہے۔ اس کے بعد یہ بحث ہے کہ حضور القدس ﷺ کی ذات مبارک بعینہ نظر آتی ہے یعنی یہ کہ دیکھنے والے میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذات اقدس ہی کی زیارت اپنی جگہ پر کرے یا صورتِ مثالی کی زیارت ہوتی ہے،

من رأى: [أي: من رأى في حالة النوم فقد رأى حقاً، أو فكأنما رأى في البقطة، فهو على التشبيه والتتميل]. المنام: قال المناوي: أي: في حال المنام، وقول العصام: "في وقت النوم" فيه نظر. وفي البذل عن فتح الودود: قيل: هذا مختص بصورة المهدودة، فيعرض على الشمائل الشريفة المعلومة، فإن طابت الصورة المرئية تلك الشمائل فهي رؤيا حقيقة، وإن فالله أعلم بذلك، وقيل: بل في أي صورة كانت، وقد رجحه كثير بأن الاختلاف إنما يحيىء من أحوال الرائي، كذلك في هامش الكوكب.

فقد رأى: استشكل في الحديث: بأن الشرط والجزاء متحددان، وأجيب: بأن اتحادهما دال على التناهي في المبالغة، أي: فقد رأى حقيقتي على كمالها لا شبهة ولا ارتياط.

فإن الشيطان: [أي: لا يستطيع ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعله محفوظاً من الشيطان في الخارج، فكذلك في المنام، سواء رأه على صفتة المعروفة أو غيرها، وإنما ذلك مختلف باختلاف حال الرائي]. لا يتمثل: قال بعض شراح المصايح: ومثله في ذلك جميع الأنبياء والملائكة. وما ذكره احتمال جزم به البغوي في شرح التبيه، وقال: كذلك حكم القرميين والنحوم والصحاب الذي ينزل فيه الغيث، لا يتمثل الشيطان بشيء منها. أبي حصين: بفتح مهملة أول الحروف، ثم صاد مهملة مكسورة. قال المناوي وتبعه البيحوري: هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي. وليس بصواب عندي، بل الظاهر أنه عثمان بن عاصم الأسدى، فإن أَحْمَدَ مِنْ الْعَاشِرَةِ، كَيْفَ يَرْوِيُ عَنِ الصَّحَافِيِّ.

فإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُ أَوْ قَالَ: لَا يَتَشَبَّهُ - بِي. حَدَّثَنَا قَتِيْةُ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَبُو مَالِكَ هَذَا هُوَ سَعْدُ بْنُ طَارِقَ بْنِ أَشِيمٍ. وَطَارِقُ بْنُ أَشِيمٍ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثٌ. وَسَمِعْتُ عَلَيْهِ بْنَ حُجْرَةَ يَقُولُ: قَالَ خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ حُرَيْثَ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا غَلَامٌ صَغِيرٌ.

جیسے کوئی شخص آڑ میں بیٹھ کر اپنے سامنے ذرا فاصلے سے ایک آئینہ رکھ لے اور دوسرا شخص جو اس آڑ کے پیچھے ہے، جو اس آئینہ کو دیکھے تو اس آئینہ میں اس بیٹھنے والے شخص کی مثال ہوگی، یعنی اس کی ذات آئینہ میں نہیں آرہی ہے۔ صوفیہ کا قول ہے کہ دونوں طرح زیادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بعینہ ذاتِ القدس کی زیارت ہوتی ہے اور بعض کو آئینہ کی طرح۔ مثال کی یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ دوسرے لوگوں کی صورت میں حضور کی زیارت ہوتی ہے کہ گویا وہ آئینہ ہے نبی کریم ﷺ کی صورت کا۔ (۲) طارق بن اشیم سے بھی یہ ارشاد نبوی منقول ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے ہی کو دیکھا، اس لئے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ فائدہ: ان روایات پر یہ اشکال ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ایک ہی وقت

طارق: أَيْ: وَالَّدُ أَبِي مَالِكَ، صَاحِبِيْ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ غَيْرُ هَذِهِ الْحَدِيثِ فَسَمِعْتُ صَحْبَتِهِ أَشِيمَ: هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ فِي مُعْجمَةِ فَتْحَتِيَةِ مَفْتُوحَةٍ. وَسَمِعْتُ: ذَكْرَهُ الْمَصْنُفُ اسْتَطَرَادًا، وَلَا أَنْهِ إِنْ ثَبَّتَ فِي حِصْلَةِ الْمَصْنُفِ عَلَوِ الإِسْنَادِ، فَإِنْ بَيْنَ الْمَصْنُفِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى هَذَا ثَلَاثَةٌ: عَلَيْهِ، وَخَلْفِهِ، وَعُمَرُو، إِلَّا أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِ خَلْفِهِ عَنْ عُمَرُو كَمَا سَيَأْتِي. عُمَرُو: اخْتَلَفَ فِي سَمَاعِ خَلْفِهِ عَنْ عُمَرُو. قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيَةِهِ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِسَفِيَّانَ بْنِ عَيْنَةَ: يَا أَبَا مُحَمَّدًا! عَنْدَنَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرُو بْنَ حُرَيْثَ، فَقَالَ: كَذَبٌ، لَعَلَّهُ رَأَى جَعْفَرَ بْنَ عُمَرَ بْنَ حُرَيْثَ. وَقَالَ أَبُو الْحَسْنِ الْمَيْمُونِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لِسَائِلَهُ هُلْ رَأَى خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ لَعَلَّهُ رَأَى جَعْفَرَ بْنَ عُمَرَ بْنَ حُرَيْثَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ عَنِّي شَبَهَ عَلَيْهِ، هَذَا ابْنُ عَيْنَةَ وَشَعْبَةَ وَالْحَاجَاجَ لَمْ يَرُوا عُمَرُو بْنَ حُرَيْثَ، وَبِرَاهِ خَلْفُهُ هَذَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ خَلْفِ بْنِ خَلِيفَةَ: فَرَضَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سَنِينَ، وَعَلَيَّ هَذَا فَيَكُونُ مُولَدَهُ ۹۱ أَوْ ۹۲ لَأَنْ وَلَيْةَ عُمَرَ كَانَتْ ۹۹ فَيَبْعَدُ إِدْرَاكَهُ لِعُمَرُو بْنَ حُرَيْثَ بَعْدًا بَيْنًا، فَإِنْ عُمَرُو تَوَفَّ فِي سَنَةِ ۸۵. قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ فِي تَرْجِمَةِ خَلْفِهِ: ادْعَى أَنَّهُ رَأَى عُمَرُو بْنَ حُرَيْثَ الصَّاحِبِيَّ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ابْنُ عَيْنَةَ وَأَحْمَدَ.

حدثنا قتيبة هو ابن سعید، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كلیب قال: حدثني أبي، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: من رأني في المنام فقد رأني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي: فحدثت به ابن عباس، فقلت: قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي، فقلت: شبيهه به. فقال ابن عباس: إنه كان يُشبهه.

میں مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں مختلف لوگ زیادت کرتے ہیں، حضور ﷺ بیک وقت کہاں کہاں تشریف لے جاسکتے ہیں، کچھ وقت نہیں رکھتا، اس لئے کہ مختلف لوگوں کی زیادت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ حضور ﷺ بجہ تشریف لے جائیں، بلکہ ایک ہی جگہ سب کو زیادت ہو سکتی ہے کہ آفتاب اپنی جگہ قائم ہے اور مختلف لوگ دور دور کے شہروں سے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر جس قسم کی عینک سبز، سرخ، سیاہ لگا کر دیکھیں گے آفتاب ویسا ہی نظر آئے گا حالانکہ آفتاب ایک ہی صورت پر ہے۔

(۲) کلیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد سنایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھے وہ حقیقتاً مجھے ہی کو خواب میں دیکھتا ہے، اس لئے کہ شیطان میرا شبیہ نہیں بن سکتا۔ کلیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے خواب میں زیادت اقدس میر ہوئی ہے، اس وقت مجھے امام حسن رضی اللہ عنہ کا خیال آیا، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے اس خواب کی صورت کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صورت کے بہت مشابہ پایا۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسکی تصدیق فرمائی کہ واقعی حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے بہت مشابہ تھے۔ فائدہ: بعض روایات میں آیا ہے کہ سینہ اور اسکے اوپر کا حصہ بدن کا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا حضور اقدس ﷺ کے مشابہ تھا اور بدن کا نیچے کا حصہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حضور اقدس ﷺ کے زیادہ مشابہ تھا۔

لا يَمْثُلُنِي: لأنَّه تَعَالَى وَإِنْ أَمْكَنَهُ فِي التَّصُورِ بِأَيِّ صُورَةٍ أَرَادَ لَمْ يُمْكِنَهُ مِنَ التَّصُورِ بِصُورَتِهِ الْمُنْكَرِ. قال المناوي: حکی من البارزی والیافعی والجیلی والشاذلی والمرسی وعلی وفا والقطب القسطلانی وغيرهم أنهم رأوه ﷺ يقظة، قال ابن أبي جمرة: ومنكر ذلك إن كان من يكذب بكرامات الأولياء فلا كلام معه، وإن لم يكن فهذه منها؛ إذ يكشف لهم بخرق العادة على أشياء في العالم العلوی والسفلي. كان يشبهه: قال القاري: أي: الحسن كان يشبه النبي ﷺ، وعكسه المناوي، قال: أي: النبي ﷺ كان يشبه الحسن، وكل منهمما رجح مختاره وعقب عكسه. والأوجه عندي ما قال القاري.

حدثنا محمد بن بشّار، حدثنا ابن أبي عديّ و محمد بن جعفر قالا: حدثنا عوف بن أبي جميلة، عن <sup>(٥)</sup> يزيد الفارسي - وكان يكتب المصاحف - قال: رأيت النبي ﷺ في المنام زمان ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله ﷺ في النوم، فقال ابن عباس: إن رسول الله ﷺ كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رأني في النوم فقد رأني، هل تستطيع أن تنتع هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنت لك: رجالاً بين الرجالين جسمه ولحمه، أسمه إلى البياض، أكحل العينين، حسنُ الضَّحْكِ، جميل دوائر الوجه،

سود العينين بخلاف

(٥) يزيد فارسی کلام اللہ شریف لکھا کرتے تھے، ایک مرتبہ خواب میں حضور ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے، حضرت ابن عباس رض اس وقت زندہ تھے، ان سے خواب عرض کیا۔ انہوں نے اول ارشاد نبوی سنایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقتاً مجھے ہی کو دیکھتا ہے، اس لئے کہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ یہ ارشاد سننا کر پوچھا: کیا خواب کی دیکھی ہوئی صورت کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کا بدن اور آپ کا قامت دونوں چیزیں معتدل اور درمیانی (یعنی جسم نہ زیادہ موٹانہ زیادہ وبلہ، ایسے ہی قد نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ پست، بلکہ معتدل) آپ کا رنگ گندی مائل بہ سفیدی، خدھہ وہن، خوبصورت گول چہرہ، ڈاڑھی نہایت گنجان جو پورے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور سینہ کے ابتدائی حصہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ عوف جو اس روایت کے ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میرے استاد یزيد نے جو اس خواب کے دیکھنے والے ہیں، ان مذکورہ صفات کے ساتھ اور کیا کیا صفتیں بیان فرمائی تھیں۔

و كان يكتب الحج: وكان يكتب المصاحف، إشارة إلى بركة عمله و شرفه؛ فلذا رأى هذه الرؤيا العظيمة. قال: [أي: الرائي، وهو يزيد الفارسي]. رجال: أي هو رجل بين الرجلين، أي: بين كثير اللحم و قليله، أو بين البائن والقصير، والمعنى: أنه متوسط بينهما، والظرف خير مقدم لقوله: "جسمه ولحمه"، أو هو فاعل الظرف قاله القاري، وكذا قال المناوي: إن "جسمه" مبتدأ مؤخر، و "بين رجلين" خبره، أو هو فاعل الظرف. أسم: [أي: أحمر، لأن السمرة تطلق على الحمرة]. إلى البياض: [مثلاً إلى البياض؛ لأنه كان أبيض مشرباً بحمرة]. حسن الضحك: [لأنه كان يبسم في غالب أحواله]. دوائر الوجه: [أي: حسن أطراف الوجه، فالمراد بالدوائر الأطراف].

قد ملأ لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره - قال عوف: ولا أدرى ما كان مع هذا النعت -، فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنتعنه فوق هذا. قال أبو عيسى: ويزيد الفارسيّ هو يزيد بن هرمُز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسيّ عن ابن عباس أحاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس. وهو يزيد بن أبان الرقاشيّ، وهو يروي عن أنس بن مالك، ويزيد الفارسيّ ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة: هو عوف الأعرابي.

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم حضور ﷺ کو عالم حیات میں دیکھتے تو اس سے زیادہ حلیہ اقدس نہ بتاسکتے، گویا بالکل ہی صحیح حلیہ بیان کر دیا فائدہ: چنانچہ اس کتاب شامل کے سب سے پہلے باب میں جو حضور اقدس ﷺ کا حلیہ مبارک نقل کیا گیا ہے، وہ ان ہی صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا، جیسا کہ مفصل گذر چکا۔

ما يبين هذه: قال القاري: أي: من الأذن إلى الأذن الأخرى، إشارة إلى عرضها. ولا أدرى: قال القاري: فيه إشعار بأنه ذكر نعوتاً آخر وإنه نسيها، وهذا هو الظاهر المتباذر كما لا يخفى، ثم رأيت شارحاً صرخ به، حيث قال: وعن بعضهم أن "ما" استفهامية، بأن قال الرواية شيئاً آخر فنسى عوف، فقال على طريق الاستفهام: ولا أدرى ما كان الحال. قلت: وهو أوجه مما قال المناوي، ولفظه: أي: لا أعلم الذي وجد من صفاتة في الخارج مع هذا النعت، هل هو مطابق أو لا.

فوق هذا: [أي: فما رأيته في النوم موافق لما عليه في الواقع]. قال أبو عيسى الخ: غرض المصنف بيان أن مسمى يزيد رجالان متقاربا العصر، فهذا الذي رأه عليه السلام في المنام هو يزيد بن هرمز رأى ابن عباس، وروى عنه، ويزيد الآخر الرقاشى غير يزيد بن هرمز، لاغبار عليه، وأما كون يزيد الفارسي هو ابن هرمز كما جزم به المصنف، مختلف فيه عند أهل الرجال، قال الحافظ في ترجمة ابن هرمز: قال ابن أبي حاتم: اختلقو هل هو يزيد الفارسي أو غيره؟ فقال ابن مهدي وأحمد: هو ابن هرمز، وأنكر يحيى القطان أن يكونا واحداً، وسمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز هذا ليس يزيد الفارسي. ثم ترجم الحافظ ليزيد الفارسي مستقلأ، وقال فيه: قال بعضهم: إنه هو يزيد بن هرمز، وال الصحيح أنه غيره.

**هرمز**: بضم الهاء والميم، ممنوع من الصرف. **عوف**: هذا كلام مستأنف، يعني عوف الراوي عن يزيد هو عوف الأعرابي، نبه بذلك لشهرته به، قال الحافظ في تهذيبه: عوف بن أبي جميلة المعروف بالأعرابي.

حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البُلْخِي، حدثنا التَّنْصُرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ: قَالَ عُوْفُ الْأَعْرَابِيُّ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْ قَتَادَةَ. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري، عن عمّه قال: قال أبو سلمة: قال أبو قتادة:<sup>(٦)</sup> قال رسول الله ﷺ: من رأى عبد العزيز بن المختار، حدثنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: من رأى في المنام فقد رأى،

(٦) ابو قتادة سے بھی حضور ﷺ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی امر دیکھا۔ فائدہ: یعنی حقیقتاً مجھے ہی کو دیکھا، یہ نہیں کہ شیطان کسی اور چیز کو دکھائے اور مجھے بتائے۔ بعض علماء نے اسکا مطلب لکھا ہے کہ یہ سچا خواب ہے، خیالات کا مجموعہ نہیں ہے۔

(٧) أنس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے اس نے حقیقتاً مجھے ہی کو دیکھا، اس لئے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ حضور ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن کا (وہ خواب جو فرشتہ کے اثر سے ہوتا ہے) نبوت کے چھپائیں جزو میں سے ایک جزو ہوتا ہے۔

أنا أَكْبَرُ: من قتادة، لعل غرض المصنف بذكر هذا القول أن رواية قتادة عن ابن عباس معروفة، ولما كان عوف أَكْبَرَ منه فروايته عن الراوي عن ابن عباس غير مستبعد. ابن أخي: فإن الزهري هو محمد بن مسلم، وابن أخيه هذا هو محمد بن عبد الله بن مسلم، فالابن الأول مرفوع، والابن الثاني محروم. عمّه: وهو محمد بن مسلم المعروف بابن شهاب الزهري. يعني: تفسير من أحد الروايات، ولعل الراوي نسي لفظ الشيخ فزاد لفظ "يعني" كما هو المعروف عند المحدثين.

رأى: أي: الرؤية المتحققة الصحيحة أي: الثابتة لا أضغاث فيها ولا أحلام، ذكره الكرماني، وقال المناوي: أي: رأى الأمر الثابت لا الموهوم، فهو في معنى رأى، و"الحق" مفعول به، وفي نسخة: رأى الحق، وعليه فـ "الحق" مفعول مطلق. حدثنا عبد الله إلح: إيراد المصنف هذا الأثر والذى بعده مع عدم ملا يمتهما لعنوان الباب بمنزلة الوصية منه رحمة الله بالاحتياط في الأخذ، واعتبار من يؤخذ عنه، ولذا التزم أكثر الحدثين بيان تراجمهم في أول مؤلفاتهم أو أواخرها، واتباعاً لصنيعهم ذكرت أسماء مشائخى ههنا أولاً، لكن لما ذكرت ذلك بشيء من التفصيل في مقدمة أو جز المسالك حذفتها في النظر الثاني من ههنا. من أراد الاطلاع فعليه بمقدمة الأوجز. مُعَلَّمٌ: بضم ففتح فمشددة مفتوحة.

فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال: ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. حدثنا  
محمد بن عليّ قال: سمعت أبي يقول: قال<sup>(١)</sup>

فائدہ: علماء نے اس کے مطلب میں مختلف عنوانات اختیار فرمائے ہیں، بالخصوص حافظِ حدیث ابن حجر نے شرح بخاری میں بہت تفصیل سے اس کے متعلق علماء کے اقوال کو ذکر کیا ہے اور صاحبِ تمیز نے بھی بہت زیادہ تفصیل اس کی ذکر کی ہے۔ لیکن ملا علی قاری وغیرہ حضرات نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ چونکہ اس کو علم نبوت کا ایک جزو فرمایا ہے اور علوم نبوی انبیاء ہی کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں اس لئے اس کو بھی انبیاء ہی کے ساتھ مخصوص سمجھنا چاہیے۔ جملًا اتنا معلوم ہونا کافی ہے کہ مبارک اور اچھا خواب ایک بڑی بشارت ہے جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے، اتنا ہی اس کی شرافت اور عظمت و برکت کے لئے کافی ہے، باقی نبوت کے چھیالیں جزو نبی ہی صحیح طور پر معلوم کر سکتے ہیں، اس لئے وہی اس جزو کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چھیالیسوں جزو کیسے ہوا۔ حضور اکرم ﷺ کے خواب میں دیکھنے کا ذکر ختم ہو چکا۔

امام ترمذی رضی اللہ عنہ علیہ نے اپنی کتاب کو دو اثروں پر ختم کیا ہے، جو حقیقت میں دو صحیحین ہیں اور صتم بالشان تعمییں ہیں۔ اول یہ کہ کسی چیز پر حکم لگانا انکل سے نہیں ہونا چاہئے بلکہ دین کا مدار حضور کے اتباع پر ہے، لہذا ہر فیصلہ میں حضور ﷺ کا اتباع کرنا چاہئے۔ دوسرا یہ کہ ہر کس و ناکس کی بات نہ سننی چاہئے بلکہ دیندار شخص کی بات ماننا چاہئے، بے دین قابل اتباع نہیں ہے، درحقیقت ہر دو صحیحین اہم ہیں۔

(۱) عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بڑے آئمہ حدیث میں ہیں، فقهاء اور صوفیہ میں بھی ان کا شمار ہے، بڑے شیخ عابد زاہد تھے اور حدیث کے حافظوں میں گئے جاتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بڑے فضائل ان کے لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی قاضی اور فیصل کننده بننے کی نوبت آئے تو منقولات کا اتباع کیجیو۔

لَا يَتَخَيَّلُ: قال المناوي: فمعنى التخييل يقرب من معنى التصور، وقال القاري: أي: فلا تكون رؤياء عن أضغاث. قال: [أي: أنس على ما هو ظاهر صنيع المصنف، ولا يبعد أن يكون الضمير له ﷺ، بل هو الأقرب؛ لأن الأشهر هذا مرفوع]. ستة وأربعين جزءاً: [وجه ذلك على ما قيل: إن زمن الوحي ثلاث وعشرون سنة، وأول ما ابتدئ ﷺ بالرؤيا الصالحة، وكان منها ستة أشهر]. أي يقول: [أي: علي، وهو علي بن الحسن بن شقيق المروزي].

**عبد الله بن المبارك: إذا ابْتَلِيَتْ بِالْقَضَاءِ، فَعَلَيْكَ بِالْأَثْرِ.** حدثنا محمد بن علي، حدثنا النضر، [الحكم بين الناس]

**أَخْبَرَنَا أَبْنَ عَوْفٍ، عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ قَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ دِينٌ**

**فائدہ:** مقصود یہ کہ خود رائی اور اپنی عقل پر گھنٹہ نہیں کرنا چاہئے بلکہ لاکابر کے کلام، احادیث اور اقوال صحابہ کا اتباع کرنا چاہئے، یہ امام ابن مبارک کی نصیحت ہے جو عام ہے، ہر فیصلہ کے متعلق یہی بات ہے خواہ وہ فیصلہ قضاء کے قبیلہ سے ہو یا کوئی اور فیصلہ ہو، جیسا کہ ابھی گذرنا۔ امام ترمذی نے ان کا یہ ارشاد نصیحت عامہ کے قبیلہ سے ذکر کیا ہے جیسا کہ عام شرح شامل کی رائے ہے۔ بندہ کے نزدیک اس باب سے بھی اس کو ایک خاص مناسبت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ خواب کی تعبیر بھی ایک فیصلہ ہے اس لئے اس میں بھی اپنی رائے سے غتر بودنہ کرنا چاہئے، بلکہ اسلاف کی تعبیروں کو دیکھنا چاہئے۔ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہما جمیعنین اور تابعین جمیعتہم سے بکثرت خوابوں کی تعبیریں نقل کی گئی ہیں۔ فتنہ تعبیر کے علماء نے لکھا ہے کہ تعبیر دینے والا شخص ضروری ہے کہ سمجھدار، متقى، پرہیزگار، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا واقف ہو۔ عرب کے لغات اور زبان زد مثالوں کو جانتا ہو وغیرہ وغیرہ، بہت سی شرائط اور آداب علم تعبیر کی کتابوں میں لکھے ہیں۔

(۲) ابن سیرین کہتے ہیں کہ علم حدیث (اور ایسے ہی اور دینی علوم سب) دین میں داخل ہیں، لہذا علم حاصل کرنے سے قبل یہ دیکھو کہ اس دین کو کس شخص سے حاصل کر رہے ہو۔

**عبد الله بن المبارك: [وهو أبو عبد الرحمن، شيخ الإسلام، ولد سنة ثمان عشر ومائة، وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة، وفقره بـ "هـيـت" يـُزـار وـيـتـرـكـ بـهـ]. ابـتـلـيـتـ: بـصـيـغـةـ الـجـهـولـ، وـالـخـطـابـ عـامـ، وـعـدـهـ بـلـيـةـ؛ لـشـدـةـ خـطـرـهـ، وـلـذـاـ اـجـتـبـ عـنـهـ** أبو حنيفة وسائر الأتقياء. **فعـلـيـكـ:** اسم فعل بمعنى ألزم، ويزداد الباء في معنـوـلهـ كـثـيرـاـ لـضـعـفـهـ فـيـ الـعـلـمـ. بالـأـثـرـ: [أـيـ: الـحـدـيـثـ

الـمـنـقـولـ عـنـ النـبـيـ ﷺـ وـالـخـلـفـاءـ الرـاشـدـينـ فـيـ أـحـكـامـهـ وـأـقـضـيـتـهـ، وـلـاـ تـعـتمـدـ، أـيـهـاـ القـاضـيـ!] عـلـىـ رـأـيـكـ، وـقـالـ التـوـوـيـ

بـنـهـ: الـأـثـرـ عـنـ الـمـحـدـثـينـ يـعـمـ عـلـىـ الـمـرـفـوعـ وـالـمـوـقـوفـ، وـالـمـخـتـارـ إـطـلـاقـهـ عـلـىـ الـمـرـوـيـ، مـطـلـقاـ.]

ابن سیرین: [وهو محمد بن سیرین، وسیرین اسم أمته، وهي مولاة أم سلمة أم المؤمنین رضي الله عنها]. قال: [أي: ابن سیرین، وهذا الأثر مسوق لبيان الاحتياط في الرواية والتثبت في النقل]. هذا الحديث: وهذا الأثر أخرجه صاحب المشكوة برواية مسلم، وقال صاحب التتفيق: أخرجه مرفوعا الحاكم في تاريخه، وابن عدي في الكامل عن أنس، وأبو نصر السجزي في الإبانة، وقال: غريب عن أبي هريرة، لكن في إسناد المروي ضعف، وال الصحيح أنه قول ابن سیرین. وقال المناوي: روی الخطيب وغيره عن الحبر: لأنأخذوا الحديث إلا عن تخيرون شهادته. ورقم عليه في الجامع الصغير بالضعف.

فانظروا عمن تأخذون دينكم.

**فاکدہ:** ابن سیرین رض تعبیر بھی اپنے وقت کے امام اور مشہور بڑے تابعی ہیں، بہت سے صحابہ کرام سے علوم حاصل کیے، فن تعبیر کے بھی امام ہیں، خواب کی تعبیر میں ان کے ارشادات جوت ہیں۔ ان کے ارشاد کا مقصود یہ ہے کہ جس سے دین حاصل کرو اس کی دینت، تقوی، مذهب، مسلک اچھی طرح تحقیق کرو۔ ایمانہ کرو کہ ہر شخص کے کہنے پر عمل کرلو خواہ وہ کیسا ہی بے دین ہو، اس لئے کہ اس کی بد دینی اثر کیے بغیر نہیں رہے گی۔

بعض روایات میں خود نبی کریم ﷺ سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ یہ نصیحت عامہ ہے جیسا کہ پہلے نمبر پر گزر چکا ہے اور اس باب کے ساتھ بھی مناسبت ہو سکتی ہے کہ علم تعبیر بھی ایک اہم علم ہے، جبکہ خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہوتا ہے۔ تو اس کی تعبیر جتنی بھی مسمت باشان ہو، ظاہر ہے۔ اس لئے بغور دیکھا کرو کہ کس سے تعبیر لے رہے ہو، وہ اس کا اہل ہے یا نہیں۔ اس مناسبت سے گویا امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا، لیکن ابن سیرین کا کلام اور احادیث کا مضمون خواب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر علم کو شامل ہے، اور جتنا مسمت باشان علم ہو گا اتنی ہی زیادہ واقف سے معلوم کرنے کی ضرورت ہو گی۔ اس ہمارے زمانہ میں جو قیامت کے بہت ہی قریب ہے، ایک یہ بھی سخت مضرت کی بات ہو گئی ہے کہ ہر شخص خواہ کتنا ہی جاہل، کتنا ہی بد دین ہو، تھوڑی سی صفائی تقریر و تحریر سے علامہ اور مولانا بن جاتا ہے اور رنگین کپڑوں سے صوفی اور مقتدا بن جاتا ہے۔

**دينکم:** قال ميرك: وقع في أكثر الروايات بلفظ: إن هذا العلم دين الخ كما رواه مسلم وغيره. قال القاري: وفي رواية الدليلي عن ابن عمر رض مرفوعاً بلفظ: العلم دين، والصلة دين، فانظروا عمن تأخذون هذا العلم، وكيف تتصلون هذه الصلة، فإنكم تسألون يوم القيمة. قال الطبي: التعريف فيه للعهد، وهو ما جاء به الرسول ﷺ من الكتاب والسنة، وهذا أصول الدين. والمراد بالأخذ منه العدول الثقات المتقون، هذا، وأنا معترف بأن مشائخني كلهم ثقات عدول كما ذكرت شيئاً من مآثرهم في مقدمة الأوخر. فإنما افتخرنا بحمد الله تعالى بمشائخي العظام، وأقول مختصراً:

أولئك مشائخني فحشني بثليهم      إذا جمعتنا يا جرير المجامع

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين، والصلة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبه أجمعین، برحمتك يا أرحم الرحيمین. الثامن من أخرى الجمادین سنة ٤٤ هـ الجمعة، هذا أول الفراغ من ابتداء تالیفی لهذه التعلیقات، ثم کرت النظر عليها في سنة ستین بعد ألف وثلاث مائة، وأضفت بعض الحواشی، ووقع الفراغ عنها ليلة الاثنين الرابع والعشرين من ذی الحجه، جعله الله تعالى خالصاً لوجهه الکریم، فإنه بر، جواد، غفور، رحیم.

عام لوگ ابتداءً ایک عام غلط فہمی کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر اپنی ناواقفیت سے ان کا شکار بن جاتے ہیں، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ عامتہ قلوب میں یہ سما گیا ہے کہ: انظروا إلی ما قال، ولا تظروا إلی من قال۔ (آدمی کو یہ دیکھنا چاہئے کہ کیا کہا، یہ نہیں دیکھنا چاہئے کہ کس نے کہا) حالانکہ یہ مضمون فی نفسِ اگرچہ صحیح ہے لیکن اس شخص کے لئے ہے جو سمجھ سکتا ہو کہ کیا کہا، جو کہا وہ حق کہا یا باطل اور غلط کہا۔ لیکن جو لوگ اپنی ناواقفیتِ دینی کی وجہ سے کھرے کھوئے، صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکتے ہوں ان کو ہر شخص کی بات سننا مناسب نہیں کہ اسکا نتیجہ مال کار مضرت و نقصان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں کوئی دعویدار اگر ولایت، امامت، نبوت رسالت حتیٰ کہ خدائی تک کا بھی نعوذ باللہ دعویٰ کرے تو ایک گروہ فوراً اس کا تابع بن جاتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَهُوَ الْمُسْتَعْنَى۔

الحمد لله والمنة كـ ۸ جمادی الآخری سن ۱۳۲۳ھ شب جمعہ میں اس ترجمہ سے فراغت ہوئی۔ فقط

## زکرِ یا عفی عنہ کا ندھللوی

مقيم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور

چونکہ اس ناکارہ کو اپنی ناقابلیت کا اعتراض ہے اس لئے اس ترجمہ کو نظر ثانی کے لئے اپنے محترم بزرگ الفاضل العلامہ مولانا عبدالرحمن صاحب صدر المدرسین مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے حوالہ کیا، مولانا نے اپنے مشاغل علیہ اور عدم فرصتی کے باوجود اس کی بالاستیغاب نظر ثانی فرمائے اکثر جگہ اصلاح بھی فرمائی۔ فجز اہم اللہ تعالیٰ عنی خیرالجزاء اور اخیر میں یہ عبارت بھی تحریر فرمائی: الحمد للہ کہ یہ عاجز بھی ۷ درجہ سن ۱۳۲۳ھ بروز پنجشنبہ کو اس کے دیکھنے سے فارغ ہوا۔


مکر آنکہ یہ ترجمہ ابتداءً سن ۱۳۲۲ھ میں لکھا گیا تھا جیسا کہ عبارت مندرجہ بالا سے معلوم ہوا، اس کے بعد متعدد مرتبہ اس کے طبع ہونے کی نوبت آئی اور ہر مرتبہ طباعت کی غلطیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ اب بھی عرصہ سے کامیاب ہو جانے کی وجہ سے طباعت کا تقاضہ ہوا۔ میرے مخلص محسن مولوی نصیر الدین ناظم کتب خانہ نے کثرتِ اغلط طباعت کی وجہ سے اس کی نظر ثانی پر اصرار کیا، میں ایک سال تک اپنی مشغولی کے عذر سے انکار کرتا رہا مگر وہی اصرار قوی تھی کہ واقعی طباعت میں بعض غلطیاں نہیں واقع ہو گئی تھیں اس لئے نظر ثانی شروع کی۔ مصنف کی نظر ثانی میں بلا قصد بھی کمی زیادتی ہو ہی جایا کرتی ہے،

اس لئے کہیں کہیں کی اور اکثر جگہ زیادتی ہوتی رہی، ہر چند اختصار کی کوشش کی مگر پھر بھی بہت سی جگہ اضافہ ہو ہی گیا۔ فالمحمد لله ثم الحمد لله کہ آج ۲۲ ذی الحجه سن ۶۰ھ شبِ دوشنبہ میں اس نظرِ شانی سے فراغت ہوئی۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے حبیب کے اخلاق کا کچھ حصہ اس سیہ کار کو بھی ان احادیث کے طفیل نصیب فرمائے تو اس کے کرم اور لطف سے بعید نہیں۔

وآخر دعوانا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ

سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ أجمعین ط

# نقش نعلین شریف



# مکتبہ الشیخ

شامل مساجد و مدارس  
بمسیح شریف علیہ السلام (الجہاد) اسلام آباد، پاکستان

| ملونة کرتون مقوی            | مجلدة              |
|-----------------------------|--------------------|
| شرح عقود رسم المفتی السراجی | الصحيح لمسلم       |
| الفوز الكبير                | الموطأ للإمام مالك |
| تلخيص المفتاح               | الهداية            |
| مبادئ الفلسفة               | تفسير البيضاوي     |
| دروس البلاغة                | تفسير الجلالين     |
| تعليم المتعلم               | شرح العقائد        |
| هداية النحو (مع التمارين)   | آثار السنن         |
| المرفات                     | الحسامي            |
| ایساغوجی                    | ديوان المتنی       |
| هدایۃ النحو (متداول)        | نور الأنوار        |
| شرح مائة عامل               | شرح الجامی         |
| عوامل النحو                 | كنز الدقائق        |
| المنهج في القواعد والإعراب  | نفحۃ العرب         |
| ستطبع قربا بعون الله تعالى  | مختصر القدوري      |
| ملونة مجلدة                 | نور الإيضاح        |
| الصحيح للبخاري              |                    |

## Books in English

- Tafsir-e-Uthmani* (Vol. 1, 2, 3)
- Lisaan-ul-Quran* (Vol. 1, 2, 3)
- KeyLisaan-ul-Quran* (Vol. 1, 2, 3)
- Al-Hizb-ul-Azam* (Large) (H. Binding)
- Al-Hizb-ul-Azam* (Small) (Card Cover)

## Other Languages

- Riyad Us Saliheen* (Spanish) (H. Binding)
- Fazail-e-Aamal* (German)
- Muntakhab Ahadis* (German)
- To be published Shortly Insha Allah
- Al-Hizb-ul-Azam* (French) (Coloured)

# مکتبۃ البشیری

بہرہ مدرسہ شاہ عابد  
بہرہ هری مریٹ میر بیٹل مدرسہ (مدرسہ) کراچی پاکستان

| درس نظامی اردو مطبوعات                                   |                                 |                                |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| سورہ / میں   | نام                             | نام                            |
| نورانی قاعدہ   | حری الاصول (اصول الحدیث)        | خصال نبوی شرح شہاک ترمذی       |
| بغدادی قاعدہ   | رحمانی قاعدہ                    | معین الفدقہ                    |
| تفسیر عثمانی   | اعجاز القرآن                    | الاغتیات المفیدة               |
| القیام الخاتم  | بیان القرآن                     | معین الاصول                    |
| سیرت سید الکوئین خاتم الشیعیین                           | فوازیکیہ                        | آسان اصول فقة                  |
| حیات الصحابہ قریش  | خلافے راشدین                    | تیسیر المنطق                   |
| امت مسلم کی مائیں  | نیک بیباں                       | فصل اکبری                      |
| رسول اللہ علیہ السلام کی فتحیں                           | تبیغ دین (امام غزالی و الشافعی) | علم الصرف (اویین و آخرین)      |
| اکرام مسلمین / حقوق العباد کی فکریتی                     | علامات قیامت                    | عربی صفوۃ المصادر              |
| حیلے اور بہانے   | صرف میر                         | جمال القرآن                    |
| اسلامی سیاست   | جزاء الاعمال                    | نحو میر                        |
| آداب معیشت   | علیکم لستی                      | میزان و منشعب (الصرف)          |
| حسن حسین   | منزل                            | تعالیم الاسلام (مکتل)          |
| الحزب الاعظم (ہفتواں مکتل)                               | الحزب الاعظم (ماہوار مکتل)      | عربی زبان کا آسان قاعدہ        |
| زاد السعید   | اعمال قرآنی                     | نام حق                         |
| مسنون دعا مائیں  | مناجات مقبول                    | پندتامہ                        |
| فضائل صدقات  | فضائل اعمال                     | عربی کا معلم (اول تا چارم)     |
| فضائل درود شریف  | اکرام مسلم                      | آداب المعاشرت                  |
| فضائل حج   | فضائل علم                       | علوم الاخو (الخوا)             |
| جو ہر الحدیث   | فضائل امت محمدیہ                | حیات مسلمین                    |
| آسان نماز  | منتخب احادیث                    | تعالیم العقامہ                 |
| نماز ممل   | نماز حنفی                       | مقباح لسان القرآن (اول تا سوم) |
| معلم الحجاج  | آئینہ نماز                      | سیر صحابیات                    |
| خطبات الاحکام / جماعتات العام                            | بہشتی زیور (مکتل)               | بہشتی زیور (تین حصے)           |
|  | روضۃ الادب                      | دیگر اردو مطبوعات              |
| دائی نقشہ اوقات نماز: کراچی، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخواہ |                                 | قرآن مجید پندرہ سطری (عاظی)    |
|  |                                 | پنج پارہ                       |
|  |                                 | عمر پارہ (درسی)                |
|  |                                 | پنج سورہ                       |